

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

فتاوى قاسميه

منتخب فتاوى

حضرت مولانا مفتي شبير احمد القاسمي

خادم الافتاء و الحديث جامعه قاسميه
مدرسه شاهي مرادآباد، الهند

(جلد ۱۴)

المجلد الرابع عشر

الرضاع، الطلاق

إلى باب الكناية

۶۳۶۲ ————— ۵۹۴۴

ناشر

مكتبه اشرفيه، ديوبند، الهند

01336-223082

فتاویٰ قاسمیہ

صاحب فتاویٰ
حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

بجق صاحب فتاویٰ شبیر احمد القاسمی 094 125 52294

بجق مالک مکتبہ اشرفیہ دیوبند 09358001571

08810383186 01336-223082

پہلا ایڈیشن محرم الحرام ۱۴۳۷ھ

ناشر

مکتبہ اشرفیہ، دیوبند، ضلع سہارنپور، الہند

01336-223082

ASHRAFI BOOK DEPOT

DEOBAND, SAHARANPUR, INDIA

Phone: 01336-223082

Mob. : 09358001571•08810383186

مكمل اجمالى فهرست ايك نظر مين

رقم المسأله	عنوانات	المجلد الأول
١٧٢	مقدمة التحقيق، الإيمان والعقائد إلى باب ما يتعلق بالارواح.	١
٥٥٧	بقية الإيمان والعقائد من باب الحشر، إلى باب ما يتعلق بأهل الكتاب، التاريخ والسير، البدعات والرسوم.	١٧٣
١٠٠٥	بقية البدعات والرسوم من باب رسومات جنائز إلى رسومات نكاح، كتاب العلم إلى باب ما يتعلق بالكتابة.	٥٥٨
١٤١٥	بقية كتاب العلم من كتابة القرآن إلى باب الوعظ والنصيحة، الدعوة والتبليغ، السلوك والاحسان، الأذعية والأذكار.	١٠٠٦
١٩٣٥	الطهارة بتمام أبوابها، الصلوة من أوقات الصلوة إلى صفة الصلوة.	١٤١٦
٢٤٥٧	الجماعة، المساجد، الإمامة.	١٩٣٦
٢٩٦٤	بقية الصلوة من تسوية الصفوف إلى سجود التلاوة.	٢٤٥٨
٣٤٢٣	بقية الصلوة من الذكر والدعاء بعد الصلوة، الوتر، ادراك الفريضة، السنن والتوافل، التراويح، صلوة المسافر.	٢٩٦٥

المجلد التاسع	٣٤٢٤	٣٨٩٣	بقية الصلوة، صلوة المريض، الجمعة، العيدين، الجنائز إلي حمل الجنازة.
المجلد العاشر	٣٨٩٤	٤٤٠٤	بقية الجنائز من صلوة الجنائز إلي باب الشهيد، كتاب الزكوة.
المجلد الحادي عشر	٤٤٠٥	٤٨٧٣	بقية الزكوة، كتاب الصدقات، الصوم، بتمام أبوابها إلي صدقة الفطر.
المجلد الثاني عشر	٤٨٧٤	٥٣٤٨	كتاب الحج بتمام أبوابها، النكاح إلي باب نكاح المكره.
المجلد الثالث عشر	٥٣٤٩	٥٩٤٣	بقية النكاح إلي باب المهر.
المجلد الرابع عشر	٥٩٤٤	٦٤٦٢	الرضاع، الطلاق إلي باب الكناية.
المجلد الخامس عشر	٦٤٦٣	٦٩٠٢	بقية الطلاق، الرجعة، البائن، الطلاق بالكتابة، الطلاق الثلاث، الشهادة في الطلاق، الحلالة.
المجلد السادس عشر	٦٩٠٣	٧٤٠٢	بقية الطلاق، تعليق الطلاق، التفويض، الفسخ والتفريق، الظهار، الإيلاء، الخلع، الطلاق على المال، العدة، النفقة، ثبوت النسب، الحضانة.
المجلد السابع عشر	٧٤٠٣	٧٨٦٧	الأيمان والنذور، الحدود، الجهاد، السلقطة، الامارة والسياسة، القضاء، الوقف إلي باب المساجد.
المجلد الثامن عشر	٧٨٦٨	٨٤٠٨	بقية الوقف من الفصل الثالث، المسجد القديم إلي مصلى العيد، والمقبرة. (قبرستان)

المجلد التاسع عشر	٨٤٠٩	٨٨٥٦	بقية الوقف، باب المدارس، كتاب البيوع، البيع الصحيح، الفاسد، المرابحة، الصرف، السلم، الوفاء، الشفعة، المزارعة.
المجلد العشرون	٨٨٥٧	٩٣٥٠	الشركة، المضاربة، الربوا بتمام أنواعها.
المجلد الحادي والعشرون	٩٣٥١	٩٧٣٥	الديون، الوديعة، الأمانة، الضمان، الهبة، الإجارة.
المجلد الثاني والعشرون	٩٧٣٦	١٠٢٤٥	الغصب، الرهن، الصيد، الذبائح بتمام أنواعها، الأضحية بتمام أنواعها، العقيقة، الحقوق، بأكثر أبوابها إلي باب حقوق الأقارب.
المجلد الثالث والعشرون	١٠٢٤٦	١٠٧٠٥	بقية الحقوق، الرؤيا، الطب والرقي بتمام أنواعها، كتاب الحظر والإباحة إلي باب السابع، ما يتعلق باللحية.
المجلد الرابع والعشرون	١٠٧٠٦	١١٢٠٥	بقية الحظر والإباحة، باب الأكل والشرب، الانتفاع بالحيوانات، الخمر، الدخان، الهدايا، الموالاة مع الكفار، المال الحرام، الأدب، الهوى، استعمال الذهب والفضة، كسب الحلال، الغناء، التصاوير.
المجلد الخامس والعشرون	١١٢٠٦	١١٦٠٠	الوصية، الفرائض بتمام أبوابها.
المجلد السادس والعشرون	١	١١٦٠٠	فهارس المسائل



فہرست مضامین

۱۶/ کتاب الرضاع

صفحہ نمبر	مسئلہ نمبر
۳۵ ثبوت رضاعت کیلئے شرعی شہادت	۵۹۴۴
۳۷ کیا حرمت رضاعت کے لئے دودھ کا اترنا لازم ہے؟	۵۹۴۵
۳۸ دودھ پیٹ میں نہ جانے کی صورت میں رضاعت کا حکم	۵۹۴۶
۳۹ لے پالک کو حقیقی بہن، بھتیجی یا بھانجی کا دودھ پلانا	۵۹۴۷
۴۱ دودھ پلانے کی صورت میں دودھ نہ نکلنے سے رضاعت کا حکم	۵۹۴۸
۴۲ مدت رضاعت میں ایک دو مرتبہ دودھ پینے کا حکم	۵۹۴۹
۴۳ بہن کا اپنے شیر خوار بھائی کو دودھ پلانا	۵۹۵۰
۴۴ خطأً دودھ پلانے سے حرمت رضاعت کا حکم	۵۹۵۱
۴۵ بچے کا رضاعی باپ کون ہے؟ سابقہ شوہر یا موجودہ شوہر	۵۹۵۲
۴۶ رضاعی بہن کی علاقائی بہن سے نکاح کا حکم	۵۹۵۳
۴۷ آٹھ ماہ بعد دوسرا بچہ پیدا ہونے کی صورت میں پہلے بچہ کو دودھ پلانے کا حکم ..	۵۹۵۴
۴۸ بیوی کا دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی	۵۹۵۵
۵۰ بیوی کے پستان کو چوسنے سے نکاح کا حکم	۵۹۵۶

- ۵۱ اہلیہ کا دودھ پینے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ۵۹۵۷
- ۵۲ رضاعی بھائی کے دیگر بھائیوں سے نکاح کا حکم ۵۹۵۸
- ۵۳ رضاعی لڑکی کا نکاح مرضعہ کے کسی بھی لڑکے سے جائز نہیں ۵۹۵۹
- ۵۴ رضیع کا مرضعہ کی کسی بھی اولاد سے نکاح جائز نہیں ۵۹۶۰
- ۵۵ مرضعہ کا اپنی بیٹی کا نکاح رضاعی بیٹے سے کرنا ۵۹۶۱
- ۵۶ رضیع کے بھائی کا مرضعہ کی بیٹی سے نکاح ۵۹۶۲
- ۵۷ رضاعی بھائی کے دیگر بھائیوں کا مرضعہ کی لڑکی سے نکاح ۵۹۶۳
- ۵۸ رضاعی بھائی بہن کی اولادوں کا باہم نکاح ۵۹۶۴
- ۵۹ رضاعی ماموں سے نکاح ۵۹۶۵
- ۶۰ رضاعی بھتیجی سے نکاح ۵۹۶۶
- ۶۱ حقیقی ماموں کی سوتیلی ماں کا دودھ پینے سے رضاعت کا حکم ۵۹۶۷
- ۶۲ مرضعہ کا اپنے بیٹے کا نکاح رضاعی بیٹے کی بہن سے کرنا ۵۹۶۸
- ۶۳ والدین کا بالجبر رضاعی بہن سے نکاح کرانا ۵۹۶۹
- ۶۴ رضاعی بہن سے نکاح کے بعد تفریق کی شکل ۵۹۷۰
- ۶۵ رضاعی بھائی بہن کا آپس میں نکاح کرنا ۵۹۷۱
- ۶۶ رضاعی بھائی بہنوں کے آپس میں نکاح کا حکم ۵۹۷۲
- ۶۷ رضاعی بہن سے نکاح ۵۹۷۳
- ۶۸ رضاعی بھائی بہن کا نکاح ۵۹۷۴
- ۶۹ کیا رضاعی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں؟ ۵۹۷۵
- ۷۰ دودھ شریک بھائی سے نکاح درست نہیں ۵۹۷۶
- ۷۱ رضاعی بھائی بہن کا نکاح اور اس سے پیدا شدہ اولاد کا حکم ۵۹۷۷

- ۵۹۷۸ رضاعی بہن سے نکاح اور اس سے پیدا شدہ بچہ کا نسب ۷۵
- ۵۹۷۹ رضاعی بہن کی بہن سے نکاح کرنا ۷۶
- ۵۹۸۰ رضاعی بھائی بہن کا لاعلمی میں نکاح کرنا ۷۷
- ۵۹۸۱ ڈھائی سال کے بعد دودھ پلانے والی مرضعہ کی بیٹی کا رضیع سے نکاح ۷۹
- ۵۹۸۲ رضیع کے چھوٹے بھائی کا مرضعہ کی بیٹی سے نکاح ۸۰
- ۵۹۸۳ رضیع کے دوسرے بھائی کا مرضعہ کی بیٹی سے نکاح ۸۱
- ۵۹۸۴ رضاعت متحقق نہ ہونے کی وجہ سے پھوپھی زاد بھائی سے نکاح ۸۱
- ۵۹۸۵ مدت رضاعت کے بعد دودھ پینے اور اس سے نکاح کا حکم ۸۲
- ۵۹۸۶ دو رضاعی بھائی میں سے ایک کی بیٹی اور دوسرے کے پوتے سے نکاح ۸۴
- ۵۹۸۷ رضاعی بیٹی کی بیوی سے نکاح کرنا ۸۴
- ۵۹۸۸ اپنے بیٹے کی رضاعی بہن سے نکاح کرنا ۸۵

۱۷/ کتاب الطلاق

□	۱/ باب صفة الطلاق و من أحق به	□
---	-------------------------------	---

- ۵۹۸۹ طلاق کا مسنون طریقہ ۸۷
- ۵۹۹۰ طلاق بدعی ۸۸
- ۵۹۹۱ طلاق کا حق دار کون ہے؟ اور بیوی کا طلاق کے بعد شوہر لکھنا ۸۹
- ۵۹۹۲ شوہر کے علاوہ کی طلاق غیر معتبر ہے ۹۰
- ۵۹۹۳ شوہر کے طلاق دیئے بغیر لڑکی والوں کا طلاق کی شہرت دینے کا حکم .. ۹۱

- ۵۹۹۴ بیوی نے طلاق دے کر پردہ کر لیا ۹۳
- ۵۹۹۵ شوہر کو طلاق کی تعداد یاد نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ ۹۵
- ۵۹۹۶ عورت حنفی اور شوہر اہل حدیث ہو تو طلاق میں کن کا اعتبار ہوگا؟ ۹۷
- ۵۹۹۷ بے قصور طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے ۹۸
- ۵۹۹۸ بیوی کو ڈرانے کے لئے طلاق دینے سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ . ۹۹
- ۵۹۹۹ نکاح کی حرص دلا کر طلاق حاصل کرنا ۱۰۰
- ۶۰۰۰ ان بری باتوں پر لوگوں نے طلاق دیدی ہیں کہنا ۱۰۱
- ۶۰۰۱ مرد کی طلاق ۱۰۲
- ۶۰۰۲ غیر مسلم عدالت میں مسلم حج کے طلاق کے فیصلہ کا حکم ۱۰۳
- ۶۰۰۳ عدالت کی طلاق کا حکم ۱۰۵
- ۶۰۰۴ غیر مسلم عدالت کی طلاق کے فیصلہ کا حکم ۱۰۷
- ۶۰۰۵ ہندوستانی عدالت کی طلاق کی شرعی حیثیت ۱۰۹
- ۶۰۰۶ بیوی کا کورٹ سے طلاق لینا ۱۱۰
- ۶۰۰۷ غیر مسلم حج سے طلاق لینے کے بعد شوہر کے پاس واپس آنا ۱۱۲
- ۶۰۰۸ ہندوستانی عدلیہ کے حج کی طلاق، تفریق اور فسخ کا حکم ۱۱۳
- ۶۰۰۹ کورٹ سے طلاق حاصل کر کے نکاح کرنے کا حکم ۱۱۴
- ۶۰۱۰ کورٹ کی طلاق ۱۱۶
- ۶۰۱۱ مروجہ عدالت کے ذریعہ طلاق ۱۱۸
- ۶۰۱۲ غیر مسلم عدالت کی طلاق معتبر نہیں ۱۱۹

۶۰۱۳	مسلمہ عورت کا غیر شرعی عدالت سے طلاق حاصل کرنا	۱۲۰
۶۰۱۴	شوہر کی طلاق کا اعتبار ہے یا پنچایت کی؟	۱۲۲
۶۰۱۵	طلاق کے بارے میں کمیٹی کا فیصلہ معتبر ہے یا نہیں؟	۱۲۳
۶۰۱۶	ٹیلیفون پر طلاق دینا	۱۲۷
۶۰۱۷	فون کی طلاق کا حکم	۱۲۸
۶۰۱۸	فون پر طلاق دینے سے طلاق کا حکم	۱۳۰
۶۰۱۹	ٹیلیفون پر دی گئی طلاق کا شرعی حکم	۱۳۱
۶۰۲۰	طلاق کے معنی جانے بغیر طلاق دینے کا حکم	۱۳۳

<input type="checkbox"/>	۲ باب إباحة الطلاق	<input type="checkbox"/>
--------------------------	---------------------------	--------------------------

۶۰۲۱	شرعاً طلاق کب دے سکتے ہیں؟	۱۳۵
۶۰۲۲	شرعاً طلاق دینا کب جائز ہے؟	۱۳۶
۶۰۲۳	عدم نبھاؤ کی شکل میں طلاق کا طریقہ	۱۳۸
۶۰۲۴	نبھاؤ کی شکل مشکل ہو تو علیحدگی حاصل کر لیں	۱۴۰
۶۰۲۵	والدین کے ساتھ مار پیٹ کرنے والی لڑکی کو طلاق دینا کیسا ہے؟	۱۴۲
۶۰۲۶	کیا پاگل بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟	۱۴۴
۶۰۲۷	بے نمازی بیوی کو طلاق دینا	۱۴۵
۶۰۲۸	حقوق زوجیت ادا نہ کرنے والی عورت سے نبھاؤ	۱۴۶
۶۰۲۹	بیوی پسند نہ آنے پر طلاق	۱۴۸
۶۰۳۰	بد فعلی کے شبہ پر طلاق	۱۴۹

- ۶۰۳۱ پھوپھی کی عادت خراب ہونے کی وجہ سے بھتیجی کو طلاق دینا ۱۵۰
- ۶۰۳۲ شوہر کی جان لینے کے درپے ہونے والی بیوی کو طلاق دینا ۱۵۱
- ۶۰۳۳ نافرمان بیوی کو طلاق ۱۵۲
- ۶۰۳۴ نافرمان بیوی کو طلاق دینے کا حکم ۱۵۳
- ۶۰۳۵ نافرمان، بدتمیز بیوی کو طلاق دینا ۱۵۵
- ۶۰۳۶ کیا نافرمان بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ ۱۵۷
- ۶۰۳۷ کیا نافرمان اور بدتمیز بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ ۱۶۰
- ۶۰۳۸ حقوقِ زوجیت ادا نہ کرنے والی کو طلاق ۱۶۱
- ۶۰۳۹ بدتمیزی اور مار پیٹ کرنے والی بیوی کو طلاق ۱۶۲
- ۶۰۴۰ فاحشہ اور ناشزہ کو طلاق دینا ۱۶۳
- ۶۰۴۱ فاجرہ کو طلاق دینا ۱۶۵
- ۶۰۴۲ کیا فاجرہ بیوی کو طلاق دے دینا چاہئے؟ ۱۶۶
- ۶۰۴۳ فاجرہ عورت کو طلاق دینا لازم نہیں ۱۶۸
- ۶۰۴۴ فاجرہ بیوی کو طلاق دینا ۱۶۹
- ۶۰۴۵ فاجرہ، زانیہ، گمراہ بیوی کو طلاق دینا ۱۷۰
- ۶۰۴۶ نافرمان بیوی کو طلاق دینا ۱۷۲
- ۶۰۴۷ فاجرہ عورت کو طلاق دینا ضروری نہیں ہے ۱۷۳
- ۶۰۴۸ ناشزہ عورت کو طلاق دینا ۱۷۵



- ۶۰۴۹ بغیر شرعی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ ۱۷۸
- ۶۰۵۰ طلاق کے مطالبہ پر شوہر کا مجبوراً اطلاق دینا ۱۸۰
- ۶۰۵۱ دوسری شادی کی بناء پر طلاق کا مطالبہ کرنا ۱۸۲
- ۶۰۵۲ بیوی کا بلا کسی وجہ معقول کے طلاق کا مطالبہ کرنا ۱۸۳
- ۶۰۵۳ بیوی کا بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا۔ ۱۸۴
- ۶۰۵۴ شرعی وجہ کے بغیر عورت طلاق کا مطالبہ کرے تو کیا حکم ہے؟ ۱۸۵
- ۶۰۵۵ زیادہ عمر کے لڑکے سے شادی کرنے کی بناء پر ولدین کا اس کے شوہر کو پریشان کرنا .. ۱۸۶
- ۶۰۵۶ شوہر کی عمر زیادہ ہونے پر طلاق کا مطالبہ کرنا ۱۸۸
- ۶۰۵۷ شوہر پر طلاق کا دباؤ ڈالنا۔ ۱۹۰
- ۶۰۵۸ لڑکے کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے لڑکی کا طلاق کا مطالبہ کرنا ۱۹۱
- ۶۰۵۹ بیوی کا شب و روز طلاق کا مطالبہ کرنا ۱۹۳
- ۶۰۶۰ رخصتی سے قبل طلاق کا مطالبہ کرنا ۱۹۴
- ۶۰۶۱ مرض کی بناء پر طلاق یا خلع کا مطالبہ ۱۹۶
- ۶۰۶۲ شوہر کی بدکاریوں کی وجہ سے بیوی کو طلاق کے مطالبہ کا حق ہے یا نہیں؟ ... ۱۹۷
- ۶۰۶۳ لواطت کرنے والے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے کا حکم ۱۹۸
- ۶۰۶۴ عورت کا مکان کی تبدیلی نہ کرنے پر طلاق کا مطالبہ کرنا ۱۹۹
- ۶۰۶۵ پہلی بیوی کا دوسری بیوی کو طلاق دینے پر اصرار کرنا ۲۰۰
- ۶۰۶۶ لڑکی کا طلاق پر مجبور کرنا ۲۰۳
- ۶۰۶۷ لڑکی کی خواہش پر طلاق ۲۰۴
- ۶۰۶۸ طلاق کے مطالبہ پر بیویوں ہی طلاق کے الفاظ کہنا ۲۰۴
- ۶۰۶۹ بیوی کے مطالبہ پر کتنی طلاق دی جائے؟ ۲۰۵

- ۶۰۷۰ ایک لڑکی کی طلاق سے دوسری لڑکیوں کی طلاق کا مطالبہ ۲۰۷
- ۶۰۷۱ بیوی شوہر کے پاس نہ جائے تو کیا کریں؟ ۲۰۹
- ۶۰۷۲ بیٹی، داماد کا سوتیلی ساس کی برائیاں بتا کر سر سے طلاق کا مطالبہ کرنا ۲۱۱
- ۶۰۷۳ طلاق کے مطالبہ پر بیوی کو مہر دینا لازم ہے یا نہیں؟ ۲۱۲
- ۶۰۷۴ نامرد شوہر سے طلاق و مہر کا مطالبہ کرنا ۲۱۳
- ۶۰۷۵ بیوی کے مطالبہ طلاق پر ”ہاں ہاں جا دیدوں گا“ کہنے کا حکم ۲۱۵
- ۶۰۷۶ بیوی کے مطالبہ پر دومرتبہ طلاق دینا ۲۱۷
- ۶۰۷۷ زوجین میں نباہ نہ ہونے کی صورت میں بیوی کا مطالبہ طلاق ۲۱۷

□	۴ باب وقوع الطلاق	□
---	--------------------------	---

- ۶۰۷۸ کتاب الطلاق کے چند مقامات سے عدم اتفاق کی رائے ۲۱۹
- مع تصدیقات علماء مدرسہ شامی مراد آباد ۲۱۹
- دارالافتاء مدرسہ شامی کی جانب سے جواب ۲۲۰
- ۶۰۸۹ کیا طلاق واقع ہونے کے لئے تحررے ضروری ہے؟ ۲۲۵
- ۶۰۸۰ مسئلہ معلوم نہ ہو کے کی صورت میں طلاق کا حکم ۲۲۷
- ۶۰۸۱ وقوع طلاق کے لئے شوہر کا اقرار کافی ہے ۲۲۸
- ۶۰۸۲ طلاق کا جھوٹا اقرار کرنا ۲۳۰
- ۶۰۸۳ شوہر کا طلاق دینے کے بعد انکار کرنا ۲۳۱
- ۶۰۸۴ فرضی راضی نامہ سے طلاق کا حکم ۲۳۲
- ۶۰۸۵ دل میں سوچی ہوئی طلاق کو زبان سے ادا کرنا ۲۳۴

- ۶۰۸۶ شوہر کے طلاق دینے پر بیوی کا قبول نہ کرنا ۲۳۵
- ۶۰۸۷ بیوی کا نام لئے بغیر طلاق دینا ۲۳۶
- ۶۰۸۸ ایک طلاق کے بعد دوسروں کے سوال کے جواب میں طلاق کی خبر دینا ۲۳۷
- ۶۰۸۹ سر سے کہا کہ تیری لڑکی کو طلاق ۲۳۹
- ۶۰۹۰ بیوی کی عدم موجودگی میں طلاق کا حکم ۲۴۰
- ۶۰۹۱ وقوع طلاق کے لئے عورت کی موجودگی، سماع اور اس سے خطاب ضروری نہیں ۲۴۱
- ۶۰۹۲ وقوع طلاق کے لئے بیوی کے سماع کی شرعی حیثیت ۲۴۲
- ۶۰۹۳ حاملہ طلاق کے الفاظ نہ سنے تو طلاق کا حکم ۲۴۳
- ۶۰۹۴ کیا طلاق کے وقوع کے لئے بیوی کا سننا ضروری ہے؟ ۲۴۵
- ۶۰۹۵ وقوع طلاق کے لئے عورت کا سننا لازم نہیں ۲۴۶
- ۶۰۹۶ وقوع طلاق کے لئے بیوی کا سننا یا سامنے ہونا لازم نہیں ۲۴۷
- ۶۰۹۷ وقوع طلاق کے لئے عورت کا سننا اور پاک ہونا لازم نہیں ۲۴۸
- ۶۰۹۸ وقوع طلاق کے لئے بیوی کا طلاق کے الفاظ سننا لازم نہیں ۲۴۹
- ۶۰۹۹ ”نانی اماں ایک دو تین“ کہنے کا حکم ۲۵۰
- ۶۱۰۰ آپسی نزاع کے درمیان ”آپ کی بہن کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا“ کہنا ۲۵۲
- ۶۱۰۱ ”تیری بہن کو طلاق ہوگئی، اس کی خیر خبر لے لو“ کہنے کا حکم ۲۵۵
- ۶۱۰۲ ”طلاق دیدوں گا، نبھاؤ نہیں ہو سکتا ایک دو تین“ کا حکم ۲۵۶
- ۶۱۰۳ کیا پاگل بیوی کو طلاق دینے سے واقع ہو جائے گی؟ ۲۵۷

□	۱۵ / باب طلاق الحامل والحائض	□
---	-------------------------------------	---

۲۵۹	۶۱۰۴	حالت حمل کی طلاق
۲۶۰	۶۱۰۵	حمل کی حالت میں طلاق کا حکم
۲۶۰	۶۱۰۶	حاملہ کو طلاق دینے کا حکم
۲۶۱	۶۱۰۷	کیا حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟
۲۶۳	۶۱۰۸	حالت حمل میں دو طلاق
۲۶۴	۶۱۰۹	حالت حمل میں تین طلاق کا حکم
۲۶۵	۶۱۱۰	حالت حمل میں تین طلاق، نیز وضع حمل کے بعد پھر طلاق دینے کا حکم
۲۶۶	۶۱۱۱	حاملہ بیوی کو تین طلاق دینا
۲۶۷	۶۱۱۲	جھگڑے کے دوران حالت حمل میں پانچ مرتبہ طلاق دینا
۲۶۸	۶۱۱۳	حمل میں طلاق اور عدت کا حکم
۲۶۹	۶۱۱۴	حالت حمل کی طلاق، بچہ کی پرورش، مہر اور جہیز کا حکم
۲۷۱	۶۱۱۵	حالت حمل میں طلاق سے متعلق چند سوالات و جوابات
۲۷۳	۶۱۱۶	حالت حیض میں طلاق
۲۷۴	۶۱۱۷	حالت حیض میں طلاق دینے سے طلاق کا حکم
۲۷۷	۶۱۱۸	حیض و نفاس کی حالت میں طلاق کا حکم

□	۱۶ / باب طلاق الهازل والغائب	□
---	-------------------------------------	---

۲۷۸	۶۱۱۹	نفاق میں طلاق دینے کا حکم
-----	-------	------	---------------------------

۶۱۲۰ مذاق اور حمل میں طلاق کا حکم	۲۷۹
۶۱۲۱ مذاق میں بیوی کو ”طلاق دیدوں گا یا دیدی“ کہنے کا حکم	۲۸۱
۶۱۲۲ مذاق میں طلاق دینا	۲۸۳
۶۱۲۳ غصے اور مذاق کی حالت میں طلاق کا حکم	۲۸۴
۶۱۲۴ شوہر کا غصہ کی حالت میں طلاق دینا	۲۸۵
۶۱۲۵ غصہ کی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم	۲۸۶
۶۱۲۶ کیا غصہ میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟	۲۹۰
۶۱۲۷ غصہ کی حالت میں بیوی کا نام لئے بغیر طلاق دینا	۲۹۱
۶۱۲۸ حالت غضب میں دو طلاق	۲۹۲
۶۱۲۹ غصہ میں طلاق دی مگر کتنی بار دی یا ڈنہیں	۲۹۳
۶۱۳۰ بحالت غضب تین طلاق جبکہ بیوی حاملہ بھی ہو	۲۹۳
۶۱۳۱ غصہ میں تین طلاق دینا	۲۹۴
۶۱۳۲ حالت غضب میں آٹھ، نو مرتبہ ”میں تمہیں طلاق دیتا ہوں“ کہنا ...	۲۹۵

<input type="checkbox"/>	۷/ باب طلاق السكران والجنون	<input type="checkbox"/>
--------------------------	------------------------------------	--------------------------

۶۱۳۳ حمل اور نشہ میں طلاق کا حکم	۲۹۷
۶۱۳۴ نشہ اور حمل کی حالت میں طلاق کا حکم	۲۹۸
۶۱۳۵ شرابی کے ”اس کو طلاق دی“ کہنے کا حکم	۲۹۹
۶۱۳۶ کیا نشہ کی طلاق معتبر ہے؟	۳۰۱
۶۱۳۷ کیا نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟	۳۰۲
۶۱۳۸ نشہ کی حالت میں طلاق دی؛ لیکن گواہ ندر اور شوہر منکر ہے	۳۰۴

۳۰۵	نشہ کی حالت میں طلاق دینا	۶۱۳۹
۳۰۸	نشہ کی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم	۶۱۴۰
۳۱۰	حالت نشہ میں دی ہوئی طلاق کا حکم	۶۱۴۱
۳۱۱	ٹیلیفون سے حالت نشہ میں طلاق دینا	۶۱۴۲
۳۱۳	نشہ کی حالت میں طلاق	۶۱۴۳
۳۱۴	نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم	۶۱۴۴
۳۱۶	نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم	۶۱۴۵
۳۱۸	نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم	۶۱۴۶
۳۱۹	نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم	۶۱۴۷
۳۲۰	نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم	۶۱۴۸
۳۲۲	نشہ کی حالت میں طلاق معلق دینا	۶۱۴۹
۳۲۳	شراب کے نشہ میں طلاق دینے کا حکم	۶۱۵۰
۳۲۴	نشہ کی حالت میں دو طلاق دینا	۶۱۵۱
۳۲۵	شراب کے نشہ میں تین طلاق دینا	۶۱۵۲
۳۲۷	بحالت نشہ تین طلاق دینا	۶۱۵۳
۳۲۸	نشہ کی حالت میں بیوی کو تین طلاق دینا	۶۱۵۴
۳۲۹	نشہ کی حالت میں طلاق مغلطہ دینا	۶۱۵۵
۳۳۰	نشہ میں طلاق مغلطہ دینے کا حکم	۶۱۵۶
۳۳۰	بحالت نشہ تین طلاق دینا	۶۱۵۷
۳۳۲	نشہ کی حالت میں ایک ہی سانس میں طلاق مغلطہ دینا	۶۱۵۸
۳۳۲	نشہ کی حالت میں تین مرتبہ سے زائد طلاق دینا	۶۱۵۹

- ۶۱۶۰ نشہ کی حالت میں تین سے زائد مرتبہ طلاق دینا ۳۳۳
- ۶۱۶۱ نشہ کی حالت میں چار پانچ مرتبہ طلاق دینا ۳۳۴
- ۶۱۶۲ بیوی کو حالت نشہ میں چھ، سات بار ”میں نے تجھے طلاق دی“ کہنا ۳۳۵
- ۶۱۶۳ حالت نشہ میں کئی بار لفظ طلاق استعمال کرنا ۳۳۶
- ۶۱۶۴ نشہ کی حالت میں کئی مرتبہ طلاق دینا ۳۳۷
- طلاق سکران کا تحقیقی جائزہ ۳۳۹
- طلاق سکران ۳۴۴
- حضرات صحابہ کی رائے ۳۴۴
- ۲ حضرات اجلہ تابعین کی رائے ۳۴۶
- عدم وقوع طلاق کے قائلین ۳۴۷
- وقوع طلاق کے قائلین ۳۴۹
- وقوع طلاق کے قائلین کی ترجیح ۳۵۲
- ائمہ اربعہ کی رائے ۳۵۳
- فقہاء احناف کی رائے ۳۵۵
- ۱. حنفیہ میں سے عدم وقوع طلاق کے قائلین ۳۵۶
- ۲. حنفیہ میں سے وقوع طلاق کے قائلین ۳۵۷
- حنفیہ کا قول مشقی بہ ۳۵۸
- اشیاء مندرہ ۳۶۰
- ۶۱۶۵ پاگل کی طلاق ۳۶۳
- ۶۱۶۶ پاگل پن کا دورہ پڑنے والے کی طلاق ۳۶۴
- ۶۱۶۷ کبھی ہوش اور کبھی جنون طاری ہونے والے کی طلاق ۳۶۵

۳۶۷	مجنون کو طلاق دینا یا درہے	۶۱۶۸
۳۶۹	مجنون کو طلاق دینا یا درہو تو کیا حکم ہے؟	۶۱۶۹
۳۷۰	دماغی مرض میں مبتلا شخص کی طلاق	۶۱۷۰
۳۷۲	حالت جنون میں تین طلاق دینا	۶۱۷۱
۳۷۳	بے ہوشی میں طلاق کا حکم	۶۱۷۲
۳۷۴	بے ہوشی کی حالت میں طلاق دینا	۶۱۷۳
۳۷۵	بے ہوشی کی حالت میں طلاق دینے کا حکم	۶۱۷۴
۳۷۷	آسیب زدہ شخص کا دوران جنون طلاق دینا	۶۱۷۵
۳۷۹	آسیب زدہ شخص کا بیوی کو طلاق دینا	۶۱۷۶
۳۸۰	ہارٹ اٹیک کے دورے کے دوران طلاق دینا	۶۱۷۷
۳۸۱	ڈرانے کے ارادے سے طلاق دینا	۶۱۷۸

<input type="checkbox"/>	۸ باب طلاق المکرہ	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

۳۸۳	طلاق بالجبر کا حکم	۶۱۷۹
۳۸۴	مکرہ کی تحریری اور زبانی طلاق کا حکم	۶۱۸۰
۳۸۵	زور زبردستی زبانی طلاق دلوانے کا حکم	۶۱۸۱
۳۸۷	بحالت اکراہ دی ہوئی طلاق کا حکم	۶۱۸۲
۳۸۸	زبردستی لی ہوئی طلاق کا حکم	۶۱۸۳
۳۸۹	دباؤ میں آکر زبانی طلاق دینے کا حکم	۶۱۸۴
۳۹۱	طلاق دینے پر جبر کرنے کی صورت میں سر سے اشارہ کرنا	۶۱۸۵
۳۹۲	جان کے خوف سے بیوی کو طلاق دینا	۶۱۸۶

۳۹۳ مارڈالنے کی دھمکی دے کر زبردستی طلاق دلوانا	۶۱۸۷
۳۹۴ دباؤ میں آکر طلاق دینا	۶۱۸۸
۳۹۶ کیا جبراً طلاق کے الفاظ کہلوانے سے طلاق واقع ہو جائے گی؟	۶۱۸۹
۳۹۷ حالت اکراہ میں دو طلاق	۶۱۹۰
۳۹۸ زبردستی لفظ تہاک سے طلاق کا حکم	۶۱۹۱
۴۰۲ مکرہ کی طلاق اور نکاح ثانی کی صحت	۶۱۹۲
۴۰۴ کسی کے مجبور کرنے پر طلاق دینا	۶۱۹۳
۴۰۵ بیوی کے بھائیوں کا جبراً، ہنوی سے طلاق دلوانا	۶۱۹۴

<input type="checkbox"/>	۹ / باب الطلاق بالألفاظ المصحفة	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--	--------------------------

۴۰۷ ایسی زبان میں طلاق جس کو شوہر نہیں سمجھتا	۶۱۹۵
۴۰۸ لفظ طلاق سے وقوع طلاق کا حکم	۶۱۹۶
۴۰۹ جان بچانے کے خوف سے بلا نیت طلاق ”تہاک دیتا ہوں“ کہا	۶۱۹۷
۴۱۱ لفظ طلاق سے طلاق کا حکم	۶۱۹۸
۴۱۲ لفظ طلاق سے کوئی طلاق نہیں	۶۱۹۹
۴۱۳ لفظ ”تہاک“ سے طلاق کا حکم	۶۲۰۰
۴۱۴ دوسرے کو دور کرنے کے لئے تجھے کرا لیا دیتا ہوں کہنے سے طلاق کا حکم	۶۲۰۱

<input type="checkbox"/>	۱۰ / باب عدم وقوع الطلاق	<input type="checkbox"/>
--------------------------	---------------------------------	--------------------------

۴۱۶ قبل النکاح خیالی طلاق دینا	۶۲۰۲
۴۱۷ دل میں طلاق دینے کا حکم	۶۲۰۳
۴۱۸ دل ہی دل میں طلاق دینا	۶۲۰۴

- ۶۲۰۵ طلاق دینے میں شک ہو تو کیا حکم ہے؟ ۴۲۰
- ۶۲۰۶ شوہر کا طلاق کو اپنی طرف منسوب کرنا ۴۲۱
- ۶۲۰۷ دفعِ صواہر کے لئے بھاگ یا چل بھاگ کہنے پر بیوی کا خیل آنے سے طلاق کا حکم ۴۲۱
- ۶۲۰۸ عورت کا جھوٹی طلاق کا دعویٰ کرنا ۴۲۳
- ۶۲۰۹ کیا لڑکی کے اقرار سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ ۴۲۴
- ۶۲۱۰ بیوی کے جھوٹ بولنے سے کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ ۴۲۶
- ۶۲۱۱ محض بیوی کے طلاق کا دعویٰ کرنے سے طلاق کا حکم ۴۲۷
- ۶۲۱۲ بیوی طلاق کا دعویٰ کرے اور شوہر انکار کرے تو کیا حکم ہے؟ ۴۲۸
- ۶۲۱۳ سسرال والوں کا یہ کہنا کہ لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے ۴۲۹
- ۶۲۱۴ سسرال والوں کے طلاق کے مطالبہ پر زور دینے سے طلاق کا حکم .. ۴۳۰
- ۶۲۱۵ کیا آنسہ پر طلاق واقع ہو جاتی ہے ۴۳۱
- ۶۲۱۶ حق زوجیت ادا نہ کرنے کی بنا پر طلاق کا حکم ۴۳۲
- ۶۲۱۷ جب بھی کوئی ناراضگی کی بات ہوتی ہے تو تم یہی کہتی ہو طلاق طلاق ۴۳۲
- ۶۲۱۸ تجھے میں رکھیل بنا کر رکھوں گا کہنے کا حکم ۴۳۵
- ۶۲۱۹ ”تجھ سے صحبت کروں تو ماں سے صحبت کروں“ کہنے کا حکم ۴۳۵
- ۶۲۲۰ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں سے طلاق کا حکم ۴۳۶
- ۶۲۲۱ کیا لعنت بھیجنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ ۴۳۸
- ۶۲۲۲ شوہر کا اپنے کوشیطان کہنے سے طلاق کا حکم ۴۳۹
- ۶۲۲۳ معاف کر دو کے جواب میں دیدی، کہنے کا حکم ۴۴۰
- ۶۲۲۴ زبان سے سلام کی جگہ طلاق نکل جائے تو کیا حکم؟ ۴۴۲

- ۶۲۲۵ ”تجھے تو طلاق ہو جائے گی“ سے طلاق کا حکم ۴۴۳
- ۶۲۲۶ بس اب تم ختم سمجھو، رشتہ ختم ہو جائے گا وغیر کہنے کا حکم ۴۴۴
- ۶۲۲۷ ”طلاق دیدو“ کے جواب میں ہاں کہنے کا حکم ۴۴۶
- ۶۲۲۸ امی تم چاہتی ہو، تو میں طلاق دے دیتا ہوں سے طلاق ۴۴۷
- ۶۲۲۹ منظوری طلاق سے عدم طلاق کا ثبوت ۴۴۸
- ۶۲۳۰ حکایت طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوتی ۴۵۱
- ۶۲۳۱ مسئلہ بتانے کی غرض سے لفظ طلاق کہنے کا حکم ۴۵۲
- ۶۲۳۲ دوران درس استاد کا اعتراف استبرائی کے تذکرہ کے وقت دل میں طلاق کا تصور کرنا ۴۵۳
- ۶۲۳۳ کیا طلاق کے مسائل کے تکرار سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ ۴۵۴
- ۶۲۳۴ انشاء اللہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی کہنے کا حکم ۴۵۵
- ۶۲۳۵ ”طلاق، طلاق، طلاق ان شاء اللہ“ کہنے کا حکم ۴۵۶
- ۶۲۳۶ طلاق کی نسبت بیوی کی طرف نہ ہو تو؟ ۴۵۷
- ۶۲۳۷ بیوی کی طرف نسبت کئے بغیر لفظ طلاق کہنا ۴۵۹
- ۶۲۳۸ بیوی کو طلاق لکھ کر دینے سے طلاق کا حکم ۴۶۰
- ۶۲۳۹ بیوی کی طرف اضافت کئے بغیر طلاق دینا ۴۶۰
- ۶۲۴۰ بیوی کی طرف اضافت کے بغیر زبان سے طلاق، طلاق، کہنے کا حکم .. ۴۶۲
- ۶۲۴۱ محض جدارہنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا اور سوکن کا الگ مکان کا مطالبہ کرنا .. ۴۶۳
- ۶۲۴۲ کیا شوہر کے گھر نہ جا کر میکہ میں رہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ ۴۶۵
- ۶۲۴۳ زیادہ عرصہ تک الگ رہنے کی بناء پر طلاق کا حکم ۴۶۶
- ۶۲۴۴ مسلسل پانچ سال تک شوہر سے علیحدگی کی بناء پر طلاق کا حکم ۴۶۷
- ۶۲۴۵ کیا بیوی سے پانچ سال تک دور رہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ .. ۴۶۹

۶۲۴۶	گیارہ سال تک بیوی سے قطع تعلق کی بناء پر طلاق کا حکم	۴۷۰
۶۲۴۷	نامردگی کی بناء پر علیحدگی سے طلاق کا حکم	۴۷۱
۶۲۴۸	”آئندہ بھانجی کے رشتہ سے ملنے گا، ہم جملوں کا استعمال کریں گے“ کہنا	۴۷۲
۶۲۴۹	”تیری طلاق سے راضی ہوں“ کہنے کا حکم	۴۷۳

□	۱۱ / باب وعد الطلاق	□
---	---------------------	---

۶۲۵۰	صیغہ استقبال سے طلاق دینے کا حکم	۴۷۴
۶۲۵۱	صیغہ حال سے طلاق کا حکم	۴۷۵
۶۲۵۲	طلاق دے دوں گا سے طلاق کا حکم	۴۷۶
۶۲۵۳	تجھے طلاق دیدوں گا کے الفاظ سے طلاق کا حکم	۴۷۷
۶۲۵۴	طلاق دیدوں گا کے الفاظ سے طلاق کا حکم	۴۷۸
۶۲۵۵	بیوی سے محض تجھ کو طلاق دیدوں گا کہنا	۴۷۹
۶۲۵۶	طلاق دیدوں گا کے الفاظ سے طلاق کا حکم	۴۸۰
۶۲۵۷	انور میاں کو بلاؤ ہم طلاق دیں گے کہنے کا حکم	۴۸۱
۶۲۵۸	تیرا معاملہ صاف کر دوں گا سے عدم وقوع طلاق	۴۸۳
۶۲۵۹	”میں تجھے طلاق دے دوں گا“ سے طلاق	۴۸۴
۶۲۶۰	”میں تجھے طلاق دیدوں گا“ کہنا	۴۸۵
۶۲۶۱	طلاق دیدوں گا کہنے کا حکم	۴۸۶
۶۲۶۲	طلاق دیدوں گا کے الفاظ سے طلاق کا حکم	۴۸۸
۶۲۶۳	طلاق دیدوں گا کہنے سے طلاق نہیں ہوتی	۴۸۹

۴۹۱	بوقت نزاع ”طلاق دیدوں گا“ کہنا	۶۲۶۴
۴۹۲	”طلاق دیدوں“ کہنے کا حکم	۶۲۶۵
۴۹۳	”تجھے طلاق دوں“ کے الفاظ سے طلاق کا حکم	۶۲۶۶
۴۹۴	تو گھر چلی جاورنہ میں تجھے طلاق دے دوں گا	۶۲۶۷
۴۹۵	اگر تم جاؤ گی تو میں تمہیں نہیں رکھوں گا کہنے کا حکم	۶۲۶۸
۴۹۶	طلاق دیدینی چاہئے طلاق دیدوڑگا، طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہنا	۶۲۶۹
۴۹۷	میکہ گئی تو طلاق دیدوں گا سے طلاق	۶۲۷۰
۴۹۸	چوبیس گھنٹہ کے اندر اندر میرے گھر سے چلی جاو ورنہ طلاق دیدوں گا	۶۲۷۱
۴۹۹	تجھے چھوڑ دوں گا سے طلاق کا حکم	۶۲۷۲
۵۰۰	تجھے نہیں رکھوں گا سے طلاق	۶۲۷۳
۵۰۱	اگر تو پانی پت چلی گئی تو تجھے طلاق دیدوں گا	۶۲۷۴
۵۰۳	”لے تجھے دے ہی دی“ کہنا	۶۲۷۵
۵۰۴	تو خاموش ہو جا، میں تیرے مہر کے پیسے بھی دیدوں گا سے طلاق کا حکم	۶۲۷۶

□	۱۲ / باب الطلاق الصریح	□
---	-------------------------------	---

۵۰۷	طلاق صریح اور بائن میں فرق	۶۲۷۷
۵۰۸	طلاق صریح میں نیت کا حکم	۶۲۷۸
۵۰۹	الفاظ صریح میں بلانیت وارادہ طلاق کا حکم	۶۲۷۹
۵۱۱	کیا طلاق صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہے؟	۶۲۸۰
۵۱۲	بغیر نیت طلاق کے تین مرتبہ صریح طلاق دینا	۶۲۸۱

- ۶۲۸۲ بلانیت طلاق ”طلاق، طلاق، طلاق“ کہنا ۵۱۴
- ۶۲۸۳ بغیر نیت کے ”جا چھوٹ گئی“ کہنے سے طلاق کا حکم ۵۱۵
- ۶۲۸۴ بیوی طلاق صریح کی عدت کے بعد بائنتہ ہو جاتی ہے ۵۱۶
- ۶۲۸۵ کیا لفظ سے صریح دی گئی طلاق بعد العدت بائن ہو جاتی ہے؟ ۵۱۸
- ۶۲۸۶ کہا کہ ”طلاق دے رہا ہوں“ طلاق کا حکم ۵۱۹
- ۶۲۸۷ ”میں تم کو طلاق دے رہا ہوں،، سے طلاق ۵۲۰
- ۶۲۸۸ بنگلہ زبان میں طلاق کے لئے مستعمل الفاظ استعمال کرنا ۵۲۲
- ۶۲۸۹ لفظ ”لاذ“ نہ صریح ہے اور نہ ہی کنایہ ۵۲۳
- ۶۲۹۰ ”میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی“ کہنا ۵۲۴
- ۶۲۹۱ ”ایک مرتبہ میں نے تجھے طلاق دی“ کہنا ۵۲۵
- ۶۲۹۲ جا میں نے تجھے آزاد کیا سے طلاق ۵۲۷
- ۶۲۹۳ لفظ طلاق کے بعد متعدد بار دے دے کہنے کا حکم ۵۲۷
- ۶۲۹۴ ”لفظ طلاق دی، دی، دی“ سے طلاق کا حکم ۵۲۹
- ۶۲۹۵ دو مرتبہ میں نے تجھے طلاق دی سے طلاق کا حکم ۵۳۰
- منجانب: دارالافتاء جامعہ نعیمیہ ۵۳۰
- منجانب: دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد ۵۳۱
- ۶۲۹۶ ”ہاں میں نے طلاق دی اسے اور نکالو اسے یہاں سے“ کہنے کا حکم ۵۳۲
- ۶۲۹۷ جب مجھے رکھنا نہیں تو ان باتوں سے کیا فائدہ میں نے تو طلاق دیدی ۵۳۴
- ۶۲۹۸ ”طلاق تو پہلے دے چکا ہوں“ کہنے سے طلاق کا حکم ۵۳۶
- ۶۲۹۹ طلاق دینے کے بعد دوبارہ ”جادی“ کے الفاظ کہنا ۵۳۹

- ۶۳۰۰ طلاق، طلاق کہہ دیا ۵۴۰
- ۶۳۰۱ بیوی کو دو مرتبہ طلاق دینا ۵۴۱
- ۶۳۰۲ طلاق ثلاثہ کے بعد اس کا انکار کرنا ۵۴۲
- ۶۳۰۳ والد کے سامنے ایک ہی مرتبہ میں بیوی کو تین طلاق دینا ۵۴۳
- ۶۳۰۴ لالکھ کر دیتا ہوں ”طلاق، طلاق، طلاق“ سے طلاق کا حکم ۵۴۴
- ۶۳۰۵ ”تجھے طلاق ہی، تجھے آزاد کیا، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، تجھے فارغ خطی ہی“ کہنے کا حکم .. ۵۴۵
- ۶۳۰۶ ایک دو اگر خاموش نہ رہی، تو تین کر دیں گے کہنا ۵۴۷
- ۶۳۰۷ ”لے طلاق“ کا حکم ۵۴۸
- ۶۳۰۸ ”طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“ کا حکم ۵۴۹
- ۶۳۰۹ دیور کا بھابھی کے ساتھ زنا کرنا اور شوہر کا اس کو طلاق دینا ۵۵۰
- ۶۳۱۰ خیالی طلاق کے بعد یہ کہنا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے .. ۵۵۲
- ۶۳۱۱ ایک مرتبہ طلاق کہنے کا حکم ۵۵۳
- ۶۳۱۲ شوہر کا دو آدمی کی موجودگی میں یہ کہنا کہ اس کو تو طلاق ہو چکی ہے ... ۵۵۴
- ۶۳۱۳ وارننگ کے طور پر ایک مرتبہ طلاق دینا ۵۵۵
- ۶۳۱۴ ”بیوی کو طلاق دے آیا ہوں“ سے طلاق ۵۵۷
- ۶۳۱۵ لفظ ”میں تجھے طلاق دیتا ہوں“ سے طلاق ۵۵۸
- ۶۳۱۶ ”جب دیدی تو تو جاتی کیوں نہیں، انشاء طلاق ہے یا تاکید ۵۵۹
- ۶۳۱۷ میں نے تیری طلاق دیدی کہنے کا حق ۵۶۰
- ۶۳۱۸ ”میں نے تجھے طلاق دی“ سے کوئی طلاق واقع ہوگی؟ ۵۶۲
- ۶۳۱۹ طلاق دیدی سے کوئی طلاق واقع ہوگئی؟ ۵۶۳
- ۶۳۲۰ ”جائیں نے تجھے طلاق دی“ سے طلاق ۵۶۴

- ۶۳۲۱ ”میں نے تمہاری بھانجی کو طلاق دیدی“ کہنے سے طلاق ۵۶۶
- ۶۳۲۲ ”میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں“ کہنے کا حکم ۵۶۷
- ۶۳۲۳ شرعی و قانونی طلاق دے کر اپنی زوجیت سے آزاد کر دیا ۵۶۸
- ۶۳۲۴ وکیل کے دریافت کرنے پر طلاق کا اقرار کرنا ۵۶۹
- ۶۳۲۵ کسی شخص کے کہنے سے بیوی کو ایک طلاق دینا ۵۷۱
- ۶۳۲۶ ”طلاق دی اور طلاق دیدوں گا“ سے وقوع طلاق کا مسئلہ ۵۷۳
- ۶۳۲۷ طلاق دیدوں گا،، اور ”طلاق دی،، سے طلاق کا حکم ۵۷۴
- ۶۳۲۸ ”دیدی“ کے لفظ سے طلاق ۵۷۵
- ۶۳۲۹ شوہر کا طلاق سے انکار اور لڑکی والوں کا اقرار کرنا ۵۷۷
- ۶۳۳۰ دو طلاق رجعی ۵۷۸
- ۶۳۳۱ دو طلاق رجعی دینا ۵۷۹
- ۶۳۳۲ ”جاؤ تم آزاد ہو میں نے تمہیں طلاق دی،، سے طلاق کا حکم ۵۸۱
- ۶۳۳۳ ”طلاق لے کر نمٹ لے“ سے طلاق ۵۸۲
- ۶۳۳۴ میں نے اس کو چھوڑ دی ۵۸۳
- ۶۳۳۵ ایک مرتبہ زور سے دوسری مرتبہ آہستہ طلاق دینا ۵۸۴
- ۶۳۳۶ ”میں نے اس کو آزاد کیا، آزاد کرتا ہوں،، سے طلاق ۵۸۵
- ۶۳۳۷ ”شوہر کا میں تجھے چھوڑ دوں، تجھے چھوڑوں اور طلاق دی طلاق دی“ کہنا ۵۸۶
- ۶۳۳۸ دو مرتبہ طلاق دیدوں گا اور دو مرتبہ طلاق دی کہنا ۵۸۸
- ۶۳۳۹ میں نے طلاق دی دو مرتبہ کہنا ۵۸۹
- ۶۳۴۰ دو ماہ قبل دو طلاق دے کر پھر تجھے طلاق دیدوں گا کہنا ۵۹۱
- ۶۳۴۱ شوہر کا بیوی کو دو طلاق دینا اور اس کے حقوق ادا نہ کرنا ۵۹۱

- ۶۳۴۲ ”طلاق، طلاق، طلاق، إن شاء اللہ“ سے طلاق کا حکم ۶۰۱
- ۶۳۴۳ فون پر دو طلاق دینا ۶۰۳
- ۶۳۴۴ بیوی کی عدم موجودگی میں دو مرتبہ طلاق دینا ۶۰۴
- ۶۳۴۵ دو مرتبہ طلاق دینا ہوں کے الفاظ سے طلاق ۶۰۵
- ۶۳۴۶ مختلف الفاظ صریح سے طلاق دینا ۶۰۶
- ۶۳۴۷ دو مرتبہ طلاق دی، پھر باہر آ کر کہا میں نے اس کو طلاق دیدی ۶۰۷
- ۶۳۴۸ ”تجھے طلاق دینی ہے کے بعد ”سمجھ لو طلاق ہوئی“ کہنے سے طلاق ۶۰۸
- ۶۳۴۹ بیوی کو طلاق دے کر والد کو خبر دینا ۶۰۹
- ۶۳۵۰ دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد مختلف مقامات پر اس کی خبر دینا ۶۱۰
- ۶۳۵۱ ”میں نے تجھے طلاق دی“ دی سے طلاق کا حکم ۶۱۳
- ۶۳۵۲ ایک ایک کر کے دو طلاق موصولاً دینا ۶۱۴
- ۶۳۵۳ ساس سے لڑائی کے دوران دو بار طلاق دینا ۶۱۶
- ۶۳۵۴ نند بھادج میں لڑائی دیکھ کر دو طلاق دینا ۶۱۵
- ۶۳۵۵ ”میں نے تجھے طلاق دی“ دو مرتبہ کہنے سے طلاق ۶۱۶
- ۶۳۵۶ ”طلاق دی، طلاق دی“ سے طلاق کا حکم ۶۱۷
- ۶۳۵۷ بیوی کو مخاطب بنا کر دو مرتبہ طلاق دینا ۶۱۸
- ۶۳۵۸ ”طلاق دلواؤ، طلاق دیدوں گا اور طلاق دیدی“ سے کتنی طلاق ہوئیں ۶۱۹
- ۶۳۵۹ دو طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق دینے سے قبل منہ بند کر دینا ۶۲۰
- ۶۳۶۰ فارغ خطی کا لفظ طلاق صریح رجعی کیلئے ہے ۶۲۱
- ۶۳۶۱ فارغ خطی کے لفظ سے طلاق ۶۲۲
- ۶۳۶۲ فارغ خطی کے لفظ سے طلاق کا حکم ۶۲۳

- ۶۳۶۳ میں نے تجھے فارغ خطی دیدی ۶۳۶۳
- ۶۳۶۴ چھوڑ دیا کالفظ عرف میں طلاق ہی کو کہتے ہے ۶۳۶۴
- ۶۳۶۵ ”چھوڑ دیا،، کے لفظ سے طلاق صریح ۶۳۶۵
- ۶۳۶۶ چھوڑ رہا ہوں کے لفظ سے طلاق کا حکم ۶۳۶۶
- ۶۳۶۷ لفظ چھوڑ چکا ہوں سے طلاق ۶۳۶۷
- ۶۳۶۸ جا میں نے تجھے چھوڑا ۶۳۶۸
- ۶۳۶۹ لفظ چھوڑ دی سے طلاق دینا ۶۳۶۹
- ۶۳۷۰ لفظ ”چھوڑ دیا،، سے طلاق ہوئی یا نہیں؟ ۶۳۷۰
- ۶۳۷۱ چھوڑ دی سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ ۶۳۷۱
- ۶۳۷۲ ”چھوڑ دیا“ اور ”تیری ماں کا کام تمام کر دیا کا حکم“ ۶۳۷۲
- ۶۳۷۳ تجھے چھوڑ دوںگا، تیرا فیصلہ کر دوں گا کا حکم ۶۳۷۳
- ۶۳۷۴ دوران جھگڑا بیوی کو دو مرتبہ چھوڑ دیا کہنا ۶۳۷۴
- ۶۳۷۵ ”میں نے تجھ کو چھوڑ دیا“ دو مرتبہ کہنے سے طلاق کا حکم ۶۳۷۵
- ۶۳۷۶ دو مرتبہ ”میں تجھے چھوڑ چکا ہوں“ کہنے کا حکم ۶۳۷۶
- ۶۳۷۷ ”میں نے تم کو چھوڑا، چھوڑا، چھوڑا کہنے کا حکم“ ۶۳۷۷
- ۶۳۷۸ لفظ چھوڑ دی تین مرتبہ کہنے کا حکم ۶۳۷۸
- ۶۳۷۹ لفظ چھوڑ دیا وقفہ وقفہ سے تین مرتبہ کہنا ۶۳۷۹
- ۶۳۸۰ چھوڑ رہا ہوں کے لفظ سے طلاق ۶۳۸۰
- ۶۳۸۱ آزاد کر دیا کالفظ عرف میں بیوی کے حق میں طلاق رجعی ہے ۶۳۸۱
- ۶۳۸۲ ”دل سے تو میری بیوی آزاد ہے“ کہنا ۶۳۸۲
- ۶۳۸۳ آزاد کرتا ہوں سے طلاق ۶۳۸۳
- ۶۵۲

- ۶۳۸۴ تجھے آزاد کر دیا ۶۵۳
- ۶۳۸۵ میں نے آپ کو آزاد کر دیا ۶۵۴
- ۶۳۸۶ میں نے تجھے اپنے نکاح سے آزاد کیا ۶۵۵
- ۶۳۸۷ جاؤ تم کا آزاد کر دیہن ۶۵۶
- ۶۳۸۸ ”نکاح سے آزادی دیتا ہوں“ کے الفاظ سے طلاق ۶۵۸
- ۶۳۸۹ تین مرتبہ شوہر کا ”آزاد کر دیا“ کہنا ۶۶۰
- ۶۳۹۰ لفظ ”آزاد کرتا ہوں“ سے طلاق کا حکم ۶۶۰
- ۶۳۹۱ ”تم میری طرف سے آزاد ہو، سے طلاق ۶۶۱
- ۶۳۹۲ ”اپنی زوجیت سے آزاد کرتا ہوں، سے طلاق ۶۶۲
- ۶۳۹۳ ”میں نے آزاد کر دیا“ کے لفظ سے طلاق ۶۶۳
- ۶۳۹۴ لفظ آزاد اور لفظ طلاق کے ذریعہ طلاق دینے کا مسئلہ ۶۶۴
- ۶۳۹۵ ”میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں نے آزاد کر دیا، سے طلاق ۶۶۵
- ۶۳۹۶ ”تو میری طرف سے آزاد ہے، ایک مرتبہ کہنے سے طلاق ۶۶۶
- ۶۳۹۷ ”تو آزاد ہے نکل، کے الفاظ سے طلاق کا حکم ۶۶۸
- ۶۳۹۸ ”آزاد کر دیا“ سے طلاق ۶۶۹
- ۶۳۹۹ آزاد کرنے اور چھوڑنے کے لفظ سے طلاق کا حکم ۶۷۱
- ۶۴۰۰ شوہر کا قول ”میں نے تجھے طلاق دی، آزاد کیا“ سے طلاق ۶۷۳
- ۶۴۰۱ ”تم اپنے میکہ چلی جاؤ اور آزاد ہو“ سے طلاق کا حکم ۶۷۴
- ۶۴۰۲ ”میں نے تجھے آزاد کیا“ دو مرتبہ کہنے سے طلاق ۶۷۵
- ۶۴۰۳ تین مرتبہ کہنا کہ ”تو میری طرف سے آزاد ہے،“ ۶۷۶

۶۷۸	مختلف مواقع پر چھ سات مرتبہ آزاد کر دیا کہنا	۶۴۰۴
۶۷۹	متعدد بار آزاد کرنا	۶۴۰۵
۶۸۰	بارہا ”آزادی دی“ کہنا	۶۴۰۶

□	۱۳ / باب الکنایۃ	□
---	------------------	---

۶۸۲	کنائی الفاظ سے بلا نیت طلاق کا حکم	۶۴۰۷
۶۸۳	الفاظ کنائی سے طلاق	۶۴۰۸
۶۸۵	الفاظ کنائی سے طلاق دینا	۶۴۰۹
۶۸۷	کیا الفاظ کنائی سے طلاق ہو جاتی ہے؟	۶۴۱۰
۶۸۸	ایک طلاق بائن کی صورت میں دوبارہ نکاح کرنا جائز ہے	۶۴۱۱
۶۹۰	طلاق بائن کے بعد ساتھ رہنے کی صورت	۶۴۱۲
۶۹۱	دو طلاق سے عدت گزرنے کے بعد تجدید نکاح کا حکم	۶۴۱۳
۶۹۲	طلاق رجعی بعد عدت بائن بن جاتی ہے	۶۴۱۴
۶۹۳	اشارہ کنایہ وغیرہ کے ذریعہ سے بھی بیوی کی طرف طلاق کی نسبت نہ ہو تو؟	۶۴۱۵
۶۹۴	لفظ ٹھیک نہ صریح ہے، نہ کنایہ	۶۴۱۶
۶۹۶	تو مجھ پر حرام کے لفظ سے طلاق صریح بائن	۶۴۱۷
۶۹۶	شوہر نے کہا کہ، میں تیرا شوہر نہیں ہوں، تو طلاق ہوگی یا نہیں؟	۶۴۱۸
۶۹۷	”نہیں رکھوں گا“ اور ”نکل جا“ کہنے کا حکم	۶۴۱۹
۶۹۸	”اگر میں نے تم کو روکا، تو بہن بنا کر رکھوں“ سے طلاق کا حکم	۶۴۲۰
۷۰۰	”اگر میں تیرے پاس جاؤں تو یہ ایسا ہے جیسا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس آیا“	۶۴۲۱

- ۶۴۲۲ تجھے طلاق دی اور دوسری مرتبہ کہا، تو میرے نکاح سے باہر ہوگئی کا حکم .. ۷۰۱
- ۶۴۲۳ ”آپ کی لڑکی مجھے نہیں بھری جانے کی“ سے طلاق ۷۰۲
- ۶۴۲۴ آپس میں کوئی رشتہ نہیں کہنے کا حکم ۷۰۳
- ۶۴۲۵ لفظ البتہ طلاق کا حکم ۷۰۴
- ۶۴۲۶ اپنے گھر چلی جاؤ سے طلاق ۷۰۵
- ۶۴۲۷ تو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ سے طلاق ۷۰۷
- ۶۴۲۸ جواب دیا کا لفظ کنائی ہے یا صریح ۷۰۸
- ۶۴۲۹ ”جواب دیا، جدا کر دیا، میرے گھر سے چلی جا“ کہنا ۷۱۱
- ۶۴۳۰ لفظ جواب سے ایک طلاق بائن ۷۱۳
- ۶۴۳۱ لفظ جواب دیدیا سے ایک طلاق بائن ۷۱۴
- ۶۴۳۲ ”اگر آپ کی لڑکی دوسری جگہ شادی کے لئے تید ہے تو میری طرف سے اجازت ہے“ سطلاق ۷۱۵
- ۶۴۳۳ جا طلاق ہوگئی، اب تو آزاد ہوگئی، جاؤ گھومو، سے طلاق ۷۱۶
- ۶۴۳۴ ”اب وہ میرے لئے حرام ہے“ کہنے کا حکم ۷۱۸
- ۶۴۳۵ تمہارا فیصلہ کر دیا کہنے کا حکم ۷۲۱
- ۶۴۳۶ طلاق دے کر اپنی زوجیت سے علیحدہ کر دیا ۷۲۲
- ۶۴۳۷ تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے ۷۲۳
- ۶۴۳۸ میں نے شادی ختم کر دی ختم کر دی ختم کر دی کہنا ۷۲۴
- ۶۴۳۹ رات کے اندھیرے میں بھی اپنی ماں کے گھر گئی تو میرے نکاح میں نہیں رہنے کی .. ۷۲۵
- ۶۴۴۰ طلاق دیدی کے بعد چلی جاگی کہنے سے طلاق ۷۲۶

- ۶۴۴۱ تم اپنے گھر چلی جاؤ سے طلاق کا حکم ۷۲۷
- ۶۴۴۲ جاؤ اب چلی جاؤ سے طلاق کا حکم ۷۲۸
- ۶۴۴۳ مجھے ریحانہ کی ضرورت نہیں سے طلاق کا حکم ۷۲۹
- ۶۴۴۴ ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد کہنا کہ تمہارا معاملہ صاف ۷۳۱
- ۶۴۴۵ دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد ”جایا میں نے تیرا فیصلہ کر دیا“ کہنا ... ۷۳۲
- ۶۴۴۶ آج سے ہمارا تمہارا رشتہ ختم ۷۳۳
- ۶۴۴۷ لفظ ”ڈیزولو“ اور ڈیورس سے طلاق کا حکم ۷۳۵
- ۶۴۴۸ میں انگوٹھا دے آیا ہوں ۷۳۷
- ۶۴۴۹ تو میری زندگی میں میرے گھر نہیں آسکتی ہے، میں تمہارا کچھ نہیں ہوں ۷۳۸
- ۶۴۵۰ دو مرتبہ طلاق دے کر جاؤ بھاگو کہنا ۷۳۹
- ۶۴۵۱ اگر گھر سے باہر گئی، تو نکاح سے باہر ۷۴۱
- ۶۴۵۲ بیوی سے کہا میں نے تجھے خلع دیا ۷۴۲
- ۶۴۵۳ ”تو میرے لئے مرگئی میں تیرے لئے مر گیا“ سے طلاق ۷۴۵
- ۶۴۵۴ تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں کے لفظ سے طلاق ۷۴۶
- ۶۴۵۵ طلاق دی دی کہنے کے بعد چلی جا کہنے سے کتنی طلاق واقع ہوں گی؟ ۷۴۷
- ۶۴۵۶ اگر میں تیرے پاس جاؤں تو صاف طلاق ۷۴۸
- ۶۴۵۷ ”چل نکل جا میرے گھر سے“ کے لفظ سے طلاق کا حکم ۷۴۹
- ۶۴۵۸ میں نے تجھے طلاق دی، تیرا میرا حساب صاف ہوا ۷۵۱
- ۶۴۵۹ تم چلی جاؤ، مجھے تم سے کوئی ضرورت نہیں کہنا ۷۵۲
- ۶۴۶۰ ”اب وہیں رہ“ کہنے کا حکم ۷۵۳

- ۶۳۶۱ لفظ ”تجھے خلع دیا تین مرتبہ کہنے سے طلاق“ ۷۵۴
- ۶۳۶۲ تو میری بہن ہے لا بہن پانی لا سے طلاق ۷۵۵



۱۶/ کتاب الرضاع

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا ☆ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ.

ثبوت رضاعت کیلئے شرعی شہادت

سوال [۵۹۴۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ثبوت رضاعت کے لئے حنفیہ کے یہاں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ ہے:

لا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات، وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

اس عبارت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ثبوت رضاعت میں عورت کی گواہی کا عدم قرار دیدی گئی ہے، اس صورت کو سامنے رکھتے ہوئے زید کی والدہ حلیفہ بیان دیتی ہے کہ میں نے احمدی بانو کو مدت رضاعت میں دودھ پلایا ہے؛ لیکن موصوف کی والدہ کے پاس کوئی شرعی گواہ نہیں ہے۔ اب زید کی شادی احمدی بانو کی لڑکی سے ہو جاتی ہے، تو کیا یہ نکاح جو شرعی گواہ کی عدم موجودگی میں ہوا ہے، وہ از روئے شرع جائز ہے یا نہیں؟ حضرت تھانویؒ نے اپنی کتاب بہشتی زیور میں ثقہ عادل مرد کا ہونا لازمی قرار دیا ہے اور مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی اپنی مشہور کتاب جواہر الفقہ میں عادل مرد کا ہونا ضروری قرار دیا ہے، ان سب کتابوں پر قدرے نگاہ رکھتے ہوئے نکاح ہونے کے جواز و عدم جواز پر شرعی روشنی ڈالی جائے۔

المستفتی: قطب الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب زید کی والدہ کے پاس شرعی گواہ موجود نہیں ہیں تو محض زید کی والدہ کے بیان کی وجہ سے احمدی بیگم کو دودھ پلانے کا ثبوت شرعاً ثابت نہیں ہو سکتا؛ لہذا زید کے ساتھ احمدی بیگم کی لڑکی کی شادی کرنا شرعاً درست ہو جائے گا۔

أن عمر بن الخطابؓ أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل، وامرأتان. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الرضاع، باب شهادة النساء في الرضاع ۱۱ / ۱، ۴۶۹، رقم: ۱۶۱۰۱-۱۶۱۰۰)

لا يفرق بينهما بعد النكاح، ولا تثبت الحرمة بشهادتهن، فكذلك قبل النكاح إذا أراد الرجل أن يخاطب امرأة، فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتها كان في سعة من تكذيبها، كما لو شهدت بعد النكاح. (البحر الرائق، كتاب الرضاع، ذكرها ۳/ ۴۰۵، كوئته ۳/ ۲۳۲)

ولا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين، أو رجل، وامرأتين عدول. (هنديہ، زکریا ۱/ ۳۴۷، جدید زکریا دیوبند ۱/ ۴۱۳)

ولا تقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين، أو شهادة رجل، وامرأتين عدول..... وفيها إذا أراد الرجل أن يخاطب امرأة فشهدت امرأة قبل النكاح، أنها أرضعتها كان في سعة من تكذيبها، كما لو شهدت بعد النكاح.

(الفتاوى التارخانية، زکریا ۴/ ۳۷۵، رقم: ۶۴۶۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲ ذی قعدہ ۱۴۱۹ھ

۱۴۲۹/۱۱/۲۳

(فتویٰ نمبر: الف/۳۳۲۲۵۹)

کیا حرمت رضاعت کے لئے دودھ کا اترنا لازم ہے؟

سوال [۵۹۴۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اپنے لڑکے کا نکاح اپنے سالے کی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اور ایام رضاعت میں سالے کی بیوی نے اپنا پستان اپنے بھانجے کے منہ میں رکھ دیا تھا، اور اس سے تین ماہ قبل اس عورت کے مردہ بچے کی پیدائش ہوئی تھی اور عورت یہ بھی کہتی ہے کہ میرا دودھ بالکل سوکھ گیا تھا، اگر میں اس کو مستقل دس پندرہ دن پلاتی رہتی تب تو بہر صورت نکل آتا، صرف ایک مرتبہ میں نے اپنا پستان اس بچے کے منہ میں داخل کیا تھا اور اس نے فوراً ہٹا لیا اور مجھے بھی کچھ مزہ نہیں آیا، گھن سا محسوس ہوا، تو کیا اس صورت میں ان دونوں کا باہمی عقد ہو سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل ومفصل جواب تحریر فرمائیں۔

المستفتی: فضل احمد، نیا پورہ، پوسٹ: گواری، بیتا پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر عورت یقین کے ساتھ یہ بات کہتی ہے کہ اس کے پستان میں اس وقت دودھ بالکل نہیں تھا، اور یوں ہی منہ میں ڈال دیا تھا، تو اس سے شرعاً حرمت رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا؛ بلکہ حرمت کے ثبوت کے لئے بچے کے حلق میں دودھ پہنچنا لازم ہے۔

امراة كانت تعطي ثديها صبية واشتھر ذلك بينهم، ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي، ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لإبنتها أن يتزوج بهذه الصبية. (شامی، کتاب النکاح، باب

الرضاع، کراچی ۲۱۲/۳، زکریا دیوبند ۴/۱۰۱)

إن المراد وصول اللبن إلي جوفه من فمه أو أنفه، فلا فرق بين

المص، والصب، والسعوط، هذا إذا علم أن اللبن وصل إليه، وإلا لم تثبت الحرمة؛ لأن في المانع شكًا كما في أكثر الكتب. (مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية، بيروت ۱/۵۵۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۶/۳/۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ ربیع الاول ۱۴۲۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۲۴۵۴)

دودھ پیٹ میں نہ جانے کی صورت میں رضاعت کا حکم

سوال [۵۹۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے نانی کا دودھ اس حالت میں پیا کہ نانی کو دودھ اچھی طرح آتا تھا اور ہندہ جو زید کی نانی کی حقیقی پوتی ہے، اس نے جب دودھ پیا تو دودھ بالکل خشک ہو چکا تھا؛ لیکن سینہ میں منہ لگا یا اور دونوں کی مدت رضاعت میں تقریباً دس سال کا فاصلہ ہے۔ اب کیا زید کا نکاح ہندہ سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بصورت دیگر زید کے بھائی عمر کے ساتھ ہندہ کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: مقبول احمد قاسمی، بھیلگاؤں، پوسٹ: ملسی پور، شراوتی (پوٹی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب زید نے مدت رضاعت میں اپنی حقیقی نانی کا دودھ پیا ہے، تو زید کے لئے نانی کی اولادوں میں سے کسی کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے نانی کی پوتیاں ہوں یا نواسیاں، ہاں البتہ زید کے دوسرے بھائی جنہوں نے نانی کا دودھ نہیں پیا ہے، ان کے لئے نانی کی پوتی اور نواسی کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، ان سے شرعی طور پر شادی کرنا منع نہیں ہے؛ لہذا ہندہ نے جس زمانے میں نانی کا پستان منہ میں لیا تھا، اگر اس زمانے میں نانی کے پستان میں دودھ نہیں رہا ہے اور یقین سے معلوم ہے کہ نانی کا دودھ ہندہ

کے پیٹ میں نہیں پہنچا، تو ہندہ کا زید کے بھائی عمر کے ساتھ نکاح جائز اور درست ہے؛ اس لئے کہ حرمت رضاعت کے ثبوت کے لئے مدت رضاعت میں دودھ کا پیٹ میں جانا شرط ہے اور ہندہ کے پیٹ میں دودھ نہیں پہنچا ہے۔

في الشامية: ولا رضاع إن لم يصل إلى الجوف وعكساً..... المراد بالمص الوصول إلى الجوف من المنفذين . (شامي، كتاب النكاح، باب الرضاع، کراچی ۲۰۹/۳، زکریا ۳۹۲/۴)

ولا يتزوج المرضعة أحدًا من ولد التي أرضعته..... ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع؛ لأنه يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب. (هداية اشرفي دیوبند ۳۵۱/۲، زکریا ۳۴۳/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ صفر المظفر ۱۴۲۹ھ
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۵/۱۴۲۹ھ (فتویٰ نمبر: الف/۳۸۷۷۹)

لے پالک کو حقیقی بہن، بھتیجی یا بھانجی کا دودھ پلانا

سوال [۵۹۴۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک عورت جس کو ایک بچہ لے پالک بنانا ہے، مگر اس بات کے پیش نظر کہ لے پالک بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، تو محرم اور غیر محرم کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو اس عورت نے اس شیر خوار بچہ کو اپنی بھانجی یا بھتیجی سے دودھ پلویا؛ تاکہ وہ مرضعہ کی پھوپھی یا خالہ بن جائے، تو کیا وہ عورت رضیع (دودھ پینے والے) بچہ کے محرم میں شامل ہو جائے گی یا نہیں؟ مرضعہ کی اصل بعید کی فرع کا رضیع کے لئے محرم یا غیر محرم ہونا فقہ و فتاویٰ کی کتابوں میں صراحتہً ذکر نہیں آیا تو مزید کتابوں کی عبارت سے واضح فرمائیں۔

المستفتی: ثار احمد، محمد حنیف سندھی، محلہ: محمدی، گودھرا (، گجرات)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر عورت بانجھ ہے اور اس سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے اور اس کے پستان سے دودھ بھی نہیں اترتا ہے، تو ایسی صورت میں لے پالک بچے کو محرم بنانے کے لئے بہتر شکل یہی ہے کہ وہ عورت اپنی حقیقی بھتیجی یا حقیقی بھانجی کا اس بچے کو شیر خوارگی کے زمانے میں دودھ پلائے یا عورت اپنی ماں کا دودھ پلائے، یعنی ہر ایسی عورت سے دودھ پلائے جس عورت کی اولاد سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بچہ جس عورت کا دودھ پیا گیا ہے اس کے لئے اور اس کے اصول و فروع کے لئے اور پرورش کرنے والی عورت کے لئے بھی محرم ہو جائے گا، اب یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد حرمت رضاعت کی وجہ سے گھر میں آنے جانے میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنے گا؛ اس لئے کہ یہ بچہ پرورش کرنے والی عورت کا بھانجہ یا بھائی یا بھانجی کی اولاد ہے، جس کے گھر میں آنے جانے میں کسی قسم کی شرعی رکاوٹ نہیں رہتی ہے اور سوال نامہ میں ایک بات یہ پوچھی گئی ہے کہ مرضعہ کے اصل بعید کی فرع کا رضیعہ کے لئے محرم یا غیر محرم ہونے کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے والی کے اصل بعید کی فرع مثلاً پھوپھی اور خالہ وغیرہ کی رضیعہ نہ مرضعہ کے لئے حرام ہے اور نہ ہی مرضعہ نے جس کو دودھ پلایا ہے اس کے لئے حرام ہے؛ اس لئے کہ خالہ زاد اور پھوپھی زاد بھائی بہنوں سے نکاح شرعی طور پر جائز ہے۔

الأصل أن كل من يحرم بسبب القرابة من الفرق السبع الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم نصاً أو دلالةً على ما ذكرنا في كتاب النكاح يحرم بسبب الرضاعة. (بدائع الصنائع، كتاب الرضاع، زكريا ۳/۳۹۶، بيروت ۵/۶۲)
 عن عائشة، قالت: استأذن عليّ أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبن مني وأنا عمك، فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أَرْضَعْتِكِ امْرَأَةَ أَخِي بِلَبْنِ أَخِي، فقالت: سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح،

اٰذني له. (صحيح البخاري، كتاب الشهادة على الانساب والرضاع ۱/۳۶۰، رقم: ۲۵۷۰، ف: ۲۶۴۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۳۳ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۱۱۰۴۶۱)

دودھ پلانے کی صورت میں دودھ نہ نکلنے سے رضاعت کا حکم

سوال [۵۹۴۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک عورت نے اپنی پڑوسی کی لڑکی کو دودھ پلایا؛ لیکن دودھ نہیں نکلا، بہت کوشش کی اب وہی عورت اپنے لڑکے کا اس لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتی ہے، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں بتائیں کہ نکاح صحیح ہے یا نہیں؟ نوآزش ہوگی۔

المستفتیہ: فاکہ پروین، بروالان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسئلہ صورت میں اگر واقعاً دودھ نہیں نکلا ہے تو اس عورت کے لئے اپنے لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح درست ہے؛ کیونکہ دونوں کے درمیان رضاعت کا تعلق قائم نہیں ہوا۔

امرأة كانت تعطي ثديها صببية واشتھر ذلك بينهم، ثم تقول: لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي، ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية. (شامي، كتاب النكاح، باب الرضاع، كراچی ۳/۲۱۲، زكريا ديوبند ۴/۴۰۱)

إن المراد وصول اللبن إلي جوفه من فمه، أو أنفه، فلا فرق بين المص، والصب، والسعوط، هذا إذا علم أن اللبن وصل إليه، وإلا لم تثبت

الحرمة؛ لأن في المانع شكًا كما في أكثر الكتب. (مجمع الأنهر، دارالكتب
العلیمة، بیروت ۱/۵۰۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۱۸۲۳۵)

مدت رضاعت میں ایک دو مرتبہ دودھ پینے کا حکم

سوال [۵۹۴۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ غالباً ۱۰ نومبر ۱۹۸۷ کو پاکستان ریڈیو کی نشریات میں فتویٰ کے سوال و جواب میں کسی مفتی دین نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کا دودھ دو یا چار دن کسی دوسری عورت کے لڑکے نے پی لیا ہو، تو دودھ پلانے والی عورت کی لڑکی سے دودھ پینے والے لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے۔

سائل نے کسی عالم دین سے حکم شرعی دریافت کیا کہ کیا دودھ شریک لڑکی اور لڑکا رضاعی بہن بھائی بن جاتے ہیں اور دونوں کا رھتہ ازدواج میں منسلک ہونا قطعاً غیر شرعی اور ناجائز ہے۔ براہ کرم صحیح حکم سے آگاہ فرما کر ممنون فرمائیں۔

المستفتی: ڈاکٹر معین الدین، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب اس کا یقین ہو جائے کہ مدت رضاعت میں بچہ کے پیٹ میں دودھ جا چکا ہے، تو شرعاً اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، چاہے ایک دن پیا ہو یا زیادہ، ایک دفعہ پیا ہو یا زیادہ، ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، بہر صورت حرمت ثابت ہو جائے گی، اس بچہ کے لئے دودھ پلانے والی عورت کی لڑکی کے ساتھ عقد نکاح ہرگز جائز نہیں۔

أن عليا و ابن مسعودؓ، كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله
وكثيره. (سنن النسائي، كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاع، النسخة
الهندية ۶/۲، رقم: ۳۳۱۳)

قليل الرضاع وكثيره سواء، إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به
التحريم. (هداية، اشرفى ديوبند ۲/۳۵۰، فتاوى عالمگیری، زكريا ۱/۳۴۲، زكريا
جلید دیوبند ۱/۴۰۹، البحر الرائق، كوثه ۳/۲۲۲، زكريا ۳/۳۸۸، الجوهره النيره،
زكريا ۲/۹۲، امداديه ملتان ۲/۹۵، ملتقى الأبحر، قديم ۱/۳۷۵، جديد دارالكتب
العلمية بيروت ۱/۵۵۱-۵۵۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ ربیع الاول ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۳۵۸)

بہن کا اپنے شیرخوار بھائی کو دودھ پلانا

سوال [۵۹۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ بہن اپنے شیرخوار سگے بھائی کو بلا عذر یا بعد زنا پنادودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: سید اشرف علی، شیکوٹ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بہن اپنے شیرخوار سگے بھائی کو بلا ضرورت دودھ نہ
پلائے؛ البتہ اگر کوئی ایسی شدید ضرورت پیش آجائے کہ وہاں بہن کے علاوہ اور کوئی دودھ
پلانے والی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز ہے، جس کو کھلا کر بچہ کو پچایا جاسکے، تو ایسی صورت میں
بہن کے لئے اپنا دودھ پلا کر بھائی کی حفاظت کی گنجائش ہے۔

والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة.

(هندية، كتاب الرضاع، زكريا ۱/۳۴۵، زكريا جلدید دیوبند ۱/۴۱۱، حاشیة چلبی

علی التبین، امدادیہ ملتان ۱۸۱/۲، زکریا ۶۳۰/۲، شامی، کراچی ۲۱۲/۳،
زکریا ۴۰۲/۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

۱۴۱۷/۴/۱۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۸۰۶۳۲)

خطاً دودھ پلانے سے حرمت رضاعت کا حکم

سوال [۵۹۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی عائشہ شام کو سو رہی تھی اور اس کی چھوٹی لڑکی بھی قریب میں سو رہی تھی اور قریب ہی میں زینب کا لڑکا عمر سو رہا تھا، عائشہ نے رات میں زینب کے لڑکے کے عمر کو اپنی لڑکی سمجھ کر دودھ پلادیا، مگر جب دیکھا تو وہ زینب کا لڑکا عمر تھا، مگر عائشہ نے دودھ غلطی سے پلایا ہے؛ البتہ وہ اقرار کرتی ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے اور اس کے گواہ بھی موجود ہیں جس میں دو عورتیں ایک مرد ہے؛ لہذا عائشہ کے اقرار کرنے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی یا نہیں؟

المستفتی: مشیر عالم، لکھنؤ پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب عائشہ اقرار کر رہی ہے، جس پر شرعی گواہ (دو عورتیں ایک مرد) گواہی دے رہے ہیں، تو غلطی سے دودھ پلانے سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے؛ لہذا عائشہ کی ساری اولادیں زینب کے لڑکے کے عمر کے لئے حرام ہو جائیں گی، کسی بھی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہوگا، اسی طرح عائشہ کی بہن کے ساتھ بھی درست نہیں ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۶۱۶/۱۳)

وإن أخطأت أو أرادت الخیر بأن خافت علی الرضیع الہلاک

من الجوع لا يرجع عليها. (تاتارخانیة، زکریا ۴/۳۷۰، رقم: ۶۴۴۷، المحيط

البرہانی، المجلس العلمی بیروت ۴/۹۹، رقم: ۳۷۳۹، رشیدیہ کوئٹہ ۳/۱۹۲)

قلیل الرضاع و کثیرہ سواء عندنا..... کما یحصل الرضاع بالمص

من الثدي یحصل بالصب والسعوط. (قاضی خاں علی الہندیہ، باب الرضاع،

زکریا ۱/۴۱۷، زکریا جدید دیوبند ۱/۲۴۹، مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیہ

بیروت ۱/۵۲۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۵/۲/۱۴

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷ صفر المظفر ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۰۴۲۲۱۱)

بچے کا رضاعی باپ کون ہے؟ سابقہ شوہر یا موجودہ شوہر

سوال [۵۹۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ ایک حاملہ عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی، وہ عورت قریب الولادت تھی،

طلاق کے چند دن کے بعد ہی ولادت ہوگئی، اس کے بعد اس عورت نے بچہ کی مدت

رضاعت ہی میں دوسرے شخص سے نکاح کر لیا، تو اس بچہ کا رضاعی باپ کون ہوگا، اس عورت کا

سابق شوہر جس سے اس کا دودھ آیا ہوا ہے، یا موجود شوہر جس کے زیر تربیت ابھی یہ رضیع ہے؟

صورت مسئلہ سے باحوالہ آگاہ فرمائیں۔

المستفتی: راشد فخرپوری، معلم معراج العلوم، چٹا کیمپ (ممبئی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ صورت میں اس بچہ کا حقیقی باپ اور رضاعی باپ

پہلا شوہر ہی ہے؛ کیونکہ اس کی ماں کے پستان سے جو دودھ اترتا ہے وہ پہلے شوہر کے نطفہ کی

وجہ سے اترتا ہے اور اس دودھ کے اترنے میں دوسرے شوہر کی ہمبستری کا کوئی دخل نہیں ہے

اور دوسرا شوہر اس بچہ کا سوتیلا باپ ہے، رضاعی باپ نہیں ہے اور شوہر ثانی کی دوسری بیوی سے جو اولادیں ہوں، ان کا نکاح اس بچے کے ساتھ جائز اور درست ہے۔

ويثبت أبوة زوج مرضعة إذا كان لبنها منه له، وإلا لا كما سيجي:
أي في قوله ”طلق ذات لبن“. (شامي، كتاب النكاح، باب الرضاع،
کراچی ۲۱۳/۳، زکریا ۴۰۲/۴)

طلق ذات لبن (تحتہ فی الشامیة) أي منه بأن ولدت منه؛ لأنه لو تزوج امرأة ولم تلد منه قط ونزل لها لبن وأرضعت ولدًا لا يكون الزوج أبًا للولد؛ لأن نسبته إليه بسبب الولادة منه، وإذا انتفت النسبة، فكان لبن البكر؛ ولهذا لو ولدت للزوج، فنزل لها لبن فأرضعت به، ثم جف لبنها، ثم در فأرضعت صبیة، فإن لابن زوج المرضعة التزوج بهذه الصبیة، ولو كان صبياً كان له التزوج بأولاد هذا الرجل من غير المرضعة بحر عن الخانية. (شامي، كراچی ۲۲۱/۳، زکریا ۴۱۶/۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳/۳/۱۷

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۷ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۰۱)

رضاعی بہن کی علاقائی بہن سے نکاح کا حکم

سوال [۵۹۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بشیر اور خالد دو حقیقی بھائی ہیں دونوں شادی شدہ ہیں، بشیر کی بیوی خالدہ ہے، خالد کی بیوی صفیہ ہے، بشیر کی بیوی خالدہ سے ایک لڑکی رابعہ ہوئی، پھر خالدہ کا انتقال ہو گیا، پھر بشیر نے دوسری شادی کی راشدہ سے، دو لڑکیاں ہوئیں، ایک لڑکی کا نام زینب، دوسری کا نام طاہرہ ہے، اب خالد کی بیوی صفیہ نے بشیر کی دوسری لڑکی طاہرہ کو دودھ پلایا، تو اب خالد

اپنے لڑکے شکیل کی شادی بشیر کی بڑی لڑکی رابعہ سے کر سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: شکیل احمد، سینا پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر بشیر کی بیوی راشدہ کی لڑکی طاہرہ کو خالد کی بیوی صفیہ نے دودھ پلایا ہے، تو خالد کی بیوی صفیہ کا لڑکا شکیل کے لئے بشیر کی بیوی خالدہ کی لڑکی رابعہ حرام نہیں ہوگی، ان دونوں میں علت حرمت نہیں ہے؛ اس لئے شکیل کا نکاح رابعہ کے ساتھ جائز اور حلال ہے؛ بلکہ صرف طاہرہ کے لئے صفیہ کے سب لڑکے حرام ہیں، طاہرہ کی دوسری بہنیں حرام نہیں ہیں۔

وكان لإخوته أن يتزوجوا بنات الأخرى إلا الابنة التي أرضعتها أمهم
وجدها؛ لأنها أختهم من الرضاعة. (شامی، کتاب النکاح، باب الرضاع، کراچی
۲۱۷/۳، زکریا ۴/۱۱۱)

وجاز لإخوته أن يتزوجوا بنات تلك المرأة إلا البنت التي أرضعتها
أمهم. (تاتارخانیہ، زکریا ۴/۳۶۵، رقم: ۶۴۳۰) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ شعبان المعظم ۱۴۱۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۶/۱۸۹۹)

آٹھ ماہ بعد دوسرا بچہ پیدا ہونے کی صورت میں پہلے بچہ کو دودھ پلانے کا حکم

سوال [۵۹۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک بچہ کی مدت رضاعت میں دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بچہ کی عمر آٹھ یا نو ماہ ہے، کیا دوسرے بچہ کے دودھ میں سے شرعاً پہلے بچہ کو دودھ پلا سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ دوسرا بچہ خوب سیر ہو کر دودھ پیتا ہے اور پھر بھی کافی مقدار میں دودھ بچ جاتا ہے، کیا یہ دودھ اس بچہ کو

پلایا جاسکتا ہے؟ جس کی عمر ابھی آٹھ ماہ ہے۔

المستفتی: محمد صدیق، امام مسجد، مالیر کوئٹہ (پنجاب)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مذکورہ صورت میں پہلے بچہ کو بلا کر اہت دودھ پلانا جائز ہوگا؛ کیونکہ ۹/۱۰ ماہ کا بچہ شرعاً دودھ پی سکتا ہے، دوسرے بچہ کے ساتھ عورت مدت رضاعت کے اندر اندر اپنے بچہ اور غیر کے بچہ کو دودھ پلا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔

وقت الرضاع في قول أبي حنيفة قدر بثلاثين شهراً. (قاضي خاں علی هامش الہندیۃ ۳/۱۷۴، خانۃ جدید زکریا دیوبند ۱/۲۴۹، ہندیۃ، زکریا ۱/۲۴۴، جدید زکریا دیوبند ۱/۴۰۹، وکذا فی درمختار کراچی ۳/۲۰۹، زکریا ۴/۳۹۳)

وقوله تعالیٰ: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرُّضَاعَةَ. [سورة البقرہ: ۲۳۳]

عن ابن عباسؓ قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم وإن كان مصة، وإن كان بعد الحولين، فليس بشيء.

وعن ابن عمرؓ قال: سمعت عمرؓ يقول: لا رضاع إلا في الحولين في الصغر. (السنن الكبرى للبيهقي، دارالفکر بیروت ۱۱/۴۶۶، رقم: ۱۶۰۹۲-۱۶۰۸۸) فقط والله سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹/ جمادی الثانیہ ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۴/۱۲۹۵)

بیوی کا دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی

سوال [۵۹۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ (۱) ایک عورت آٹا گوندھ رہی تھی، اور آٹا گوندھنے میں اس کی چھاتی پر اتنا زور پڑا کہ چھاتی سے دودھ نکل کر آٹا میں گر گیا اور اس کی روٹیاں پکائیں، ان روٹیوں کو گھر میں سب نے کھایا اور اس عورت کے شوہر نے بھی کھایا، تو اس کا نکاح باقی رہا یا ٹوٹ گیا؟

(۲) شوہر نے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں دبایا یا پیار میں یا جماع کے جوش میں یا جان بوجھ کر، ایسا کیا اور اپنی بیوی کے پستان کو خوب چوسا اس سے دودھ بھی نکلا، اس دودھ کو اس نے نگل لیا یا زمین پر اگلا تو شرعاً کیا حکم ہے، نکاح باقی رہا یا ٹوٹ گیا؟

المستفتی: فصاحت حسین، مدرسہ دارالعلوم حسین پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) بیوی کا دودھ بالغ شوہر کے پیٹ میں چلا جانا حرمت نکاح کا سبب نہیں ہے، حرمت نکاح کے لئے ڈھائی سال سے کم عمر کا شوہر ہونا شرط ہے۔ نیز روٹی کے ساتھ پک جانے کی وجہ سے ڈھائی سال کے بچہ کے حق میں بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم الخ. (ہدایۃ، کتاب الرضاع،

اشرفی دیوبند ۲/۳۵۲)

وإذا صنع لبن امرأة في طعام فأكله صبي، فإن كانت النار قلمسته ونضجت الطعام حتى تغير لا تثبت الحرمة. وفي الهداية: في قولهم جميعاً سواء كان اللبن غالباً أو مغلوباً، وفي الخانية: ولو مسته نار وغيره أو جعل جنباً، أو أقطأ، أو كبحاً، أو مصلاً لا تثبت اتفاقاً؛ لأنه صار طعاماً آخر.

(تاتارخانیۃ، زکریا ۴/۳۶۹، رقم: ۶۴۴۲)

(۲) جی ہاں نکاح بدستور باقی ہے، اس سے نکاح میں کوئی حرمت ثابت نہیں ہوتی؛ اس لئے کہ ڈھائی سال کی عمر کے بعد حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی؛ البتہ اس نے ایک گندی حرکت کی ہے۔

ومدة الرضاع ثلاثون شهراً عند أبي حنيفة. (هدایة، اشرفی دیوبند ۲/۲۵۰)

مص رجل ثدي زوجته لم تحرم. (درمختار، کراچی ۳/۲۲۵،

زکریا ۴/۴۲۱)

إذا مص الرجل ثدي امرأته وشرب لبنها لم تحرم عليه امرأته

لما قلنا: إنه لا رضاع بعد الفصال. (بخانية على هامش الهندية،

زکریا ۱/۴۱۷، جدید زکریا ۱/۲۵۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱ ذی الحجہ ۱۴۱۴ھ

۱۴۱۴/۱۲/۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۱۶۱۳۷)

بیوی کے پستان کو چوسنے سے نکاح کا حکم

سوال [۵۹۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ زید نے اپنی بیوی کی چھاتی کو منہ میں ڈال کر چوسا، تو کیا نکاح باقی رہے گا یا نہیں یا

اگر صرف منہ میں ڈالا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟

المستفتی: ایوب عالم، چودھری پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید کا اپنی بیوی کی چھاتی کو منہ میں ڈال کر چوسنا یا صرف

منہ میں ڈالنا اس کی وجہ سے نکاح میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، اسی طرح اگر دودھ منہ میں آ گیا

یا وہ حلق میں چلا گیا تو اس صورت میں بھی نکاح میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، ہاں البتہ اس کو

فوراً نکال دینا ضروری تھا، اس نے گندہ فعل کیا ہے؛ اس لئے آئندہ وہ اس طرح کی حرکت کہ

جس سے دودھ حلق میں چلا جائے نہ کرنے کا عہد کرے اور اللہ سے توبہ کرے۔

مص رجل ثدي زوجته لم تحرم. (درمختار مع الشامی، کراچی

۳/۲۲۵، زکریا ۴/۴۲۱)

عن جابر رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام. الحديث (مسند أبي داؤد الطيالسي، دارالكتب العلمية بيروت ۷/۲۴۳، رقم: ۱۱۶۷)

عن علي رضی اللہ عنہ قال: لا رضاع بعد فصال. (السنن الكبرى لليهقي، كتاب الرضاع، باب رضاع الكبير، دارالكتب العلمية بيروت ۱۱/۴۶۴، رقم: ۱۶۰۸۲)

إذا مص الرجل ثدي امرأته وشرب لبنها لم تحرم عليه امرأته لما قلنا: إنه لا رضاع بعد الفصال. (خانية على هامش الهندية، كتاب النكاح، باب

الرضاع، ذكرها ۱/۴۱۷، جديد زكريا ۱/۲۵۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۶/رجب المرجب ۱۴۲۵ھ

۱۴۲۵/۷/۱۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۷۶۳۷۸۴)

اہلیہ کا دودھ پینے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا

سوال [۵۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کا دودھ پی لے، تو وہ اس کے نکاح میں رہی یا نہیں؟ اور دودھ پینا کیسا ہے، اس مسئلہ کو حل کر کے شکر یہ کا موقع دیں، عین نوازش ہوگی۔

المستفتی: محمد عطاء الرحمن، مسجد تاج والی، منڈی بانس، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر شہوت کے جوش میں پستان منہ میں لینے پر مجبور ہو جائے تو گناہ نہ ہوگا، مگر دودھ پینا حرام ہے؛ البتہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی اور نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا، دودھ اگر منہ میں آجائے تو کلی کر کے منہ صاف کر لینا چاہئے۔

عن جابر رضی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام. الحديث (مسند أبي داؤد الطيالسي، دارالكتب العلمية بيروت ۷/۲۴۳، رقم: ۱۱۶۷)

عن علي رضی قال: لا رضاع بعد فصال. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الرضاع، باب رضاع الكبير، دارالفكر بيروت ۱۱/۴۶۴، رقم: ۱۶۰۸۲)

وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم، لقوله عليه السلام: لا رضاع بعد الفصال الخ. (هداية، كتاب الرضاع، اشرفي ديوبند ۲/۳۵۰)
إذا مص الرجل ثدي امرأته وشرب لبنها لم تحرم عليه امرأته لما قلنا: إنه لا رضاع بعد الفصال. (خانية على هامش الهندية، كتاب النكاح، باب الرضاع، زكريا ۱/۴۱۷، جديد زكريا ديوبند ۱/۲۵۰)

مص رجل ثدي زوجته لم تحرم. (در مختار مع الشامی، کراچی ۳/۲۲۵، زکریا ۴/۴۲۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۴/رجب المرجب ۱۴۰۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۸۳۲۴)

رضاعی بھائی کے دیگر بھائیوں سے نکاح کا حکم

سوال [۵۹۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم نے اپنی خالہ کا دودھ پیا ہے، تو صرف ہم سے ان کی لڑکی کی شادی جائز نہیں ہوگی یا ہمارے چھوٹے یا بڑے بھائیوں سے بھی شادی جائز نہیں؟ جواب مرحمت فرمائیں۔

المستفتی: محطیب فرخ آبادی، معلم درجہ افتاء

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صرف آپ کا اس خالہ کی لڑکی سید شادی کرنا ناجائز ہے،

جس کا آپ نے دودھ پیا ہے اور آپ کے بھائیوں کے ساتھ اس خالہ کی لڑکی سے نکاح جائز ہے، جنہوں نے اس خالہ کا دودھ نہیں پیا ہے۔

ولاحل بین الرضیعة وولد مرضعتها أي التي أرضعتها الخ.

(الدرالمختار، کتاب النکاح، باب الرضاع، زکریا ۴/۴۱۰، کراچی ۳/۲۱۷)

لاحل بین رضیع وولد مرضعته. (مجمع الأنهر، دارالکتب العمیة بیروت ۱/۵۵۴)

ولا یتزوج المرصعة أحدًا من ولد التي أرضعت؛ لأنه أخوها. (هدایة،

اشرفی دیوبند ۲/۳۵۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۴ رشوال المکرم ۱۴۱۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۶۵۷۱)

رضاعی لڑکی کا نکاح مرضعہ کے کسی بھی لڑکے سے جائز نہیں

سوال [۵۹۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دو سگی بہنیں ہیں، ایک کی لڑکی ایک کا لڑکا ہے دودھ پینے کے زمانہ میں لڑکی کو لڑکے کی ماں نے مجبوراً ایک بار دودھ پلا دیا تھا۔ اب حکم شرعی کیا ہے کہ دونوں بہنیں آپس میں لڑکے اور لڑکی کی شادی کر سکتی ہیں یا نہیں؟ لڑکا چھ سال بڑا ہے۔

المستفتی: اشفاق اللہ حسین، مراٹھا آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مذکورہ میں جب لڑکے کی ماں نے لڑکی کو دودھ پلا دیا، تو اس لڑکی کا نکاح دودھ پلانے والی عورت کے کسی بھی لڑکے سے جائز و درست نہیں؛ لہذا صورت مسئلہ میں لڑکے کا نکاح لڑکی سے جائز نہیں۔

ولاحل بین الرضیعة وولد مرضعتها أي التي أرضعتها الخ.

(الدرالمختار، کتاب النکاح، باب الرضاع، زکریا ۴/۴۱۰، کراچی ۳/۲۱۷)

لاحل بین رضیع وولد مرضعته. (مجمع الأنهر، دارالکتب العمیة بیروت ۱/۵۵۴)
ولایتزوج المرضعة أحداً من ولد التي أرضعت؛ لأنه أخوها. (هدایة،
اشرفی دیوبند ۲/۳۵۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹ رجب المرجب المعظم ۱۴۱۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۳۱۳۳)

رضیع کا مرضعہ کی کسی بھی اولاد سے نکاح جائز نہیں

سوال [۵۹۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ زید نے فاطمہ کی ماں کا فاطمہ کے ساتھ دودھ پیا تو فاطمہ کے علاوہ فاطمہ کی حقیقی
بہنوں سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد کرامت علی قاسمی، چوٹیس پرگنہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زید کا فاطمہ کی بہنوں میں سے کسی سے بھی نکاح جائز
نہیں ہوگا۔

ولاحل بین الرضیعة وولد مرضعتها أي التي أرضعتها الخ.
(الدرالمختار مع الشامی، کتاب النکاح، باب الرضاع، کراچی ۳/۲۱۷، زکریا ۴/۴۱۰)
لاحل بین رضیع وولد مرضعته. (مجمع الأنهر، دارالکتب العمیة بیروت ۱/۵۵۴)
ولایتزوج المرضعة أحداً من ولد التي أرضعت؛ لأنه أخوها. (هدایة،
اشرفی دیوبند ۲/۳۵۱)

إذا مص الرجل ثدي امرأته وشرب لبنها لم تحرم عليه امرأته لما
قلنا: إنه لا رضاع بعد الفصال. (خانية على هامش الهندية، كتاب النكاح، باب
الرضاع، زکریا ۱/۴۱۷، جدید زکریا دیوبند ۱/۲۵۰)

مص رجل ندي زوجته لم تحرم. (درمختار مع الشامی، کراچی
۲۲۵/۳، زکریا ۴/۱/۲۲۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۷/ ذی قعدہ ۱۴۱۴ھ

۱۴۱۴/۱۱/۲۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۱/۲۹۳۷)

مرضعہ کا اپنی بیٹی کا نکاح رضاعی بیٹے سے کرنا

سوال [۵۹۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندہ نے اپنی نند کے بیٹے کو اپنا دودھ پلایا کسی مجبوری میں صرف ایک دو منٹ اور اب ہندہ اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ اپنی اسی نند کے بیٹے سے کرنا چاہتی ہے، جس کے بیٹے کو اس نے اپنا دودھ پلایا تھا؛ لہذا از روئے شرع درست ہے یا نہیں؟
نوٹ: ہندہ اپنی بیٹی کا نکاح نند کے اسی بیٹے سے کرنا چاہتی ہے، جس کو ہندہ نے دودھ پلایا تھا۔

المستفتی: شکیل احمد، قاضی ٹولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ہندہ نے نند کے جس لڑکے کو دودھ پلایا ہے، وہ ہندہ کا رضاعی بیٹا ہو گیا؛ اس لئے اس کا نکاح ہندہ کی کسی بھی لڑکی سے جائز نہیں ہے؛ البتہ نند کے دوسرے لڑکے جن کو ہندہ نے دودھ نہیں پلایا ہے، ان سے ہندہ کی لڑکیوں کا نکاح جائز ہے۔

يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب

والرضاع جميعاً الخ. (ہندیہ، کتاب الرضاع، زکریا ۱/۴۳، ۳، جلدید زکریا دیوبند ۱/۴۰۹)

إذا ثبت بالرضاع تعدد إلي أصول المرضعة وفروعها - (خانیہ علی

الہندیہ، زکریا ۱/۴۱۶، جلدید زکریا دیوبند ۱/۲۴۹)

وأخواتكم من الرضاعة، فقد أثبت سبحانه وتعالى الحرمة والأخوة

بین بنات المرضعة وبين الرضيع مطلقاً من غير فصل بين أخت وأخت.
(المسوعة الفقهية ۲۲/۲۴۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۳۱/۱۷۲۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ محرم الحرام ۱۴۳۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۸۶۸)

رضیع کے بھائی کا مرضعہ کی بیٹی سے نکاح

سوال [۵۹۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی ایک خالہ زاد بہن ہے، جس کے ساتھ زید کا رشتہ ہونا ہے؛ لیکن زید کی عمر جس وقت ۵ سال کی تھی اس وقت زید کا ایک چھوٹا بھائی جو دودھ پی رہا تھا، اس دوران زید کی خالہ زاد بہن بھی چھوٹی تھی اور وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہی تھی، ایک مرتبہ اچانک دھوکے سے لڑکی کی ماں نے زید کے بھائی کو اپنی لڑکی سمجھ کر دودھ پلا دیا اور جوں ہی پہچانا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے فوراً ہٹا دیا، تو اس حالت میں زید کی شادی اپنی خالہ زاد بہن کے ساتھ درست ہے یا نہیں؟ جواب سے نوازیں کرم ہوگا۔

المستفتی: محمد غفران قاسمی، حمیچہ بلڈنگ ۵۴ پچھری روڈ، لکھنؤ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید کی شادی اپنی خالہ زاد بہن کے ساتھ درست ہے؛ اس لئے کہ خالہ کا زید نے دودھ نہیں پیا ہے؛ بلکہ زید کے بھائی نے پیا ہے؛ لہذا زید کے بھائی کے ساتھ خالہ کی لڑکی کا نکاح جائز نہ ہوگا، مگر زید نے دودھ نہیں پیا ہے؛ اس لئے زید کے ساتھ حرمت کا ثبوت نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ نکاح بلا تردد درست ہو جائے گا۔

وتحل أخت أخیه رضاعاً، یصح اتصالہ بالمضاف كأن یکون له
أخ نسبی له أخت رضاعیة. (شامی، کتاب الکناح، باب الرضاع، کراچی

وتحل أخت أخيه رضاعاً كما تحل نسباً. (ہندیہ، زکریا ۳/۴۳، جدید زکریا دیوبند ۱/۴۰۹، ملتقی الأبحر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱/۵۵۴)

ویجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع؛ لأنه يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب. (ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ صفر المظفر ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۶۳۲/۶۲۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۲/۲/۱۴۲۱ھ

رضاعی بھائی کے دیگر بھائیوں کا مرضعہ کی لڑکی سے نکاح

سوال [۵۹۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تانا اور ریحانہ دو سگی بہنیں تھیں، تانا بڑی اور ریحانہ چھوٹی، ایک دن تانا بڑی بہن نے ریحانہ کے ایک ڈیڑھ ماہ کے بیٹے آصف کو کئی بار دودھ پلا دیا، اس کے بعد اس سال ابھی عید الفطر کے بعد ریحانہ ہی کے بڑے بیٹے محمد صادق سے تانا کی لڑکی کا نکاح ہوا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ نکاح جائز ہے یا نہیں اور یہ بات دھیان رہے کہ دودھ تانا نے محمد صادق کو نہیں پلایا تھا؛ بلکہ اس کے چھوٹے سگے بھائی آصف کو پلایا تھا

المستفتی: مشاہد حسین، مغل پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تانا کا ریحانہ کے بیٹے آصف نے دودھ پیا ہے، لہذا آصف کے لئے تانا کی کسی بھی لڑکی کیساتھ نکاح درست نہ ہوگا؛ لیکن آصف کے علاوہ ریحانہ کے دوسرے بیٹوں کا نکاح تانا کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ جائز اور درست رہے گا؛ اس لئے کہ ریحانہ کے دوسرے لڑکوں کا تعلق تانا کے ساتھ خالہ ہونے کا ہے، رضاعی ماں ہونے کا نہیں ہے؛ لہذا آصف کے دوسرے بھائی صادق کا نکاح تانا کی لڑکی کے ساتھ بلا شبہ جائز اور درست ہے۔

ولو أن امرأتين لإحداهما بنون وللأخرى بنات، فأرضعت التي له البنات ابناً واحداً من بنى المرأة الأخرى لم يجز؛ لذلك الابن أن يتزوج بتلك المرأة التي أرضعته ولا واحدة من بناتها ويجوز لسائر البنين أن يتزوجوا تلك المرأة وبناتها أيتهن شاء و ۱. (الفتاوى الثانتارخانية، زكريا ۴/۳۶۴، رقم: ۶۴۳۰) ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع. (هداية، لشرفي بوند ۲/۳۵۱) وتحل أخت أخيه رضاعاً كما تحل نسباً. (هنديّة، زكريا ۱/۳۴۳، جديد زكريا ۱/۴۰۹، ملتقى الأبحر، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۵۵۴) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۶ جمادی الثانیہ ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۲/۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۴۲۹)

رضاعی بھائی بہن کی اولادوں کا باہم نکاح

سوال [۵۹۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حسیب النساء نے اور نصر النساء دونوں حقیقی بہن ہیں، دونوں بہنوں کی عمروں میں کافی تفاوت ہے، حسیب النساء نے اپنی حقیقی بہن نصر النساء کو دودھ پلایا جس سے حسیب النساء کے لڑکے لڑکیاں سب اپنی حقیقی خالہ نصر النساء کے رضاعی بھائی بہن بن گئے اور حسیب النساء کا لڑکا مطیع عالم جو نصر النساء کا رضاعی بھائی ہے، اس کی لڑکی سلمیٰ خانم کا نکاح نصر النساء کے لڑکے جمال الدین کے ساتھ شرعی طور پر صحیح ہے یا نہیں؟

المستفتی: انصار الحق

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مطیع عالم اور نصر النساء دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں اور

شرعی طور پر رضاعی بھائی بہن کی اولاد کے درمیان نکاح جائز اور درست ہے کہ جس طرح حقیقی بھائی بہن کی اولاد کے درمیان درست ہوتا ہے، لہذا سلمیٰ خانم کا نکاح رضاعی چھوہ بھی

کے لڑکے جمال الدین کے ساتھ جائز اور درست ہو جائے گا۔

أما بنت عمّة نفسه فإنها حلال نسباً ورضاعاً. (شامی، کتاب النکاح، باب الرضاع، کراچی ۲/۱۶۶، ذکر یا ۴/۸۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸/زی قعدہ ۱۴۲۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۷۱۹۱۸)

رضاعی ماموں سے نکاح

سوال [۵۹۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور فاطمہ دونوں پھوپھی زاد بھائی اور بہن ہیں، زید کو فاطمہ کی نانی نے دودھ پلایا ہے۔ اب زید کے والدین زید کا نکاح فاطمہ سے کرنا چاہتے ہیں، شریعت کی رو سے یہ نکاح مباح ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: محمد ذکی اللہ رحمانی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس طرح نسبی ماموں سے بھانجی کا نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح رضاعی ماموں سے بھی بھانجی کا نکاح درست نہیں ہے اور مسئلہ صورت میں زید فاطمہ کا رضاعی ماموں ہو گیا ہے؛ اس لئے ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے۔

عن عائشةؓ أنها أخبرته أن عمّها من الرضاعة يسمي 'أفلح استأذن عليها، فحجبتہ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. (مسلم شریف،

کتاب الرضاع، النسخة الهندية ۱/۶۷، بیت الأفكار رقم: ۱۴۵۵)

عن عليؓ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من

الرضاعة ما حرم من النسب. (سنن الترمذی، کتاب النکاح، باب ماجاء يحرم من

الرضاع ما يحرم من النسب، النسخة الهندية ۱/۲۱۷، دارالسلام رقم: ۱۱۵۶)

إذا تزوج صغيرة فأرضعتها أمه من النسب، أو من الرضاع حرمت عليه؛ لأنها صارت أختاله من الرضاع، فتحرم عليه كما في النسب، وكذا إذا أرضعتها أخته، أو بنته من النسب، أو من الرضاع؛ لأنها صارت بنت أخته، أو بنت بنته من الرضاعة، وأنها تحرم من الرضاع كما تحرم من النسب. (بدائع الصنائع، كتاب الرضاع، فصل صفة الرضاع المحرم، كراچی ۴/۱۱، زکریا ۳/۱۰/۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹ شعبان المعظم ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف: ۶۲۳۵-۶۲۸)

رضاعی بیٹی سے نکاح

سوال [۵۹۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے بچپن میں ہی میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ کے انتقال کے بعد میرے والد صاحب نے میری حقیقی خالہ کے ساتھ نکاح کیا، جو تادم تحریر حیات ہیں، میری حقیقی مرحومہ والدہ سے ہم تین بھائی بہن ہیں، میرا ایک لڑکا حافظ عمران ہے، اس کا رشتہ میرے حقیقی بھائی کی لڑکی (حقیقی بیٹی) نور جہاں سے طے ہوا ہے۔ اب یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ میرے لڑکے حافظ عمران کو میری مذکورہ خالہ جو حقیقت میں والدہ ہیں) نے دودھ پلایا ہے، تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی؟ اور عمران اور نور جہاں کے درمیان نکاح صحیح ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: حسن، بھڑکدروی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حافظ عمران نے جب اپنی سوتیلی دادی سے مدت رضاعت یعنی ڈھائی سال کے اندر اندر دودھ پی لیا ہے، تو حافظ عمران سوتیلی دادی کا رضاعی

بیٹا بن گیا ہے اور نور جہاں کا رضاعی چچا بن گیا ہے اور نور جہاں حافظ عمران کی رضاعی بھتیجی بن گئی ہے اور جس طرح نسبی بھتیجی سے نکاح درست نہیں ویسا ہی رضاعی بھتیجی سے نکاح درست نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۷/۲۱۸)

و أصله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (شامی، کتاب النکاح، باب الرضاع، کراچی ۳/۲۱۳، زکریا ۴/۴۰۴)

عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمي أفلح استأذن عليها، فحجته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. (مسلم شريف، كتاب الرضاع، النسخة الهندية ۱/۶۷، بيت الأفكار رقم: ۱۴۵۵)

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. (سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، النسخة الهندية ۱/۲۱۷، دارالسلام رقم: ۱۱۵۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۷/۷/۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳/رجب المرجب ۱۴۲۷ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۰۴۴)

حقیقی ماموں کی سوتیلی ماں کا دودھ پینے سے رضاعت کا حکم

سوال [۵۹۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) غلام مصطفیٰ ماسٹر کا حقیقی بھانجہ روشن الدین نے ماسٹر مصطفیٰ کی سوتیلی ماں مسماة درپائی کا دودھ پیا، مسماة مذکورہ روشن الدین کی سوتیلی نانی بھی ہے۔ اب اگر روشن الدین غلام مصطفیٰ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح شرعاً ہو سکتا ہے یا نہیں؟

(۲) بکر نے زید کو پالا اور بکر کی بیوی کا دودھ بھی پیا ہے، زید کے حقیقی ماں باپ فوت ہو گئے

تھے، اس لئے زید کو بکرنے والا اور بکر کی بیوی نے اپنے دودھ سے زید کو پالا اور پال کر فوت ہوگئی، بکر نے دوسری ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ اب بکر کی سابقہ بیوی کے لطن سے بکر کی لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں، ان لڑکیوں سے زید کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد ہارون رشید، مقرب پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ مذکورہ میں اگر درپائی کا دودھ غلام مصطفیٰ کے والد کے وطی کی وجہ سے اتر ہے، تو غلام مصطفیٰ کی لڑکی کے ساتھ روشن الدین کا عقد نکاح صحیح نہ رہے گا؛ کیونکہ غلام مصطفیٰ روشن الدین کا رضاعی علاقائی بھائی ہو گیا اور رضاعی علاقائی بھائی کی لڑکی سے نکاح درست نہیں ہے۔

كما في العالمگیریة: يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعاً؛ حتى أن المرضعة لو ولدت من هذا الرجل، أو غيره قبل هذا الإرضاع، أو بعده، أو أرضعت رضيعاً، أو ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الإرضاع، أو بعده، أو أرضعت امرأة من لبنه رضيعاً، فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته. (عالمگیری، کتاب الرضاع، زکریا ۱/۳۴۳، جدید زکریا دیوبند ۱/۴۰۹)

اور اگر درپائی سے بچہ پیدا نہ ہوا مصطفیٰ کے باپ سے، تو روشن الدین کا نکاح غلام مصطفیٰ کی لڑکی سے درست رہے گا۔

رجل تزوج امرأة ولم تلد منه قط، ثم نزل لها لبن فأرضعت صبياً، كان الرضاع من المرأة دون زوجها حتى لا يحرم على الصبي أولاد هذا الرجل من غير هذه المرأة. (عالمگیری، زکریا ۱/۳۴۳، جدید زکریا دیوبند

(۲) درست نہیں، جیسا کہ اوپر کے دلائل سے واضح ہو گیا۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰/۱ رمضان المبارک ۱۴۰۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۲۰۴)

مرضعہ کا اپنے بیٹے کا نکاح رضاعی بیٹے کی بہن سے کرنا

سوال [۵۹۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پھوپھی نے اپنے بھتیجے کو دودھ پلایا، تو وہ اپنے بھتیجے کی بہن کو اپنے کسی لڑکے کے نکاح میں لاسکتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: شمشاد حسین، پھراپوں، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صرف اس بھتیجے کے ساتھ پھوپھی کی اولاد کی شادی ناجائز ہے، جس کو پھوپھی نے دودھ پلایا ہے، اور اس بھتیجے کے جن بھائی بہن کو دودھ نہیں پلایا ہے، ان کے ساتھ جائز ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں اس کی بہن کے ساتھ پھوپھی اپنے لڑکے کی شادی کر سکتی ہے، ان میں کوئی حرمت نہیں ہے۔

ویجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع. (هدایة، کتاب

الرضاع، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۱)

وتحل أخت أخيه رضاعاً كما تحل نسباً. (ہندیہ، زکریا ۱/۴۳، ۳، ملتقی

الأبحر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱/۵۵۴)

وتحل أخت أخيه رضاعاً، یصح اتصاله بالمضاف، كأن یکون له أخ

نسبی له أخت رضاعیة. (شامی، کراچی ۳/۲۱۷، زکریا ۴/۱۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

۲۳/۴/۱۴۱۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲/۲۷۵)

والدین کا بالجبر رضاعی بہن سے نکاح کرنا

سوال [۵۹۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کسی کے والدین بالجبر رضاعی بہن سے شادی کرائیں، تو ایسی صورت میں لڑکا کیا کرے؟ والدین کی اطاعت کرتے ہوئے شادی کر لے، یا شادی سے انکار کر کے عدم اطاعت کا ثبوت دے؟

المستفتی: ایم زید، شاہد خان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر کسی کے والدین رضاعی بہن سے نکاح پر مجبور کریں تو اس سلسلہ میں بیٹے کو باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے؛ بلکہ باپ کی بات کو رد کرنا لازم اور ضروری ہے؛ کیونکہ رضاعی بہن کے ساتھ نکاح کرنا ایسا ہی ہے، جیسا کہ حقیقی بہن سے نکاح کرنا جو قطعاً ناجائز اور حرام ہے؛ اس لئے بیٹے کو باپ کی بات رد کرنا لازم ہے، اس سے وہ نافرمان اور گنہگار نہ ہوگا؛ کیونکہ خدا کی نافرمانی میں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے۔

عن علیؑ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً وأمر عليهم -إلى- وقال للآخرين قولاً حسناً، وقال: لا طاعة في معصية الله، وإنما الطاعة في المعروف. الحديث (مسلم شريف، كتاب الامارة، باب وجوب

طاعة الأمراء في غير معصية، النسخة الهندية ۲/۲۵، بيت الأفكار رقم: ۱۸۴۰)

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. (صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ۲/۱۰۵۷، رقم: ۶۸۶۱، ف: ۷۱۴۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۵/۲۳۳)

رضاعی بہن سے نکاح کے بعد تفریق کی شکل

سوال [۵۹۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ فہمیدہ کے پاس تین لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے، چاروں کی شادی ہوگئی ہے، سبھی کے بچے بھی ہوئے، چھوٹی لڑکی راشدہ کے ایک ہی لڑکی ہوئی تھی، دو تین مہینہ بعد راشدہ کا انتقال ہو گیا، تب اس بچی کو اس کی نانی فہمیدہ پالنے لگی اور فہمیدہ بچی کو چھپ کرنے کے لئے اپنا پستان اس کے منہ میں ڈالنے لگی، فہمیدہ کے بوڑھی ہونے کی وجہ سے دودھ نہیں ہوتا تھا؛ لیکن ایسا کرتے کرتے دودھ اتر آیا، بچی دودھ پی کر پلنے لگی، بچی کے بالغ ہونے پر نانی فہمیدہ نے اپنی بڑی لڑکی کے لڑکے سے اس لاوارث بنتی کی شادی کردی، جس سے تین بچے بھی ہو گئے ہیں، تو یہ شادی صحیح ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو صحیح ہونے کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟

المستفتی: ڈاکٹر احمد بستوی، ہمتی (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب فہمیدہ نے راشدہ کی بچی کو اپنا دودھ پلا دیا، تو وہ بچی اس کی رضاعی بیٹی ہوگئی اور فہمیدہ کی بڑی لڑکی کی بچی کی رضاعی بہن ہوگئی؛ لہذا رضاعی بہن کی اولاد سے نکاح جائز نہیں ہوا۔

ولا حل بین الرضیعة وولد مرضعتها وولد ولدھا. (تنویر الأبصار علی

الشامی، کتاب النکاح، باب الرضاع، کراچی ۲/۱۷، زکریا ۴/۱۰ (۴۱)

ولا حل بین رضیع وولد مرضعته. (مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة،

بیروت ۱/۵۵، فتاویٰ دارالعلوم ۷/۳۹۸)

اب نکاح صحیح ہونے کی کوئی صورت نہیں؛ بلکہ متارکت کے ذریعہ دونوں میاں بیوی کے مابین

علیحدگی کرنا ضروری ہے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ مثلاً شوہر یہ کہہ دے کہ میں نے تم کو چھوڑ دیا، تو دونوں میں علیحدگی ہو جائے گی۔

إن النکاح لا یرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع (إلی قوله) إلا بعد تفریق القاضی، أوبعد المتاركة الخ (شامی، کتاب النکاح، فصل فی المحرمات، کراچی ۳/۳۷، زکریا ۴/۱۱۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۳/۵/۱۴۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳/جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۱/۲۰۱۶)

رضاعی بھائی بہن کا آپس میں نکاح کرنا

سوال [۵۹۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ خالدہ کے بھانجے زید نے شیر خواری کے زمانہ میں اپنی خالہ خالدہ کا چار پانچ مرتبہ دودھ پیا، ضرورت شدیدہ کی بناء پر عجلت میں یہ عمل پیش آیا، آج سے تقریباً ۲۰ سال سے مسائل سے واقفیت نہیں تھی کہ حرمت رضاعت سے چند رشتے حرام ہیں، جیسے حرمت نسبی سے؛ چونکہ زید کی والدہ فاطمہ بیمار تھی اور پستان پرورم بھی آ گیا تھا اور اس وقت زید کی عمر صرف ایک ماہ کی تھی، دودھ پلانے کے بعد زمانہ گذرتا گیا، دودھ پلانے کا علم کوئی خیال ذہن میں نہیں رہا، تقریباً ۲۰ سال گذرنے کے بعد خالدہ کی بھانجی نسیمہ سے نکاح ہو گیا۔ اب جبکہ شادی ہو گئی اور ۷ سال گذر گئے اور نسیمہ کے دو بچے بھی ہیں ازدواجی زندگی کے بندھن میں پوری طرح جکڑ چکی ہے، حرمت رضاعت کا مسئلہ درپیش ہے اس صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا ایام جاہلیت کی طرح اس بے دین کفر و الحاد، مشرکانہ تہذیب و تمدن میں بسنے والے مسلمانوں کے لئے شریعت مطہرہ میں کچھ گنجائش نکل سکتی ہے؟ کیونکہ حرمت رضاعت کے سبب اب دونوں میں تعلقات ختم کرنا اور دو بچوں کے نسب نامے میں بہت بڑا خلل

اور ان کی آئندہ زندگی میں طرح طرح کے اندیشے پائے جاتے ہیں؛ لہذا سماج میں ان بچوں کا اور میاں بیوی کا کوئی وقار یا اثر نہیں رہے گا؛ لہذا برائے کرم شریعت مطہرہ میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے تو وضاحت فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں۔ بیٹا و تو جروا۔

المستفتی: عبدالواجد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید اور فاطمہ آپس میں رضاعی بھائی بہن ہیں؛ اس لئے فوراً دونوں میں علاحدگی لازم ہے اور انجانی میں نکاح کے نتیجے میں جو اولاد ہوئی ہیں، وہ سب حلال اور ثابت النسب ہیں، ان کے بارے میں غلط الفاظ کہنے والے سخت گناہ گار ہوں گے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۴۲۵)

ويثبت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد، وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد وعليه الفتوى. (هندية، كتاب النكاح، الباب الثامن في النكاح الفاسد وأحكامه، زكريا ۱/۳۳۰، جديد زكريا ديوبند ۱/۳۹۶)

وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد..... ويثبت نسب ولدها؛ لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد، فيرتب على الثابت من وجه، وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد. (هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۳۲-۳۳۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴/۹/۱۴۱۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ رمضان المبارک ۱۴۱۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۸۳۸)

رضاعی بھائی بہنوں کے آپس میں نکاح کا حکم

سوال [۵۹۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ساجدہ اور باکرہ دو عورتیں ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کے

چھوٹے بچے کو دودھ پلایا، تو کیا ان دونوں کے چھوٹے بچوں کے علاوہ ان کے بڑے بچوں کا آپس میں نکاح ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہو سکتا ہے، تو کیوں اور اگر ہو سکتا ہے تو کس بناء پر؟

المستفتی: ریاض احمد، معلم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: باکرہ کے جس بچہ نے ساجدہ سے دودھ پیا ہے، وہ ساجدہ ہی کے بچہ کے حکم میں ہو چکا ہے، اس بچہ کا نکاح ساجدہ کی کسی بھی بچی کے ساتھ صحیح نہ ہوگا اور اس بچہ کے دوسرے بھائی بہن کے ساتھ ساجدہ کے بچوں کا نکاح جائز ہے؛ کیونکہ ان بچوں میں ساجدہ کا کوئی جزء منتقل نہیں ہوا، اسی طرح ساجدہ کے جس بچہ نے باکرہ سے دودھ پیا ہے وہ باکرہ کا بچہ بھی ہو گیا؛ اس لئے اس بچہ کا نکاح باکرہ کی کسی لڑکی سے جائز نہیں ہوگا؛ البتہ اس بچہ کے دوسرے بھائی کا نکاح باکرہ کی لڑکی سے ہو سکتا ہے؛ کیونکہ یہ بچہ باکرہ کا جزء بن گیا ہے اور اس کا بھائی باکرہ کا کچھ بھی نہیں بنا؛ لہذا مذکورہ سوال نامہ کے مطابق صرف ساجدہ کا چھوٹا لڑکا جس نے باکرہ کا دودھ پیا ہے، اس کا نکاح باکرہ کی کسی بھی لڑکی سے جائز نہیں ہوگا اور باکرہ کا چھوٹا بچہ جس نے ساجدہ کا دودھ پیا ہے، اس کا نکاح ساجدہ کی کسی بھی لڑکی سے جائز نہ ہوگا؛ البتہ باکرہ کے دوسرے بچوں کا نکاح ساجدہ کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ جائز ہوگا، اسی طرح ساجدہ کے دوسرے لڑکوں کا نکاح باکرہ کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ جائز ہو جائے گا۔

عن عقبۃ بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبۃ؛ لکنی لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني، فأتيت من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: كيف بها؟ وقد زعمت

أنها قد أَرْضَعْتَكُمَا، دَعَهَا عَنكَ. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب شهادة المرضعة ۲/۷۶۴، رقم: ۴۹۱۳، ف: ۵۱۰۴)

وكل صبيّن اجتماعاً على ثدي امرأة واحدة لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالأخرى، هذا هو الأصل؛ لأن أمهما واحدة فهما أخ وأخت الخ. (هداية، كتاب الرضاع، اشرفي ديوبند ۳/۳۵۱)

وكل صبيّن اجتماعاً على ثدي واحد لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالأخرى. (الفتاوى الثاتارخانية، زكريا ۴/۳۶۴، رقم: ۶۴۲۸)

ولا حل بين رضيعي ثدي وتحتة: أي بين من اجتماعاً على الارتضاع من ثدي في وقت مخصوص لأنهما أخوان من الرضاع. (ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۵۵۴) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۹ ربیع الثانی ۱۴۱۶ھ

۱۴۱۶/۳/۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۱/۴۴۳۵)

رضاعی بہن سے نکاح

سوال [۵۹۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دو سگی بہنیں ہیں، ایک کا نام سعیدہ، دوسری کا نام شمیمہ ہے، سعیدہ کا آپریشن ہوا، اس کی ایک لڑکی چھ ماہ کی تھی، شمیمہ یعنی لڑکی کی خالہ اس بچی کی پریشانی کی وجہ سے صرف ایک دن کے لئے اپنے گھر لے آئی بچی رات کو رونے لگی، تو شمیمہ نے اس بچی کو اپنا دودھ پلا دیا، اب شمیمہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکی یعنی بھانجی کے ساتھ اپنے لڑکے کا عقد کر دوں کیا یہ عقد جائز ہے؟

المستفتی: عظیم اللہ، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مدت رضاعت میں دودھ پینے اور پلانے سے رشتہٴ رضاعت قائم ہو جاتا ہے، لہذا جب شیمہ نے اپنی بہن کی شیرخوار بچی کو دودھ پلایا ہے، تو وہ اس کی رضاعی بیٹی اور اس کے لڑکے کی رضاعی بہن بن گئی ہے؛ اس لئے شیمہ کے لڑکے کے ساتھ اس بچی کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. (سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، النسخة الهندية ۱/۲۱۷، دارالسلام رقم: ۱۱۵۶، مشکوٰۃ ۲/۲۷۳)

عن عائشة، أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى 'أفلح استأذن عليها، فحجته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لا تحجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. (صحيح مسلم، كتاب الرضاعة، النسخة الهندية ۱/۶۷، بيت الأفكار رقم: ۱۴۵۵)

ولا يتزوج المرصعة أحداً من ولد التي أرضعت؛ لأنه أخوها. (هداية،

كتاب الرضاعة، اشرفي ديوبند ۲/۳۵۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ رجب المرجب ۱۴۱۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۲۰۳۹)

رضاعی بھائی بہن کا نکاح

سوال [۵۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی نکہت نے ایک عورت فرحت کا دودھ پیا تھا، اب اس کی شادی ہو رہی ہے، تو نکہت کی شادی فرحت کے اس لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ دودھ پیا ہے ہو سکتی ہے

یا نہیں؟ اسی طرح اس لڑکے کے علاوہ مذکورہ عورت کے کسی دوسرے لڑکوں میں سے کسی دیگر لڑکے سے نکہت کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی رضاعی ماں کے تمام لڑکے نکہت کے لئے حرام ہیں یا صرف وہ لڑکا جس کے ساتھ نکہت نے دودھ پیا ہے؟

المستفتی: ایم زاہد خاں

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صوت میں نکہت کا فرحت کے کسی بھی لڑکے کے ساتھ نکاح جائز نہیں، نہ اس کے ساتھ کہ جس کے ساتھ دودھ پیا ہے اور نہ اس لڑکے سے جس کے ساتھ دودھ نہیں پیا؛ کیونکہ نکہت فرحت کے تمام لڑکوں کی رضاعی بہن ہے، جس کے ساتھ نکاح ناجائز اور حرام ہے۔

یحرم علي الرضيع أبواہ من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعاً. (ہندیہ، کتاب الرضاع، زکریا ۱/۴۳، جدید زکریا دیوبند ۱/۴۰۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۵/۲۳۳۷)

کیا رضاعی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں؟

سوال [۵۹۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے ہندہ کا دودھ پیا جو کہ زید کی نانی ہے اور حلیمہ نے بھی ہندہ کا دودھ پیا جو ہندہ کی لڑکی ہے، اب حلیمہ کی ایک لڑکی سلمیٰ ہے، جو زید کی رضاعی بہن کی لڑکی ہے، اب معلوم یہ کرنا ہے کہ سلمیٰ اور زید کا نکاح درست ہے یا نہیں؟ حلیمہ اور زید کا آپس میں رشتہ خالہ اور بھانجکا ہے؟

المستفتی: محمد قاسم، راپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زید جو ہندہ کا نواسہ ہے، اس نے اپنی نانی کا دودھ پیا ہے اور حلیمہ ہندہ کی بیٹی ہے؛ لہذا ہندہ زید کی نانی ہونے کے ساتھ ساتھ رضاعی ماں ہے، اور حلیمہ زید کی خالہ ہونے کے ساتھ ساتھ رضاعی بہن ہے۔ اور حلیمہ کی بیٹی سلمیٰ زید کی رضاعی بھانجی ہے اور رضاعی بھانجی سے شرعی طور پر نکاح درست نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کے لئے حلال نہیں۔

عن عقبہ بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبہ؛ لکنی لحديث عبید
أحفظ، قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: قد أَرْضَعْتُكُمْ،
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: تزوجت فلانة بنت فلان،
فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أَرْضَعْتُكُمْ وهي كاذبة، فأعرض
عني، فأتيت من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: كيف بها؟ وقد زعمت
أنها قد أَرْضَعْتُكُمْ دعها عنك. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب شهادة
المرضعة ۲/۷۶۴، رقم: ۴۹۱۳، ف: ۵۱۰۴، سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب في
شهادة المرضعة في الرضاع، النسخة الهندية ۱/۲۱۸، دارالسلام رقم: ۱۱۶۱)

وكل صبيين اجتمعا على ثدي امرأة واحدة لم يجز لأحدهما أن
يتزوج بالأخرى، هذا هو الأصل؛ لأن أمهما واحدة فهما أخ وأخت الخ.
(هداية، كتاب الرضاع، اشرفي ديوبند ۳/۳۵۱)

والأصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد، صارا
أخوين، أو أختين، أو أخا، وأختا من الرضاعة، فلا يجوز لأحدهما
أن يتزوج بالأخرى، ولا بولده، كما في النسب. (بدائع الصنائع، زكريا
۳/۳۹۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ جمادی الثانیہ ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۴۵)

دودھ شریک بھائی سے نکاح درست نہیں

سوال [۵۹۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری لڑکی کی عمر ایک سال تھی اور میری بڑی بہن کے لڑکے کی عمر بھی ایک سال تھی، ہم دونوں بہنیں ایک جگہ بیٹھے تھے، میری نند کا لڑکا باہر سے آیا اور میری گود میں سے لڑکی کو لے کر باہر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا لڑکا آیا اور وہ میری بہن کے لڑکے کو باہر لے گیا اور باہر جا کر دونوں بچے بدل لئے اور میری گود میں بڑی بہن کے لڑکے کو دیدیا، میں نے اپنی لڑکی سمجھ کر دھوکے سے اس لڑکے کو لے کر دودھ پلا دیا؛ کیونکہ میرا گھونگھٹ نکلا ہوا تھا، اب میں اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، اب آپ بتائیں یہ شادی جائز ہے یا نہیں؟ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب حلیفہ ہے۔

المستفتیة: اختر بیگم، نئی آبادی، لال باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر آپ نے اس لڑکے کو اپنا دودھ پلایا ہے، تو آپ کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کی شادی جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: ہدایہ)

ولا یتزوج المرصعة أحدًا من ولد التي أرضعت؛ لأنه أخوها. (هدایة،

کتاب الرضاع، اشرفی دیوبند ۲/ ۳۵۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۹/۳۲۱۲)

رضاعی بھائی بہن کا نکاح اور اس سے پیدا شدہ اولاد کا حکم

سوال [۵۹۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ اگر رضاعی بھائی بہن کا نکاح ساتھ میں ہو جائے یہاں تک کہ اس عورت کے کئی بچے بھی پیدا ہو جائیں اور بعد میں پتہ چلے کہ رضاعی بھائی بہن کا نکاح درست نہیں، تو آیا دونوں کو ساتھ میں رہنے کی کوئی صورت نکل سکتی ہے کہ یا نہیں؟

المستفتی: ثناء اللہ، پرتاب گڈھی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: رضاعی بھائی بہن کا نکاح شرعاً صحیح نہیں ہوتا ہے، اب اگر نکاح ہو چکا ہے، اور شرعی شہادتوں سے دونوں کا رضاعی بھائی بہن ہونا ثابت ہو چکا ہے، تو دونوں میں تفریق کر کے نکاح سے علیحدہ کر دینا واجب ہے۔ اور اس درمیان میں جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ شرعاً اولاد الزنا نہ ہوگی؛ بلکہ وہ حلال اور صحیح النسب بچے ہوں گے اور ان بچوں اور ماں باپ کے بارے میں لب کشائی کرنے والے سخت گنہگار ہوں گے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈبھیل ۱۳/۶۳۶)

رجل مسلم تزوج بمحارمہ فجنن بأولاد یثبت نسب الأولاد عند
أبي حنیفة. (ہندیہ، کتاب الطلاق، الباب الخامس عشر فی ثبوت النسب،
زکریا ۱/۵۴۰، جدید زکریا ۱/۵۹۱)

ویثبت نسب ولہا؛ لأن النسب یحتاط فی إثباتہ إحياءً للولد.
(ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۳۳)

ویثبت لكل واحد منهما فسخه، ولو بغير محضر عن صاحبه و دخل بها،
أو لا فی الأصح خروجاً عن المعصية فلا ینافی وجوبه؛ بل یجب علی القاضي
التفریق بينهما. (در مختار، کراچی ۳/۱۳۲، زکریا ۴/۲۷۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۱۲/۶/۱۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳/ جمادی الثانیہ ۱۴۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۸/۵۰۲۸)

رضاعی بہن سے نکاح اور اس سے پیدا شدہ بچہ کا نسب

سوال [۵۹۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) شکیل احمد اور عمرانہ کے درمیان رضاعت ثابت ہے اور شکیل احمد نے عمرانہ کی ماں کا دودھ پیا ہے، تو شکیل کی شادی عمرانہ کی چھوٹی بہن سے ہو سکتی ہے یا نہیں؟
(۲) شکیل احمد کی شادی عمرانہ کی چھوٹی بہن زینب سے ہو گئی ہے، تو کیا نکاح کو فسخ کیا جائے گا یا نہیں؟ اور دونوں سے بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ کولڑ کے یا لڑکی کے حوالہ کیا جائے گا؟

المسئفی: مولوی عبدالحفیظ، بیلاستوہر، سپول (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) جب شکیل احمد نے عمرانہ کی ماں کا دودھ پیا ہے، تو شکیل احمد عمرانہ کی ماں کا رضاعی بیٹا بن گیا اور رضاعی بیٹے کا حکم حقیقی بیٹے کی طرح ہے؛ لہذا عمرانہ کی تمام بہنیں شکیل احمد کے لئے حقیقی بہن کی طرح حرام ہو گئی ہیں؛ اس لئے عمرانہ کی ماں کی کسی بھی لڑکی سے شکیل احمد کا نکاح جائز نہ ہوگا؛ ہاں البتہ شکیل احمد کے دوسرے بھائیوں کا نکاح جائز ہو سکتا ہے۔

لو كانت أم البنات أرضعت أحد البنين، وأم البنين أرضعت إحدى البنات لم يكن للابن المرتضع من أم البنات أن يتزوج واحدة منهن.
(شامی، زکریا ۴/۱۰، کراچی ۳/۲۱۷، باب الرضاع)

ولو أن امرأتين لإحداهما بنون وللأخرى بنات، فأرضعت التي له البنات ابنا واحداً من بني المرأة الأخرى لم يجز لذلك الابن أن يتزوج بتلك المرأة التي أرضعته ولا بواحدة من بناتها.
(تاتارخانیة، زکریا ۴/۳۶۴، رقم: ۶۴۳۰)

(۲) شکیل احمد نے عمرانہ کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لیا ہے، تو یہ نکاح شرعی طور پر باطل

ہو گیا ہے؛ اس لئے کہ زینب شکیل احمد کی رضاعی بہن ہے؛ اس لئے دونوں کے درمیان فوراً علیحدگی لازم ہے اور اس نکاح کے ذریعہ سے جو لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ مسئلہ نہ جاننے کی بناء پر نکاح کے ذریعہ پیدا ہوا ہے؛ اس لئے وطی بالشہبہ کے درجہ میں رکھ کر بچہ کو ثابت النسب قرار دیا جائے گا، یعنی بچہ کا نسب شکیل احمد سے ثابت ہوگا۔

بخلاف الفاسد فإنه وطی بالشہبہ، فیثبت بہ النسب. (شامی، قبیل

باب الحضانه، کراچی ۳/۵۵۵، زکریا ۵/۲۵۲)

ویثبت لكل واحد منهما فسخه ولو بغير محضر عن صاحبه دخل بها
أولا في الأصح خروجاً عن المعصية، فلا ينافي وجوبه؛ بل يجب على
القاضي التفريق بينهما. (در مختار، کتاب النکاح، باب المهر مطلب في النکاح
الفاسد، زکریا ۴/۲۷۵، کراچی ۳/۱۳۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵/۸/۲۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ رجب المرجب ۱۴۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۸۴۱۵/۳۷)

رضاعی بہن کی بہن سے نکاح کرنا

سوال [۵۹۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور ہندہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں، تو کیا زید کے لئے ہندہ کی چھوٹی یا بڑی بہن سے شادی کرنا جائز ہے؟ اسی طرح زید کا ماموں یا چچا ہندہ کی چھوٹی یا بڑی بہن سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں نوازش ہوگی۔

المستفتی: سید ضمیر الدین، دورہ حدیث

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں اگر ہندہ نے زید کی ماں کا دودھ پیا ہے، تو ایسی صورت میں ہندہ اور اس کی تمام بہنیں زید کے خاندان میں داخل ہو کر زید کے

لئے حرام ہو جائیں گی اور اگر زید نے ہندہ کی ماں سے دودھ پیا ہے، تو صرف زید ہندہ کے خاندان میں داخل ہوا ہے، زید کے دوسرے بہن بھائی اور ماموں، چچا وغیرہ ہندہ کے خاندان میں داخل نہیں ہوں گے۔ استفتاء میں سوال واضح نہیں ہے کہ زید نے ہندہ کی ماں سے دودھ پیا تھا یا ہندہ نے زید کی ماں سے دودھ پیا تھا، اس کی وضاحت ضروری تھی۔ (مستفاد: امداد الاحکام ۴/۴۱۵، کفایت المفتی قدیم ۷/۷۵، جدید زکریا ۱۶۵/۱۶۶، محمودیہ قدیم ۲۳۲/۳، جدید ذابھیل ۱۱/۳۳۶)

وتحل أخت أخیه رضاعاً و نسباً، ولا حل بین رضیعی امرأة؛
لکونہما أخیون وإن اختلف الزمن والأب (در مختار) قال الشامی:
لو كانت أم البنات أرضعت أحد البنین، وأم البنین أرضعت إحدى
البنات لم یکن للابن المرتضع من أم البنات أن یتزوج واحدة منهن
وكان لإخوته أن یتزوجوا بنات الأخری. (شامی، کتاب النکاح، باب
الرضاع، کراچی ۳/۲۱۷، زکریا ۴/۴۱۰)

ولو أن امرأتین لإحداهما بنون وللأخری بنات، فأرضعت التي له
البنات ابناً واحداً من بني المرأة الأخری لم یجز لذلك الابن أن یتزوج
بتلك المرأة التي أرضعته ولا بواحدة من بناتها، ویجوز لسائر البنین أن
یتزوجوا تلك المرأة وبناتها أیتھن شاءوا. (تاتاریخانیہ، زکریا ۴/۳۶،
رقم: ۶۴۳۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵/۷/۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸/رجب المرجب ۱۴۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۷۸۹۹)

رضاعی بھائی بہن کا علمی میں نکاح کرنا

سوال [۵۹۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ زید نے ہندہ سے رات میں نکاح کیا، صبح میں معلوم ہوا کہ ہندہ کو زید کی ماں نے دودھ پلایا ہے، اس کے بعد محلہ کے چند لوگوں کو خبر ملی تو دونوں کو بلایا گیا اور سب کے سامنے پوچھا گیا تو سب کے سامنے یہی بولی کہ میں نے ہندہ کو واقعہً دودھ پلایا ہے، تو شرعاً یہ نکاح ہوا یا نہیں؟

المستفتی: محمد عبداللہ، برپاہی بازار سہرسا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں زید کا نکاح ہندہ سے شرعاً درست ہی نہیں ہوا؛ اس لئے کہ وہ ایک دوسرے کے رضاعی بھائی بہن ہیں جو حقیقی بھائی بہن کے درجہ میں ہوتے ہیں اور اگر دونوں کے درمیان رات میں ہمبستری ہوئی ہے تو یہ وطی بالہبہ ہوئی ہے؛ اس لئے ہندہ پر دوسری جگہ نکاح کرنے سے پہلے کم از کم ایک ماہ واری عدت گزارنا لازم ہے، اور ماہ واری سے فارغ ہونے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے اس سے پہلے نہیں۔ (مستفاد: محمودیہ ڈائجیسٹ ۱۱/۳۳۳)

قال اللہ تعالیٰ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. (سورة النساء: ۲۳)

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولادة. (ابوداؤد شریف، باب یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب النسخة الهندیہ ۲۸۰/۱، دارالسلام رقم: ۲۰۵۵)

كل امرأة حرمت من النسب حرم مغلها من الرضاع، وهن الأمهات والأخوات والبنات الخ. (اعلاء السنن کراچی ۱۲۳/۱۱، دارالکتب العلمیة ۱۱/۳۲)

ولا حل بین رضیع وولد مرضعته. (ملتقى الابحر على مجمع الأنهر،

دارالکتاب العلمیة بیروت ۱/۵۵۴)

علة المنکوحه نکاحاً فاسداً والموطوءة بشبهة الخ، الحيض
للموت وغيره أي كفرقة أو متاركة لأن عدة هؤلاء لتعرف براءة الرحم
وهو بالحيض أي لأجل أن يعرف أن الرحم غير مشغول لا لقضاء حق
النکاح إذ لا نکاح صحيح والحيض هو المعروف. (در مختار مع الشامی، کراچی
۶/۳، ۵۱۷، ۵۱۶، ۱۹۶/۵-۲۰۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۹ ربیع الثانی ۱۴۳۳ھ

۱۴/۲/۱۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۶۶۱)

ڈھائی سال کے بعد دودھ پلانے والی مرضعہ کی بیٹی کا رضیع سے نکاح

سوال [۵۹۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ اگر کوئی شخص ڈھائی سال کے بعد اپنی خالہ کا دودھ پی لے تو کیا خالہ کی لڑکی سے اس
شخص کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد حسین سیتا پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں ڈھائی برس ہو جانے کے بعد جب
خالہ کا دودھ پیا ہے تو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی؛ اس لئے خالہ کی لڑکی سے نکاح کرنا صحیح
اور درست ہے۔ (مستفاد: عزیز الفتاویٰ ص: ۵۵۲، احسن الفتاویٰ ۱/۱۲۸۵)

وهو حولان ونصف عنده وحولان عندهما وهو الأصح. (شامی،

کتاب النکاح، باب الرضاع، کراچی ۲۰۹/۳، زکریا ۴/۹۳۳)

وهی أي مدته حولان ونصف أي ثلاثون شهراً من وقت الولادة

عند الإمام، وعندهما حولان وهو قول الشافعي وعليه الفتوى، كما في المواهب، وبه أخذ الطحاوي. (مجمع الأنهر، دار الكتب العلميه بيروت ۵۵۲/۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۲۳۳۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۵/۲۸ھ

رضیع کے چھوٹے بھائی کا مرضعہ کی بیٹی سے نکاح

سوال [۵۹۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مغفور خاں کے چار لڑکے ہیں، سب سے بڑا لڑکا افتخار ہے، اس نے اپنی ممانی سے دودھ پیا ہے اور افتخار نے اپنی جس ممانی سے دودھ پیا ہے اس کی لڑکی سے افتخار کے چھوٹے بھائی کا نکاح جائز ہو سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالحظیم، امام بڑی مسجد چاند پور مرزا، دایا سکندر راولپنڈی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: افتخار کے چھوٹے بھائی کا نکاح اس کی ممانی کی لڑکی سے ہو سکتا ہے؛ کیونکہ ممانی کا دودھ پینے کی وجہ سے صرف افتخار ہی ممانی کا رضاعی بیٹا بنا؛ اس لئے اس کے دوسرے کسی بھی بھائی کا نکاح ممانی کی لڑکی سے جائز ہے۔

وتحل أخت أخیه رضاعاً. (شامی، کتاب النکاح، باب الرضاع، کراچی

۲۱۷/۳، زکریا ۴/۱۰، ہندیہ کتاب الرضاع، زکریا ۳/۱۱، جدید زکریا دیوبند

(۴۰۹/۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ جمادی الثانی ۱۴۲۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۴/۶۲۱۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۶/۲۱ھ

رضیع کے دوسرے بھائی کا مرضعہ کی بیٹی سے نکاح

سوال [۵۹۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بچے نے پھوپھی کا دودھ پیا تو اس بچے کے بھائی یا بہن کا نکاح پھوپھی کے کسی لڑکے یا لڑکی سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد ادا اللہ کملانی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جس بچے نے پھوپھی کا دودھ پیا ہے صرف اسی بچے کا نکاح جائز نہیں ہے، باقی اس بچے کے تمام بھائی، بہنوں کا نکاح درست ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۷۵/۷)

وتحل أخت أخیه رضاعاً، یصح اتصالہ بالمضاف كأن یکون له أخ نسبی له أخت رضاعیة. (شامی، کتاب النکاح، باب الرضاع، کراچی ۲۱۷/۳، زکریا ۴۱۰/۴، بدائع الصنائع، زکریا ۴۰۰/۳، ہندیہ زکریا ۳۴۳/۱، جدید زکریا دیوبند ۴۰۹/۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۲۱/۳/۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۵/۷۵۵)

رضاعت متحقق نہ ہونے کی وجہ سے پھوپھی زاد بھائی سے نکاح

سوال [۵۹۸۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شبانہ نام کی لڑکی مدت رضاعت میں اپنی والدہ کا دودھ پیتی تھی؛ لیکن کبھی کبھی اپنی دادی کے پستان منہ میں لے لیتی تھی؛ جبکہ دادی کی عمر اس وقت پچاس سال سے

بھی زیادہ تھی، دادی اپنی زندگی میں یہ کہا کرتی تھی کہ میں بہلانے کے لئے اس بچی کے منہ میں پستان دے دیتی ہوں؛ مگر دودھ نہیں اترتا تھا، اس دودھ نہ اترنے کے دو مرد اور دو عورتیں گواہ بھی ہیں، جن کے نام یہ ہیں۔

(۱) رشید احمد شبانہ کے دادا (۲) امیر احمد شبانہ کے والد (۳) شبانہ کی والدہ ریحانہ (۴) سیکنہ شبانہ کے باپ کی چچی، تو کیا اس شبانہ کا نکاح اس کی دادی کے نواسہ سے ہو سکتا ہے؟ شرعاً کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد کیف، بڑا دربار مروہہ جے پی نگر یو پی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب دادی اپنے پستان سے دودھ کے نہ اترنے کا بذات خود انکار کر رہی ہے اور اس پر شرعی گواہ بھی موجود ہیں تو محض چھاتی بچہ کے منہ میں ڈالنے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوئی؛ لہذا شبانہ کا نکاح اپنی دادی کے نواسہ سے جائز اور درست ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قیڈیم ۲۳۸/۱۳، جدید ڈائجیل ۶۱۹/۱۳، احسن الفتاویٰ ۱۲۷/۵)

وفي القنية: امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم، ثم تقول: لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهلذه الصبية. (شامی، کتاب النکاح، باب الرضاع، کراچی ۲۱۲/۳، زکریا ۴۰۱/۴، ۲۱۴، البحر الرائق زکریا ۳۸۷/۳، کوئٹہ ۲۲۲/۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۱۱/۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷/زی قعدہ ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۶۱/۳۹۶۷)

مدت رضاعت کے بعد دودھ پینے اور اس سے نکاح کا حکم

سوال [۵۹۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ حامد نے کسی غیر محرم لڑکی کی چھاتی منہ میں ڈال کر چوسا، تو حامد کے لئے اس لڑکی سے نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: ایوب عالم، چوہدر پور مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حامد نے جس غیر محرم لڑکی کی چھاتی منہ میں ڈال کر چوسا ہے، یہ حرکت اس کے لئے داعی زنا ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے، اس سے توبہ کرنا لازم و ضروری ہے؛ لیکن اس حرکت کی وجہ سے اس لڑکی سے نکاح کرنے میں کوئی حرمت لازم نہیں آئے گی؛ اس لئے کہ دو یا ڈھائی سال کی عمر سے پہلے کسی عورت کا دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے اور یہاں پر حامد بڑی عمر کا آدمی ہے۔

وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم. (عالمگیر،

کتاب الرضاع، زکریا ۳۴۳/۱، جلدید زکریا دیوبند ۱/۴۰۹)

هو مص الرضيع من ثدي الأدمية في وقت مخصوص وتحتة:
واحترز بمص الرضيع عن مص غيره كما إذا وقع بعد الفطام، وبقوله
من ثدي الأدمية عما إذا مص عن غيره، وأراد بقوله في وقت
مخصوص احترازا عن المص في غيره، فإنه لا تحرم. (مجمع الأنهر،
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱/۵۵۱)

وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم لقوله عليه السلام:

لا رضاع بعد الفصال، لأن الحرمة باعتبار النشو وذلك في المدة، إذ الكبير لا يتربى به. (هدایة، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۰، ۳۵۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۵ھ/۷/۱۶

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف-۳۷۶۳۶۸۴)

دورضاعی بھائی میں سے ایک کی بیٹی اور دوسرے کے پوتے سے نکاح

سوال [۵۹۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ انورا اور نظر دونوں آپس میں دودھ شریک بھائی ہیں، انور کی بیٹی اور نظر کا پوتا ہے، اب ان دونوں کا رشتہ آپس میں ہو سکتا ہے کہ نہیں، یعنی شادی ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: محمد آصف، محلہ ڈیرہ دیوان بازار مسجد امام باڑہ مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: انورا اور نظر دونوں رضاعی بھائی ہیں، دونوں میں سے ایک کی بیٹی اور دوسرے کے پوتے کے درمیان شرعاً نکاح جائز اور درست ہے اور دو حقیقی بھائی کی اولادوں کے درمیان بھی نکاح جائز ہو جاتا ہے؛ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد خواجہ عبد اللہ اور چچا خواجہ ابوطالب کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہؓ کے درمیان نکاح ہوا ہے اور یہ **وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ** (النساء: ۲۴) میں داخل ہونے کی وجہ سے جائز ہے۔

وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ یعنی ما سوی المحرمات المذكورات فی

الآیات السابقة. (تفسیر مظہری زکریا دیوبند ۶۶/۲)

وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ای وراء ما حرمه الله تعالیٰ. (بدائع الصنائع

زکریا ۵۴۰/۱۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ صفر ۱۴۲۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۸۷۲۸/۳۷)

رضاعی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا

سوال [۵۹۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ زید نے زینب سے شادی کی اور پھر کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دی، اس کی عدت گزر چکی، پھر زینب نے پندرہ مہینہ کے لڑکے سے نکاح کیا اور زینب نے پھر اس کو دودھ پلا دیا، تو کیا زینب پھر پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟

المسفتی: شفیع الرحمن، معلم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زینب کے پستان میں جو دودھ اتر رہا ہے وہ اگر زید کے جماع کے نتیجے میں اتر رہا ہے اور طلاق کے بعد شیر خوار بچہ سے نکاح کر کے اس کو وہی دودھ پلا دیا ہے تو ایسی صورت میں وہ بچہ زید کا رضاعی بیٹا بن گیا ہے اور زینب رضاعی بیٹی کی بیوی ہوگی اور رضاعی بیٹی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہوتا ہے؛ لہذا آئندہ زینب کا نکاح زید کے ساتھ کبھی بھی نہ ہوگا۔

طلق امرأته تطليقتين ولها منه لبن فاعتدت فنكحت صغيراً
فأرضعته، فحرمت عليه فنكحت آخر فدخل بها فهل تعود للأول بواحد
أم بثلاث؟ الجواب لا تعود إليه أبداً لصيرورتها حليلاً ابنه رضاعاً.
(الدر المختار مع الرد المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، كراچی ۳/۳۱،
۳۲، زکریا ۱۰۶/۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ جمادی الاول ۱۴۱۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۲/۲۸۴۱)

اپنے بیٹے کی رضاعی بہن سے نکاح کرنا

سوال [۵۹۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عرفان علی کی شادی گلشن کے ساتھ ہوئی، شادی کے بعد گلشن کے لڑکا پیدا ہوا اور گلشن

لڑکا پیدا ہوتے ہی انتقال کرگئی، لڑکے کو دودھ گلشن کی والدہ یعنی لڑکے کی نانی نے پلایا اور لڑکے کی پرورش بھی نانی کے یہاں ہوئی، اب عرفان گلشن کی سگی بہن چمن سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مندرجہ بالا حالات میں عرفان کا نکاح چمن سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟
المستفتی: محمداقبال مراد آبادی پوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: عرفان کے لڑکے نے اگر اپنی نانی سے دودھ پیا ہے، تو گلشن کی بہن چمن میں حرمت کی علت ثابت نہیں ہوتی ہے؛ اس لئے چمن کے ساتھ عرفان کے لئے نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا؛ اگرچہ چمن عرفان کے لڑکے کی رضاعی بہن کیوں نہ ہو۔

ویجوز تزوج أخت ابنه من الرضاع. (هدایة، کتاب النکاح، باب الرضاع،

اشرفی دیوبند ۳۵۱/۲)

ویجوز له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع. (بدائع الصنائع کراچی ۴/۴،

جلید زکریا ۳۹۹/۳)

لا یجوز للرجل أن یتزوج أخت ابنه من النسب، ویجوز فی الرضاع؛ لأن أخت ابنه من النسب إن كانت منه فہی ابنته وإن لم تكن منه فہی ربیبته، وهذا المعنی لا یتأتی فی الرضاع. (ہندیہ زکریا ۳۴۳/۱، جلید زکریا دیوبند ۴۰۹/۱، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۱۸/۳۶) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴/۲/۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷/صفر المظفر ۱۴۱۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۹/۳۳۰)



۱۷/ کتاب الطلاق

(۱) باب صفة الطلاق و من أحق به

طلاق کا مسنون طریقہ

سوال [۵۹۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ طلاق کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بینوا بالبرہان تو جروا عند الرحمن.

المستفتی: محمد عین الحق، معلم مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: طلاق کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے۔ نیز اس طہر میں ہمبستری بھی نہ کی ہو۔

عن ابراہیم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. (مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، ما يستحب من طلاق وكيف هو؟ مؤسسة علوم القرآن بيروت ۹/۵۱۲، رقم: ۱۸۰۴۰، مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب وجه الطلاق، وهو طلاق العدة والسنة، المجلس العلمي بيروت ۶/۳۰۲، رقم: ۱۰۹۲۶)

فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها. (هداية، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، اشرفي ديوبند ۲/۳۵۴)

أما الأحسن: أن يطلقها واحدة في وقت السنة، ويتركها حتى تنقضي العدة، وروي عن ابراہیم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون

أن لا يزداد في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، وهذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً عند كل طهر تطلقه. (تاتارخانية، زكريا/ ۳۷۸، رقم: ۶۴۷۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲/ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۷/۲۶۶)

طلاق بدعی

سوال [۵۹۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ تینوں طلاق دے دے، تو تینوں طلاق واقع ہو جائیں گی یا ایک طلاق ہوگی؟

المستفتی: محمد عین الحق، محترم مدرسہ شاہی مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر ایک ہی دفعہ تین طلاق دیتا ہے، تو تینوں طلاق واقع ہو جائیں گی؛ لیکن ساتھ ساتھ شوہر گنہگار بھی ہوگا۔

عن محمود بن لبید قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضباناً، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! ألا أقتله. (سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، النسخة الهندية ۲/ ۸۲، دار السلام رقم: ۳۴۳۰)

و طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة (إلى قوله) وقع الطلاق

وكان عاصياً. (هداية، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة اشرفي ديوبند ۲/ ۳۵۵)

و أما البدعي: فنوعان..... فالذي يعود إلى العدد أن يطلقها ثلاثاً في

طهر واحد بکلمة واحدة، أو بكلمات متفرقة..... وفي الهداية: فإذا فعل ذلك وقع الطلاق، وكان عاصياً. (تاتارخانیة زکریا ۴/۳۸۱، رقم: ۶۴۷۶، ہندیہ، زکریا ۱/۳۴۹، جدید زکریا دیوبند ۱/۴۱۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۷۷/۲۶۶)

طلاق کا حق دار کون ہے؟ اور بیوی کا طلاق کے بعد شوہر لکھنا

سوال [۵۹۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شریعت میں طلاق دینے کا حکم شوہر کو ہے یا بیوی کو ہے؟ طلاق ہونے کے بعد بھی کیا عورت کو حق ہے کہ وہ شوہر کو اپنا شوہر کہے یا لکھے؟

المستفتی: شہاب عالم ولد حاجی محمد رئیس، اندراچوک، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شریعت نے طلاق دینے کا حق صرف شوہر کو دے رکھا ہے، عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، لہذا جب شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی ہیں، تو شوہر کے نکاح سے وہ خارج ہو کر قطعی طور پر شوہر پر حرام ہو گئی ہے، اب دونوں میاں بیوی نہیں رہے اور اس کے بعد بیوی کو اس کا اپنا شوہر کہنا اور اپنا شوہر سمجھنا جائز نہیں ہے۔

عن ابن عباسؓ قال:..... فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فقال:..... إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (سنن ابن ماجه شريف، كتاب الطلاق،

باب طلاق العبد، النسخة الهندية، ۱۰۱، دار السلام رقم: ۲۰۸۱، شامی، كتاب الطلاق،

مطلب في تعريف السكران وحكمه، زکریا ۴/۴۵۰، کراچی ۳/۲۴۲)

إن الذي يملك الطلاق إنما هو الزوج..... ولا تملكه الزوجة

..... جعل الطلاق ببيد الزوج لا ببيد الزوجة. (الفقه الإسلامی و أدلتہ،

هدی انٹرنیشنل دیوبند، ۳۴۷/۷-۳۵۵)

لأن الطلاق لا يكون من النساء. (شامی، کراچی ۱۹۰/۳، زکریا ۴/۳۶۱)
ومحلہ المنکوحہ وأهلہ زوج عاقل بالغ مستیقف. (درمختار
کراچی ۳/۲۳۰، زکریا ۴/۴۳۱، ہندیہ، زکریا ۱/۴۸۱-۳۵۳، جدید زکریا دیوبند
۱/۴۲۰، سبب الأنہر ۲/۴، دارالکتب العلمیہ بیروت، منتخبات نظام الفتاویٰ ۲/۱۶۳،
فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۱۸/۹۹۱)

الطلاق هو رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح. (البحر الرائق،
زکریا ۳/۴۱۰، کوئٹہ ۳/۲۳۵)

وأما حكم الطلاق فزوال الملك عن المحل..... وزوال حل العقد
متى تم ثلاثاً. (تاتارخانیہ، زکریا ۴/۳۷۷، رقم: ۶۴۷۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۱۱۴۶۶۳۰)

شوہر کے علاوہ کی طلاق غیر معتبر ہے

سوال [۵۹۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری کچھ آپس میں نا اتفاقی سے جھگڑا ہو گیا تھا، جس میں لڑکی والوں نے قانونی کارروائی کر دی، انہوں نے ہمیں کچھ ایسا کر دیا تھا کہ ہمیں جیل جانا پڑ جاتا، تو اس کی وجہ سے میرے گھر والوں نے میری بغیر اجازت کے ایک درخواست لگا دی لڑکی والوں کے نام جس میں انہوں نے یہ لکھوا دیا کہ ہم اس کو طلاق دے چکے، یہ قانونی کارروائی کرائی تھی؛ اس لئے کہ ہم جیل جانے والے تھے اور ہم اس کو جہیز بھی دے چکے، اسی وقت وہ سب کچھ لے گئی تھی؟

المستفتی: محمد شہاد، محلہ: کٹار شہید، نئی آبادی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اسلامی شریعت میں شوہر کے علاوہ کسی اور کی طلاق یا طلاق کی تحریر معتبر نہیں ہوتی ہے؛ اس لئے مذکورہ صورت میں محمد شمشاد کی عدم موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر والوں نے جو طلاق کی تحریر لکھوائی ہے، وہ شریعت کی نظر میں غلط اور ناقابل اعتبار ہے، اس سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔

عن ابن عباسؓ قال:.....فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:.....إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (سنن ابن ماجہ، کتاب الطلاق، باب طلاق العبد، النسخة الهندية، ۱۰۱، دارالسلام رقم: ۲۰۸۱)

ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل. (الدر المختار، کتاب الطلاق، مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق، زكريا ۴/۳۸، کراچی ۳/۲۳۵)

الطلاق لمن أخذ بالساق. (الدر المختار، کراچی ۳/۲۴۲، زكريا ۴/۴۵۰)
فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۲/۲/۱۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ صفر المظفر ۱۴۱۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف: ۲۷۵۴۵)

شوہر کے طلاق دیئے بغیر لڑکی والوں کا طلاق کی شہرت دینے کا حکم

سوال [۵۹۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندہ کے نکاح کو عرصہ چار برس کا گذرا، ہندہ اور زید کے درمیان شادی کے ۲ سال بعد آپس میں نا اتفاقی پیدا ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ دو سال سے ہندہ اپنے باپ کے گھر ہے، اس کے باپ ایک یا دو مرتبہ ۱۰ پندرہ آدمیوں کو لے کر زید کے مکان پر گئے، لڑکی کو باعزت بلانے کے لئے تیار نہیں ہوئے، بے عزتی کے لئے تیار ہیں، پنچایت میں یہ

بات طے پائی تھی کہ ہم دو چار آدمی لڑکی کو بلانے آئیں گے؛ لیکن جب زید بلانے کے لئے آیا تو بغیر سواری کے آیا اور دیگر لوگ بھی آئے؛ جبکہ پنچایت میں مع سواری آنا طے ہوا تھا، ہندہ یہ بیان دیتی ہے کہ میرا شوہر مجھ کو طلاق دے چکا ہے اور لڑکی کے والد والدہ بھی کہتے ہیں کہ وہ طلاق دے چکا ہے؛ لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، عرصہ دو سال سے نہ وہ نان و نفقہ دیتا ہے اور نہ ہندہ کی کوئی خبر گیری کرتا ہے اور زید یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے باپ سے یا تو ایک مکان بنا کر دے، یا ایک انجن لے کر دے یا بھینس دلوا اور نہ میں تجھے اپنے گھر نہیں رکھوں گا اور جو کوئی آدمی زید سے یہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو لا کر کیوں نہیں بلاتے، تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ میں ہندہ کو نہیں رکھوں گا؛ لہذا مہربانی فرما کر شرعی احکام سے مستفیض فرمائیے کہ عقد ثانی کر سکتی ہے یا نہیں اور اس کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نیز نکاح پڑھانے والے پر کوئی شریعت کی طرف سے قباحت تو نہیں؟

المستفتی: رفیع الدین، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر محض لڑکی اور اس کے والدین نے اپنی طرف سے طلاق کی شہرت دی ہے، اس کے ثبوت کے لئے شرعی گواہ پیش نہیں کرتے ہیں اور لڑکا طلاق کا انکار کر رہا ہے، تو شرعاً لڑکی پر طلاق کا حکم نہیں لگے گا، نکاح بدستور باقی ہوگا اور لڑکے نے محض دھمکی دینے کے لئے اگر (نہیں رکھوں گا) کہہ دیا ہے، تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی؛ لہذا ان حالات میں موجودہ شوہر سے شرعی طلاق حاصل کئے بغیر اگر دوسری جگہ لڑکی کا عقد نکاح کیا جائے، تو نکاح شرعاً باطل ہوگا اور ہمیشہ حرام کاری ہوگی اور اس نکاح میں شرکت کرنے والے اور اس کے گواہ بننے والے اور نکاح پڑھانے والے سب خدائی لعنت اور غضب الہی اور سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۷/۳۶۶)

والمحصنات من النساء عطف علی أمہاتکم یعنی حرمت علیکم

المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج لا يحل للغير نكاحهن ما لم يمت زوجها، أو يطلقها وتنقضي عدتها من الوفاة أو الطلاق. (تفسير مظہری، سورة النساء تحت رقم الآية: ۲۴، زکریا دیوبند ۶۴/۲)

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته—إلى قوله—لم يقل أحد بجوازه، فلم يعقد أصلاً. (شامی، كتاب النكاح، مطلب في النكاح الفاسد، كراچی ۱۳۲/۳، زکریا ۲۷۴/۴)

ولا يجوز نكاح منكوحة الغير ومعتدة الغير. (قاضی خان علی الہندی، جدید زکریا دیوبند ۲۲۱/۱، باب المحرمات زکریا ۳۶۶/۱)

لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة. (ہندی زکریا ۲۸۰/۱، كتاب النكاح القسم السادس، المحرمات التي يتعلق بها حق الغير جدید زکریا دیوبند ۳۴۶/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۵/شعبان المعظم ۱۴۱۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۶/۲۳۳۴)

بیوی نے طلاق دے کر پردہ کر لیا

سوال [۵۹۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا اور میری بیوی کا ایک شادی کی تقریب میں جانے پر جھگڑا ہو گیا، وہ مجھ پر بہت بگڑی اور میں بھی اس پر بہت بری طرح برس پڑا، بیوی غصہ میں بھر گئی اور مجھ سے کہا کہ ”میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی“ تین طلاق دے کر وہ پردہ میں چلی گئی اور مجھ سے کہا کہ اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں جاؤ، آج سے تم میرے لئے محرم ہو، اس جھگڑے کے وقت محلہ پڑوس کی دو عورتیں بھی آگئی تھیں اور میرے بڑے بھائی پہلے سے موجود تھے ان تینوں کے سامنے میری بیوی نے تین بار مجھ کو طلاق دی اور پردہ کر لیا، پڑوس کی عورتوں اور میرے بھائی نے بیوی سے کہا کہ عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، اس پر میری

بیوی نے کہا کہ یہ غلط ہے، میں نے قرآن میں سورۃ النساء پڑھی اور سورۃ بقرہ پڑھی ہے، اس میں جو حقوق دیے گئے ہیں وہ واضح ہیں، اس میں لفظ نوع انسانی استعمال ہوا ہے، میں بھی نوع انسان سے ہوں؛ اس لئے قرآن مرد اور عورتوں کو برابر کے حقوق ادا کرتا ہے۔ قرآن میں عورت اس حکم سے مستثنیٰ نہیں ہے؛ لہذا نوع انسان ہونے کے ناطے عورت برابر کا حق رکھتی ہے؛ اس لئے مرد کی طرح طلاق لینے کا حق بھی رکھتی ہے؛ لہذا شریعت کی روشنی میں بتایا جائے کہ مجھ کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟

نیز یہ بھی بتایا جائے کہ اگر مجھ کو طلاق ہوگئی تو کیا عورت کی طرح گھر میں بیٹھ کر عدت پوری کرنی پڑے گی؟ اور میری عدت کی مدت کیا ہوگی؟ اور بتایا جائے کہ کیا مجھ کو بھی عورت کی طرح نان و نفقہ ملے گا یا نہیں؟

المستفتی: شریف احمد، ٹھٹھری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ کی بیوی کا دعویٰ اور دلیل دونوں غلط! اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے طلاق دینے کا حق شوہر کو دیا ہے اور عدت گزارنے کی ذمہ داری بیوی کو بنایا ہے۔ حدیث میں آیا ہے:

عن ابن المسيب [ؓ] قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. (مصنف عبد

الرزق، کتاب الطلاق، باب طلاق الحرة، الملخص العلمي ۷/۲۳۶، رقم: ۱۲۹۵۱)

عن عبد اللہ بن مسعود [ؓ] قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.

(المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي ۹/۳۳۷، رقم: ۹۶۹۷)

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء..... وقوله فإنه حينئذٍ أنسب من أن يراد به الإيقاع بالرجال؛ ولأنه معلوم من قوله تعالى 'فطلقوهن'. الآية.

(مرفقات، شرح المشكوة، باب الخلع و الطلاق، البحث على أن العبرة في العدة بالمرأة،

(المراد بہ) أن قیام الطلاق بالرجال الخ. (مرقات، امدادیہ ملتان ۶/۲۹۱)
 إن الذي يملك الطلاق إنما هو الزوج..... ولا تملكه الزوجة، جعل
 الطلاق بيد الزوج، لا بيد الزوجة. (الفقه الإسلامي وأدلته، هدی انٹرنیشنل دیوبند
 ۳۵۵، ۳۴۷۰/۷)

لأن الطلاق لا يكون من النساء. (شامی، کراچی ۳/۱۹۰، زکریا ۴/۳۶۱)
 لہذا وہ آپ کو بیوی ہے، آپ کو بیوی کی طرح رکھنے کا حق ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱ محرم الحرام ۱۴۰۸ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۴۲۵)

شوہر کو طلاق کی تعداد یاد نہ ہو تو کیا حکم ہے؟

سوال [۵۹۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
 میں: کہ میں مظفر حسین نے اپنی بیوی کو طلاق دی، مگر میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کتنی بار
 طلاق دی؛ کیونکہ اس وقت بیٹے سے لڑائی ہو رہی تھی، غصہ کی حالت میں مجھے کچھ پتہ نہیں رہا،
 مگر اس وقت میری بیوی اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا موجود تھے، اس کے بعد جب ساتھیوں کو
 پتہ ہوا کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، تو قریب چھ یا سات ماہ کے بعد دو عورتوں کو معلومات کے لئے
 بھیجا گیا، تو اس وقت بیوی نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں سنا؛ کیونکہ دونوں باپ بیٹے میں لڑائی
 ہو رہی تھی، اس کے بعد لڑکی سے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں نے کچھ نہیں سنا؛ لیکن
 اس وقت لڑکا گھر پر موجود نہیں تھا، اس سے پوچھا تا چھ نہ ہو سکی، کچھ دن بعد لڑکے سے معلوم کیا
 گیا، تو اس نے کہا کہ انہوں نے دوبار طلاق وہیں کمرے میں دی اس کے بعد جب وہ غسل
 خانہ میں نہانے گئے تو ایک بار پھر کہا میں مظفر حسین کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں کسی سے بولا
 نہیں یہ بات بالکل غلط ہے، جب یہ فتویٰ نہیں مانا، تو اب پھر چار آدمی دوبارہ معلوم کرنے

گئے، بیٹی کا کہنا ہے کہ میں تجھے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، میں نے طلاق دی، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں سنا۔ اور اب بیٹی کا کہنا ہے کہ میں نے تین بار سنا اور اب بیوی کا بھی کہنا ہے کہ میں نے تین بار سنا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: مظفر حسین حسپوری، محلہ: کنکر والا کنواں، بے پی نگر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: پورے واقعہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بیٹی نے پہلے بیان کے اندر یہ بتایا کہ دو طلاق سنا ہے، پھر غسل خانہ میں جاتے وقت سنا ہے۔ اور اب آخری بار بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے تین بار سنا ہے، تو اس کی بات کل ملا کر ایک ہی جیسی ہے کہ تین ہی بار اس نے سنا اور بیوی کی بات میں تضاد ہے، اس کا پہلا بیان ہے کہ اس نے کچھ نہیں سنا ہے اور دوسرا بیان ہے کہ تین بار سنا ہے اور مظفر حسین خود طلاق کا اقرار کر رہا ہے، مگر کتنی بار کہا ہے اس کی تعین نہیں کر پارہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر مظفر حسین کو بیٹی کی بات پر یقین ہے کہ تین مرتبہ یا اس سے زائد کہا ہے، تو فوراً بیوی کو اپنے سے الگ کر دینا اس پر لازم ہے اور بیوی کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر واقعی اس نے تین بار اپنے کان سے سنا ہے اور تین بار طلاق دینے کا اس کو یقین ہو چکا ہے، تو اس کے لئے اس شوہر کے پاس جانا قطعاً جائز نہیں ہے، اگر شوہر تین طلاق کا انکار کرے، تو خلع وغیرہ کے ذریعہ سے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے، اور اس کے پاس نہ جائے۔

وإذا قال: أنت طالق، طالق، طالق، وقال: إنما أردت به التكرار صدق ديانة لا قضاء، فإن القاضي مأمور باتباع الظاهر، والله يتولى السرائر، والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك، أو علمت به؛ لأنها لا تعلم إلا الظاهر. (تبيين الحقائق، زكريا ۳/۸، امداديه ملتان ۲/۲۱۸، ہندیہ، زکریا ۱/۳۵۴، جدید زکریا دیوبند ۱/۴۲۲)

والمرأة كالقاضي إذا سمعته، أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه،

والفتویٰ علیٰ أنه لیس لها قتله ولا تقتل نفسها؛ بل تفدی نفسها بمال،
 اوتھرب۔ (شامی، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۳/۵۱، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۵۷، زکریا ۳/۴۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۳ رزی الحجہ ۱۴۳۲ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۴۰/۱۱۳۳۵)

عورت حنفی اور شوہر غیر مقلد ہو تو طلاق میں کن کا اعتبار ہوگا؟

سوال [۵۹۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کوئی غیر مقلد شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے؛ جبکہ اس کی بیوی امام ابوحنیفہؒ کے مسلک کی متبع ہے اور وہ شوہر جو غیر مقلد ہے، وہ ایک مجلس میں تین طلاق دیتا ہے، اور پھر بیوی کو اپنے گھر لے جانے کے لئے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تین ہی طلاق واقع ہوتی ہیں۔ اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے، طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ لڑکی کو شوہر کے گھر بھیجا جائے یا نہیں؟ جیسا بھی ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر فرمائیں، نوازش ہوگی۔

المستفتی: کلیم اللہ بستوی، مہاراشٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب حنفی مذہب کی عورت پر تین طلاق واقع ہوگئی ہیں، تو اس پر مذہب حنفی کے مطابق اپنے کو شوہر پر حرام سمجھنا اور اس شوہر سے علیحدہ ہو جانا لازم ہے اور میاں بیوی کے اختلاف کی صورت میں جب بیوی کو اپنے مذہب کے مطابق تین طلاق کا علم ہو جائے، تو اپنی علیحدگی میں خود مختار ہو جایا کرتی ہے؛ لہذا عورت کے لئے اب شوہر کے یہاں جانا ہرگز جائز نہیں ہے۔

والمرأة كالقاضي إذا سمعته، أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه.
(شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۳/۲۵۱، البحر الرائق،
کوئٹہ ۳/۲۵۷، زکریا ۳/۴۴۸)

والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك، أو علمت به؛
لأنها لا تعلم إلا الظاهر. (تبیین الحقائق، ملنادیہ، ملتان، ۲/۲۱۸، زکریا ۳/۸۲)
والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك،
أو شهد به شاهد عدل عندها. (ہندیہ، زکریا ۱/۳۵۴، جدید زکریا دیوبند ۱/۳۲۲)
فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴/۱۲/۱۴۱۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵/ذی الحجہ ۱۴۱۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۶/۲۰۵)

بے قصور طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے

سوال [۵۹۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں:
کہ اگر شوہر بلا وجہ بلا تصور لڑکی کو طلاق دیتا ہے؛ جبکہ لڑکی کا کوئی قصور نہ ہو تو طلاق واقع
ہو جاتی ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد ادریس، محلہ: پٹھان، علی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: بے قصور طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛
البتہ ایسی صورت میں شوہر گنہگار ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال
چیزوں میں سب سے مبغوض ترین چیز طلاق ہے۔“

عن ابن عمر أن النبي صلى الله صلى عليه وسلم قال: أبغض
الحلال إلى الله الطلاق. (أبو داود شریف، کتاب الطلاق، باب کراهیة الطلاق،

النسخة الهندية ۱/۲۹۶، دارالسلام رقم: ۲۱۷۸، سنن ابن ماجه أبواب الطلاق، النسخة الهندية

۱۴۵، دارالسلام رقم: ۲۰۱۸، مشکوة شريف ص: ۲۸۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۳/۶۸۵)

بیوی کو ڈرانے کے لئے طلاق دینے سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟

سوال [۵۹۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر رہ رہا ہو کہ اس کو مسائل سے کچھ واقفیت نہ ہو اور اس نے اپنی بیوی کو ڈرانے کے لئے کہ ”میں تم کو تین طلاق دے رہا ہوں“ یا اس نے ایک بار کہا، پھر کچھ دنوں کے بعد کہا لیکن اس کو معلوم نہیں تھا، تو کیا کرے؟ حلالہ بھی نہیں کرانا چاہتا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔

المستفتی: کلیم خاں گورکھپوری، معلم مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسئلہ معلوم نہ ہونے کی حالت میں ڈرانے کے لئے (بیوی کو) طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگر ہر شخص کو مسئلہ معلوم ہوتا تو دارالافتاء میں مفتی خالی بیٹھا رہتا۔ نیز طلاق صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلا نیت ڈرانے کے لئے کہا ہو یا کسی اور غرض سے کہا ہو ہر صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، لہذا اگر تین طلاق کہا ہے، تو تینوں طلاقیں واقع ہو کر مغلظہ ہو گئی اور اگر ایک طلاق یا ایک بار لفظ طلاق کہا ہے، تو ایک طلاق واقع ہو گئی اور اگر بعد میں دو طلاق کہا ہے، یا تین طلاق کہا ہے تو سب ملا کر تین طلاق واقع ہو جائیں گی۔

إن الصریح لا یحتاج إلى النیة. (شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح،

زکریا ۴/۶۱، کراچی ۳/۲۵۰)

لأن الصريح موضوع للطلاق شرعاً، فكان حقيقة فيه فاستغني عن النية، حتى لو نوى بشيء من ذلك الطلاق من القيد لا يصدق قضاء الخ. (مجمع الأنهر قديم، ۳۸۶/۱، جديد درالكتب العلمية بيروت ۱/۲)

الطلاق على ضربين: صريح، وكناية، فالصريح: قوله أنت طالق، مطلقة، وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجعي..... ولا يفترق إلي النية؛ لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال. (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق، اشرفي ديوبند ۳۵۹/۲ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۴/۱۱۶)

نکاح کی حرص دلا کر طلاق حاصل کرنا

سوال [۵۹۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے بھائی کی ایک بیوہ تھی، جو نو سال سے بیوہ تھی، کچھ دن ہوئے اس نے ایک انصاری برادری کے آدمی کے ساتھ نکاح کر لیا، جب وہ اپنے شوہر کے وہاں سے واپس آئی اور بچوں کو لینے کے لئے آئی تو بچوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، وہ بچے جانے کے لئے تیار نہ تھے، ایک بچے کی عمر تقریباً ساڑھے دس سال اور دوسرے کی نو سال ہے، جب وہ بچوں کی وجہ سے بہت روٹی، تو میں نے اس سے اپنے نکاح میں لانے کا وعدہ کیا اور اس نے اس آدمی سے آزادی لے لی، اس نے اس کو طلاق دیدی؛ لیکن میری ماں اور میرے بہن بھائی اور میرے خاندان والے اس نکاح کو کرانے یا اس کے ساتھ نکاح میں لانے کو تیار نہیں ہیں، میری ماں اس سے پہلے سے ہی ناراض رہتی ہے؛ کیونکہ اس نے ان کی شان میں بدتمیزی کے الفاظ بولے تھے، اس معاملہ میں جبکہ میری ماں اس سے ناراض ہے اور ایک طرف اس

نے میرے وعدے کے مطابق اس سے طلاق لے لی ہے۔ آپ کا اس معاملہ میں کیا فتویٰ ہے؟ اب اس کی عدت بھی ختم ہو چکی ہے؟

المستفتی: عبدالقدیر، بڑی مسجد اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نکاح کی حرص دلا کر شوہر سے طلاق حاصل کروانا سخت گناہ ہے؛ اس لئے اللہ تعالیٰ سے توبہ واستغفار کر لینا ضروری ہے، عدت ختم ہونے کے بعد آپ کو اختیار ہے، چاہے اپنے نکاح میں لائیں یا نہ لائیں اور والدہ کو راضی کرنا بھی ضروری ہے۔

قال الله تبارک و تعالیٰ: فَأُنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا. [النساء: ۳] فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۵/۱۷۳۷۸)

ان بری باتوں پر لوگوں نے طلاق دیدی ہیں کہنا

سوال [۶۰۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اپنی والدہ کی طبیعت خراب ہونے پر اپنی اہلیہ کو سسرال سے بلا لایا، یہاں آ کر میری اہلیہ ناراض ہوئی اور جھگڑا شروع کر دیا، میں نے اپنی اہلیہ کو سمجھانے کے لئے ان الفاظ کو ادا کیا ”بتارہا ہوں تجھے ان بری باتوں پر لوگوں نے طلاق دیدی ہیں“ کیا اس طرح سمجھانے کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے؟

المستفتی: محمد عرفان، محلہ: ڈیرہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس طرح لوگوں کے واقعات کی طرف توجہ دلانے کی

غرض سے بیوی کو مخاطب کر کے کہنے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔

کما يستفاد من الأشباه والنظائر: لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها،
ويقول في كل مرة أنت طالق لم يقع. (الأشباه والنظائر قديم ص: ۴۵)

لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها، أو كتب ناقلا من كتاب امرأتي
طالق مع التلطف، أو حكى يمين غيره، فإنه لا يقع أصلا ما لم يقصد زوجته.
(شامی، کراچی ۳/۲۵۰، زکریا ۴/۶۱۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ رذی الحجہ ۱۴۰۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۹۶۲۳)

مرتد کی طلاق

سوال [۶۰۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ ایک شخص محمد ولد حاجی مقبول احمد ساکن محلہ: بیگم سرائے امر وہ تقریباً پانچ سال
سے مرتد چلا آ رہا ہے اور صرف مرتد ہونے کی وجہ سے احمد رضا خاں کے ترجمہ کو پڑھتا ہے، زمانہ
ارتداد میں ہی اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ اب یہ شخص بہت ہی پریشان ہے اور اکثر نو
مسلم ہونا چاہتا ہے، اس کی بیوی کو کئی سال گزرے نسبتی کرائے ہوئے، تجدید ایمان کے بعد
تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا؟ اگر ہوگا تو کس طرح؟ کیا عدت وغیرہ بھی کرنی ہوگی؟ کیا مرتد
کی طلاق کا اعتبار ہے؟

المستفتی: سلطان احمد، انصاری، بیگم سرائے کلاں، امر وہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ شخص پر محض احمد رضا خاں صاحب کا ترجمہ پڑھنے
کی وجہ سے حکم ارتداد کس طرح لگایا گیا، اس کی وضاحت لازم تھی، تاہم اگر کوئی واقعہ مرتد

ہوجاتا ہے اور عدت کے اندر اندر بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو طلاق واقع ہوجاتی ہے اور اگر تین طلاق دی ہیں، تو حلالہ اور تجدید اسلام کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں اور دوسرے شوہر کے طلاق دینے کے بعد عدت گزار کر ہی نکاح ہو سکتا ہے۔

إن الطلاق الصریح یلحق المرتدة فی عدتها، وإن كانت فرقتها فسحاً؛ لأن الحرمة بالردة غیر متأبدة لارتفاعها بالإسلام، فیقع طلاقه علیها فی العدة مستتبعا فائدته من حرمتها علیها بعد الثلاث حرمة مغبیة بو طء زوج آخر.

(شامی، کتاب النکاح، باب الولی، کراچی ۷۰/۳، زکریا ۱۷۶/۴، وقبیل باب التفویض، شامی، کراچی ۳۱۳/۳، زکریا ۵۵۰/۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳/ رمضان المبارک ۱۴۱۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۶/۸/۱۹۰۷)

غیر مسلم عدالت میں مسلم حج کے طلاق کے فیصلہ کا حکم

سوال [۶۰۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ابراہاں بن تقدیر خاں کی شادی ناصرینہ بنت ابراہیم خاں سے ہوئے پانچ چھ سال ہو گئے، لڑکی تقریباً چھ ماہ شوہر کے ساتھ رہی اور کسی بات پر ناراض ہو کر میکے چلی گئی، اس کے بعد سے وہ آئی ہی نہیں، اسی درمیان اس نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا اور نفقہ متعین کروا لیا جو ابراہاں ہر ماہ چار سو روپیہ کے حساب سے دے رہا ہے، اب پتہ چلا کہ لڑکی نے عدالت سے طلاق بھی لے لی ہے اور اب وہ مہر کا دعویٰ کر رہی ہے، تو اب جواب طلب امر یہ ہے کہ کیا لڑکی کے عدالت سے طلاق لے لینے سے طلاق واقع ہوجائے گی؟ جبکہ شوہر موجود ہے، اس کو بلایا بھی نہیں گیا ہے اور اس نے طلاق بھی نہیں دی ہے؛ بلکہ وہ تو اب بھی رکھنا چاہتا ہے، دوسری چیز جب تک اس کی دوسری جگہ شادی نہیں ہوجائیگی اس وقت

تک ابرار سے ماہانہ نفقہ لیتے رہنا؛ جبکہ وہ اپنے میکہ میں ہے اس کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ اور کیا ابرار پر لازم ہے کہ اس کو اس طرح نفقہ دیتا رہے؟

المسفتی: تقدیر خاں، وارڈ: ارسہاگ پور، مہمڈ ول (ایم پی)
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غیر مسلم عدالت میں مسلم حج کا طلاق کے معاملہ میں وہ فیصلہ معتبر ہوتا ہے، جو شریعت کے مطابق ہو اور شریعت کے مطابق فیصلے کا طریقہ یہ ہے کہ عدالت میں شوہر کو بلا کر کے اس سے بھی بیان لیا جائے اور ضرورت پڑے تو اسی سے طلاق دلائی جائے اور غیر مسلم عدالت میں غیر مسلم حج کا طلاق کا فیصلہ دینا؛ جبکہ شوہر نے خود طلاق نہ دی ہو شرعاً معتبر نہیں ہے، طلاق واقع ہونے کے لئے شوہر کا از خود طلاق دینا لازم ہے اور جب شوہر نے خود طلاق نہیں دی، تو ایسی صورت میں بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، وہ شرعی طور پر بدستور اسی شوہر کے نکاح میں باقی ہے۔ (مستفاد: ایضاح السنوادر ۱۵۲۲)

قال اللہ تبارک وتعالیٰ: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. [النساء: ۱۴۱]

لم ينفذ حكم الكافر على المسلم، وينفذ للمسلم على الذمي.
(شامی، کتاب القضاء، باب التحکیم، زکریا ۸/۱۲۶، کراچی ۵/۴۲۸)
نیز جو عورت شوہر کی مرضی کے بغیر میکہ جا کر بیٹھ جائے اور حقوق زوجیت ادا نہ کرے وہ شرعی طور پر نان و نفقہ کی مستحق نہیں ہوتی؛ اس لئے ایسی صورت میں شوہر پر نان و نفقہ لازم نہیں۔

لا نفقة لأحد عشر: وخارجة من بيته بغير حق وهي الناشرة
حتى تعود. (در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب النفقة، کراچی ۳/۵۷۹،
زکریا ۵/۲۸۶)

وان نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله. (هدایہ، اشرفی

دیوبند ۲/۴۳۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳۰ رجب المرجب ۱۴۲۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۸۹۱۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳۰/۷/۱۴۲۶ھ

عدالت کی طلاق کا حکم

سوال [۶۰۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیٹی ریہشما بانو کی شادی تقریباً ۱۳ برس قبل عاشق علی ساکن شاہجہاں پور مقیم حال دہلی سے ہوئی تھی، شادی کے تقریباً ۵ سال تک لڑکی و شوہر کے تعلقات ٹھیک رہے اس کے بعد کچھ تعلقات خراب ہونے لگے، تعلقات خراب ہونے پر عدالت سے رجوع ہونا پڑا، جب پھر بھی معاملہ صحیح نہ ہوا، تو مجبوراً عدالت سے ایک طرفہ طلاق دلوادی، طلاق کے تقریباً ۳ برس کے بعد عدالت کے باہر آپس میں تحریری صلح کر لی، اس شرط کے ساتھ کہ اب ہم لڑکی کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور کوئی تکلیف وغیرہ نہیں دیں گے، تو پھر ہم لوگوں نے لڑکی کو سسرال بھیج دیا؛ لیکن پھر کچھ ہی دن بعد تعلقات خراب ہو گئے، پھر لڑکے نے لڑکی کو ہمارے گھر بھیج دیا، اس وقت سے آج تک لڑکی گھر پر ہے، لڑکی کے ایک لڑکا اور لڑکی بھی ہے، لڑکا باپ کے پاس اور لڑکی ماں کے پاس ہے، جب کافی انتظار کے بعد لڑکے سے اس بارے میں بات کی گئی، تو اس نے جواب دیا کہ میری طلاق تو عدالت میں ہو چکی ہے، ایسی صورت میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیا عدالت کے ذریعہ طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو اس کی طلاق کی کیا صورت ہوگی؛ تاکہ ہم اپنی بیٹی کی دوسری جگہ شادی کر سکیں اور لڑکے والے اگر کوئی قانونی کارروائی کریں، تو ہم لوگوں کو کوئی دشواری نہ ہو، دوسری جگہ شادی کرنے میں، اور اگر عدالت کے ذریعہ طلاق کو شرعی حیثیت حاصل نہیں ہے تو کوئی شرعی حکم تحریر فرمادیں۔

المستفتی: عبدالباری، اشرف ٹولہ، ہردوئی (پوئی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: طلاق کے سلسلہ میں عدالت کا فیصلہ معتبر ہونے اور نہ ہونے میں دو شکلیں ہے:

(۱) کسی مسلمان اور عادل حجج نے حدود شرع کی رعایت کرتے ہوئے طلاق کا فیصلہ بصورت مجبوری نافذ کیا، تو ایسی صورت میں اس کا فیصلہ طلاق صحیح ہوگا اور عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی۔

(۲) طلاق کا فیصلہ کرنے والا اگر غیر مسلم شخص تھا، تو ایسی صورت میں اس کا فیصلہ معتبر نہ ہوگا اور عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی، اس بارے میں صاحب معاملہ خود دیکھ لے کہ عدالت سے جو طلاق حاصل ہوئی تھی، اس طلاق کا فیصلہ مسلم حجج نے حدود شرع کی رعایت کرتے ہوئے کیا تھا یا غیر مسلم حجج کا فیصلہ تھا، اگر مسلم حجج کا فیصلہ تھا، تو تفریق صحیح ہوگئی تھی؛ لہذا عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کرنا صحیح ہے، مگر ایسی صورت میں شوہر نے جو دوبارہ اپنے ساتھ رکھا تھا وہ ناجائز ہوگا اور اگر مسلم حجج نہیں تھا؛ بلکہ غیر مسلم حجج نے فیصلہ صادر کیا تھا، تو طلاق واقع نہیں ہوئی تھی، اس کا بعد میں شوہر کے ساتھ رہنا درست ہوا۔ اب شوہر سے طلاق یا شرعی تفریق حاصل کئے بغیر اس لڑکی کا نکاح درست نہ ہوگا۔ (مستفاد: ایضاح النواہر ۲/۱۵۱)

قال الله تبارک وتعالیٰ: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

سَبِيلًا. [النساء: ۱۴۱]

لم ينفذ حکم الکافر علی المسلم، وینفذ للمسلم علی الذمی.

(شامی، کتاب القضاء، باب التحکیم، زکریا ۸/۱۲۶، کراچی ۵/۴۲۸)

لا یجوز للرجل أن یتزوج زوجة غیره. (ہندیہ، زکریا ۱/۲۸۰، جدید

زکریا دیوبند ۱/۳۴۶)

ولا یجوز نکاح منکوحہ الغیر و معتدة الغیر. (حانیہ علی الہندیہ،

زکریا ۱/۳۶۶، جدید زکریا دیوبند ۱/۲۲۱، شامی، کراچی ۳/۱۳۲، زکریا
 ۴/۲۷۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۱۳۸/۹۰۰۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶/۵/۱۴۲۷ھ

غیر مسلم عدالت کی طلاق کے فیصلہ کا حکم

سوال [۶۰۰۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندو مہذب گھر کی ایک غریب لڑکی ہے والد کا سایہ بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا، والدہ کافی بوڑھی ضعیف ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بھائی اور بہن بھی ہے، زمین و جائیداد وغیرہ کچھ بھی نہیں، اس ہندو کا نکاح اہل ثروت زید سے ہو گیا، نکاح کے بعد زید ریاض چلا گیا، عرصہ دراز کے بعد ہندوستان واپسی ہوئی زید نے زوجہ کی محبت میں زوجہ کے نام کافی رقم بینک میں جمع کر دی اور زید پھر ملک ریاض چلا گیا، مدت ہو گئی، تب زید پھر ہندوستان واپس آیا اور زوجہ سے پیار و محبت کی باتیں کر کے سابقہ بینک بیلنس واپس لے لیا، پھر زید ملک ریاض چلا گیا اور نفرتی خط و کتابت کرنے لگا، ہندو افسوس کا ہاتھ مل کر رہ گئی، زید کو جب یہ علم ہوا کہ میری بیوی میکہ میں رہتی ہے، تو پھر ہندوستان آیا اور گاؤں کی ایک طائفہ لڑکی کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا اور قرب و جوار میں مشہور کر دیا کہ اب میں نے دوسرا نکاح کیا ہے اور حقیقت میں نکاح پڑھانے والا معلوم ہے، جب یہ علم ہندو کو ہوا، تو ہندو اپنے شوہر زید کے گھر گئی اور کہنے لگی، آپ نے مجھ کو چھوڑ کر طائفہ لڑکی سے نکاح کیسے کر لیا؟ تو زید نے ہندو کو جواب دیا کہ اب میں تجھ کو نہیں رکھوں گا اور نہ طلاق دوں گا، یہ سن کر ہندو کافی پریشان ہوئی اور اب تقریباً پانچ سال سے میکہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس درمیان ہندو کے شوہر نے ہندو کے

گھر میں آگ لگوا دی اور مخبروں کے ذریعہ کہلوا یا کہ ہندہ کی جان خطرہ میں ہے، تو ہندہ نے اپنی حفاظت کے لئے عدالتی مقدمہ شروع کر دیا، مقدمہ اب تک چل رہا ہے، جب مقدمہ ہندہ کے حق میں ہو جاتا ہے، تو زید رشوت دے کر وکیلوں کو اپنا لیتا ہے، وکیل مقدمہ فائل ہونے سے روک دیتا ہے، ہندہ کی زندگی کانٹوں میں بسر ہو رہی ہے، مقدمہ بازی سے عاجز و پریشان ہو کر اب شرعی دارالافتاء سے رابطہ قائم کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عدالت ہندہ کے حق میں فیصلہ کر دے، تو اس کو ماننا کیسا ہے؟ یا عدالت ہندہ کے مسئلہ کو معلق رکھے، تو ہندہ کب تک معلق رہے گی؟ یا ہندہ بغیر عدالتی فیصلہ کے نکاح ثانی کر سکتی ہے؟

المستفتی: محمد ہارون مظاہری، خادم العلوم، سہارنپور (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: غیر مسلم عدالت کے غیر مسلم حج کی طلاق کا فیصلہ شرعی طور پر معتبر نہیں ہوتا؛ اس لئے اگر ہندہ کے بارے میں عدالت تفریق کا فیصلہ کر دے گی، تو وہ فیصلہ معتبر نہ ہوگا اور دوسری جگہ نکاح کرنا ہندہ کے لئے جائز نہ ہوگا۔ (مستفاد: ایضاح النوادر ۱۵۲/۲)

قال الله تبارك وتعالى: **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ**

سَبِيلًا. [النساء: ۱۴۱]

لم ينفذ حكم الكافر على المسلم، وينفذ للمسلم على الذمي.

(شامی، کتاب القضاء، باب التحکیم، زکریا ۱۲۶/۸، کراچی ۵/۴۲۸)

لہذا تفریق تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب شوہر طلاق یا خلع وغیرہ سے علیحدہ کر دے یا شرعی عدالت یا شرعی محکمہ تفریق کر دے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ رشول المکرم ۱۴۱۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۹۷۴)

ہندوستانی عدالت کی طلاق کی شرعی حیثیت

سوال [۶۰۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قریب عرصہ چار سال پہلے میری لڑکی نازینہ پروین کی شادی شاہد علی کے ساتھ ہوئی تھی، اس دن سے میاں بیوی کے مزاج آپس میں نہیں ملے، اس چار سال کے عرصہ میں میری لڑکی ساڑھے تین سال میرے یہاں رہی۔ اب دو سال سے مسلسل میرے یہاں رہ رہی ہے، اس کا اپنا کوئی مکان نہیں ہے کبھی کبھی جو میری لڑکی اس کے یہاں رہی تو اس نے مختلف جگہوں پر اسے رکھا، جب میری لڑکی ہر جگہ ذلیل ہوئی تو میں نے پانچ ہزار روپیہ پیشگی دے کر مکان کرایہ پر دلوا یا، وہ اس میں بھی نہیں رہا، کرایہ بھی میں نے ادا کیا اور میری لڑکی کا سامان خرد برد کر کے کہیں چلا گیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ کسی بازاری عورت کے ساتھ رہتا ہے، رکشا چلاتا ہے اور روز شراب پیتا ہے، شراب پی کر میری لڑکی کو مارتا تھا، اس عرصہ میں اس نے میری لڑکی کا کوئی خرچ نہیں اٹھایا، کپڑے وغیرہ میں نے ہی بنائے، مجبور ہو کر میں نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور اس سے کہا کہ جب تو میری لڑکی کا خرچ نہیں اٹھا سکتا تو میری لڑکی کو آزاد کر دے، تو اس نے کہا کہ زندگی بھر ایسے ہی بٹھائے رکھوں گا اور آزاد نہیں کروں گا، اب میں کیا کروں؟ میری لڑکی کی عمر بیس سال ہے، وہ اس طرح کب تک بیٹھی رہ سکتی ہے، میرے حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ میں اس کا خرچ برداشت کر سکوں۔

اب میری لڑکی کسی بھی شکل میں اس کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی، میں سمجھا سمجھا کر ہار گئی ہوں، مجبور ہو کر میں نے مراد آباد کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے۔

المسئفتیة: پھول بیگم، رفعت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ہندوستان میں عدالت دنیاوی سے جو طلاق حاصل کی

جاتی ہے، وہ شرعاً معتبر نہیں ہوتی ہے؛ اس لئے لڑکی کا معاملہ شرعی حکمہ میں پیش کر دیں شاید وہاں سے کوئی حل نکل آئے گا۔

قال الله تبارک وتعالیٰ: وَكُنْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

سَبِيلًا [النساء: ۱۴۱]

لم ينفذ حكم الكافر على المسلم وينفذ للمسلم على النمي. (شامی، کتاب القضاء، باب التحکیم، زکریا ۸/۱۲۶، کراچی ۵/۴۲۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳۰ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

۱۴۱۸/۴/۳۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۵۲۷۱۳۳)

بیوی کا کورٹ سے طلاق لینا

سوال [۶۰۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں سید محمد جاوید آفتاب ولد سید آفتاب علی مرحوم ساکن مولوی گنج بھٹیڑ منڈی لکھنؤ ہوں، میرا نکاح شہناز فاطمہ عرف رضوی بنت سید واحد علی مرحوم سے ۲۵ رمضان المبارک مطابق ۱۴ مارچ ۱۹۹۳ء کو ہوا تھا، میں نکاح کے ایک ماہ کے بعد نوکری کی غرض سے ممبئی چلا گیا اور سال میں دو تین مرتبہ اپنی بیوی کی خیریت کے لئے لکھنؤ آتا اور جب بھی آیا میں نے دس پانچ ہزار روپیہ ان کو دیا، میری بیوی ٹیچر ہیں، ہر کاری ملازمہ ہیں انہوں نے مجھ سے بار بار کہا کہ نوکری چھوڑ کر ممبئی سے چلے آؤ، لکھنؤ ہی میں میرے مکان میں میرے ساتھ رہو؛ چنانچہ میں ۲۰ مارچ ۲۰۰۰ء کو اپنا سب کچھ ختم کر کے نوکری چھوڑ کر چلا آیا اور اپنی بیوی کے ہمراہ انہیں کے مکان میں رہنے لگا۔ دوران رہائش سخت بیمار ہوا۔ اور دل کا مریض ہو گیا پیسہ ہونے کے باوجود انہوں نے میری طرف کوئی دھیان نہیں دیا؛ جبکہ ممبئی سے واپسی پر کافی پیسہ ساتھ لایا تھا، جتنا پیسہ میرے پاس تھا، وہ سب

انہیں کے گھر پر ختم ہو گیا؛ بلکہ پیسہ کے لئے مزید مجھے تنگ کرتی رہیں، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں ان کے مکان میں ایک نوکر کی طرح پڑا رہوں، تقریباً دو سال، ہم لوگ اس کشمکش میں رہتے رہے، ان کا حال یہ تھا کہ مجھے گھر پر تنہا چھوڑ کر ایک ایک ماہ کے لئے گھر سے غائب ہو جایا کرتی تھیں۔ بالآخر انہوں نے ۱۷ اکتوبر ۲۰۰۲ء کو پولیس کے ذریعہ مجھے گھر سے نکلوا دیا اور میرے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور سخت دفعات لگوا دیں اور اب کورٹ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں اور میں طلاق دینا نہیں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کی طرح ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے زندگی گذاریں؛ لہذا درخواست ہے درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔

- (۱) کیا شہناز فاطمہ کا کورٹ سے طلاق مانگنا درست ہے؟
- (۲) جب میں پورے طور پر ان کے حقوق کی رعایت کے ساتھ اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، تو ان کا مجھ سے طلاق مانگنا از روئے شرع کیسا ہے؟
- (۳) چونکہ وہ مجھ سے پندرہ سال بڑی ہیں، مجھے بوجھ محسوس کر رہی ہیں، ان کا یہ فعل کیسا ہے؟
- (۴) بارہا انہوں نے فون کے ذریعہ میرے ملنے والوں سے کہا کہ میرا اور جاوید کا کوئی تعلق نہیں، میں نے ان سے چھٹکارا لے لیا ہے، کیا وہ واقعی کورٹ سے میرے طلاق دیئے بغیر چھٹکارا حاصل کرنے کی حق دار ہیں؟

المستفتی: سید جاوید آفتاب، مولوی گنج، بھٹاری منڈی، کھنڈ
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شہناز فاطمہ کا بغیر عذر شرعی کے کورٹ سے طلاق کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے اور اگر وہ کورٹ سے طلاق نامہ حاصل کر بھی لیتی ہے، تو غیر مسلم حج کا طلاق کا فیصلہ کرنا شرعی طور پر معتبر اور صحیح نہیں ہوگا اور اس سے بیوی پر طلاق نہیں ہوگی۔ نیز جبکہ شوہر بیوی کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ اپنی زوجہ بنا کر رکھنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں شہناز فاطمہ کا طلاق کا مطالبہ کرنا شرعی طور پر درست نہیں ہے، بیوی کو چاہئے اپنے شوہر

جاوید کے ساتھ زن و شوہر کی زندگی گزارے اور شوہر کو بوجھ محسوس نہ کرے؛ بلکہ دونوں ایک دوسرے کے تمام حقوق کی رعایت کریں، اس کے باوجود اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو شوہر کو اختیار ہے کہ مہر کی معافی کی شرط لگا کر طلاق دے، اور بلاوجہ شرعی طلاق کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے عورت گنہگار ہوگی۔

قال الله تبارک و تعالیٰ: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

سَبِيلًا. [النساء: ۱۴۱]

لم ينفذ حكم الكافر على المسلم، وينفذ للمسلم على الذمي.

(شامی، کتاب القضاء، باب التحکیم، زکریا ۸/۱۲۶، کراچی ۵/۴۲۸)

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. [البقرہ: ۲۲۹]

عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة

سئلت زوجها الطلاق من غير بأس حرم الله عليها أن تريح رائحة

الجنة. (مستدرک للحاکم، نزار مصطفى الباز ریاض ۳/۱۰۶۰، رقم:

۲۸۰۹، سنن کبریٰ، دارالفکر بیروت ۱۱/۱۸۴، قدیم ۷/۳۱۶، رقم:

۱۵۲۳۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۷/۸۰۵۸)

غیر مسلم حج سے طلاق لینے کے بعد شوہر کے پاس واپس آنا

سوال [۶۰۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ میرا بیوی سے جھگڑا چلتا رہتا تھا، تین چار سال چلا اور اس بیچ ہمبستر بھی نہیں

ہوئے، اسی درمیان وہ ایک ماسٹر کیساتھ بچوں کو لے کر بھاگ گئی اور اس نے عدالت سے

طلاق بھی چپکے سے چار سو بیسی سے لے لی۔ اب وہ آنا چاہتی ہے، مجھ کو رکھنا چاہئے یا نہیں؟ اور یہ طلاق عدالت سے ایک غیر مسلم حج سے لی ہے۔

المستفتی: محمد اسلم، کسرول، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپسی جھگڑے کی وجہ سے تین چار سال تک بیوی سے ہمستر نہ ہونے کی وجہ سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا؛ بلکہ بیوی شوہر کے نکاح میں بدستور باقی ہے اور جو غیر مسلم حج نے طلاق کے متعلق فیصلہ دیا ہے، وہ شرعی طور پر معتبر نہیں ہے اور نہ ہی بیوی کو آزادی حاصل ہوگئی ہے۔ اب اگر وہ دونوں ایک ساتھ رہنا چاہیں تو بلاشبہ رہ سکتے ہیں۔

قال اللہ تبارک وتعالیٰ: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

سَبِيلًا. [النساء: ۱۴۱]

لم ينفذ حكم الكافر على المسلم، وينفذ للمسلم على الذمي.

(شامی، کتاب القضاء، باب التحکیم، ذکر یا ۸/۱۲۶، کراچی ۵/۴۲۸، ایضاح النوادر ۲/۱۵۲) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ شوال المکرم ۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۶۱۳۷/۸۵۷)

ہندوستانی عدلیہ کے حج کی طلاق، تفریق اور فسخ کا حکم

سوال [۶۰۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید جو کہ پاکستان کا باشندہ ہے، وہ ہندوستان میں ہندہ سے نکاح کرنے کے چار یوم بعد پاکستان چلا گیا، جس کو قریب پانچ سال کا عرصہ ہو گیا، ہندہ کے پاکستان

جانے کی کوئی صورت نہیں ہے اور وہاں ہندہ کے شوہر زید نے دوسری شادی کر لی، ہندہ نے مجبور ہو کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا عدالت سے طلاق ہو گئی، زید باوجود سمن وصول ہونے کے نہیں آیا، کیا یہ عدالتی طلاق شرعی طور پر کافی ہے؟ لڑکی جدائی اختیار کرنے کے لئے کیا صورت اختیار کرے؟

المستفتی: شیر محمد، نئی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ہندوستانی عدالت میں غیر مسلم کا طلاق یا تفریق اور فرج وغیرہ کر دینا شرعی طور پر معتبر نہیں ہے، اسی طرح مسلم حج جو مسائل شرعیہ کے خلاف تفریق کر دے، تو وہ بھی شرعاً معتبر نہیں ہے، لڑکی کے لئے شوہر سے تفریق شرعی حاصل کئے بغیر دوسری جگہ نکاح کرنا درست نہیں ہے۔

قد اتفق أئمة الحنفية، والشافعية على أنه يشترط لصحة الحكم واعتباره في حقوق العباد، الدعوى الصحيحة، وأنه لا بد في ذلك من الخصومة الشرعية. (شامی، کتاب القضاء، مطلب فی الحكم الفعلي، زکریا ۲۳/۸، کوئٹہ ۳۳۲/۴، کراچی ۳۵۴/۵، تبیین الحقائق امدایہ ملتان ۱۹۳/۴، زکریا دیوبند ۱۱۸/۱) اور لڑکی کے لئے جدائی اختیار کرنے میں شوہر سے تفریق حاصل کئے بغیر یا کسی شرعی محکمہ سے فیصلہ لئے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے؛ لہذا اس سلسلہ میں لڑکی کسی محکمہ شرعیہ میں اپنی شکایات پیش کر دے محکمہ شرعیہ الحلیۃ الناجزہ کے اصول کے مطابق فیصلہ کر دے گی۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ ربیع اول ۱۴۱۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۵۷۸۷)

کورٹ سے طلاق حاصل کر کے نکاح کرنے کا حکم

سوال [۶۰۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ منصور کی بیوی ریحانہ نے منصور سے کہا کہ میں فلانی کے گھر جا رہی ہوں، بچی کی فیس جمع کرنے کے لئے اور ایک ہفتہ کے بعد آؤں گی، ریحانہ کے شوہر منصور نے ریحانہ سے کہا کہ تم اپنی بہن کے گھر مت جانا، ریحانہ ملائی کے گھر نہ جا کر اپنی بہن کے گھر چلی گئی، ریحانہ کی بہن ریحانہ کو اور امیر حسن ایک لڑکا کو لے کر اجیر شریف گئی اور اجیر شریف میں ہی عدالت سے طلاق دلوا کر عدالت میں ہی امیر حسن کے ساتھ کورٹ میرج کروا دیا، ریحانہ کا کہنا ہے کہ منصور نے مجھے طلاق دیدی ہے؛ جبکہ ریحانہ کا شوہر منصور کا کہنا ہے کہ ہم نے ریحانہ کو طلاق نہیں دی ہے، ریحانہ کے قول کے مطابق کس کا قول معتبر ہوگا، عدالت سے جو طلاق لی گئی یہ طلاق شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

نیز عدالت سے ہی کورٹ میرج کروا دیا ہے، یہ بھی شرعاً نکاح جائز ہے یا نہیں؟ ریحانہ شوہر اول کے گھر جانا نہیں چاہتی ہے، اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہر ایک مسئلہ کا تفصیل کے ساتھ جواب دیں، ریحانہ منصور کے نکاح میں ہے یا نہیں؟ شوہر ثانی ریحانہ کو رکھ سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبد الحفیظ خاں، پیرغیب، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شوہر منصور طلاق کا منکر ہے تو ریحانہ کا قول طلاق کے بارے میں شرعاً معتبر نہیں ہے، عدالت سے جو طلاق حاصل کی گئی ہے، وہ شرعاً معتبر نہیں ہے؛ جبکہ حاکم غیر مسلم ہو۔

لم یفد حکم الکافر علی المسلم. (شامی، کوئٹہ ۴/۳۸۶، زکریا ۸/۱۲۶)
اور امیر حسن کے ساتھ ریحانہ کا نکاح شرعاً صحیح نہیں ہوا ہے، ریحانہ شرعی طور سے منصور کی بیوی ہے، ریحانہ پر لازم ہے کہ فوراً امیر حسن سے الگ ہو جائے، امیر حسن کے ساتھ رہنا حرام کاری ہے، غضب الہی کا سخت خطرہ ہے۔

أما نکاح منکوحۃ الغیر، ومعتدته، فالدخول فیہ لایوجب العدة،

إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازہ، فلم ينعقد أصلاً. (شامی، کتاب النکاح، مطلب فی النکاح الفاسد، کراچی ۱۳۲۳/۳، زکریا ۲۷۴/۴) ولا يجوز نکاح منکوحۃ الغير ومعتدة الغير. (خانیة علی الہندیة، زکریا ۳۶۶/۱، جدید زکریا دیوبند ۲۲۱/۱)

لايجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة. (ہندیة، زکریا ۲۸۰/۱، جدید زکریا دیوبند ۳۴۶/۱)

والمحصنت من النساء عطف علی أمہاتکم یعنی حرمت علیکم المحصنت من النساء: أي ذوات الأزواج لا يحل للغير نکاحهن مالم یمت زوجها، أو يطلقها وتنقضی عدتها من الوفاة أو الطلاق. (تفسیر مظہری، سورۃ النساء تحت رقم الآیة: ۲۴، زکریا دیوبند ۲۷۳/۲-۲۷۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ ربیع الاول ۱۴۱۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۶۷۲۶-۲۱۷)

کورٹ کی طلاق

سوال [۲۰۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیٹی فرزانہ کی شادی اطہر الاسلام (بارہ دری) کے ہمراہ ۴ اکتوبر کو کی اور ہم نے حسب حیثیت مال وزر دیا اور مہر ۲۵ ہزار روپے طے کئے گئے، وہ اپنی بہن کے مکان میں رہتا ہے، اس نے شادی کی رات کو ہی لڑکی کو بتایا تھا کہ میں شادی کے لائق نہیں تھا، میرے بھائیوں نے زبردستی میری شادی کرا دی تھیں، تمہیں مجھ سے کچھ حاصل نہ ہوگا اور وہی ہوا کہ شادی کے بعد وہ لڑنے جھگڑنے لگا، وہ کسی بھی بات کو لے کر رات رات بھر لڑتا اور وہ اپنے بہنوئی اور بھائیوں سے پھوٹاتا، ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان دونوں کو سمجھا بجا کر پھر

بھیج دیا، وہ پھر لڑتا پھر لوگ سمجھاتے پھر بھیج دیتے، چار پانچ مرتبہ ایسا ہوا ایک دن وہ خود لڑکی کو ہمارے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ اور اس نے آنا جانا بند کر دیا، ہم نے رشتہ داروں کے ذریعہ بات کرائی، تو اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اسے رکھنا نہیں چاہتا، مالک مکان لڑکے کی بہن اس کا جہیز تو رکھنا چاہتی ہے، مگر لڑکی کو گھر میں نہیں رہنے دیتی اور وہ الگ مکان بھی نہیں لیتا، لڑکی نے بتایا کہ اس کا شوہر میڈیکل انفٹ ہے؛ یعنی وہ مرد نہیں ہے، لڑکا اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا کہ اس کو مہر دینے پڑیں گے، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیا ہم اس سے مہر مانگ سکتے ہیں؟ اس صورت میں اگر ہم لڑکی کو طلاق دلا کر کسی اور جگہ شادی کرادیں، تو کوئی گناہ تو نہیں؟ اس کا شوہر اس کو کوئی خرچ نہیں دیتا اور نہ اسے رکھنا چاہتا ہے اور نہ خود طلاق دیتا ہے، لڑکی کو ہمارے یہاں پورے تین سال ہو گئے، دونوں نے ایک دوسرے کی صورت بھی نہیں دیکھی اور نہ دیکھنا چاہتے ہیں۔

برائے کرم فتویٰ صادر فرما دیجئے کہ ہم اس لڑکی کو آزاد کرالیں، تو کوئی گناہ ہم پر واجب تو نہیں ہوگا لڑکی لڑکے کو نہیں چاہتی۔

المستفتی: ضمیر حسن، کہنہ مظہورہ، نئی سڑک، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عدالت مجاز سے طلاق دلانے سے طلاق نہیں ہوتی؛ لہذا جب تک شوہر طلاق نہ دے یا اس سے شرعی تفریق نہ کرائی جائے، دوسری جگہ لڑکی کی شادی جائز نہیں ہوگی؛ ہاں البتہ محکمہ شرعیہ کے ذریعہ سے تفریق کرائیں گے، تو جائز ہو سکتی ہے۔

قال اللہ تبارک وتعالیٰ: **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ**

سَبِيلًا. [النساء: ۱۴۱]

لم ينفذ حكم الكافر على المسلم، وينفذ للمسلم على الذمي.

(شامی، کتاب القضاء، باب التحکیم، ذکر کیا ۱۲۶/۸، کراچی ۴۲۸/۵،

ایضاح النوادر ۲/۱۵۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲ شعبان المعظم ۱۴۱۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۲/۳۹۶۱)

مروجہ عدالت کے ذریعہ طلاق

سوال [۶۰۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندہ کی شادی کو کچھ عرصہ ہو گیا ہے، دونوں میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکا، میاں نے دوسری شادی کر لی ہے، ہندہ بھی کورٹ یعنی سرکاری عدالت کے ذریعہ طلاق لے چکی ہے، شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، تو کیا ہندہ کا نکاح دوسرے سے کر دیں، جائز ہوگا یا نہیں؟ مفصل جواب سے نوازیں گے۔

المسفتی: صلاح الدین، سنکھی گھاٹ، پوسٹ: کنگلا کالا، سہرسہ (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غیر شرعی عدالت سے لی ہوئی طلاق شرعاً معتبر نہیں ہے، اس سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا؛ بلکہ بدستور باقی رہتا ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۶/۲۲۶، جدید ذکر ۶/۲۵۲، جدید ذکر یا مطول ۸/۳۸۹)

قال اللہ تبارک و تعالیٰ: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

سَبِيلًا. [النساء: ۱۴۱]

لم ينفذ حكم الكافر على المسلم. (شامی، کتاب القضاء، باب التحکیم،

کراچی ۵/۴۲۸، ذکر یا ۸/۱۲۶، کوئٹہ ۴/۳۸)

لہذا جب تک باقاعدہ تفریق شوہر سے حاصل نہ کرے گی، اس وقت تک دوسرا نکاح درست نہیں ہو سکتا۔

أما نكاح منكوحة الغير، ومعتدته، فالدخول فيه لا يوجب العدة، إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازها، فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كتاب النكاح، مطلب في النكاح الفاسد، زكريا ۴/۲۷۴، كراچی ۳/۱۳۲)

لا يجوز نكاح منكوحة الغير، ومعتدة الغير. (حانية على الهندية، زكريا قديم ۱/۳۶۶، زكريا جديد ۱/۲۲۱، هندية، زكريا قديم ۱/۲۸۰، زكريا جديد ديوبند ۱/۳۴۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
ارزی الحجہ ۱۴۱۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۶/۲۰۳۳)

غیر مسلم عدالت کی طلاق معتبر نہیں

سوال [۶۹۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ باغ گلاب رائے کی ایک لڑکی جس کا نام نرگس ہے، شب برأت کے دوسرے دن جامع مسجد کے نیچے ٹاٹ کالونی میں اس کامیکہ ہے، دو دن کے بعد میں اچانک یہ خبر ملی کہ اس کو کوئی لڑکا بہکا کر بھگا لے گیا ہے، جو خود بھی شادی شدہ ہے اور تین بچے ہیں نہایت جواری شرابی اور بدمعاش قسم کے لوگ ہیں، اس سے پہلے تین لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں، یہ لڑکی نرگس گھر سے ہنسی خوشی گئی تھی اور کوئی بھی رنجش نہیں تھی، ۱۳ دن کے بعد ان دونوں کو تھانہ مغل پورہ میں لایا گیا تھا اور اس کے بعد یہ لڑکی اپنی بڑی بہن کے گھر پر ہے۔ اب اس کا شوہر اس کو اپنے گھر میں کسی بھی قیمت میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، لڑکی کا شوہر یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے گئی تھی، اپنی مرضی سے آجاتی؛ لیکن ڈر کے مارے برا حال ہے؛ لیکن میں رکھوں گا نہیں اس لڑکی نے نکاح کر لیا تھا اور عدالت سے طلاق بھی لے لی تھی، تو یہ نکاح ہوا یا نہیں؟

المستفتی: میر صاحب، باغ گلاب رائے، نئی مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: عدالتی طلاق شرعاً معتبر نہیں؛ جبکہ شوہر نے طلاق نہیں دی اور غیر مرد کے ساتھ بھاگنے کی وجہ سے آپ کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ کا نکاح شرعاً بدستور باقی ہے اور آپ کی بیوی اور بھگا کر لیجانے والا مرد دونوں سخت ترین گنہگار ہوں گے، ان دونوں کو خالص دل سے توبہ کرنا لازم ہے، آئندہ کبھی اس طرح گناہ کبیرہ کا ارادہ بھی نہ کریں اور آپ کو بیوی بنا کر رکھنے میں عدت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

والمحصنات من النساء عطف علیٰ أمہاتکم یعنی حرمت علیکم
المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج لا یحل للغير نکاحهن مالم یمت
زوجها، أو یطلقها وتنقضی عدتها من الوفاة أو الطلاق. (تفسیر مظہری، سورۃ
النساء تحت رقم الآیة: ۲۴، زکریا دیوبند ۲/۲۷۳-۲۷۴)

ولایجوز نکاح منکوحۃ الغير، ومعتدة الغير. (خانیة علی الہندیة،
زکریا ۱/۳۶۶، جدید زکریا دیوبند ۱/۲۲۱)

لا یجوز للرجل أن یتزوج زوجة غیره، وكذلك المعتدة. (ہندیة،
زکریا ۱/۲۸۰، جدید زکریا دیوبند ۱/۳۴۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶ رمضان المبارک ۱۴۱۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۳۶۳۲۷)

مسلمہ عورت کا غیر شرعی عدالت سے طلاق حاصل کرنا

سوال [۶۰۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسلم عورت عدالت (غیر شرعیہ) سے طلاق حاصل کر سکتی ہے؟ اور اس طرح حاصل کی گئی طلاق کو شرعی طور پر طلاق تسلیم کیا جاسکتا ہے؟

(۲) کیا عدالت (غیر شرعی عدالت) کے ذریعہ حاصل کی گئی طلاق کے بعد عورت شرعاً عدت میں بیٹھ سکتی ہے اور عدت کی مدت کا خرچ شرعاً اپنے شوہر سے طلب کرنے کی حقدار ہے؟

المستفتی: جاوید مشتاق، لکھنؤ، مراوا آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۲/۱) عدالت غیر شرعی میں غیر مسلم حج یا مسلم حج جو احکام شرعیہ کے خلاف تفریق کر دیتے ہیں، اس سے شرعی طور پر کوئی طلاق یا تفریق شرعاً واقع نہیں ہوتی ہے، اور نہ اس طلاق کو شرعی طور پر تسلیم کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی عورت پر عدت لازم ہوگی اور نہ ہی شوہر پر عدت کا خرچ واجب ہوگا۔ اور عورت شوہر سے عدت کا خرچ طلب کرنے کی حقدار ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ (مستفاد: کفایت المفہمی قدیم ۲۲۶/۶، جدید ذکر یا ۲۵۲/۶، جدید ذکر یا مطول ۳۹۵/۸)

قد اتفق أئمة الحنفية، والشافعية على أنه يشترط لصحة الحكم واعتباره في حقوق العباد الدعوى الصحيحة، وأنه لا بد في ذلك من الخصومة الشرعية. (شامي، كتاب القضاء، مطلب في الحكم الفعلي، كراچی ۳۵۴/۵، زکریا ۲۳/۸، کوئٹہ ۳۳۲/۴، تبیین الحقائق، زکریا دیوبند ۱۱۸/۵، امدادیہ ملتان ۱۹۳/۴)

قال الله تبارك وتعالى: 'قال الله تبارك وتعالى: 'وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا'. [النساء: ۱۴۱]

لم ينفذ حكم الكافر على المسلم. (شامي، كتاب القضاء، باب التحكيم، كراچی ۴۲۸/۵، زکریا ۱۲۶/۸، کوئٹہ ۳۸۶/۴) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷/صفر المظفر ۱۴۱۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۵/۱۶۵۰)

شوہر کی طلاق کا اعتبار ہے یا پنچایت کی؟

سوال [۶۰۱۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی جب لڑکی دوسری تیسری مرتبہ سسرال گئی تو لڑکی اور اس کے شوہر کے درمیان ان بن ہو گئی، لڑکے نے غصہ کی حالت میں طلاق دیدی ”کہا جاتھے طلاق دیدی“ تو لڑکی نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تو میرے لائق نہیں ہے، تجھے تین بار طلاق دی، یہ لڑکی کا بیان ہے لڑکی ایک سو اسال رکی رہی، اب پنچایت کے ذریعہ سے عوام کے سامنے بھی طلاق ہو گئی۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ شوہر کی طلاق کا اعتبار ہوگا یا پنچایت کی طلاق کا؟ لہذا جس کی بھی طلاق کا اعتبار ہو ایک سو اسال گذرنے کے بعد عدت کرے گی یا نہیں؟ یا وہ بغیر عدت کے دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے؟

المستفتی: محمد شاکر بیر پور تھان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: طلاق دینے میں شوہر کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ پنچایت کا اور شوہر پہلے ہی تین بار طلاق دے چکا ہے اور پنچایت میں ہندی میں جو طلاق نامہ لکھا گیا ہے، اس میں بھی تین بار کا ذکر ہے؛ اس لئے طلاق مغلظہ واقع ہو کر بیوی شوہر پر حرام ہو چکی ہے، بغیر حلالہ شرعیہ کے دوبارہ آپس میں نکاح بھی درست نہیں ہے اور چونکہ طلاق واقع ہوئے ایک سو اسال ہو گیا ہے؛ اس لئے عورت کی عدت پوری ہو چکی ہے؛ لہذا اگر وہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔

عن عائشة، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقني، فبنت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن زبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم: لعلک تریدین أن ترجعی الی رفاعة؟ لا حتی یدوق عسیلتک وتذوقی عسیلته. (صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب من اجاز طلاق الثلاث ۲/۷۹۱، رقم: ۵۰۶۱، ف: ۵۲۶۰)

إن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غیره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (هنديہ، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، زكريا قديم ۱/۴۷۳، جديد زكريا ۵۳۵/۱، تاتارخانيہ، زكريا ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳، هداية اشرفي ديوبند ۲/۳۹۹)

وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق..... فإن لم تعلم بالطلاق، أو الوفاة، حتى مضت مدة العدة، فقد انقضت عدتها. (هداية، اشرفي ۲/۴۲۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۳/۶/۱۴۳۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳/جمادی الثانیہ ۱۴۳۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۱۰۴)

طلاق کے بارے میں کمیٹی کا فیصلہ معتبر ہے یا نہیں؟

سوال [۶۰۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اب سے تقریباً چار سال پہلے مسمیٰ رئیس احمد کی شادی شریعت کے مطابق مسماة محمودہ خاتون کے ہمراہ ہوئی تھی، مسماة ہنسی خوشی اپنے شوہر مذکور کے یہاں تقریباً ایک سال رہی، اسی اثنا میں مسماة کے گھر میکہ آنے پر مسماة کے طلاق و نفرتی زیورات کی چوری ہوگئی، مسمیٰ رئیس احمد اپنی اہلیہ سے برابر زیورات کی مانگ کرتا رہا، مسمیٰ نے مسماة کو مارنا پیننا اور تنگ کرنا شروع کیا، مسمیٰ مسماة کو اپنے ہمراہ لے کر اپنی سرسرا آگیا جہاں پر مسماة کو کچھ دنوں کے لئے روک لیا گیا، مسمیٰ اپنے گھر چلا آیا، کچھ مدت کے بعد مسمیٰ اپنی بیوی کو لانے کے لئے سرسرا پہنچا تو اس کے خسر نے لڑکی بھینچنے سے انکار کر دیا۔ اب

سے تقریباً چھ ماہ پہلے مسماۃ کے والد کی طرف سے مسلم قوم کی فلاح و بہبود کے لئے بنائی گئی ”انجمن اصلاح الانصار“ کمیٹی رجسٹرڈ قصبہ قاسم پور گڑھی ضلع بجنور میں ایک درخواست پیش کی، جس میں مسماۃ کے والد نے اپنی دختر کی طرف سے لڑکی کو تنگ کرنے کی شکایات اور لڑکی کو نہ لیجانے کے لئے کمیٹی ہڈا لیں پیش کی، کمیٹی کے عہدیداران نے مسمی رئیس احمد کو روبرو اجلاس کمیٹی حاضر کر لیا اور دونوں فریقین کے تحریری اور زبانی بیانات لے کر مندرجہ ذیل شرائط میں پابند کر لیا۔

مسمی رئیس احمد کی طرف سے کمیٹی نے اقرار لیا ہے کہ کمیٹی جو بھی حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ دے گی میں اس کا بہر صورت پابند رہوں گا اور خلاف ورزی کرنے پر روبرو برادری مجرم قرار ہونے کے ساتھ میری بیوی پر میری جانب سے تین طلاق مغلظہ پڑ جائیں گی، مسماۃ کے والد نے یہ اقرار لیا ہے کہ کمیٹی ہڈا کو میری جانب سے کلی اختیار ہے کہ حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر کے ہمارے معاملات درست کرادے، اگر میں یا میری لڑکی اس فیصلہ کی خلاف ورزی کرے گی، تو اپنے جائز زیور جو بوقت شادی لڑکی کو دیا گیا ہے، جس کا ثبوت رسید نکاح سے ثابت ہے، اس کے علاوہ مبلغ دس ہزار روپے دینے کے علاوہ جرمانہ جو بھی کیا جائے گا خسر اپنے داماد پر کسی طرح کا کوئی مطالبہ باقی نہ رکھے، دینے کا حق دار رہے گا۔ کمیٹی نے ذیل میں فیصلہ دیا۔

مسمی رئیس احمد کو اپنی بیوی مسماۃ محمودہ خاتون کے خوف کو دور کرنے کے لئے اور اپنی حق زوجیت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے ایک ماہ کے لئے اپنی سسرال موضع دولہا پور میں رہنا ہوگا اور مسماۃ کے والد کو مسمی کے قیام کے لئے ایک بلا کرایہ کا کمرہ اپنے سے علیحدہ دینا ہوگا، اس ماہ کا پورا خرچہ مثلاً کھانے پینے کا جملہ خرچہ مسمی اور مسماۃ کے رہنے کا ذمہ لینا ہوگا، جس کے لئے فی الوقت مسماۃ کے والد کو مبلغ ایک ہزار روپے بطور خرچہ مسمی اور اپنی دختر کے لئے کمیٹی ہڈا میں جمع کرنا ہوگا اور جو جائز مطالبہ زیور وغیرہ کا ان پر واجب ہے، اس میں سے بھی اس دوران کم از کم دو چیزیں تیار کر کر دینی ہوں گی۔ اور اس فیصلہ کے مطابق رئیس احمد

اپنی سسرال میں قیام کرنے کے بعد اپنے حالات کے صحیح ہونے کی اطلاع کمیٹی میں دے کر اپنی زوجہ کو اپنے گھر سپور لیجا سکتے ہیں۔ مسماۃ کے والد کو کسی طرح روکنے کا حق حاصل نہ ہوگا اور مسئی کا جو بھی جائز مطالبہ جو روبرو کمیٹی ہو چکا ہے، مسماۃ کے والد کو ایک سال میں پورا ادا کرنا ہوگا، اگر مسئی نے اس فیصلہ کی خلاف ورزی کی تو مسماۃ کا پورا جائز مہر کے ساتھ ساتھ مکمل جہیز دینا ہوگا، مسماۃ کے والد اس فیصلہ کی خلاف ورزی کریں گے، تو مہر سے معافی مبلغ دس ہزار روپے اور مسئی کو رضامند کرنے کے لئے روپے دینے ہوں گے۔

مندرجہ بالا فیصلہ پر عمل کرانے کے لئے کمیٹی کے دو آدمیوں کو چنا گیا، جنہوں نے مسئی رئیس احمد سے یہ کہا کہ آپ موضع دولہا پور میں ہوٹل میں جا کر رہیں گے اور کسی اور جگہ نہیں جائیں گے، ہم کمیٹی والے دو پہر گیارہ بجے تک متعین جگہ پر پہنچ جائیں گے؛ لیکن کسی وجہ سے یہ کمیٹی کے آدمی نہیں پہنچ سکے؛ جبکہ مسئی وقت مقررہ اور متعین جگہ پہنچ کر گیارہ بجے سے ساڑھے تین بجے تک انتظار کر کے اپنے گھر واپس چلا آیا۔

کمیٹی کے چندہ افراد کی کوتاہی کے سبب پندرہ دن کے بعد کمیٹی کے دوسرے منتخب کئے گئے افراد مسئی کو لے کر مسئی کے گھر پہنچے، مسماۃ کے والد دیگر معزز حضرات کی سپردگی میں دے کر اور شرائط کے مطابق مسماۃ کے والد کو یہ ہدایت کر کے کہ آپ نے مسئی اور مسماۃ کے رہنے کے لئے الگ کمرہ کا بندوبست کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لئے کہا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ سبھی مکمل انتظام ہے، کمیٹی کے یہ چندہ افراد مسئی کو ان کی سسرال چھوڑ کر اپنے گھر چلے آئے، مسماۃ کے والد نے مسئی اور مسماۃ کو الگ الگ کمروں میں رکھا تنہا کمرہ کا بندوبست نہیں کیا، دوسری صبح مسماۃ کے والد نے مسئی کو یہ تسلی دی کہ چار دن کے بعد اپنی بیوی کو لے جانا، چار دن کے بعد مسئی پہنچے؛ لیکن مسماۃ کے والد نہ ملے، وہاں سے کمیٹی ہذا میں پیش ہوا اور کہا میں نے کمیٹی کی ہدایت کے مطابق عمل کیا۔

تیسری بار مسئی کو مسماۃ کے میکہ میں حسب شرائط ذمہ دار افراد کی ذمہ داری میں مسئی رئیس احمد کو عمل کرانے کا ذمہ دیا گیا، مسئی اپنی سسرال پہنچا، شرائط کے مطابق ان کے یعنی مسئی او

رسمائے کے تعلق استوار کرنے کا موقع پھر سے نہیں کرایا گیا، شرائط کے مطابق عمل پیرانہ ہونے کی اطلاع مسماہی رئیس احمد نے کمیٹی میں دی۔

مندرجہ بالا مسئلہ کا حل قرآن وحدیث کی روشنی میں مندرجہ ذیل نکات میں دینے کی زحمت گوارہ کریں ہم بہت ہی منتظر ہیں

(۱) مندرجہ بالا مکمل تفصیلات کے مطابق کسی طرح کی طلاق پڑ گئی ہے یا نہیں پڑی ہے؟
(۲) کسی بھی ازدواجی معاملات کو حل کرنے یا منسوخ کرنے کے لئے طلاق مغلظہ کی شرائط لگانا کہاں تک مناسب ہے؟

(۳) اگر کوئی عالم کسی مسماہی کو طلاق مغلظہ کے تحت پابند کر لیتا ہے؛ جبکہ مسماہی کو طلاق مغلظہ کا علم نہ ہو، تو ایسے عالم پر شریعت کا کیا حکم ہے؟

(۴) اگر کوئی ذمہ دار آدمی اپنی ہٹ دھرمی سے نا انصافی کا فیصلہ کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں گناہ کا مرتکب وہی آدمی ہوگا یا پوری کمیٹی یا پورا اجلاس؟

المستفتی: معراج عالم خزانچی انجمن اصلاح الانصار (کمیٹی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) سوال نامہ کی تفصیل سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ شوہر رئیس احمد نے اس پر عائد کردہ تمام شرائط کا احترام کرتے ہوئے ان پر پابندی کی ہے؛ اس لئے مذکورہ صورت میں رئیس احمد کی بیوی پر کسی قسم کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔

كما استقيد من عبارة الهداية: وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب

الشرط. (هداية، كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق، اشرفي ديوبند ۲/۳۸۵)
(۲) بیک وقت تین طلاق دینے سے تین طلاق واقع ہو جاتی ہیں، اور تین طلاق کی شرط لگانے سے شرط بھی صحیح ہو جاتی ہے؛ لیکن طلاق مغلظہ واقع ہونے کے ساتھ ساتھ شوہر سخت گناہ گار ہو جاتا ہے، اسی طرح شوہر پر تین طلاق کی شرط لگانا بھی خلاف شریعت ہے اور شرط لگانے والے گنہگار ہوں گے۔

عن محمود بن لبید قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضباناً، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال: يا رسول الله! ألا أقتله. (سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، النسخة الهندية ۸۲/۲، دارالسلام رقم: ۳۳۹۸)

و طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة - إلى - وقع الطلاق وكان عاصياً. (هداية، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة اشرفي ديوبند ۳۵۵/۲) و بدعي يأثم به الخ. (در مختار، كراچی ۳/۲۳۰، زكريا ۴/۴۳۱) أما البدعي (إلى قوله) فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً الخ.

(عالمگیری، زكريا ۱/۳۴۹، جدید زكريا ۱/۴۱۶) (۳) طلاق مغلطہ کے تحت شرائط متعین کرنے سے شرائط صحیح ہو جاتی ہیں؛ لیکن اس طرح طلاق مغلطہ کی شرط لگانا باعث گناہ اور معصیت ہے۔ (۴) اگر ایک شخص نا انصافی کا فیصلہ کرتا ہے، تو وہی گنہگار ہوگا اور اگر کمیٹی نا انصافی کا معاملہ کرتی ہے، تو کمیٹی کے تمام افراد گنہگار ہوں گے؛ اس لئے کہ یہ اتباع ہوئی ہے، جو شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔

إن المجتهد والمقلد لا يحل لهما الحكم والإفتاء بغير الرجح؛ لأنه اتباع للهوى، وهو حرام إجماعاً. (عقود رسم المفتي قديم ص: ۲۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۰ ربیع الاول ۱۴۱۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۸/۳۰۹۷)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۰/۳/۱۴۱۳ھ

ٹیلیفون پر طلاق دینا

سوال [۶۰۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ اگر ایک ہی شہر میں فون پر طلاق دی جائے، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ گواہ ہونے چاہئیں یا نہیں، طلاق معتبر ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: نیاز الحسن، محلہ: دہریا، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ٹیلیفون پر بھی طلاق معتبر ہے؛ جبکہ اس بات میں شک نہ رہے کہ شوہر ہی طلاق دے رہا ہے، چاہے شوہر بیوی کے شہر میں رہ کر طلاق دے رہا ہو یا دوسرے شہر سے اور طلاق کے واقع ہونے کے لئے گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے؛ جبکہ شوہر اقرار کرتا ہو۔

عدم الشک من الزوج في الطلاق وهو شرط الحكم بوقوع الطلاق.

(بدائع الصنائع، کتاب الطلاق، فصل في الرسالة، زکریا ۳/۱۹۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۶۶۶)

فون کی طلاق کا حکم

سوال [۶۰۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے موبائل فون پر زوجہ کے بھائی سے بات چیت کے دوران اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں تین طلاقیں دیدیں، اس پوری بات چیت کو بحینہ موبائل میں محفوظ کر لیا گیا، بعد میں شوہر سے پوچھے جانے پر وہ کہتا ہے کہ میں نے صرف دو طلاقیں دی ہیں اور وہ اس پر مصر ہے اور جب اسے موبائل میں ریکارڈ کیا ہوا کلام سنایا گیا، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ یہ میری آواز نہیں ہے؛ بلکہ دوسرے کی آواز ہے؛ جبکہ خود لڑکے کے باپ اور بہنوئی اس کے خلاف اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لڑکے کی ہی آواز ہے، مگر لڑکا پھر بھی

انکار کر رہا ہے اور لڑکی کے بھائی کو بھی پورا یقین ہے کہ یہ لڑکے کی ہی آواز ہے؛ کیونکہ اس نے خود بات چیت کے دوران یہ ریکارڈ کیا تھا اور لڑکے نے ریکارڈ کئے ہوئے کلام کے مطابق تین طلاقیں دی ہیں۔

اب غور طلب امر یہ ہے کہ آیا شوہر کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے صرف دو ہی طلاقیں ہوں گی یا موبائل پر ہوئی بات چیت کے مطابق (جو کہ محفوظ ہے) تین طلاقیں ہوں گی؟ جبکہ لڑکی کے بھائی کو پورا یقین ہے کہ اگر شوہر کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے (کہ اس نے صرف دو ہی طلاقیں دی ہیں) لڑکی کو رخصت کر دیا، تو آگے زن و شوہر کے مابین ہونے والے تعلقات زنا میں شمار کئے جائیں گے؟ دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت واقع اور حکم شرع کے موافق ہو اس کو دلیل سے واضح فرما کر ممنون و مشکور ہوں۔

المستفتی: مرغوب الرحمن، ساکن و پوسٹ: سمریاء، ضلع چترال (جھارکھنڈ)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب موبائل فون پر شوہر کی آواز محفوظ کر لی گئی ہے اور اس کی آواز کو پہچاننے والے اس کے باپ، اس کے بھائی اور اس کے بہنوئی سب اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ یہ اسی کی آواز ہے اور تین طلاق اس میں ریکارڈ ہیں؛ اس کے باوجود اس کا دو طلاق دینے کا اقرار اور تین کا انکار معتبر نہیں اور موبائل کا ریکارڈ خود دستاویز کے طور پر اس کے خلاف ہے اور اس کے باپ اور اس کے بہنوئی سب اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے تین طلاقیں معتبر ہوں گی اور بیوی اس پر حرام ہوگئی۔ بغیر حلالہ کے ان کے درمیان ازدواجی تعلقات جائز نہیں۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هدایة اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، تاتارخانیہ،

زکریا ۵/۴۷، ۱، رقم: ۷۵۰۴)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلق ثلاثاً. (الأشباه والنظائر
 قديم مطبوعة ديوبند ۱/۹۱/۲۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۱ شعبان المعظم ۱۴۳۱ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۱۶۳)

فون پر طلاق دینے سے طلاق کا حکم

سوال [۲۰۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
 میں: کہ میں نے ایک سال سے اپنے شوہر کی شراب کی لت اور گالی گلوں کی عادت کی وجہ
 سے اپنے میکہ میں رہ رہی تھی، بدھ کے دن رات میں سوا بجے میرے شوہر نے مجھے فون کر
 کے کہا کہ میرے جھگڑے میں چوٹ لگ گئی ہے فوراً گھر آجائیں میں اپنی والدہ سے پوچھنے
 لگی، تو اس نے فون پر ہی مجھے گالیاں بکنی شروع کر دیں اور کہنے لگے میں تجھے فون پر ہی طلاق
 دے رہا ہوں، طلاق، طلاق، طلاق تین بار اس نے ایسا کہہ کر فون کاٹ دیا، اس وقت وہاں
 پر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، ان لوگوں نے بتایا کہا ہاں اس نے ہمارے سامنے ایسا کہا تھا،
 آپ اس کا جواب مرحمت فرمائیے مہربانی ہوگی۔

بیان گواہان: ہم لوگوں کے سامنے اور موجودگی میں خالد ولد ذوالفقار علی ساکن محلہ
 بروالان لنگھ مراد آباد نے اپنی بیوی شاہین قمر کو ٹیلیفون پر تین بار طلاق دی ہے۔

المستفتیہ: شاہین قمر، محلہ لنگھ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فون پر طلاق ہو جاتی ہے اور جب فون پر تین طلاق دینے
 کے گواہان بھی موجود ہیں اور بیوی نے اپنے کان سے سن بھی لیا ہے، تو بیوی پر طلاق مغلظہ
 واقع ہوگئی اور شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے۔

ولوقال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قديم مطبوعه ديوبند ص: ۲۱۹)

لو كرر لفظ الطلاق وقع الكل. (شامي، كتاب الطلاق، باب طلاق غير

المدخول به، كراچي ۲۹۳/۳، زكريا ۵۲۱/۴، قاضي خاں على هامش الهندية زكريا ۱/۴۵۴)

نوٹ: گواہوں سے زبانی شہادت بھی حاصل ہوئی۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵/صفر/۱۴۲۵ھ

۱۴۲۵/۲/۱۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف)

ٹیلیفون پر دی گئی طلاق کا شرعی حکم

سوال [۶۰۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ سالک کی شادی ۱۹۸۰ء میں مولانا محمد احمد صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، اس ۲۳ سالہ

ازدواجی زندگی میں دس بچے پیدا ہوئے، جن میں چھ لڑکے اور چار لڑکیاں ہیں، جن کی عمریں

بالترتیب ۲۲ سال، ۲۰ سال، ۱۸ سال، ۱۵ سال، ۱۳ سال، ۱۰ سال، ۸ سال، ۶ سال، ۵ سال، ۳ سال

سال ہیں اس طویل عرصہ میں بچوں کی پیدائش اور پرورش میں سخت فطری دشواریوں کا

سامنا کرنا پڑا، اس کے ساتھ شوہر کی سخت مزاجی کی وجہ سے زندگی میں تلخی رہی، حقیقی خوشی

نصیب نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی بچوں کی پرورش کی خاطر سب سخت مزاجی برداشت کرتی

رہی، جب منہ کھولنے کی کوشش کی تو چھوڑ دینے کی اور سبق سکھا دینے اور گھر بھیج دینے کی دھمکی

ملتی رہی، بچوں پر نصیحت کے نام پر غصہ کرنا، ۹ فروری ۲۰۰۳ء کو میرے شوہر نے میرے

بھائی کو فون پر بتایا کہ میں نے ۲۵ نومبر ۲۰۰۲ء کو طلاق دے دی ہے اور میں مہر کا انتظام کر رہا

ہوں۔ ۱۸ اپریل ۲۰۰۳ء کو میرے بھائی رہائش علی گڑھ آئے، مولانا سے بات کرنے کی

کوشش کی؛ لیکن میرے شوہر کسی طرح اس مسئلہ پر بات کرنے کو راضی نہ ہوئے۔ اس دس ماہ

میں نہ بچوں کی کفالت کی ہے، نہ میری طرف کوئی توجہ کی ہے، ایسی حالت میں کیا طلاق ہو جائے گی اور ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر طلاق واقع ہوگئی، تو مہر اور دوران عدت کے مصارف اور بچوں کی گذر بسر کے لئے شرعاً کیا حکم ہے؟

المستفتی: تبسم، آفتاب منزل شمشاد مارکیٹ، علی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب آپ کے شوہر نے ٹیلیفون پر طلاق کی اطلاع دی اور بعد میں اس کا اقرار بھی کیا ہے، تو شوہر نے جتنی طلاقیں دیں اتنی ہی واقع ہوگئی ہیں، اس سوال نامہ میں طلاق کی تعداد اور نوعیت کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، شوہر سے معلوم کیا جائے کہ کتنی طلاقیں دی ہیں، اگر وہ تین طلاق کا اقرار کرے تو تین طلاقیں واقع ہوگئی ہیں اور آپ اپنے شوہر پر بالکل حرام ہوگئی ہیں۔ بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا اور اگر تین طلاق نہیں دی ہے؛ بلکہ ایک یا دو طلاق دی ہے، تو طلاق رجعی واقع ہوگئی؛ لیکن سوال نامہ سے واضح ہوتا ہے کہ اس طلاق کے بعد دونوں کے درمیان آپس میں ملاقات نہیں ہوئی اور تین ماہ واری گذرنے تک دونوں الگ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں عدت بھی گذر گئی۔ اور اب اگر شوہر بیوی بنانا چاہے تو بغیر حلالہ کے نکاح کر کے رکھ سکتا ہے، تو طلاق کی کون سی صورت پیش آئی ہے، اس بارے میں شوہر سے وضاحت طلب کی جائے، شوہر جس قسم کی طلاق کا اقرار کرے گا، اسی طرح کی طلاق واقع ہوگی، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر تین طلاق کا اقرار کرتا ہے، تو بغیر حلالہ کے ساتھ رہنے کی کوئی صورت نہیں اور بچوں کی پرورش کا خرچہ باپ کے اوپر لازم ہے اور بالغ لڑکیوں کی شادی کا ذمہ دار بھی باپ ہی ہوگا اور اگر آپ شوہر کی اجازت سے میکہ گئی ہیں، تو عدت کا خرچہ بھی شوہر پر لازم ہے اور اس خرچہ کی مقدار آپس کی بات چیت سے طے کی جائے۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالمگیری، باب الرجعة، فصل فیما تحل به المطلقة، زکریا ۱/۷۳، جدید زکریا دیوبند ۵۳۵/۱، تاتارخانیہ، زکریا دیوبند ۵/۷۷، رقم: ۷۵۰۴، ہدایہ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، نفقۃ الأولاد الصغار علی الأب لا یشارکہ فیہا أحد. کما لا یشارکہ فی نفقۃ الزوجۃ الخ. (ہدایہ ثانی، اشرفی دیوبند ۴۴۴)

وإذا طلق الرجل امرأته، فلها النفقة، والسكنی فی عدتها رجعیاً
 کان، أو بئناً. (ہدایہ ثانی، اشرفی دیوبند ۴۴۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۰ شوال المکرم ۱۴۲۴ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۸۳۷-۸۱۷)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۲۴/۱۱/۲۳ھ

طلاق کے معنی جانے بغیر طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۰۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں تین مرتبہ طلاق دیدی، مجھے طلاق کے معنی وغیرہ کا پتہ نہیں تھا، تو ایسی صورت میں بھی طلاق ہو جاتی یا نہیں؟ اور اگر اب ساتھ رہنا چاہیں تو کیا شکل ہوگی؟

المستفتی: ندیم انور، محلہ: خلو چاریناروالی مسجد لالباغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ صورت میں بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، اب بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے۔ اب اگر رکھنا چاہے تو شرعی حلالہ لازم ہوگا اور حلالہ کی صورت یہ ہے کہ بیوی کو تین مرتبہ ماہواری ہو جانے کے بعد وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے ہمبستر ہو جائے، اس کے بعد وہ مرد اپنی مرضی سے طلاق دے دے، تو پھر تین ماہواری گزرنے کے بعد آپ نکاح کر سکتے ہیں۔

عن عائشة[ؓ]، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقني، فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تريدين أن ترجعي إلي رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. (صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من اجاز طلاق الثلاث ۷۹۱/۲، رقم: ۵۰۶۱، ف: ۵۲۶۰)

إن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (عالمگیری، باب الرجعة، فصل فيما حل به المطلقة، زكريا قديم ۱/۴۷۳، جدید زكريا ديوبند ۱/۵۳۵، تاتارخانیة، زكريا ديوبند ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۴، هداية،

كتاب الطلاق، باب الرجعة اشرفي ديوبند ۲/۳۹۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴/۳/۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱ ربیع الاول ۱۴۱۴ھ

(فتاویٰ نمبر: الف ۲۹/۳۳۳)



(۲) باب إباحة الطلاق

شرعاً طلاق کب دے سکتے ہیں؟

سوال [۶۰۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نکاح آج سے آٹھ سال قبل ایک طلاق شدہ عورت سے ہوا تھا، اس کا دامغانی توازن درست نہیں ہے، میں نے ہر ممکن کوشش کر لی، میرے گھر دو ماہ رہتی ہے اور میکہ میں دس ماہ رہتی ہے، کیا میں اس کو آزاد کر سکتا ہوں شریعت کی روشنی میں؟ اور دوسرا نکاح کر سکتا ہوں؛ کیونکہ میری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ ایک وقت میں دو بیویوں کے حقوق ادا کر سکوں۔

المستفتی: شاہ عالم، نانڈہ، کاشی پور، اودھم سنگھ نگر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: بلاوجہ شرعی عورت کو طلاق دے کر تکلیف دینا موجب گناہ ہے، اگر واقعہً اس کا دامغانی توازن درست نہیں ہے اور اس سے کچھ اولاد بھی حاصل ہو چکی، تو بجائے طلاق کے آپ اس کا علاج کرا کے اس کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کریں؛ لیکن اگر دامغانی توازن میں کمی کے باوجود وہ آپ کے حقوق ادا کر سکتی ہے اور آپ کے ساتھ رہتی ہے، تو آپ کو طلاق نہیں دینا چاہئے، ہاں اگر آپ کے حقوق ادا نہ کر کے ضد میں زیادہ وقت میکہ میں گزارتی ہے، جیسا کہ سوال نامہ میں صراحت ہے، تو چونکہ یہ آپ کی نافرمان ہے؛ اس لئے آپ کو طلاق دینے کی گنجائش ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۱۴۰/۳، جدید زکریا ۲۵۷/۸، فتاویٰ محمودیہ ڈائجیل ۱۶۶/۱۲، فتاویٰ دارالعلوم ۳۱۵/۸)

ویجب (أي الطلاق) لوفات الإمساك بمعروف. (در مختار علی الشامی،

کتاب الطلاق، کراچی ۲۲۹/۳، زکریا ۴۲۹/۴)

ویکون واجباً إذا فات الإمساك بالمعروف كما في امرأة
المجوب والعين بعد الطلب، ولذا قالوا: إذا فاته الإمساك بالمعروف
ناب القاضي منابه، فوجب التسريح بالإحسان. (البحر الرائق، كونه ۳/۳۷۷،
زکریا ۳/۴۱۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۲۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۶۵۶۵)

شرعاً طلاق دینا کب جائز ہے؟

سوال [۶۰۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ میں نے ۱۹۸۲ء میں راجستھان کے ایک قصبہ میں تیسرا نکاح کیا ۱۹۸۹ء تک زندگی
اچھی گزری ۱۹۹۰ء میں میری بیوی جو (بی اے) پاس ہے، اپنے میکہ گئی، واپسی میں دلی میں
کسی کے یہاں رک گئی، میں بہت پریشان ہوا، دوڑ کر سسرال گیا، وہاں سے سال آیا اور بیوی کو
کھونج کر میرے پاس پہنچا دیا۔ ۱۹۹۱ء تک رہی میں نے خوشی خوشی اپنی بیوی کو میکہ کے لئے
سوار کر دیا، وہاں جا کر بیوی نے جھوٹ اور من گھڑت کہانی بنا کر خاندانی عدالت میں میرے
خلاف مقدمہ درج کر دیا، عدالت سے تین سو روپیہ نان و نفقہ ملے ہوا، وہیں بھیجتا رہا، تقریباً
ڈیڑھ سال ہم نے خط و کتابت کیا، بیوی کے بھائیوں نے کہا کہ آپ یہ لکھ دیں کہ ان کو لے
جا کر مار پیٹ نہیں کروں گا، نہ کچھ لکھواؤں گا، میں تیار ہو گیا؛ کیونکہ ماپیٹ گالی گلوں کرنا میری
عادت نہیں، مگر میری بیوی کے چچا زاد بھائی جو وکیل ہیں مجھ سے لمبے چوڑے ٹائپ شدہ
اسٹامپ پر دستخط دھوکہ دے کر اور دباؤ ڈال کر کرائے، جس کو اس نے بیان حلفی کی شکل دلوائی،
اس اسٹامپ میں مجھے قانونی طور پر باندھنے کی کوشش کی گئی تھی، میری بیوی کے بھائیوں نے
میری بیوی کو ساتھ بھیج دیا، مگر مجھ پر پابندی لگا دی کہ آئندہ ہمارے گھر پر قدم نہ رکھیں۔

میں ۲۲ اکتوبر ۱۹۹۲ء کے بعد اپنی سسرال نہیں جاسکا؛ چونکہ پابندی لگا دی تھی اور نہ ہی کوئی خط و کتابت ہے، یہاں تک کہ مرنے جینے اور غم میں بھی شرکت ناممکن ہے۔

اسی دوران پچھلے ایک سال سے میری بیوی کو ایسی بیماری ہے کہ ہمسٹری کے لائق نہیں، علی گڑھ، مراد آباد علاج بھی ہوا، مگر بیوی نے مستقل لگ کر علاج نہیں کرایا اس کی وجہ وہی جانتی ہوں گی، پچھلے ایک سال میں ہم دونوں نے ایک بار ہمسٹری کی وہ بھی نامکمل رہا، پیشاب کے راستے میں کوئی خاص خرابی ہے، اسی چپقلش میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بیوی نے مزید علاج کرانے کو منع کر دیا ہے، مجھے جب نفسانی خواہش ہوتی ہے، تو بیوی سے کہتا ہوں، وہ کہتی ہیں میں کیا کروں، آپ مجھے طلاق دے دیجئے اور نکاح کر لیجئے، پچھلے سال میں کم از کم دو بار طلاق کی نوبت بھی آئی؛ لیکن بات رفع دفع ہو گئی، برائے مہربانی یہ بتلائے کہ مجھے مہر کتنا ادا کرنا ہے؟ شادی سے پہلے بیچ لوگوں نے گیارہ ہزار مہر طے کئے تھے، شادی کے دن نکاح سے ایک گھنٹہ پہلے پندرہ ہزار مہر طے کئے، نکاح کے وقت قاضی اور گواہان اکیس ہزار مہر طے کر کے لائے؛ لیکن جب مجھے نکاح کی رسید دی گئی، تو پچیس ہزار مہر لکھے تھے، اس میں آدھے موجد اور آدھے موجد ہیں، یہ بھی فرمائیں کہ عدت کا خرچ کتنے دن کا اور کتنا دینا ہے۔

بیوی کا بیان: محترم جناب مفتی صاحب، میرے شوہر جناب اظہار الحسن صاحب نے جو لکھا ہے ہم دونوں کے باہمی مشورہ سے لکھا گیا ہے صحیح ہے، برائے مہربانی جلد جواب ارسال کیجئے گا، نوازش ہوگی۔

المستفتیہ: ناصرہ خاتون، عرف سلٹی بانو زوجہ اظہار الحسن، سیدی سرائے، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بہتر شکل تو یہ ہے کہ آپ اسی بیوی کے ساتھ نبھاؤ کریں، طلاق نہ دیں؛ لیکن اگر نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، حقوق زوجیت ادا نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ کو

طلاق دینے کا حق ہے، قاضی اور گواہوں کی موجودگی میں نکاح کے وقت جو اکیس ہزار روپیہ مہر طے کیا گیا تھا وہی دینا لازم ہوگا، اس کے علاوہ کا اعتبار نہ ہوگا

أو الأكثر منها إن سماه، والمتبادر التسمية وقت العقد. (شامی، کتاب النکاح، باب المهر، کراچی ۳/۱۰۴، زکریا ۴/۲۳۵)

مطلقہ بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری عدت کے گزارنے اور ختم ہونے تک ہے، اگر حائضہ ہے تو تین حیض آنے تک اور اگر بیوی کو حیض نہیں آتا، تو طلاق کے بعد تین ماہ مکمل ہونے تک ہے۔

وتلزمه النفقة حتى تحيض ثلاثاً، أو تبلغ سن اليأس، وتمضي بعده ثلاثة أشهر. (شامی، کتاب الطلاق، باب النفقة، کراچی ۳/۶۱۰، زکریا ۵/۳۳۴)

نان و نفقہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے؛ بلکہ آپ کی آمدنی کی جو حیثیت ہے، اس کے اعتبار سے نہ آپ پر زور پڑے اور نہ اس کے خرچہ میں دقت پیش آئے اور اس درمیان میں صرف کھانے کا خرچہ دیا جائے گا، کپڑا بیماری وغیرہ کا خرچہ نہیں دیا جائے گا۔

ويعتبر في هذه النفقة ما يكفيها وهو الوسط من الكفاية وهي غير مقدره؛ لأن هذه النفقة نظير نفقة النكاح، فيعتبر فيها ما يتعبر في نفقة النكاح. (ہندیہ، زکریا ۱/۵۵۸، جدید زکریا دیوبند ۱/۶۰۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۲/۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۵۶۶۳۵)

عدم نبھاؤ کی شکل میں طلاق کا طریقہ

سوال [۶۰۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جلیس نامی شخص کی شادی اب سے تقریباً تین ماہ قبل بڑے اہتمام کے

ساتھ ہوئی، بڑکی بھی پہلی بار دو تین روز اپنی سسرال میں رہی، بڑکی کے جانے کے بعد اگلے روز جلیس جو اس لڑکی کا شوہر ہے، اس کی طبیعت کی عجیب و غریب کیفیت ہوگئی، مثلاً دل کا بے انتہا دھڑکننا اور ادھر ادھر کے عجیب و غریب خیالات کا پیدا ہونا اور بڑبڑانا، مثلاً ”شہناز کو ہم تیرے پاس نہیں چھوڑیں گے، اس کو طلاق دیدیں؛ کیونکہ وہ میری بیوی ہے ورنہ تجھ کو مار دیں گے“، جلیس یہ گفتگو اس وقت کرتا تھا؛ جبکہ اس کے اوپر دورہ پڑتا تھا، جلیس کی اس گفتگو کو یہ سمجھ کر کہ شاید ذہنی ٹینشن کا شکار ہو، جس کی وجہ سے اس طرح بڑبڑا رہا ہے، دل و دماغ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو دکھلایا گیا؛ لیکن ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق سب کچھ نارمل اور صحیح نکلا؛ لیکن طبیعت صحیح ہونے کے بجائے مزید بگڑتی ہی گئی، مثلاً کمر میں بے حد درد کا ہونا اور ایسا محسوس ہونا کہ شاید کوئی کمر توڑ رہا ہو، لیٹرین میں نہایت تکلیف کے ساتھ خون کا آنا، بار بار گھر چھوڑ کر پاگلوں کی حالت میں کئی کئی روز کے لئے گھر سے باہر بھاگ جانا وغیرہ؛ اس لئے ڈاکٹروں کو دکھلانے کے بعد عاملوں کو دکھلایا گیا، عاملوں میں بھی ان عاملوں کو جو پیشہ ور نہیں؛ بلکہ اپنے فن کے ماہر ہیں اور لوجہ اللہ کام کرتے ہیں، مثلاً لکھنؤ، دیوبند، مراد آباد، چاند پورا اور اس کے علاوہ دیگر متعدد مقامات پر دکھلایا، وقتی طور پر کچھ فائدہ ہوا، اس کے بعد مزید تکلیف دہ دورہ پڑنے شروع ہو جاتے، تقریباً زیادہ تر عاملوں نے اپنے علاج کی مدت پوری کرنے کے بعد اور مرض قابو میں نہ آنے کے بعد یہی بات کہی کہ ہمارے موکل نے یہ بات کہی ہے کہ ”جو جن جلیس پر سوار ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ جلیس شہناز کو طلاق دے دے، ہم سیلمان علیہ السلام کی قسم کھاتے ہیں کہ جلیس سے ہم کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ ہم اس کو ختم کر دیں گے“ اور عاملوں نے یہ بات بھی کہی کہ ”جلیس پر عامل جن ہے، جب علاج ہوتا ہے وہ اس کی کاٹ کر دیتا ہے“

واضح رہے کہ جلیس کے گھر والوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ شہناز کو طلاق دلوانا ہے؛ بلکہ یہی کوشش کی کہ گھر آباد ہو جائے، اور جلیس کی طبیعت صحیح ہو جائے اور لڑکی کو بلوایا جائے؛ لیکن کوئی تدبیر بھی کارگر اور مفید ثابت نہیں ہوئی؛ بلکہ تکلیف اور پریشانی بڑھتی ہی گئی؛ اس

لئے اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ مذکورہ بالا مجبوری کی حالت میں مجلس کا اپنی بیوی شہناز کو طلاق دینا جائز ہے کہ نہیں؟

المستفتی: عبدالغفار، سوار رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: میاں بیوی میں اگر نباہ نہ ہو سکے، تو شرعاً طلاق دینے کی گنجائش ہے؛ لیکن اس بات کا خیال ضرور رہے کہ تین طلاق ہرگز نہ دے؛ بلکہ ضرورت کی وجہ سے صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دے؛ اس لئے کہ ایک طلاق سے بھی بیوی کو آزادی مل جاتی ہے، عدت گزرنے کے بعد جہاں چاہے وہاں نکاح کر سکتی ہے اور یہ بھی گنجائش باقی رہتی ہے کہ سابقہ شوہر سے بھی نکاح ہو جائے۔

وأما وصفه فهو أنه محذور نظراً إلى الأصل، و مباح نظراً إلى الحاجة، كذا في الكافي. (عالمگیری، كتاب الطلاق، الفصل الاول، زكريا ۱/۳۴۸، جدید زکریا دیوبند ۱/۴۱۵)

وأما الطلاق: فإن الأصل فيه الحظر بمعنى أنه محذور إلا لعارض يبيحه، وهو معنى قولهم: الأصل فيه الحظر والإباحة للحاجة إلى الخلاص. (شامی، كتاب الطلاق، قبيل مطلب طلاق الدور، زكريا دیوبند ۴/۴۲۸، کراچی ۲/۲۲۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۷/۶/۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸۰۳۰)

نبھاؤ کی شکل مشکل ہو تو علیحدگی حاصل کر لیں

سوال [۶۰۲۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زوجین میں نا اتفاقی کی وجہ سے اختلاف ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ مار پیٹ بھی ہوگئی، اب

بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کر رہی ہے اور طلاق بھی مانگ رہی ہے اور شوہر طلاق دینے سے انکار کر رہا ہے؛ حالانکہ مہر کی بھی ادائیگی ہو چکی ہے؛ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ وضاحت کریں کہ طلاق کی کیا صورت ہوگی، اور مہر کا کیا مسئلہ ہوگا؟

المستفتی: ممتاز حسین، چوراہا جامع مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اولاً میاں بیوی میں نبھاؤ کی شکل نکالنے کی کوشش کریں، اگر نبھاؤ کی کوئی شکل نہ نکل سکے تو معتبر لوگوں کو بیچ میں ڈال کر اچھے انداز سے علیحدگی کی شکل اختیار کر لیں، اگر طلاق دیں تو صرف ایک طلاق دیں تین طلاق نہ دیں، ایک طلاق کے بعد جب عدت پوری ہو جائے گی، تو عورت خود بخود آزاد ہو جائے گی اور جہاں چاہے دوسرا نکاح کر سکتی ہے، آپس کی رضامندی سے پہلے شوہر سے بھی دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اور اگر شوہر طلاق سے انکار کرے اور نباہ کی گنجائش نہ ہو تو مالی فدیہ دے کر خلع حاصل کر لیں۔

عن ابراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. (مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، ما يستحب من طلاق و كيف هو؟ مؤسسة علوم القرآن بيروت ۹/۵۱۲، رقم: ۱۸۰۴۰، مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة، المجلس العلمي بيروت ۶/۳۰۲، رقم: ۱۰۹۲۶)

الأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. (هداية، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، ۲/۳۵۴، هندية، زكريا ۱/۳۴۸)

طلقة رجعية فقط في طهر لا وطء فيه، وتركها حتى تمضي عدتها أحسن. (در مختار مع الشامی، کراچی ۳/۲۳۱، زکریا ۴/۴۳۲)

فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. الْآيَةُ

[البقرہ: ۲۲۹]

وإن تشاقا الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن

تفتدي نفسها منه بمال يخلعها. (هداية، اشرفي ديوبند ۲/ ۴۰۴، ہندیہ،

زکریا ۱/ ۴۸۸، جدید زکریا دیوبند ۱/ ۵۴۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۸ ربیع الثانی ۱۴۳۱ھ

۱۴/۳/۱۴۳۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۱۰۰۲)

والدین کے ساتھ مار پیٹ کرنے والی لڑکی کو طلاق دینا کیسا ہے؟

سوال [۶۰۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ اگر کوئی منکوحہ لڑکی اپنے باپ کو مار لگاتی ہو، تو اس لڑکی کے لئے شرعی سزا کیا ہے،

اس کا یہ فعل بیجا دیگر تمام مذاہب کے نزدیک بھی قابل جرم ہے، اور پھر مذہب اسلام میں تو

شرعی سزا بھی؟

(۲) اگر اس کا شوہر اس فعل بیجا سے نفرت کر کے طلاق دے دے تو کیا حکم ہے علماء دین کا؛

کیونکہ کوئی شریف آدمی یا تعلیم یافتہ مسلم گھرانہ اسے رکھنا قطعی پسند نہیں کرتا۔

(۳) اگر ایسی لڑکی کسی اولاد کی تربیت کرے، تو وہ بھی غلط ہوگا؛ کیونکہ اپنی اولاد کو بھی یہی

سکھائے گی، تو وہ بھی اپنے باپ کو مارے گا، گولی، بارود کی تعلیم وتر بیت دے گی، کیا فرماتے

ہیں علمائے دین؟

المستفتی: محمد عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) ماں باپ کی عزت کرنا اولاد پر فرض ہے، ان کو

مارنا تو درکنار ان کے ساتھ بدتمیزی اور بدکلامی بھی گناہ کبیرہ کا باعث ہے۔ احادیث میں اس کی سخت وعید آئی ہے، ایسی لڑکی سخت گنہگار ہے؛ تاوقتیکہ وہ اپنے والد سے معافی نہ مانگ لے، سلطنت اسلامی ہوتی تو حاکم وقت ایسی لڑکی کو تعزیراً سخت سزا دیتا۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۲/۲۶۴)

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين الخ. (ترمذي شريف، أبواب البر والصلة، باب ماجاء في الوالدين، النسخة الهندية ۱۲/۲، دارالسلام رقم: ۱۹۰۱)

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. (ترمذي شريف، النسخة الهندية ۱۲/۲، دارالسلام رقم: ۱۹۰۲)

(۲) ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو اور آپسی تعلقات میں رنجش آگئی ہو، تو اس کو طلاق دینا مباح ہے؛ لیکن اس کو طلاق دینے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دے دے کہ اگر دوران عدت وہ اپنے گناہ پر نادم ہو کر توبہ کر لیتی ہے تو رجوع کرنے کا حق باقی رہے۔

عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. (مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، ما يستحب من طلاق وكيف هو؟ جديد مؤسسة علوم القرآن بيروت ۹/۵۱۲، رقم: ۱۸۰۴۰، مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي بيروت ۶/۳۰۲، رقم: ۱۰۹۲۶)

أحسن الطلاق في ذوات القرء أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لا جماع فيه ولا طلاق ولا في حيضة طلاق ولا جماع ويتركها حتى تنقضي عدتها ثلاث حيضات. (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، زكريا ۳/۱۴۰)

فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. (هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۵۴)

أما الأحسن: أن يطلقها واحدة في وقت السنة، ويتركها حتى تنقضي العدة. وروى عن إبراهيم أن أصحاب النبي كانوا يستحبون أن لا يزداد في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، وهذا أفضل عندهم. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا ديوبند ۴/ ۳۷۸، رقم: ۶۴۷۲)

(۳) اگر اولاد کو ایسی عورت کی تربیت میں دینے سے ان کے مذہب یا اخلاق پر اثر پڑ سکتا ہو، تو ان کو اس عورت کی تربیت میں نہ دے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۱/ ۱۰۷)

إن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقاً يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها. (شامی، کتاب الطلاق، باب الحضانة، زکریا ۵/ ۲۵۴، کراچی ۳/ ۵۵۷، البحر الرائق، کوئٹہ ۴/ ۱۶۷، زکریا ۴/ ۲۸۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۷/۷/۱۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳/ رجب المرجب ۱۴۱۷ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۲/۳۶۹۴)

کیا پاگل بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟

سوال [۲۰۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے بھائی محمد طاہر کی کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی، کچھ وقت بعد پتہ چلا کہ وہ ذہنی طور سے پاگل ہے، علاج وغیرہ کرایا گیا، کچھ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، اب وہ اپنے گھر میکہ میں رہ رہی ہے، میرا بھائی اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، کیا ایسے میں طلاق دی جاسکتی ہے؟

المستفتی: غلام محمد، بارہ درہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر اس بات کا قوی امکان ہے کہ ذہنی طور پر بیوی کے پاگل ہونے کی وجہ سے شوہر کا اپنی اہلیہ کے ساتھ رہنا انتہائی مشکل ہے۔ نیز ان حالات میں صحیح طور پر جانہین سے حقوق زوجیت کی ادائیگی بھی نہیں ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر

محمد طاہر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے کر اپنی زوجیت سے آزاد کر دے، تاکہ مزید اختلاف و انتشار پیدا نہ ہو۔

ومنہا أي من محاسنہ جعلہ بید الرجال دون النساء لاختصاصہن
بنقصان العقل وغلبة الهوی ونقصان الدین. (شامی، کتاب الطلاق، قبیل مطلب
فی طلاق الدور، کراچی ۲۲۹/۳، زکریا ۴/۲۹۹)

وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر بمعنى أنه محظور إلا لعارض
يبيحه..... وإن أراد الخلاص عند الحاجة إليه فهو المطلوب. (در مختار مع
الشامی، کراچی ۲۲۸/۳، زکریا ۴/۲۲۸)

إذا طلق المخاطب المكلف امرأته وقع الطلاق كالعاقل البالغ.
(تاتارخانیة ۴/۳۹۲، رقم: ۶۵۰۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳/۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۸ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۱۰۵۷۶/۳۹)

بے نمازی بیوی کو طلاق دینا

سوال [۲۰۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ اگر کسی شخص کی بیوی ہے اور وہ نماز ادا نہیں کرتی یعنی نماز کی پابند نہیں، تو کیا اس کو
طلاق دے سکتے ہیں اور اس کو اس حالت میں طلاق دینا ثواب کی چیز ہے؟ یعنی اس کو طلاق
دے دیں تو بہت ثواب ملے گا؟

المستفتی: پیش امام، جامع مسجد، مدھیہ پردیش

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بے نمازی بیوی کو اولاً سمجھائے اور اس کو نماز نہ پڑھنے پر
تنبیہ کرے، اگر سمجھانے سے بھی راہ راست پر نہ آئے، تو بھی اسے طلاق دینا ضروری نہیں

ہے؛ البتہ اگر بلا زوجہ صبر کر سکتا ہے اور ادائے مہر کی بھی قدرت ہے، تو بہتر ہے کہ طلاق دیدے، ورنہ طلاق نہ دے، فقہاء نے وجوب کی نفی فرمائی ہے۔

لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة. (شامی، کتاب الحظر والإباحة، باب

الإستبراء، زکریا ۹/۶۱۱، کراچی ۶/۴۲۷)

إذا اعتادت الزوجة الفسق عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضرب فيما يجوز فيه، فإن لم تنزجر لا يجب التطلاق عليه؛ لأن الزوج قد أدى حقه والإثم عليه، هذا ما اقتضاه الشرع، وأما مقتضى غاية التقوى، فهو أن يطلقها؛ لكن جواز الطلاق إنما هو إذا قدر على أداء المهر وإلا فلا يطلقها. (نفع المفتي والسائل ص: ۱۱۸)

نیز اگر بے نمازی بیوی سے اولاد موجود ہے، تو اس کو طلاق دینا بہتر نہیں ہے؛ اس لئے کہ طلاق فی نفسہ امر مغضوب بھی ہے۔

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه قال: أبغض الحلال إلى الله

الطلاق. (سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق، النسخة الهندية ۱/۲۹۶،

دارالسلام رقم: ۲۱۷۸، سنن ابن ماجه، أبواب الطلاق، النسخة الهندية ص: ۱۴۵،

دارالسلام رقم: ۲۰۱۸، مشکوة ۲۸۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴/۸/۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵/شعبان المعظم ۱۴۱۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۳۵۵)

حقوق زوجیت ادا نہ کرنے والی عورت سے نبھاؤ

سوال [۲۰۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: ایک لڑکے نے شادی کی، جب وہ اپنی بیوی سے ملنے کے لئے گیا، تو لڑکی نے رونا

چلانا اور شوہر سے جھگڑنا شروع کر دیا۔

الغرض شوہر اپنی مرضی سے اپنی خواہش پوری کرنے سے عاجز ہے، نیز جب چاہتی ہے بلا اجازت شوہر میکہ چلی جاتی ہے اور جب چاہتی ہے کسی کو اطلاع دیئے بغیر واپس آجاتی ہے، تو کیا ایسی صورت حال میں لڑکی کو طلاق دی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر کیا صورت اختیار کریں؟

المستفتی: محمد موسیٰ، محلہ: قریشی امر وہہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شرعاً ایسی عورت ناشزہ اور نافرمان ہے، اس کو سمجھایا جائے اور زوجین کے حقوق کیا ہیں اس سے مطلع کیا جائے، تاکہ کسی طرح نبھاؤ ہو جائے، پھر بھی اگر یکجا بود و باش اور باہمی اتحاد کی کوئی شکل نہ نکلے تو مرد بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اس معاملہ میں اس کے ذمہ کچھ گناہ نہیں؛ بلکہ یہی شکل بہتر ہے، مگر تین طلاق نہ دے؛ بلکہ ایک دے دے، تین دینا گناہ ہے ورنہ بعد میں پریشانی بھی ہوتی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم، ۴۰/۹، ایضاً ۳۳/۹)

إذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع أهلها ليصلحوا بينهما، فإن لم يصلحها جاز الطلاق، والخلع. (شامی، کتاب الطلاق، باب الخلع، زکریا دیوبندہ ۸۷/۵، کراچی ۳/۴۱۴)

وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة - إلى وقوع الطلاق وكان عاصياً. (هدایة، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۵)

وفي شرح الطحاوي: إذا وقع بينهما اختلاف فالسنة أن يجتمع أهل الرجل والمرأة ليصلحوا بينهما، فإن لم يصلحها جاز له الطلاق والخلع. (مجمع الأنهر قدیم ۱/۴۶۶، جدید دارالکتاب العلمیہ دیوبند ۲/۱۰۲، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۵، رقم: ۸۰۷۲)

عن أبي هريرة رض قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل

امراًتہ الی فراشہ فأبت فبات غضبان لعنتها الملائکة حتی تصبح. (صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدکم آمین والملائکة فی السماء آمین، النسخة الهندیة ۱/۴۵۹،

رقم: ۳۱۳۳، ف: ۳۲۳۷، مشکوٰۃ شریف ص: ۲۸۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۹ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

۱۴۱۸/۶/۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۳۶/۵۲۳۶)

بیوی پسند نہ آنے پر طلاق

سوال [۶۰۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے دونوں کے درمیان بہت زیادہ نا اتفاق بھی رہتی ہے، زید اسی بناء پر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو کیا شریعت میں مذکورہ وجہ کی بناء پر زید کو طلاق دینے کی اجازت ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبد الجبار دیویا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے یا بیوی پسند نہ آنے کی وجہ سے بیوی کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے اور آئندہ بھی حالات بہتر ہونے کی صورت نظر نہیں آرہی ہے، تو ایسے حالات میں اس کے زیورات، مہر، سامان جہیز سب چیز دے کر عزت کے ساتھ ایک طلاق دے کر الگ کر دینے کی گنجائش ہے تا کہ عدت کے اندر رجعت کی گنجائش ہو اور عدت کے بعد نکاح کی گنجائش ہو اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو لڑکی بھی کسی دوسری جگہ نکاح کر کے باعصمت زندگی گزار سکے۔

قال الله تبارک وتعالیٰ: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكِ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا. الآية [سورة البقرة: ۲۲۸]

عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يترکها حتى تحيض ثلاث حيض. (المصنف لابن أبي شيبة، مؤسسة علوم القرآن بيروت ۹/۵۱۲، رقم: ۱۸۰۴۰، مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي بيروت ۶/۳۰۲، رقم: ۱۰۹۲۶)

أما الأحسن: أن يطلقها واحدة في وقت السنة، ويترکها حتى تنقضي العدة، وروي عن إبراهيم أن أصحاب النبي كانوا يستحبون أن لا يزداد في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، وهذا أفضل عندهم. (تاتارخانية، زكريا ۴/۳۷۸، رقم: ۶۴۷۲، هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۰۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۳ محرم الحرام ۱۴۱۸ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۵۵۷۸۳۳)

بدفعلي کے شبہ پر طلاق

سوال [۶۰۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی گونگی بہری ہے نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے وہ غصہ میں گھر سے چلی گئی، ہم نے اس کو بہت تلاش کیا، تلاش کرنے پر ۲۲ روز میں پتہ چلا ہم وہاں گئے، وہ وہاں پر تھی، انہوں نے بتایا کہ ۲۲ روز سے ہمارے گھر پر ہے، ہم نے اس کو اپنی لڑکی بنا کر رکھا ہے اور ان کے لڑکے نے بتایا کہ ہم نے اس کو اپنی بہن بنا لیا ہے، ہم اس کو اپنے گھر لے آئے، صبح ۹ بجے کے قریب گھر سے نکلی تھی، اور دوپہر ۳ بجے وہاں پہنچ گئی اور میں امامت کرتا ہوں۔ تو اب آپ بتائیں کہ میں امامت کروں یا نہ کروں؟ اس کو رکھوں یا نہ رکھوں؟ نا تو وہ کسی کے ساتھ گئی تھی، نہ وہ بدچلن ہے، نہ اور کوئی بات ہے، بس ایسے لوگوں کو غصہ زیادہ ہوتا ہے، وہ غصہ میں چلی گئی، جس دن گھر سے گئی اسی دن وہاں پہنچ گئی تھی، اسکے پاس دو

بچے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، چھوٹے لڑکے کو ساتھ لے گئی تھی۔

المستفتی: حافظ شمشاد حسین، سیوہارہ، بجنور (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب بیوی بدچلن نہیں اور گھر سے تقریباً ۲۲ روز غائب رہی اس کو پناہ دینے والے نے اسے بیٹی اور بہن بنا کر رکھا، تو ایسی صورت میں بیوی پر بد فعلی کا شبہ نہ کرنا چاہئے، خصوصاً جبکہ بیوی نیک پارسا بھی ہے؛ لہذا اس کو طلاق نہ دے؛ اس لئے کہ فاجرہ بیوی کو بھی طلاق دینا لازم نہیں ہے اور اس کو رکھنے سے آپ کی امامت میں کسی قسم کی کوئی خرابی بھی لازم نہیں آئیگی۔

لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر، إلا إذا خاف أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يفرقا (مجتبیٰ) والفجور يعم الزنا وغيره. (شامی، کتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء، فصل في البيع، کراچی ۶/۲۷، ۴ زکریا دیوبند ۹/۶۱)

لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة، ولا عليها تسريح الفاجر، إلا إذا خاف أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يفرقا. (البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۱۰۷، زکریا ۳/۱۸۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۳/۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ رجب الاول ۱۴۲۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۲/۶۰۸)

پھوپھی کی عادت خراب ہونے کی وجہ سے بھتیجی کو طلاق دینا

سوال [۶۰۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنے لڑکے آصف کی شادی ۵ سال کی عمر میں اپنے بھائی پونس کے سالے کی لڑکی سے کیا تھا، ابھی آصف کی عمر ۹ سال ہے، ہم دونوں بھائی ساتھ ہیں کاروبار

قیام و طعام سب ایک ہی جگہ ہے، یونس کی زوجہ زبان دراز بد اخلاق ثابت ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا اور گالی گلوج کرنا گویا اس کی فطرت ثانیہ ہے، جس سے سب پریشان اور ذہنی الجھن میں پھنسے ہیں۔ مزید یہ عورت بار بار یہ بھی کہتی ہے کہ میری بھتیجی کا رشتہ ختم کرنا چاہو تو ختم کر دو، اس عورت کے چال چلن اور بد اخلاقی کو دیکھ کر ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس رشتہ کو ختم کر دیں؛ اس لئے کہ اس بچی کی پھوپھی کے جب ایسے عادت و اطوار ہیں تو اس کی بھی بڑے ہو کر ایسی ہی عادتیں ہو جائیں گی، ہر چھوٹا اپنے بڑے کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو آپ تحریر فرمائیں کیا یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے؛ جبکہ لڑکے کی عمر ۹ سال ہے، اور کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟

المستفتی: عثمان غنی (رجستان)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہ ضروری نہیں ہے کہ بھتیجی کی عادت پھوپھی کی طرح ہو؛ اس لئے محض اندیشہ کی وجہ سے عقد نکاح ختم کر دینا کسی طرح مناسب نہیں ہے، بعض دفعہ پھوپھی بھتیجی میں بھی تعلقات باقی نہیں رہتے۔

عن عمرو بن یحییٰ المازنی عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. (مؤطا امام مالك، كتاب الاقضية، القضاء في المرفق، اشرفي ديوبند ۳۱۱)

لا ضرر ولا ضرار. (الأشباه، قديم مطبع دارالعلوم ديوبند ۱۳۹) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۹ صفر المظفر ۱۴۱۵ھ

۱۴۱۵/۲۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۳۸۵)

شوہر کی جان لینے کے درپے ہونے والی بیوی کو طلاق دینا

سوال [۶۰۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ میری بیوی کے ناجائز تعلقات ایک لڑکے شہو سے ہو گئے ہیں، میں نے اسے اپنے گھر آنے سے منع کیا، تو میرے اوپر پستول کے ذریعہ فائر کر دیا اور وہ میرے قتل کے درپے ہے، میری بیوی بھی اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، میری دشمن ہے، وہ کسی وقت بھی مجھے مروا سکتی ہے، اس معاملہ کے محلہ کے لوگ بھی گواہ ہیں، تو اس طرح غیر مرد سے بیوی کو تعلقات رکھنا شرعاً کیسا ہے؟ اور ایسی عورت کو رکھنا چاہئے یا چھوڑ دینا چاہئے شرعی حکم کیا ہے؟ میرے پانچ بچے بھی ہیں۔

المستفتی: سلیم خاں، محلہ: کنور صاحب والی گلی، بروالان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ایسی بددین عورت کو طلاق دینے کی شرعاً اجازت ہے، مگر صرف ایک طلاق دے، تین طلاق نہ دے۔

لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر، إلا إذا خاف أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفراقا، والفجور يعم الزنا وغيره. (شامی، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، کراچی ۶/۴۲۷، زکریا دیوبند ۹/۶۱۱، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۱۰۷، زکریا ۳/۱۸۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۶۳۳/۵۲)

نافرمان بیوی کو طلاق

سوال [۶۰۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص کی بیوی نافرمان ہے، حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیوی کو طلاق دے سکتا ہے یا نہیں؟ حکم شرعی کیا ہے؟

المستفتی: محمد قاسم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو بیوی شوہر کی نافرمان ہو، حقوق زوجیت ادا نہ کرتی ہو اور تمام شرعی تنبیہات کے بعد بھی اپنی بری عادتوں کو بدلنے کے لئے تیار نہ ہو، تو ایسی عورت کو طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں اور صرف ایک طلاق دی جائے؛ اس لئے کہ صرف ایک طلاق سے بھی فرقت واقع ہو جاتی ہے اور بعد میں تعلقات صحیح ہو جائیں تو نکاح کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳۸۹، محمودیہ ڈائجیل ۱۶۶/۱۲، فتاویٰ محمودیہ میٹھ ۱۸/۱۸)

وایقاعہ مباح عند العامة لإطلاق الآيات بل يستحب لو مؤذية، أو تاركة صلاة (وتحتہ) لو مؤذية أطلقه، فشمّل المؤذية له، أو لغيره بقولها أو بفعلها، أو تاركة صلاة: - مفاده أي مفاد استحباب طلاقها. (شامی، کتاب الطلاق، زکریا ۴/۴۲۸، کراچی ۳/۲۲۷، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۳۷، زکریا ۴/۴۱۴)

حکماً من أهله وحکماً من أهلها ويؤكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه. (جلالین ص: ۷۶)

قال سعيد بن جبیر: الحکم أن يعظها أولاً، فإن قبلت وإلا هجرها، فإن هي قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث الحاكم حكماً من أهله وحكماً من أهلها، فينظران ممن الضرر وعند ذلك يكون الخلع. (تفسیر قرطبي بیروت ۵/۱۱۵، تحت سورة النساء، الآية: ۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ ربیع الاول ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۴۶۰)

نا فرمان بیوی کو طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۰۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کو اپنی بیوی پر بدکاری کا شبہ ہے، اور قرآن اس طرح کے ہیں کہ بالکل حقیقت

ہے ادھر بڑے بیٹے کا حال جو دنیاوی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے یہ ہے کہ باپ کو بندوق کی گولی مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، اسی طرح ایک جوان لڑکی ہے، جو پابند صوم و صلوة و ذکر ہے؛ لیکن اس نے ایک روز بیمار باپ کا گلا دبا یا، بیوی اور لڑکا بھی مارنے پر آمادہ ہو گئے، اب زید کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ کہیں موقع پا کر بیوی اور بچے اس کو قتل نہ کر دیں یا کسی اور طرح سے اس کو ہلاک نہ کر دیں ایسی صورت میں کیا بیوی کو طلاق دینا ضروری ہے یا صرف علیحدہ دوسری جگہ منتقل کر دینا بھی کافی ہے اور لڑکے کو وصیت وغیرہ کے ذریعہ عاق کر دینا کیسا ہے، اسی طرح ایسی نافرمان لڑکی کے بارے میں کیا حکم ہے؟

المستفتی: ڈاکٹر سید احمد، عمری کلاں، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں اگر واقعاً بیوی اور اولاد نافرمانی پر اترتی ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں نافرمان بیوی کو طلاق دینے کی اجازت ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحمیہ قدیم ۱۴۰۳/۱۴، جدید زکریا ۲۵۷/۸۱، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۲۹/۱۱، جدید ڈبھیل ۱۲/۱۶۶، فتاویٰ دارالعلوم ۸/۴۱۵)

ويجب أي الطلاق لوفات الإمامك. (در مختار علی الشامی، کتاب

الطلاق کراچی ۲۲۹/۳، زکریا ۴۲۹۴)

اسی طرح نافرمان بچوں کو اپنی جائیداد اور مال و دولت سے محروم کرنے کا ارادہ ہے، تو اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی جائیداد اپنی فرماں بردار اولاد کے نام ہبہ کر کے قبضہ دے دیں اور مرتے وقت اپنی ملکیت میں کچھ بھی باقی نہ رکھیں، تو ایسی صورت میں نافرمان اولاد مرنے کے بعد محروم ہو جائے گی۔ (مستفاد: امداد المفتین ۱۰۳۹)

وتتم الهبة بالقبض الكامل. وفي الشامية: يشترط قبل الموت.

(در مختار علی الشامی، کتاب الهبة، کراچی ۶۹۰/۵، زکریا ۸/۹۳)

لا بأس بأن يعطي من أولاده من كان عالماً متأدباً و لا يعطي منهم
من كان فاسقاً فاجراً . (مجمع الأنهر، قدیم ۲/ ۳۵۸، جدید دارالکتب العلمیہ
بیروت و مکتبہ فقیہ الأمت دیوبند ۳/ ۹۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۲۵۲)

نافرمان، بدتمیز بیوی کو طلاق دینا

سوال [۶۰۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ میری بیوی مسماۃ خوش نصیب عرف مسیبہ میری مرضی کے بغیر ادھر ادھر آنا
جانا رکھتی ہے اور منع کرنے کے باوجود نہیں مانتی۔ نیز گھر میں گالم گلوچ اور لڑائی، جھگڑا ہمیشہ
کرتی رہتی ہے بڑوں چھوٹوں کا بھی کوئی خیل نہیں رکھتی ہے؛ بلکہ بڑوں کی بے عزتی پر بھی
اتر آتی ہے اور میری بات کی کوئی پروا نہیں کرتی ہے اور نہ کہنا مانتی ہے اور بچوں کیساتھ میں
بھی بہت برا سلوک اور مار پیٹ کرتی ہے اور گھر کا سامان بھی اپنے ماں باپ کو اور روپے
وغیرہ بھی بغیر مجھ سے اجازت کے دے دیتی ہے اور منع کرنے پر اڑ جاتی ہے، میری کسی بات
کو اور کسی حکم کو نہیں مانتی ہے۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس بیوی کو ہم طلاق دینا چاہتے ہیں اور بیوی کہتی ہے کہ ابھی
میں حمل سے ہوں، تو طلاق دینے کے لئے اور اس سے ساتھ چھڑانے کے لئے کس طرح
طلاق دی جائے اور کون سی؟ حالت حمل میں یا اس کے بعد؟ اور مجھے اس کے حمل کے بارے
میں شک ہے؛ کیونکہ بظاہر حمل کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اب کیا صورت ہوگی؟ طلاق
کے بعد مہر اور نفقہ عدت کے لئے میں تیار ہوں۔

المستفتی: قمر یاض، بارہ دری، سرانے حسین بیگم، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامہ میں درج شدہ صورت میں شوہر کو طلاق دینے کا اختیار ہے؛ البتہ بہتر یہی ہے کہ مزید کچھ دن عورت کو اور سمجھاتا رہے مگر پھر بھی اگر نبھاؤ کی کوئی شکل نظر نہ آئے، تو طلاق دے کر اپنے نکاح سے علیحدہ کر دینا مستحب ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳۶۹)

قوله الأصل فيه الحظر معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه؛ بل يستحب لو مؤذية، أو تاركة صلوة. (الدر المختار، كتاب الطلاق، كراچی ۲۲۷/۳، زکریا ۴۲۸/۴، مطبوعہ کوئٹہ ۴۵۱/۲)

ولا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر، إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يفرقا. (الدر المختار، كراچی ۴۲۷/۶، زکریا ۶۱۱/۹، مطبوعہ کوئٹہ ۳۱۸/۲)

اگر طلاق دینا ہو تو ایک طلاق دے کر چھوڑ دیں یہی مستحسن ہے۔

عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. (مصنف ابن أبي شيبة، مؤسسة علوم القرآن بيروت ۵۱۲/۹، رقم: ۱۸۰۴۰، مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي بيروت ۳۰۲/۶، رقم: ۱۰۹۲۶)

أما الأحسن: أن يطلقها واحدة في وقت السنة، ويتركها حتى تنقضي العدة. وروي عن إبراهيم أن اصحاب النبي كانوا يستحبون أن لا يزداد في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، وهذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً عند كل طهر تطليقة. (الفتاوى التاتارخانية، زکریا دیوبند ۳۷۸/۴، رقم: ۶۴۷۲)

فالأحسن: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. (هداية، اشرفي دیوبند ۳۵۴/۲)

حالت حمل میں طلاق دینا مناسب نہیں ہے؛ لیکن اگر طلاق دے گا تو واقع ہو جائے گی۔
 و طلاق الحامل یجوز عقیب الجماع. (هدایة، اشرفی دیوبند ۳۵۶/۲)
 فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۶۶۴)

کیا نافرمان بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟

سوال [۶۰۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی ریٹیمہ رانی جس کے لطن سے میرے پانچ بچے ہیں جن میں تین لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی کی عمر دس سال ہے اور بڑے لڑکے کی عمر چودہ سال ہو گئی ہے، شروع ہی سے ریٹیمہ رانی روزہ نماز سے بہت دور ہے، بار بار کہنے پر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ میرے نماز اور روزہ کا کوئی احترام کرتی ہے، گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا تھا، میں نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کی آواز آہستہ کر دو، اس نے اس کی آواز کو اور تیز کر دیا۔

اب عرصہ تقریباً آٹھ سال سے وہ بہت بگڑ گئی ہے، نافرمانی حد سے تجاوز کر چکی ہے، میری اجازت کے بغیر جہاں اس کا جی چاہے جاتی ہے، جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں فوراً وہ گھر میں تالا ڈال کر چلی جاتی ہے اور دن بھر غائب رہتی ہے، معلوم کرنے پر منہ زوری کرتی اور گندی گندی گالیاں سناتی ہے، غیر مردوں سے اس کے ناجائز تعلقات ہو گئے ہیں اور اب اس کے پاس موبائل بھی موجود ہے، کس نے دیا کہاں سے آیا نہیں معلوم، باپ کو غریب بتاتی ہے، وہ بھی بردہ فروش ہے، جہاں موبائل کی گھنٹی بجی اس نے تیاری شروع کر دی اور اب میری موجودگی کی پرواہ کئے بغیر برقع اوڑھ کر چلی جاتی ہے، معلوم کرنے پر

گندی گندی گالیاں سناتی ہے اور کہتی ہے جس وقت میں چاہوں گی تجھے جان سے ختم کروادوں گی، بس میرے بیچ مت بولنا اس کے ماں باپ سے شکایت کرنے سے کچھ نتیجہ نہیں وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ ان کی عین مرضی کے مطابق ہے، میرے پڑوس کا ایک نوجوان لڑکا جس کا نام اشرف ہے، اس سے ریشمہ کے ناجائز تعلقات ہیں، جس مکان میں میں رہتا ہوں، اس کی چھت ٹوٹنے کے سبب ٹپک رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے گھر کے قریب مسجد میں بچوں کو لے کر سو جایا کرتا تھا، ایک دن اچانک رات کے بارہ بجے میں کسی ضرورت سے گھر میں گیا، تو وہاں اشرف کو اس کے پاس موجود پایا، وہ دیکھ کر دیوار کے سہارے اتر کر اپنے کارخانے میں چلا گیا، یہ تو بہت بعد میں اس کی آوارگی کے ثبوت مجھے آٹھ سال پہلے ہی مل چکے ہیں، جس دن سے مجھے اس کی حرام کاری، زنا کاری کا یقین ہوا ہے، اس دن سے ہی میں نے اس سے جنسی تعلق بالکل ختم کر دیا ہے، بچوں کو بغیر گالی کے آواز نہیں دیتی ہے، صبح کے دس بجے سو کراٹھتی ہے، گھر کا کوئی کام دلچسپی سے نہیں کرتی، دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچوں کا اسکول جانا بھی ختم ہو گیا ہے، اس کی حرام کاریوں کے اثرات سے میرا کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے، فاتحہ کشی کی شکایت دنیا بھر میں کرتی پھر رہی ہے، چیخ چیخ کر بولنا ننگا پن دکھانا اس کی فطرت بن چکی ہے، ایسی صورت میں اگر میں گھر سے نکالنے کی بات کرتا ہوں، تو وہ پولس کی دھونس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تیرے خلاف کیس بنا دوں گی، ایسی عورت کے لئے شریعت کا کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں، بعد طلاق کے کیا اس کا نان و نفقہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں؟

(۲) اس کی آوارگی کے پیش نظر کیا وہ کسی بچے کو اپنے پاس رکھنے کا حق رکھتی ہے یا نہیں؟ چھوٹی لڑکی کی عمر دس سال، دوسری لڑکی کی عمر گیارہ سال ہے۔

المستفتی: محمد شمیم، محلہ: بھٹی، مسجد بڑھ والی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نافرمان اور گنہگار بیوی کو طلاق دینا شریعت میں لازم

نہیں؛ لہذا شرعی اعتبار سے آپ کو اپنے حالات کے مناسب فیصلہ کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، اگر نبھاؤ کی شکل نہ ہو، تو طلاق دینے کی گنجائش ہے اور از خود طلاق دینے کی صورت میں عدت کا خرچہ (تین ماہواری گزرنے تک کا نان و نفقہ) ادا کرنا لازم ہوگا اور بچوں کے اس کے ساتھ رکھنے کی صورت میں اگر ان کے بگڑ جانے کا خطرہ ہو، تو آپ بچوں کو اس سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔

لا یجب علی الزوج تطلیق الفاجرة. (شامی، کتاب الحظر والإباحة، باب

الاستبراء، فصل فی البیع، زکریا ۹/۶۱۱، کراچی ۶/۴۲۷)

وأما الطلاق..... سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق

وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى. (شامی، زکریا ۴/۴۲۸،

کراچی ۳/۲۲۸)

وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة، والسكنى في عدتها رجعيًا، كان

أو بائنًا. (هدية، اشرفی دیوبند ۲/۴۴۳)

ثبتت للأم إلا أن تكون فاجرة فجوراً يضيع الولد به، وتحتة في

الشامية: لا اشتغال الأم عن الولد بالخروج من المنزل ونحوه. (شامی، باب

الحضانة، کراچی ۳/۵۵۶، زکریا ۵/۲۵۳)

أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأم إلا

أن تكون مرتدة أو فاجرة غير مأمونة. (هندية قديم زکریا ۱/۵۴۱، الباب السادس

عشر في الحضانة، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۹۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ ربیع الاول ۱۴۳۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۳۰۲)

کیا نافرمان اور بدتمیز بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟

سوال [۶۰۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی کو ہم بستری سے دور ہوئے قریب ۱۲-۱۳ سال ہو چکے ہیں، کبھی کوشش بھی کرتا ہوں تو گالیاں دیتی ہے اور بدکلامی سے پیش آتی ہے، نہ کھانا دیتی ہے نہ پانی، شروع سے ہی صبح کو چائے بنانا، بچوں کو اسکول بھیجنا میرا ہی کام رہا، دس گیارہ بجے سو کر اٹھتی ہے، ٹی وی ایک بجے تک دکھتی ہے، بغیر اجازت آنا جانا کرتی ہے، جب سے آئی ہے زندگی میں طوفان آ گیا ہے، بزنس ختم ہو گیا ہے، میرے خلاف بچوں کو ابھارتی ہے، میں اس سے تنگ آچکا ہوں، تو کیا ایسی عورت کو طلاق دیدوں؟ آپ ہمیں فتویٰ تحریر کر دیں، شریعت کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد سلیمان خان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب آپ کے اور بیوی کے درمیان نبھاؤ کی کوئی شکل نہیں ہے اور ایک گھر میں رہتے ہوئے بارہ تیرہ سال سے مستقل علیحدگی کی شکل ہے اور بیوی کسی طرح شوہر کا حق ادا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس بیوی کو طلاق دینے کی گنجائش ہے اور بہتر ہے کہ تین طلاق نہ دیں، صرف ایک طلاق یا زیادہ سے زیادہ دو طلاق دے دیں: اس لئے کہ ایک طلاق سے بھی علیحدگی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دوسرا نکاح کر کے باعصمت زندگی گزار سکتے ہیں۔

قال الله تبارک و تعالیٰ: الطَّلَاقُ مَرْثَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیْحٌ

بِاِحْسَانٍ. [سورة البقره: ۲۲۹]

عن ابراهيم قال: كانوا يستحبون ان يطلقها واحده، ثم يتركها حتى

تحیض ثلاث حیض . (مصنف ابن ابی شیبہ، مؤسسۃ علوم القرآن بیروت ۹/۵۱۲،

رقم: ۱۸۰۴۰، مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي بیروت ۶/۳۰۲، رقم: ۱۰۹۲۶)

الأحسن: أن يطلقها واحدة في وقت السنة، ويتركها حتى تنقضي العدة. وروي عن إبراهيم أن أصحاب النبي كانوا يستحبون أن لا يزداد في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، وهذا أفضل عندهم. (التاتارخانية،

زكريا ديوبند ۴/۳۷۸، رقم: ۶۴۷۲)

فالأحسن: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. (هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۵۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۵/۴/۱۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۱۱۴۹۲)

حقوق زوجیت ادا نہ کرنے والی کو طلاق

سوال [۶۰۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر دو لہن کے گھر والوں نے اس کی دماغی بیماری کو چھپا کر دھوکہ دے کر شادی کی ہو، تو یہ شادی کیسی مانی جائے اور بیوی دماغی بیماری کے علاج کی دوائی لے کر اپنے میکہ میں ایک سال سے زیادہ وقت سے مسلسل رہ رہی ہو اور شوہر کے ساتھ آنے سے صاف انکار کرتی ہو، تو اس صورت حال میں شوہر کو کیا حقوق حاصل ہیں؟ کیا ایسی صورت میں طلاق دی جاسکتی ہے اور وہ طلاق مانی جاسکتی ہے؟

المستفتی: نقیس احمد ولد ضیاء اللہ ساکن: رحمت نگر، کراولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر بیوی سے حقوق زوجیت ادا نہیں ہو پارہے ہیں اور

شوہر کے پاس نہیں رہ رہی ہے اور آنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو حق ہے کہ اس کو طلاق دے کر اپنی زوجیت سے الگ کر دے اور دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو جائیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۱۱۸/۱۶)

ومن محاسنه أي الطلاق التخلص به من المكاره أي الدينية والدينية، أي كأن عجز عن إقامة حقوق الزوج أو كان لا يشتبهها. (شامی، کتاب الطلاق، کراچی ۳/۲۲۹، زکریا ۴/۴۲۹)

وأما محاسنه فالتخلص به من المكاره الدينية، والدينية.

(البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۳۸، زکریا ۵/۴۱۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ

۱۴۳۵/۴/۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۵۰۳)

بدتمیزی اور مار پیٹ کرنے والی بیوی کو طلاق

سوال [۶۰۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک عورت کے بارے میں جو اپنے شوہر سے بدتمیزی بد اخلاقی مار پیٹ گالی گلوچ کرتی ہو، گھر میں جھگڑا فساد پھیلاتی ہو، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت نہ کر سکتی ہو، شوہر کو جان سے مارنے کیلئے لڑکوں کو اکساتی ہو، تو کیا ایسی عورت کو طلاق دی جاسکتی ہے یا نہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: عاشق حسین، گلشہد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر اس عورت کے ساتھ شوہر کو اپنی عزت و آبرو اور جان کا خطرہ ہو، تو ایسی عورت کو طلاق دے کر اپنے نکاح سے الگ کر دینے کی اجازت ہے اور ایسی

ناگزیر حالت میں بیوی کو طلاق دینے میں شوہر گنہگار نہ ہوگا، بس صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دے۔

فالأحسن: أن يطلق الرجل امرأته تطلقاً واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. (هداية، كتاب الطلاق، بلب طلاق السنة، اشرفي ديوبند ۳۵۴/۲)

أحسن الطلاق في ذوات القراء أن يطلقها طلقاً واحدة رجعية في طهر لا جماع فيه ولا طلاق ولا في حيضة طلاق ولا جماع ويتركها حتى تنقضي عدتها ثلاث حيضات. (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، زكريا ۱۴۰/۳)

طلقاً رجعية فقط في طهر لا وطء فيه، وتركها حتى تمضي عدتها أحسن. (در مختار مع الشامی، کراچی ۲۳۱/۳، زکریا ۴۳۲/۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۴/۱۰/۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۷ اشوال المکرم ۱۴۱۴ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۳۶۶)

فاحشہ اور ناشزہ کو طلاق دینا

سوال [۶۰۴۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نکاح ۱۹۹۵ء میں سعیدہ بنت محمد فاروق سے ہوا تھا، جس سے میرے تین بچے بھی ہیں، مگر صورت حال یہ ہے کہ ڈیڑھ سال سے میری بیوی کے غلط تعلقات ایک اجنبی مرد سے قائم ہیں جو کہ شادی شدہ ہے، دونوں رات دن فون پر بات کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج بھی کرتے رہتے ہیں، سمجھانے کے جو تین طریقہ قرآن کریم نے ذکر کئے ہیں، وہ سب اپنالئے ہیں، مگر یہ سب کرنے کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہے؛ بلکہ الٹا مجھے قتل کروانے کی دوسرے تہدک بھی دے چکی ہے،

جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، وہ اجنبی مرد بھی مجھے قتل کی دھمکی دے چکا ہے، اس وقت بیوی ڈیڑھ سال سے اپنے میکہ میں ہے۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایسی غلط حرکت کرنے سے بیوی نکاح میں رہتی ہے یا نہیں؟ اگر رہتی ہے تو ایسی بیوی کو رکھنا از روئے شرع کیسا ہے؛ جبکہ اس سے میری جان کو خطرہ ہے، قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

المسئتی: فخر الحسن ابن محمد صدیق مظاہری، 24/306 مسجد گلی نصیر خاں، نئی بستی، آگرہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی نافرمان بیوی جو کسی اجنبی مرد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور اوپر سے قتل کی دھمکی دیتی ہے، تو وہ فاحشہ اور ناشزہ عورت ہے، شوہر کو اختیار ہے چاہے اس کو اسی حالت میں اپنے پاس رکھے یا اس کو طلاق دے کر اپنی زوجیت سے خارج کر کے اس کے جھگڑے سے یکسوئی حاصل کر لے اور دوسری پاک دامن عورت سے شادی کر کے عزت و عفت کی زندگی گزارے۔

قوله: لا یجب علی الزوج تطلیق الفاجرة ولا علیها تسریح الفاجر، إلا إذا خافا أن لا یقیما حدود الله فلا بأس أن ینفرا. (شامی، کتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء، فصل فی البیع، زکریا دیوبند ۶۱۱/۹، کراچی ۶/۴۲۷)

لا یجب التطلیق علیہ؛ لأن الزوج قد أدى حقه والإثم علیها، هذا ما اقتضاه الشرع، وأما مقتضى غاية التقوى فهو أن يطلقها. (نفع المفتی والسائل ص: ۱۶۳، بحوالہ محمودیہ ڈابھیل ۱۶۵/۱۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۴/۲/۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ صفر المظفر ۱۴۳۴ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۰۹۵۷)

فاجرہ کو طلاق دینا

سوال [۶۰۴۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نکاح خیر النساء سے تقریباً آٹھ سال پہلے ہوا ہے، اس عرصہ میں مسمیٰ خیر النساء اپنے میکہ اور میرے یہاں کبھی دو ماہ رہی اور کبھی ایک ماہ رہی، اس طرح اس نے میرے گھر پر تقریباً ڈھائی سال بتائے ہیں، اس اثنا میں ایک لڑکا مسماۃ خیر النساء کے میکہ ہی میں پیدا ہوا، ہم کہتے تھے کہ بچہ ہمارے گھر ہی پیدا ہو، اس سلسلہ میں ہم نے مسماۃ کو اپنے گھر لے جانے کی کوشش بھی کی، اس دوران مسماۃ خیر النساء نے مجھ سے طلاق لئے بغیر دوسری جگہ نکاح کر لیا۔

اب لڑکی میرے ہمراہ جانے کو تیار ہے؛ لیکن میں اس کو لے جانے پر راضی نہیں ہوں اور طلاق دینا چاہتا ہوں؛ لیکن مندرجہ بالا حالات میں شریعت نے کن کن چیزوں کو واجب کیا ہے، تحریر فرمانے کی زحمت گوارہ فرمائیں، لڑکے کی عمر تقریباً چھ سال ہے، لڑکا شریعت کے اعتبار سے کس کے پاس رہنا چاہیے؟

المستفتی: رشید احمد خاں

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عورت کے فاجرہ فاسقہ ہونے کی وجہ سے آئندہ دونوں کے درمیان خوش گوار زندگی اور نباہ کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تو شوہر پر واجب ہے کہ طلاق دے کر علیحدہ کر دے۔

ويجب أي الطلاق لو فات الإمساك بالمعروف. (شامي، كتاب الطلاق،

کراچی ۲۹/۳، زکریا ۴/۲۹، مصری ۲/۴۳۳، فتاویٰ دارالعلوم ۶/۸۶)

لیکن شوہر پر مدخولہ بیوی کا پورا مہر ادا کرنا لازم ہے۔

وإنما يتأكد لزوم تمامه أي المهر بالوطء - إلى قوله - إذا تأكد المهر

بما ذکر لا یسقط بعد ذلك وإن كانت الفرقة من قبلها. (شامی، کتاب النکاح، باب المهر، زکریا ۴/۲۳۳، کراچی ۱۰۲/۳)
 اگر ہر ماہ کے خرچے کی مقدار دونوں کے درمیان متعین نہیں ہوئی تھی، تو زمانہ سابق کا کوئی خرچ شوہر کے ذمہ واجب نہیں ہے۔

النفقة لا یصیر دیناً إلا بالقضاء أو الرضا. (الدر المختار، باب النفقة، زکریا ۵/۳۱۱، کراچی ۳/۵۹۴، کوئٹہ ۲/۷۱۵)
 نیز بچہ کا گذشتہ خرچ بھی واجب نہیں ہے۔

وقضی بنفقة غیر الزوجة زاد الزلیعی والصغیر ومضت مدة، أي شهر فأكثر سقطت لحصول الاستغناء. وفي الشامية: لأن نفقة الأقارب لا تصیر دیناً بالقضاء؛ بل تسقط بمضی المدة. (در مختار، کراچی، ۳/۶۳۳، زکریا ۵/۳۶۹-۳۷۰، کوئٹہ ۲/۷۴۴)

سات سال تک ماں کو اپنے پاس لے جانے کا حق ہے، اس کے بعد باپ کو لے جانے کا حق ہے، جب بچہ کی عمر چھ سال ہے، تو آئندہ مزید ایک سال کا خرچ باپ کو دینا پڑے گا۔

والحاضنة أحق به أي بالغلام حتی یتستغنی عن النساء، وقدر بسبع وبه یفتی. (در مختار، باب الحضانة، زکریا ۵/۲۶۷، کراچی ۳/۵۶۶، کوئٹہ ۲/۶۹۵)

اور طلاق کی عدت گزرنے کے بعد نان نفقہ کا شرعاً مطالبہ نہیں کر سکتی فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ محرم الحرام ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۳/۳۵۵)

کیا فاجر بیوی کو طلاق دے دینا چاہئے؟

سوال [۶۰۴۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ میری بیوی ۱۶ جون ۲۰۱۲ء کی صبح چھ بجے ۵ مہینے کی لڑکی کو چھوڑ کر بناتائے کہیں چلی گئی ہے، کچھ دن پہلے روہینہ نام کی لڑکی نے میری بیوی کو ایک غیر لڑکے کے ساتھ لال کنواں ریلوے اسٹیشن پر گھومتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ۲۰۱۲/۶/۱۶ء سے پہلے بھی میری بیوی بناتائے دوبار گھر سے جا چکی ہے؛ لیکن سرالیوں کے سمجھانے بھانے پر میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا؛ لیکن اب اس کا ۲۰۱۲/۶/۱۶ء سے آج تک کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہئے؟ میری پانچ مہینہ کی بچی بھی ہے، جس کی پرورش میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

المستفتی: محمد وسیم، مغلوہ، سقہ اول، عباسیوں والی مسجد مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی بیوی جو محصوم بچی اور شوہر کو چھوڑ کر آزاد پھرتی ہو وہ عند اللہ گنہگار اور مستحق لعنت ہے، اس پر لازم ہے کہ شوہر کے پاس رہ کر اپنا گھر بسائے اور سابقہ حرکتوں سے سچی توبہ کرے، اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ سے معافی مانگے اور شوہر کے اوپر ایسی آزاد عورت کو طلاق دینا لازم نہیں۔

لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة. (الدر المختار مع الشامی، کتاب

الخط والإباحة، باب الإستبراء، زکریا دیوبند ۹/۶۱۱، کراچی ۶/۴۲۷)

ولا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر، إلا

إذا خاف أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا. (البحر الرائق، كوئٹہ ۳/۱۰۷،

زکریا ۳/۱۸۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳/۱۰/۱۴ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ شوال المکرم ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۹/۹۱۷۰۷)

فاجرہ عورت کو طلاق دینا لازم نہیں

سوال [۶۰۴۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید ایک مدت تک حامد کے گھر میں رہا، اسی دوران حامد کی بیوی سے اس کا غلط تعلق ہو گیا، بالآخر دونوں گھر سے بھاگ گئے اور نکاح کر لئے، جب کہ اس عورت کی جانب سے حامد کے تین لڑکے، تین لڑکیاں اور تین نواسیاں ہیں، نکاح پر کافی ایام گزر گئے حال ہی میں زید نے ایک سو دو سرکاری قاضی سے حامد کے نام جعلی طلاق نامہ حاصل کر لیا؛ حالانکہ حامد نے اب تک اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی اور نہ ہی وہ طلاق دینے اور خلع کرنے پر راضی ہے؛ بلکہ وہ اب بھی امیدوار ہے کہ اس کی بیوی اگر واپس آئے، تو اسی سے وہ اپنا گھر بسائے۔ اب سوال یہ کہ چونکہ زید اور حامد کی بیوی غلط کاری میں مبتلا ہیں، تو حامد طلاق نہ دینے کی وجہ سے کیا عند اللہ ماخوذ اور گنہگار ہوگا؟

المستفتی: محمد اوریخان، بنگال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید نے حامد کی عورت سے جو نکاح کیا ہے، وہ نکاح ہوا ہی نہیں؛ بلکہ دونوں حرام کاری اور زنا میں مبتلا ہیں اور جعلی طلاق نامہ سے حرمت حلت میں تبدیل نہیں ہوتی اور حامد نے اگر اس کو سمجھایا بچھایا؛ لیکن اس کے باوجود نہیں مان رہی ہے اور حامد بچوں و بچیوں کی وجہ سے طلاق نہیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں حامد گنہگار نہیں ہے؛ بلکہ صرف عورت ہی گنہگار ہے اور عورت کا خاندان اگر موجود ہے، تو خاندان والوں پر لازم ہے کہ عورت کو شوہر کے پاس بھیج دیں۔

لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة. (شامی، کتاب الحظر والإباحة،

باب الاستبراء، فصل في البيع، كراچی ۶/۲۷، ۴، زکریا ۹/۶۱۱، البحر الرائق،

کوئٹہ ۳/۱۰۷، ۱۸۸/۳)

إذا اعتادت الزوجة الفسق عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضرب فيما يجوز فيه، فإذا لم تنزجر لا يجب التطيق عليه؛ لأن الزوج قد أدى حقه والإثم عليها، هذا ما اقتضاه الشرع. (نفع المفتي والسائل ص: ۱۱۸، مستفاد: فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۱۸/۴۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ

۱۳۳۵/۵/۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۵)

فاجرہ بیوی کو طلاق دینا

سوال [۶۰۴۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی بد فعلی میں مبتلا ہے، شوہر کو گندے جواب دیتی ہے، بغیر اجازت غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہے، سمجھانے پر بھی غلط اور گندے الفاظ سے نوازتی ہے، تو اس صورت حال میں طلاق دینا جائز ہوگا یا نہیں؟

المستفتی: ابو عبد اللطیف، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مذکورہ بیوی کو آپ طلاق دے سکتے ہیں، طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسے پاکی کے زمانہ میں جس میں عورت سے صحبت نہ کی ہو ایک طلاق دے کر اسے چھوڑ دیا جائے؛ تاکہ اس کی عدت گزر جائے۔

وأما الطلاق: فإن الأصل فيه الحظر بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وهو معنى قولهم: الأصل فيه الحظر، والإباحة للحاجة إلى

الخلاص. (شامی، کتاب الطلاق، کراچی ۳/۲۲۸، زکریا ۴/۴۲۸)

وأما وصفه فهو أنه محظور نظرًا إلى الأصل، ومباح نظرًا إلى الحاجة،

کذا فی الکافی. (ہندیہ، زکریا ۱/۳۴۸، جدید ۱/۴۱۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳/۷/۱۴۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲/رجب المرجب ۱۴۲۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۳۸۳۸۵۹۰)

فاجرہ، زانیہ، گمراہ بیوی کو طلاق دینا

سوال [۶۰۴۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ احقر کی زندگی سے وابستہ واقعات کا خلاصہ بہ حلف تحریر ہے کہ میرا نکاح مورخہ: ۳۰/اپریل ۱۹۷۸ء کو مسماۃ برجیس بنت شفیع، ساکن: دلی کے ساتھ بالعوض دین مہر مبلغ پانچ ہزار روپیہ عمل میں آیا تھا، جس کے نتیجہ میں میری زوجہ مذکورہ کے لطن سے پہلی لڑکی سلیمہ ہاجرہ مورخہ: ۱۳/فروری ۱۹۷۹ء کو اور دوسری لڑکی سلیمہ عامرہ ۲/جون ۱۹۸۰ء کو تولد ہوئیں، جن کی پیدائش کے بعد برجیس نے میری محبت اور قربانیوں کو نظر انداز کر کے بددیانتی اور خباثت سے میرے ملازم مسمی کا جل ادھیکاری اہل ہندو سے ناجائز تعلقات قائم کر لئے، جس کا علم ہونے پر میں نے کا جل ادھیکاری کو ملازمت سے برطرف کر کے برجیس کو سمجھایا، جس کے باوجود برجیس میری کاروباری مصروفیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کا جل ادھیکاری کے ساتھ رنگ فلیٹ واقع ڈی ڈی اے کا کابی نیو دہلی اور اس کے دیگر ٹھکانوں پر مل کر کا جل ادھیکاری کے ساتھ رنگ ریلیاں منائیں، میری دولت کو پانی کی طرح بہاتی رہی اور میرے دفتر میں آجانے کے بعد شام تک واپس ہونے سے پہلے زیادہ تر گھر سے فرار رہنے لگی، جس کی بابت جب میں نے برجیس کے بھائی سے معلومات کی تو اس کا علم ہونے کے بعد برجیس میری کافی رقم اور قیمتی زیورات لے کر کا جل ادھیکاری کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی، جس کا علم ہونے پر میں نے مورخہ: ۲۸/جون ۱۹۹۱ء کو برجیس اور کا جل ادھیکاری کے خلاف تھانہ میں رپورٹ درج کرا کر دیگر قانونی چارہ جوئی کی اور اس کے عزیز و اقارب سے

بھی شکایت کی، جنہوں نے برجیس کو تلاش کر کے میرے اوپر اس کو معاف کر دینے کی بابت زور ڈالا اور برجیس نے بھی متعلقہ عزیزوں کے روبرو خدا اور رسول اور کلام پاک کی قسمیں کھا کر دست بستہ معافی مانگی اور اقرار کیا کہ میں اب کا جل ادھیکاری سے کبھی نہیں ملوں گی، جس پر میں نے اس کی مکارانہ جھوٹی قسموں پر اعتبار کر کے آسائش اور مستقبل کے پیش نظر اس کو معاف کر دیا، اور اس کی جانب سے مطمئن ہو کر اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا؛ لیکن برجیس اپنی ناجائز حرکات سے باز نہیں آئی، اس پر کا جل ادھیکاری کے عشق کا بھوت سوار تھا اور وہ اپنی جنسی پیاس کی تسکین کے واسطے میری عدم موجودگی میں برابر زنا کاری اور میری کمائی مٹانے میں مصروف رہی، گذشتہ دنوں میں ایک پارٹی کی بطور امانت آئی ہوئی کثیر رقم سیف میں رکھ کر باہر چلا گیا اور جب واپس آ کر اس کی معلومات کی تو برجیس نے بغیر کوئی جواب دیئے یہ کہہ کر چلی گئی کہ تمہاری رقم لا کر دیتی ہوں اور دوسرے دن متعلق تھانہ چترنجن پارک نیو دہلی پر جا کر میرے خلاف اپنے ہاتھ کی تحریر کردہ رپورٹ شری عقیل احمد ایس ایچ او کو دے کر زبانی کہا کہ میں اپنے شوہر کی حرکتوں سے تنگ آ کر ان کے ساتھ (یعنی کا جل ادھیکاری) کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، انکو اٹری کر کے میری جان کی حفاظت کی جائے، جس پر ایس ایچ او موصوف نے کہا کہ مسلمان اور یہ ہندو، اپنے شوہر سے طلاق لئے بغیر اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے، جس پر برجیس نے کہا میری چھوٹی بہن تاجو بنت شفیع نے ست پرکاش شرما کے ساتھ کراؤ کر لیا ہے، کیا ہندو انسان نہیں ہوتے، جس پر ایس ایچ او موصوف نے لا جواب ہو کر مجھے فون سے اطلاع دی اور جب میں تھانہ پہنچا تو وہ دونوں تھانہ سے واپس جا چکے تھے، آپ سے دریافت ہے کہ اب مذکورہ بالا حالات کے پیش نظر مجھ کو برجیس کے ساتھ کیا عمل کرنا چاہئے؟ کیا از روئے شرع برجیس کو طلاق دے دینا چاہئے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جو صورت حال سوال نامہ میں درج ہے، اس سے بظاہر بیوی کی نافرمانی اور گمراہی کی وجہ سے ایک اچھے شوہر کے ساتھ نبھاؤ بہت مشکل نظر آتا ہے اور

ایسی نافرمان اور گمراہ عورت کو طلاق دے کر نکاح سے الگ کر دینا شوہر کے لئے شریعت اسلامیہ میں بلا تردد جائز اور درست ہے، مگر صرف ایک طلاق دے کر الگ کر دے اور اگر اس سے زیادہ دینا ہے تو دو طلاق سے زائد نہ دے، تین طلاق دینے سے شوہر گنہگار ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے:

قوله تبارک وتعالیٰ: الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ

بِاِحْسَانٍ. [سورة البقره: ۲۳۹]

فالأحسن: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. (هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۵۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ شوال المکرم ۱۴۱۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۱۹۷۷)

نا فرمان بیوی کو طلاق دینا

سوال [۶۰۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی کو تین سال کا عرصہ ہونے جا رہا ہے، ہم دونوں میاں بیوی میں بعض حالات کی بناء پر نا اتفاق رہنے لگی، بیوی چاہتی ہے کہ میں ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ رہوں؛ لیکن میں ماں باپ کو کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا، اسی وجہ سے تقریباً پانچ ماہ سے میری بیوی میکہ میں رہ رہی ہے، ہمارے ماں باپ سے لڑکی لڑتی جھگڑتی رہتی ہے اور خود کشی کی دھمکی دیتی ہے، تو کیا ان حالات سے مجبور ہو کر میں اپنی بیوی کو طلاق دیدوں؟ کیا شرعاً میں گنہگار تو نہیں ہوں گا؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر واقعی حالات اس طرح ہیں تو ایسی عورت کو طلاق دینا گناہ نہیں؛ بلکہ مستحب ہے۔

وایقاعہ مباح وقیل: الأصح حضرہ إلا لحاجة كريمة وكبر؛ بل يستحب لو مؤذية. قوله: أطلقه فشمّل المؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها. (شامی، کتاب الطلاق، کراچی ۲۲۷/۳، زکریا ۴/۴۲۷ تا ۴/۴۲۹)

يستحب طلاقها إذا كانت سليطة مؤذية أو تاركة للصلوة لا تقيم حدود الله. (البحر الرائق، كوئٹہ ۲۳۷/۳، زکریا ۳/۴۱۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۳/۵۷۶۷)

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۳/۵/۱۴۱۹ھ

فاجرہ عورت کو طلاق دینا ضروری نہیں ہے

سوال [۶۰۴۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی ہندہ سے تین بچے ہیں، جن میں دو لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے، بڑی لڑکی کی عمر تقریباً سات سال ہے، لڑکے کی عمر تقریباً پانچ سال ہے، چھوٹی لڑکی تقریباً تین سال کی ہے، زید کی شادی ۱۸ جولائی ۱۹۹۲ء میں ہوئی تھی، زید ۱۹۹۸ء میں کاروباری حالات خستہ ہونے کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کو سسرال میں اپنے ساس سسر کے پاس چھوڑ کر کچھ عرصہ کے لئے اپنے حالات سدھارنے کے لئے لکھنؤ چلا گیا تھا، تقریباً لکھنؤ میں چھ ماہ رہا، اس درمیان اپنی شریک حیات سے بذریعہ فون برابر بات چیت ہوتی رہی، جب چھ مہینہ میں زید اپنے بچوں کے پاس سسرال آیا تو معلوم ہوا کہ زید کے بیوی بچے اپنی چھوٹی بہن بہنوئی کے پاس رہتے ہیں، زید نے اس بات کی تحقیق اپنے ساس سسر سے کی تو معلوم ہوا کہ زید کی بیوی

اپنے والدین سے جھگڑا کر کے اپنی چھوٹی بہن بہنوئی کے پاس رہتی ہے، زید نے اپنی بیوی سے والدین کے گھر نہ رہنے کی وجہ پوچھی تو بیوی نے جواب دیا کہ میرے والدین مجھ سے لڑتے جھگڑتے تھے اور بچوں کو تنگ رکھتے تھے؛ اس لئے میں چھوٹی بہن بہنوئی کے پاس آ کر رہ رہی ہوں، پھر محلہ کے معزز حضرات نے بتایا کہ آپ کی بیوی کے چھوٹے بہنوئی سے ناجائز تعلقات ہو گئے ہیں، تو میں نے بیوی کو سمجھایا اور اپنے ساتھ رہنے کے لئے کہا، تو بیوی نے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا، زید نے اس کی شکایت ساس سسر سے کی، تو جواب ملا کہ تمہاری بیوی ہمارے قبضے سے باہر ہے، پھر ساڑھو کو سمجھایا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، پھر زید کی بیوی زید کے گھر رہنے لگی، ابھی آئے ہوئے دوروز ہوئے تھے کہ زید سے بغیر پوچھے اپنی مرضی سے بہنوئی کے پاس چلی گئی، اس طرح کی کئی بار اس نے حرکتیں کی ہیں، پھر زید بیوی اور ساڑھو کو سمجھا کر بیوی کو لایا، زید کی بیوی ہفتہ میں دوروز شوہر زید کے پاس رہتی ہے اور پانچ روز بہنوئی کے پاس رہنا پسند کرتی ہے، جب زید نے اس پر اعتراض کیا، تو بیوی نے کہا کہ ساری دنیا اور آپ کو چھوڑ سکتی ہوں؛ لیکن بہن بہنوئی کو نہیں چھوڑوں گی، اس شرط پر اگر آپ مجھے رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دیدیتے؛ لہذا حضور والا سے گزارش ہے کہ از روئے شرع بتائیں کہ میرے تینوں بچوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور بعد طلاق بچوں کا حقدار کون ہے، اور کن کن شرائط پر طلاق ہوگی؟

المستفتی: محمد نیر عالم، ہر تھلہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: فاسقہ اور فاجرہ عورت کو طلاق دینا ضروری نہیں ہے؛ لیکن جب میاں بیوی کے درمیان بھاء ناممکن ہو جائے، تو طلاق یا خلع سے الگ ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

لا یجب علی الزوج تطلیق الفاجرة و لاعلیہا تسریح الفاجر، إلا

إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفترقا. (درمختار مع الشامي، كتاب النكاح، كراچی ۳/۵۰، زکریا ۴/۱۴۴، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۱۰۷، زکریا ۳/۱۸۸) عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے، تو شوہر مہر وغیرہ کے ساقط کرنے کی شرط لگا کر بھی طلاق دینے اور خلع کرنے کا حق دار ہے۔

امراة سألت زوجها، فقال الزوج: أبرئني عن كل حق لك علي حتى أطلقك؟ فقالت: أبرأتك عن كل حق يكون للنساء على الرجال، فقال في فور ذلك: طلقتك واحدة وهي مدخول بها يقع بائناً. (الفتاوى التاتارخارنية، زکریا ۳/۲۳، رقم: ۷۱۲۹، وهكذا في البزازیة مع الهندية، زکریا ۴/۲۱۰، جدید زکریا دیوبند ج: ۱ سیٹ ۱۰/۱۳۷)

بعد طلاق بچوں کی پرورش کا حق ماں کو ہے، لڑکا ہے تو سات سال تک اور لڑکی ہے تو بالغ ہونے تک، اس کے بعد باپ حقدار ہوگا۔

والحاضنة أما، أو غيرها أحق به أي بالغلام حتى يستغني عن النساء، وقدر بسبع وبه يفتى. (درمختار مع الشامي، باب الحضانة، كراچی ۳/۵۶۶، زکریا ۵/۲۶۷)

والأم والجددة أحق بالصغيرة حتى تشتهي فيأخذها الأب. (البحر الرائق ۴/۱۷۰، دار الكتاب ديوبند ۴/۲۸۸، وكذا في الدر المختار مع الشامي، زکریا ۵/۲۶۸، كراچی ۳/۵۶۶) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۴۳۰۵۶)

ناشرزہ عورت کو طلاق دینا

سوال [۶۰۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ زید کی شادی تقریباً ۲۵ سال پہلے ہوئی تھی اور زید کی بیوی ۲۲ سال سے لگاتار اپنے میکہ میں رہتی ہے، اور آنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے؛ جبکہ متعدد بار اس کو لانے کی کوشش بھی کی گئی، پنچایت کا بھی سہارا لیا گیا، مگر ہر مرتبہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، جس کے نتیجہ میں اس کا بیٹا جو اپنے نہال میں رہ رہا ہے بالکل آوارہ ہو چکا ہے؛ اس لئے اتنے لمبے عرصہ کے انتظار کے بعد زید چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے خلاصی حاصل کرے، تو کیا ایسے معاملہ میں شریعت نے اس کو جو حق طلاق دیا ہے، اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جس سے زید شریعت کی نگاہ میں معتبوب بھی نہ ہو اور اس کو روزمرہ کی تکلیف سے چھٹکارا بھی مل جائے۔ نیز یہ بھی وضاحت فرمائیں کہ کیا ایسے مسائل میں امارت شرعیہ سے رجوع کر کے مسئلہ کو حل کیا جاسکتا ہے؟ مفصل تحریر فرمائیں۔

المستفتی: خورشید عالم، پکا باغ، گلشہید، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی نافرمان بیوی کو جو مدتوں سے شوہر سے الگ رہ رہی ہے اور واسطہ بلا واسطہ بلانے پر شوہر کے پاس نہیں آتی ہے، ایسی بیوی کو طلاق دے کر نجات حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ اور طلاق دیتے وقت یہ خیال رکھے کہ تین طلاق نہ دی جائے؛ بلکہ صرف ایک طلاق یا زیادہ سے زیادہ دو طلاق دے کر چھوڑ دے اور عدت گذرنے کے بعد عورت اپنے طور پر کسی سے بھی نکاح کر سکے گی اور جب شوہر کو خود طلاق دینے کا حق حاصل ہے تو امارت شرعیہ اور محکمہ شرعیہ سے چارہ جوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

لا یجب علی الزوج تطلیق الفاجرة و لاعلیها تسریح الفاجر، إلا إذا خافا أن لا یقیما حدود اللہ فلا بأس أن یفترقا. قال الشامی: تحت قوله إلا إذا خافا؛ لأن التفریق حینئذ مندوب بقرینة قوله فلا بأس إلى ما قال:

إنه يستحب لو مؤذية، أو تاركة صلاة، ويجب لو فات الإمساك بالمعروف. (شامي، كتاب النكاح، كراچی ۵۰/۳، زكريا ۱۴۴/۴، البحر الرائق، كوئٹہ ۱۰۷/۳، زكريا ۱۸۸/۳)

عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. (المصنف لابن أبي شيبة، مؤسسه علوم القرآن بيروت ۵۱۲/۹، رقم: ۱۸۰۴۰)

أما الأحسن: أن يطلقها واحدة في وقت السنة، ويتركها حتى تنقضي العدة، وروي عن إبراهيم أن أصحاب النبي كانوا يستحبون أن لا يزداد في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، وهذا أفضل عندهم. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۳۷۸/۴، رقم: ۶۴۷۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲ھ/۶/۲۱

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۷۸/۸۱۰۱)



(۳) باب مطالبۃ الطلاق

بغیر شرعی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرنا

سوال [۶۰۴۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عطاء الرحمن شمشی ساکن مراد آباد نے ۷ جنوری ۲۰۰۳ء کو آنولہ ضلع بریلی کی ایک خاتون مسماۃ رعنا زریں بھمر ۳۵ رسال سے عقد ثانی کیا تھا، اور اچھی طرح سے وضاحت کر کے عطاء الرحمن نے اپنی سابقہ بیوی کی اولاد جن میں تین شادی شدہ دو لڑکے کنوارے ہیں، بخوبی واضح کر دیا تھا اور خود والدین ہمیشہ رعنا زریں کے عطاء الرحمن کی رہائش گاہ پر آ کر دیکھ بھال کر گئے اور تقریباً تین ماہ کا عرصہ نکاح سے قبل اچھی طرح سوچ بچار کا ملا؛ لیکن رخصتی کے بعد سے عطاء الرحمن اور اس کے متعلقین پر طرح طرح کے بے بنیاد بہتان اور الزام تراشی کی بوچھاڑ ہونے لگی، جس کو عطاء الرحمن صبر و تحمل سے برداشت کرتا رہا ہے، واضح رہے اس عرصہ چار ماہ میں رعنا زریں اپنے شوہر عطاء الرحمن کے گھر پہلی بار چار دن اور دوسری بار چھ دن کل دس یوم رہی، اتنے قلیل عرصہ رہنے پر بھی وہ اپنے شوہر سے اس قدر بدظن ہو گئی ہے کہ تین ماہ سے اپنے میکہ میں رہ رہی ہے؛ جبکہ اس اثنا میں عطاء الرحمن نے کئی معزز ہستیوں کو درمیان میں ڈال کر انہماں و تفہیم کی کوشش کی اور ہر طرح سے اس رشتہ کو نبھانے کی کوشش میں ہے؛ لیکن رعنا زریں اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر اس قدر ڈٹی ہے کہ شوہر سے علیحدگی اور طلاق لینے پر آمادہ ہو رہی ہیں، اس شکل میں اگر عطاء الرحمن کو بچووری اور بادل ناخواستہ طلاق دینی پڑ جائے، تو دین مہر وغیرہ کی ادائیگی شوہر پر عائد ہوتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: عطاء الرحمن، شمشی، بازار شاہی مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب رعنا زین اور اس کے والدین اور متعلقین کو عطاء الرحمن کی مرحومہ پہلی بیوی کی اولاد کے بارے میں پہلے سے وضاحت کر دی گئی تھی، نیز شادی کے بعد صرف دس یوم شوہر کے پاس اس نے گزارے ہیں، تو اتنی قلیل مدت میں شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر رعنا زین کا شوہر سے بغیر ظلم و زیادتی اور بغیر شرعی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ ناجائز مطالبہ ہے، اس مطالبہ کی وجہ سے بیوی اور اس معاملہ میں بیوی کا تعاون کرنے والے سخت گنہگار ہوں گے، تاہم اگر شوہر کو طلاق دینے پر مجبور ہونا پڑ جائے، تو اس کے لئے یہ شرط لگانا جائز ہوگا کہ پہلے مہر معاف کر دے، اس کے بعد طلاق دی جائے گی۔

نیز ایسی صورت میں شوہر پر طلاق دینا شرعی طور پر لازم نہیں ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ ایسی حالت میں طلاق کا مطالبہ کرنے والی بیوی پر جنت بھی حرام اور جنت کی بو تک حرام ہے۔

عن ثوبان[ؓ] عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: **أیما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غیر بأس، فحرام علیها رائحة الجنة.** (السنن الكبرى للبيهقي ۷/۳۱۶، جدید دارالفکر بیروت ۱۱/۱۸۴، رقم: ۱۵۲۳۰، ترمذی شریف، باب ما جاء فی المختلعات، النسخة الهندية ۱/۲۲۶)

عن ثوبان[ؓ] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **أیما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر بأس، حرّم الله علیها أن تریح رائحة الجنة.** (المستدرک علی الصحیحین، نزار مصطفى الباز، ۳/۲۱۸، رقم: ۲۸۰۹، مصنف ابن ابي شيبة، مؤسسہ علوم القرآن بیروت ۱۰/۲۰۹، رقم: ۱۹۶۰۳، المعجم الأوسط للطبرانی، دار الفکر بیروت ۴/۱۳۳، رقم: ۵۴۶۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲ھ/۲۲

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۶/۹۴۴)

طلاق کے مطالبہ پر شوہر کا مجبوراً طلاق دینا

سوال [۶۰۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی کو تقریباً چار ماہ گزر چکے ہیں، جس دن سے رخصتی ہو کر آئی ہے، تو سہاگ رات کو میں جب اپنی بیوی کے پاس گیا، تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں دوسرے کی امانت ہوں، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا، تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے جو شادی پر خرچہ کیا ہے، اس کا میں اپنے دوستوں اور عزیز واقارب کو کیا جواب دوں گا؛ لہذا میں نے اس کے ساتھ بردستی کی اور جبراً صحبت کی، تو اس نے مجھ کو جان سے مرجانے کی اور خودکشی کرنے کی دھمکی دی، مزاج میرے اور اس کے ناخوش گوار شروع ہی دن سے رہے، اسی ٹائم میں اس کو حمل بھی رہ گیا، اس کو اس نے میکہ میں جا کر ڈاکٹر نی سے مل کر ساقط بھی کرادیا اور مجھ سے بدکلامی، بداخلاقی سے پیش آتی ہے، اور طلاق لینے کو برابر کہتی ہے اور اس کا مہر مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ہزار روپیہ ہیں، ایک دن جب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں نے کہا کہ آج تیرے میکہ والوں کے سامنے یہ تیرا ڈرامہ رکھوں گا، تو یہ مجھ سے خوشامد کرنے لگی اور قسم کھا کر بولی کہ تم میرے گھر والوں کو مت بلانا، میں آج سے تمہارا کہنا مانوں گی، اس بات کے دوسرے دن میرے گھر کے برابر خالہ کا گھر ہے یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں خالہ کے گھر جا رہی ہوں اور یہ وہاں ہو کر اپنے میکہ چلی گئی، جب ہم کو معلوم ہوا کہ یہ میکہ چلی گئی، میں نے سر صاحب کو فون کیا کہ میری بات سن لو، انہوں نے میری بات نہ سن کر برابر لڑکی کے فیور کی بات کہی کہ مجھے بہت مارا ہے اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے اور وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے اور لڑکی والے بھی اس کو بھیجنا نہیں چاہتے، اس صورت میں مجھ کو کیا کرنا چاہئے؟ کیا اس کو مہر کی رقم کی ادائیگی کرنی ہوگی یا نہیں اور وہ طلاق لینے کے لئے آمادہ ہیں، از روئے شرع کیا حکم ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: پہلی رات میں بیوی کا شوہر سے یہ کہنا کہ میں دوسرے کی امانت ہوں، یہ گناہ عظیم پر اصرار ہے غیر مرد کے ساتھ بغیر نکاح کے ناجائز تعلقات قائم ہو جانے کے بعد پھر اس تعلق کو اس کی امانت کہہ کر حقیقی و شرعی شوہر کے سامنے سخت مدہانت اور محصیت پر جرات مندانہ حرکت ہے اور ڈاکٹر کے ذریعہ سے حمل گرا دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مزید شوہر کو خالہ کے گھر کے نام سے دھوکہ دے کر میکہ میں جا کر شوہر کے خلاف محاذ قائم کرنا یہ بھی بدترین حرکت اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے اور پھر طلاق کے مطالبہ پر مصر ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے؛ اس لئے ایسے برے حالات پیدا کر کے طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت اور پھر اس کے ساتھ دینے والے معاونین عند اللہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، ایسے حالات میں اگر مجبوراً طلاق دینی پڑے تو شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ مہر معاف کر دینے کی شرط لگائے اور اسی شرط کے مطابق طلاق دے۔

قال الله تبارك و تعالیٰ: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. [البقرہ: ۲۲۹]

عن ثوبان قال: قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، حرم الله عليها أن تريح راحة الجنة.

(المستدرک حاکم، نزار مصطفیٰ الباز بیروت ۲/۱۸، رقم: ۲۸۰۹، سنن کبریٰ

للبيهقي قديم ۷/۳۱۶، جدید دار الفکر بیروت ۱۱/۱۸۴، رقم: ۱۵۲۳۰، مصنف ابن

أبي شيبة مؤسسة علوم القرآن بیروت ۱۰/۲۰۹، رقم: ۱۹۶۰۳، المعجم الأوسط

للطبراني، دار الفکر بیروت ۴/۱۳۳، رقم: ۵۴۶۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۷/ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

۱۴۲۳/۳/۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۷۶۲۳۶)

دوسری شادی کی بناء پر طلاق کا مطالبہ کرنا

سوال [۶۰۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے؛ اس لئے پہلی بیوی اور اس کے ورثاء طلاق مانگتے ہیں اور مہر بھی مانگتے ہیں، میں دونوں بیویوں کو رکھنا چاہتا ہوں طلاق نہیں دینا چاہتا، تو کیا پہلی بیوی کو شرعاً طلاق کا مطالبہ کرنے کا حق ہے؟ جبکہ شوہر دونوں بیویوں میں برابری کرنے کا عزم رکھتا ہو، اس سلسلہ میں شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے؟

(۲) پہلی بیوی سے ایک بچہ ایک سال کا ہے، وہ کس کے پاس رہے گا اور اس کے خرچہ وغیرہ کا کون ذمہ دار ہوگا؟ شرعی حکم لکھ دیں۔

المستفتی: معراج انور، کنور صاحب کی گلی بروالان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ایک مسلمان مرد کے لئے شریعت اسلامیہ میں دو بیوی کرنے کی اجازت ہے اور اس میں کسی بھی بیوی کو دوسری بیوی کو طلاق دینے کا مطالبہ کا حق نہیں ہے۔ نیز اگر دونوں کو برابر کر کے رکھتا ہے اور کسی کے حق میں کمی زیادتی نہیں کرتا ہے، تو کسی بیوی کو اپنی طلاق کا مطالبہ بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا . [النساء: ۳]

عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاقاً أختها لتكفي ما في إنائها. (ترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء لتسأل المرأة طلاقاً أختها، النسخة الهندية ۱/۲۲۶، دارالسلام رقم: ۱۱۹۰، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، النسخة الهندية ۱/۴۵۳، بيت الأفكار رقم: ۱۴۰۸، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، النسخة الهندية ۱/۲۸۷، رقم: ۲۰۹۳، ف: ۲۱۴۰)

عن ثوبانؓ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. (سنن ترمذي، أبواب الطلاق واللعان، باب ماجاء في المختلعات، النسخة الهندية ۱/۲۲۶، دارالسلام رقم: ۱۱۸۷، المعجم الأوسط للطبراني، دارالفكر بيروت ۴/۱۳۳، رقم: ۵۴۶۹)

ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد الخ. (هداية،

اشرفي ديوبند ۲/۴۴۴)

(۲) بچے کو سات سال تک ماں کو رکھنے کا حق ہے، پھر باپ کو لینے کا حق ہے اور اس کا خرچ بچے کے باپ پر لازم ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ شوال المکرم ۱۴۱۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۴/۵۹۰۹)

بیوی کا بلا کسی وجہ معقول کے طلاق کا مطالبہ کرنا

سوال [۶۰۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شریعت محمدی کے مطابق مسلم بیوی کو اپنے شوہر سے بغیر کسی معقول وجہ کے طلاق مانگنے کا حق حاصل ہے؟

المستفتی: محمد عروج خاں نعیمی، کالا پیداد، سنہجلی گیٹ، مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بغیر کسی عذر معقول کے بیوی کا شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، حدیث میں اس پر وعید آئی ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ ہو:

عن ثوبانؓ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. (ترمذي شريف، أبواب الطلاق واللعان، باب ماجاء في المختلعات، النسخة الهندية ۱/۲۲۶، دارالسلام رقم: ۱۱۸۷،

المستدرک علی الصحیحین للحاکم، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز بیروت ۲/۲۱۸، رقم: ۲۸۰۹،
سنن کبریٰ للیہقی قدیم ۷/۳۱۶، مؤسسہ علوم القرآن بیروت ۱۰/۲۰۹، رقم: ۱۹۰۳،
المعجم الأوسط لطبرانی، دارالفکر بیروت ۴/۱۳۳، رقم: ۵۴۶۹ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۲۱/۱۴۳۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱/ذی القعدہ ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۰/۱۰۸۴)

بیوی کا بلاوجہ طلاق کا مطالبہ کرنا

سوال [۶۰۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکا جس کی شادی کو لگ بھگ چار سال ہو گئے اور دو بچے ہیں، ایک بچے کی عمر دو سال ہے اور دوسرے کی عمر دس بارہ دن ہے، شوہر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، مگر وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی اور طلاق مانگتی ہے، لڑکا طلاق دینا نہیں چاہتا، اسی وجہ سے زندگی کا سکون درہم برہم ہے، اب اگر لڑکا مجبور ہو کر طلاق دیدے، تو لڑکے کو مہر دینا چاہئے یا نہیں؟ دوسری بات لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم طلاق چاہتی ہو، تو میں بچے تم کو نہیں دوں گا، تو بچے کس عمر تک ماں کے پاس رہیں گے؟

المستفتی: عبداللطیف، پیرزادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مذکورہ میں جب شوہر کی طرف سے کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے، تو اس صورت میں بیوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اور نہ ہی شوہر پر طلاق دینا واجب ہے؛ بلکہ بیوی پر واجب ہے کہ ایک فرمانبردار بیوی بن کر شوہر کے حقوق کی ادائیگی کرتی رہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ: حلال چیزوں میں سب سے مبعوض شئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل "الطلاق". (أبو داؤد شريف، كتاب الطلاق، باب كراهة الطلاق، النسخة الهندية ۱/ ۲۹۶، دارالسلام رقم: ۲۱۷۸، سنن ابن ماجه، أبواب الطلاق، النسخة الهندية ۱/ ۴۵، دارالسلام رقم: ۲۰۱۸)

على المرأة من التعفف وطاعة الزوج وبذل الطاقة في مصالح المنزل. (حجة الله البالغة ۱/ ۴۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱/ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۱/۳۹۹۶)

شرعی وجہ کے بغیر عورت طلاق کا مطالبہ کرے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۰۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے لڑکے سلیم میاں کی شادی مفتی ٹولہ باغ والی مسجد کے نزدیک بنے خاں کی لڑکی ریشمہ سے ۲۸ جون ۲۰۰۳ء کو ہوئی تھی، شادی کے گیارہ ماہ بعد میاں بیوی دونوں میں کچھ ناراضگی شروع ہو گئی اور اسی ناراضگی میں ریشمہ اپنے میکہ میں رک گئی، کچھ دن بعد ریشمہ کا بھائی آیا اور سلیم کو سمجھا کر چلا گیا، پھر سلیم اپنی بیوی کو لے آیا، چار پانچ روز کے بعد بیوی نے کہا مجھے گھر پہنچا دو سلیم نے منع کیا، تو ریشمہ نے کہا میں اسی وجہ سے آنا نہیں چاہتی تم لے کر نہیں جاتے، تو سلیم نے کہا اتنی جلدی جلدی جانے کے لئے کیوں آتی ہو؟ اس پر ریشمہ نے کہا کہ میرے مہر کے پیسے دیدو، میں بالکل نہیں آؤں گی، پھر وہ بھائی کو بلا کر شوہر کی بغیر اجازت کے میکہ چلی گئی، دس پندرہ روز کے بعد کچھ لوگ آئے اور آپس میں تصفیہ کرادیا، اب پھر محرم والے دن اس کا بھائی لے گیا اور وہ آزادی چاہتی ہے اور مہر کی رقم پوری لینا چاہتی ہے، تو سلیم نے کہا میرے پاس رقم نہیں ہے، تو اس نے کہا یہ رقم قسطوں پر لے لوں

گی، اس مسئلہ کو بتائیں مہر پورا دیا جائے یا آدھا دیا جائے یا بالکل نہیں دیا جائے گا؟

المستفتی: محمد وسیم، ہر سیدنگر کولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: وجہ شرعی کے بغیر عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، پھر بھی اگر شوہر اپنی طرف سے طلاق دے دے گا، تو مکمل مہر ادا کرنا شوہر پر واجب ہو جائے گا، ہاں البتہ اگر بیوی خلع پر تیار ہو جائے تو مہر کی معافی کی شرط کے ساتھ خلع والی طلاق کی گنجائش ہو جاتی ہے اور مہر کو بدل خلع قرار دینا جائز ہے، تو ایسی صورت میں مہر دینا شوہر پر واجب نہ ہوگا۔

قال الله تبارك و تعالیٰ: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَاقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . [سورة البقره: ۲۲۹]

وإن تشاق الزوجان و خافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به، لقوله تعالى عز و جل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. (الهداية، باب الخلع، اشرفي ديوبند ۲/ ۴۰۴، ہندیہ زکریا ۱/ ۴۸۸، جدید زکریا دیوبند ۱/ ۵۴۸، تاتارخانیہ، زکریا ۵/ ۵، رقم: ۷۰۷۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۸۷۵۸۳)

زیادہ عمر کے لڑکے سے شادی کرنے کی بناء پر والدین کا اس کے شوہر کو پریشان کرنا

سوال [۶۰۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ درخواستی نے بتاریخ ۳۰ فروری ۲۰۱۱ء کو اپنی صدیقی عمر ۲۷ سال سے نکاح کیا تھا، اس نکاح سے اپنی کے والدین ناراض تھے اور اسی ناراضگی کے سبب اپنی کے والدین نے اپنی کو

عاق کر دیا تھا؛ لہذا لبتی نے اپنے والدین سے ملے بغیر ایک سال چھ مہینے تک درخواستی کے گھر رہ کر حق زوجیت بخوبی نبھائے؛ لیکن لبتی کے والدین مسلسل درخواستی لبتی سے انتقام لینے کے لئے طرح طرح کے جانی و مالی نقصانات پہنچاتے رہے، اخیر میں لبتی کی والدہ عذرا قمر نے فون کے ذریعہ لبتی سے رابطہ قائم کیا اور لبتی کو بہلا پھسلا کر درخواستی کے گھر میں جھگڑا کرانے شروع کر دیئے؛ جبکہ لبتی درخواستی آپس میں بے انتہا محبت کرتے تھے، ایک دن بتاریخ: ۱۶ جولائی ۲۰۱۲ء کو لبتی بغیر موضوع کے جھگڑا کر کے درخواستی کی منہ بولی بہن کے گھر لالباغ چلی گئی، درخواستی نے بہن کے گھر جا کر اپنی بیوی کو واپس گھرانے کی بہت کوشش کی، مگر لبتی نے کہا کہ اس نے اپنے چاچا شرافت حسین کو بلایا ہے، ان کے آنے کے بعد وہ گھر چلے گی، شرافت حسین نے وہاں آ کر درخواستی سے بات چیت کی اور کہا اب تم گھر جاؤ میں تھوڑی دیر میں لبتی کو راضی کر کے تمہارے گھر لارہا ہوں، درخواستی اپنی بہن کے گھر سے واپس اپنے گھر آ گیا، شام تک لبتی کے گھر نہ پہنچنے پر جب درخواستی نے اپنی بہن کے گھر فون کیا، تو انہوں نے بتایا کہ لبتی تو اسی وقت شرافت حسین کے ساتھ چلی گئی تھی، جب درخواستی نے شرافت حسین سے لبتی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے لبتی کے والدین کو بلا کر لبتی کو ان کے حوالہ کر دیا ہے، لبتی کے والدین اور شرافت حسین آپس میں ہم ساز ہو کر لبتی کو کسی نامعلوم مقام پر پہنچا کر درخواستی پر یہ دباؤ ڈالنے لگے کہ تم لبتی کو طلاق دیدو؛ کیونکہ لبتی کی عمر اور تمہاری عمر میں ۱۲ سال کا فرق ہے، ہم لبتی کو کسی حالت میں بھی نہیں بھیجیں گے؛ جبکہ درخواستی اپنی بیوی سے آج بھی بے انتہا محبت کرتا ہے اور طلاق دینا نہیں چاہتا، درخواستی کو آج تک یہ بھی پتہ نہیں چل سکا ہے کہ لبتی کے والدین نے درخواستی کی بیوی کو کہاں چھپا کر رکھا ہے، کیا لبتی کے والدین کا یہ عمل صحیح ہے اور ان حالات میں درخواستی کو کیا کرنا چاہئے؟

المستفتی: محمد عروج خاں ولد نجم الحسن، کالا بیادہ، سنہ صلی گیٹ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ سوال میں جو حالات لکھے گئے ہیں، اس پر غور

کیا گیا ہے اور مستفتی سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ لڑکے اور لڑکی والوں کے درمیان پہلے سے رشتہ داری بھی ہے، صرف عمر کی کمی و زیادتی کی وجہ سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام میں ایسی شادیاں بہت ہوئی ہیں۔

أن عمر بن الخطابؓ خطب إلى علي رضي الله عنه أم كلثومؓ، فقال: انكحنيها، فقال علي: إني أُرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر، فقال عمر: انكحنيها فوالله ما من الناس احد يرصد من أمرها ما أُرصده فأنحكه علي، فأتني عمر المهاجرين، فقال: ألا تهنوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين! فقال: بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(مستدرک حاکم، جدید ۵/۱۷۶۲، قدیم ۳/۱۵۳، رقم: ۴۶۸۴، انوار نبوت ۴۲)

یعنی درخواستی کے نکاح میں بدستور باقی ہے؛ جب تک درخواستی سے طلاق حاصل نہیں کی جائے گی، اس وقت تک یعنی کا نکاح کسی دوسرے مرد کے ساتھ جائز نہیں ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۴ ذی قعدہ ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۱۰۸۱۲/۳۹)

شوہر کی عمر زیادہ ہونے پر طلاق کا مطالبہ کرنا

سوال [۶۰۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نکاح ۳۱ مئی ۲۰۱۱ء کو مشکور خان سے ہوا تھا، ان کی عمر ساٹھ سال ہے، میری عمر ۲۴ سال ہے، میں ان کے ساتھ دس گیارہ دن رہ چکی ہوں؛ لیکن میں اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، ان سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں، تو طلاق نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ فتویٰ معلوم کر لو اگر مفتیان کرام لکھیں تو میں طلاق دیدوں گا، انہوں نے نکاح سے آٹھ دن پہلے

میرے نام ایک مکان کا بیج نامہ کروایا تھا اور مہر میں پچیس ہزار روپے ہیں، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا میں اپنے شوہر سے خلع کر سکتی ہوں؟ یعنی مہر و مکان کے بدلے میں طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہوں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟

المستفتیة: روجی ریاض، کالا پیادہ، مراوا آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شریعت میں شوہر کی عمر بیوی کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے کا حق نہیں ہوتا؛ ہاں البتہ اگر شوہر بیوی کا حق ادا کرنے پر قادر نہ ہو یا شوہر عین اور نامرد ہو، تو اب علیحدگی کے مطالبہ کا حق ہوتا ہے اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، تو طلاق کے مطالبہ کا حق نہیں ہوتا اور حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کی بیٹی حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا اور اس وقت حضرت فاطمہؓ کے لطن سے پیدا شدہ حضرت ام کلثوم بنت علیؓ پندرہ سال سے کم کی تھیں؛ جبکہ حضرت عمرؓ کی عمر تقریباً ساٹھ سال تھی، دونوں میں نکاح ہوا اور اولادیں پیدا ہوئیں، پھر چند سال میں جب حضرت عمرؓ کی شہادت ہو گئی، تو حضرت ام کلثوم بنت علیؓ کا نکاح حضرت جعفرؓ کے بیٹے حضرت عون بن جعفرؓ سے ہوا (الی آخرہ) وغیرہ ایسی مثالیں دور صحابہ میں سیکڑوں کی تعداد میں ملیں گی؛ لہذا عمر کی زیادتی علیحدگی کے مطالبہ کا سبب نہیں بن سکتی۔ نیز عمر کا تفاوت شادی سے پہلے بھی تو معلوم ہوا ہوگا؟

تزوج عمرؓ، أم كلثوم علی مہر أربعين ألفاً، وقال الزبير: ولدت لعمر ابنيه: زيدا ورقية، وماتت أم كلثوم وولدها في يوم واحد. (الاصابة في تمييز الصحابة، درالکتب العلمیة بیروت ۸/۶۵)

عن الحسن بن علي قال: لما تأيمنت أم كلثوم بنت علي عن عمرؓ -إلى قوله- فتزوجها عون بن جعفرؓ بن أبي طالب..... وذكرها الدار قطني في كتاب الآخرة، أن عوناً مات عنها، فتزوجها أخوه محمد، ثم مات عنها، فتزوجها أخوه عبد الله بن جعفرؓ فماتت عنده. (الاصابة ۸/۶۵)

خطبها عمر بن الخطابؓ إلى أبيها عليؓ، فقال: إنها صغيرة، فقال عمر: زوجنيها يا أبا الحسن فإنني أرى صد من كرامتها مالا: يرصده أحد- إلى قوله- وقالت له: بعثني إلى شيخ سوء قال: يا بنية إنه زوجك..... ولما قتل عنها عمرؓ تزوجها عون بن جعفرؓ (اسد الغابة ۶/۳۸۷، دارالفكر بيروت) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۲/۱۱/۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷/۲ ذی قعدہ ۱۴۳۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹، ۱۰۵۴۲)

شوہر پر طلاق کا دباؤ ڈالنا

سوال [۶۰۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی اپنے بھائی کی شادی میں گئی اور شادی کے چند دن کے بعد زید اپنی بیوی کو بلوانے کے لئے گیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنی عادت کا علاج کر لو، وہ شراب پیتا تھا، پھر زید نے اپنی ساری برادری کے سامنے اس گناہ عظیم سے توبہ کی اور اس کے بعد زید نے نماز شروع کر دی اور اس کے بعد برابر آدمی وہاں جاتے رہے، مگر وہ آج کل پر ٹال مٹول کرتے رہے اور بغیر لڑکی اور لڑکے کی مرضی کے وہ طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو وہ لڑکی مہر کی حقدار ہے یا نہیں؟ اور زید کی سسرال والوں نے زید پر لواطت کا الزام لگایا بیوی کے ساتھ اور زید نے امام صاحب کے ساتھ قسم کھا کر منع کر دیا، زید کی دو لڑکیاں ہیں، مگر زید طلاق دینے سے انکار کر رہا ہے اور زید کی بیوی کی بھی مرضی نہیں تو جو لوگ زبردستی طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟

المستفتی: عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ مذکورہ میں جب شوہر نے شراب سے توبہ کر لی ہے

اور لواطت کا جو الزام لگایا گیا ہے، اس کا زید نے حلفیہ انکار کر دیا ہے، تو جب تک شرعی ثبوت نہ ہو جائے زید کا انکار ہی معتبر ہوگا اور جب شراب سے توبہ کر لی ہے، تو توبہ کے بعد اس کا تذکرہ درست نہیں اور زید اور اس کی بیوی جب طلاق پر راضی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کا زید پر طلاق کا دباؤ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم ۱۴۱/۲، جدید زکریا ۲۶۱/۱۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ رجب المرجب ۱۴۱۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۰۳۴۲/۵۸۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶/۷/۱۴۱۹ھ

لڑکے کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے لڑکی کا طلاق کا مطالبہ کرنا

سوال [۶۰۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیٹی شہیرا مسرور جس کی شادی مورخہ: ۲۸ اکتوبر ۲۰۰۶ء کو بمقام امر وہہ میں عمل میں آئی تھی، ماہ مئی ۲۰۰۷ء تک میری بیٹی اپنی سسرال میں شوہر کے ساتھ رہتی رہی؛ لیکن ماہ جون ۲۰۰۷ء سے لڑکی شوہر کے گھر نہیں گئی، میکہ میں ہی اپنے والد کے گھر پر قیام پذیر ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لڑکا جسمانی طور پر شادی کے لائق نہیں تھا، اور حق زوجیت ادا کرنے میں پوری طرح ناکام رہا، پھر بھی میری بیٹی ذاتی طور پر معاملات کو نبھاتی رہی اور Adjust کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور اس کے علاج معالجے کے لئے بھی کوشاں رہی، سسرال والے بھی لڑکے کا خود علاج کراتے رہے ہیں، لڑکے نے خود اس بات کا انکشاف کیا ہے، لڑکی اور لڑکے کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس میں لڑکے نے قسم کھا کر اپنے نا اہل ہونے کا اقرار کیا، لڑکے کے والدین اور عزیز واقارب بھی اس کی اس کمی سے واقف ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ ایسی صورت میں میری بیٹی اپنی سسرال لڑکے کے پاس جانے کے لئے قطعی رضامند نہیں ہے اور علیحدگی چاہتی ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ

لڑکے کے ذریعہ حق زوجیت ادا نہ کرنے کی وجہ سے لڑکی کا سسرال میں رہنے سے کیا فائدہ جب کہ اس کے شوہر کا علاج وغیرہ بھی ہوا ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ معلوم ہو کہ لڑکی کی عمر ۲۲ سال ہے، دین اسلام کی روشنی میں ایسی صورت حال ہونے پر کیا شرعی حیثیت ہے اور علماء دین کیا فرماتے ہیں؟

المستفتی: مسرور احسن خاں، محلہ: قریشیان، امر وہہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر لڑکے کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے لڑکی لڑکے کے پاس رہنا نہیں چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں لڑکے سے طلاق لینے کی کوشش کی جائے، اگر لڑکا طلاق دے دیتا ہے، تو تین ماہواری گزار کر کسی دوسری جگہ نکاح کرنے کا حق حاصل ہو جائے گا اور اگر طلاق پر راضی نہیں، تو خلع پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی مہر وغیرہ معاف کر کے کچھ دے دلا کر چھٹکارا حاصل کیا جائے۔

وقوله تعالیٰ: **فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا**

افْتَدَتْ بِهِ. [سورة البقرہ: ۲۲۹]

وفي الهداية: وإن تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدي نفسيهما منه بمال يخلع به. لقوله تعالیٰ: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال، وإن طلقها على مال، فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال. (هداية، كتاب الطلاق، باب الخلع، اشرفی دیوبند ۲/۴۰۴ مہندیہ، زکریا ۱/۴۸۸، جدید زکریا ۱/۴۸۸، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۵، رقم: ۷۰۷۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۸/۸/۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ شعبان المعظم ۱۴۲۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۴۱۳)

بیوی کا شب و روز طلاق کا مطالبہ کرنا

سوال [۶۰۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری اہلیہ شب و روز طلاق کا مطالبہ کرتی ہے؛ جبکہ میں ایسا کرنے سے قاصر ہوں، ایسی صورت میں میں کیا کروں؟ شرعی فتویٰ صادر فرمایا جائے۔

المستفتی: اقبال بھارتی، فدا منزل، اصالت پورہ، مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ صوت میں آپ کو اختیار ہے کہ چاہے آپ طلاق دیں یا نہ دیں، آپ پر کوئی جبر نہیں ہے۔ نیز طلاق کے معاملہ میں عورت کو جبر کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۶۰۸)

قال اللہ تعالیٰ: 'الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ'. [سورة النساء: ۳۴]

عن ابن عباسؓ، قال: فصعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (سنن ابن ماجہ، کتاب الطلاق، باب طلاق العبد، النسخة الهندية ۱۵۱، دار السلام رقم: ۲۰۸۱)

إن الذي يملك الطلاق، إنما هو الزوج..... ولا تملكه الزوجة.
جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة. (الفقه الإسلامي وأدله، هدى انترنیشنل دیوبند ۷/۴۷، ۳۰۵)

ومحلہ المنکوحۃ وأهلہ زوج. (در مختار، زکریا ۴/۴۳۱، کراچی ۳/۲۳۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۶/۲۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف-۳۵/۸۸۷۶)

رخصتی سے قبل طلاق کا مطالبہ کرنا

سوال [۶۰۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نکاح ۲۰۰۹ء کو ریکس احمد بن محمد مقبول سرائے کشن لال مراد آباد سے ہوا تھا؛ لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ لڑکے کے معاملات اچھے نہیں ہیں، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں اس سے ہر حالت میں علیحدگی چاہتی ہوں۔

المستفتیة: فرح ناز، بنت سبحان علی، سرائے کشن لال، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب ساتھ رہنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور مستفتی سے زبانی معلوم ہوا کہ لڑکا بھی طلاق دینے کے لئے تیار ہے، تو دونوں طرف کے ذمہ دار لوگ آپس میں بیٹھ کر علیحدگی کی مناسب صورت اختیار کر لیں تو بہتر ہے اور علیحدگی میں لڑکے سے صرف ایک طلاق کہلوانا کافی ہے، اس سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور رخصتی سے پہلے طلاق کی صورت میں نصف مہر ادا کرنا لازم ہوتا ہے؛ لیکن چونکہ اس طلاق کا مطالبہ لڑکی کی طرف سے ہے؛ اس لئے لڑکا اس بات کی شرط لگا سکتا ہے کہ مہر کی معافی پر طلاق دے گا اور رخصتی سے پہلے طلاق کے بعد لڑکی کو دوسری جگہ نکاح کرنے کے لئے عدت گزارنا لازم نہیں ہے۔

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. [النساء: ۳۵]

ومن محاسنه التخلص به من المكاره الدينية، والديوية. بحر، أي كأن عجز عن إقامة حقوق الزوجة، أو كان لا يشتهيها. (شامي، كتاب الطلاق، كراچی ۲۲۹/۳، زکریا ۴/۲۸، البحر الرائق، زکریا ۳/۱۵، کوئٹہ ۳/۲۳۸،

في الكنز: هو رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح -إلى- وأما سببه فهو الحاجة المحوجة إلى الطلاق من المشاجرة وعدم الموافقة. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۳۷۷/۴، رقم: ۶۴۷۱)

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل الدخول بها وقعن عليها، فإن فرق الطلاق بانت بالأولى، ولم تقع الثانية، والثالثة وذلك مثل أن يقول: أنت طالق، طالق، طالق، وكذا إذا قال أنت طالق واحدة، وواحدة، وقعت واحدة، كذا في الهداية. (هندي، زكريا ۳۷۳/۱، جديد زكريا ديوبند ۴۴۰/۱)

ولزم نصفه أي المسمى بالطلاق قبل الدخول، وقبل الخلوة الصحيحة. (مجمع الأنهر، قديم ۳۴۶/۱، جديد دارالكتب العلمية بيروت، ومكتبه فقيه الأمت ديوبند ۱/۵۰۹-۲۳۶، هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۲۴، شامي، كراچي ۳/۱۰۴، زكريا ۴/۲۳۵، البحر الرائق، كوئته ۳/۱۴۴، زكريا ۳/۲۵۳)

إن طلقها على مال، فقبلت وقع الطلاق، ولزمها المال، وكان الطلاق بائناً. (هندي، زكريا ۱/۴۹۵، جديد زكريا ديوبند ۱/۵۵۴، الفصل الثالث: في الطلاق على المال)

رجل خلع امرأته بمالها عليه من المهر -إلى- كان الخلع بمهرها، إن كان المهر على الزوج يسقط. (هندي، زكريا ۱/۴۹۸، جديد ۱/۵۵۷، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية، بيروت ۲/۱۰۳)

وكل خلوة لا يمكن معها الوطئ كخلوة المريض -إلى- فلا عدة، وفي الخانية: وكذا لو طلقها قبل خلوة. (الفتاوى التاتارخانية ۵/۲۳۲، رقم: ۷۷۳۴ قاضي خان على هامش الهندي، زكريا ۱/۵۴۹، جديد زكريا ديوبند ۱/۳۴۷، البحر الرائق، زكريا ۴/۲۱۶، كوئته ۴/۱۲۸) فقط واللهم سبحانك وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۲ھ/۱۱/۲۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ ذی قعدہ ۱۴۳۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۱۱۳۳۲)

مرض کی بناء پر طلاق یا خلع کا مطالبہ

سوال [۶۰۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی شادی شدہ ہے، اور وہ اپنی سسرال تین مرتبہ جا چکی ہے اور اب وہ کہتی ہے کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی؛ اس لئے کہ اس لڑکے کو ٹی بی کی بیماری ہے۔ اب لڑکے کے والدین یہ کہتے ہیں کہ چلئے ڈاکٹر کے پاس، اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کو ٹی بی کی بیماری ہے، تو ہم طلاق دلوادیں گے، ورنہ رخصتی کرنی ہوگی، اس پر دونوں طرف سے منظوری ہوگئی۔ اب لڑکے والے نے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور نہ طلاق دلواتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں کیا فیصلہ ہوگا؟

المستفتی: محمد اسرائیل، سپولوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: محض شوہر کی بیماری کی وجہ سے جبکہ شوہر مکمل طریقہ پر حقوق زوجیت ادا کرتا ہو، بیوی کو نکاح طلاق خلع وغیرہ کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔

عن الثوري في رجل يحدث به بلا: لا يفرق بينهما، هو بمنزلة المرأة، لا يرد الرجل ولا ترد المرأة. (مصنف عبد الرزاق، باب ما رد من النكاح، المجلس العلمي بيروت ۶/۲۴۹، رقم: ۱۰۷۰۰)

وإذا كان بالزوج جنون، أو جذام، أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. (مختصر القدوري، كتاب النكاح، امداديه ديوبند ۱۶۵، البحر الرائق، زكريا ۴/۲۱۳، كوئته ۴/۱۲۶، شامي، كراچی ۳/۵۰۱، زكريا ۵/۱۷۵) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۹/۳۳۶۵)

شوہر کی بدکاریوں کی وجہ سے بیوی کو طلاق کے مطالبہ کا حق ہے یا نہیں؟

سوال [۶۰۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نکاح ۲۵/۸/۸۷ء کو فراسٹ حسین کے ساتھ ہوا تھا، جو لاہور کے رہنے والے ہیں، نکاح کے کچھ دن بعد فراسٹ اپنے گھر لاہور واپس چلے گئے، لاہور کچھ دن رہنے کے بعد وہ امریکہ چلے گئے، امریکہ جا کر انہوں نے کچھ ایسی بدکاریاں کیں، جس کا مجھے علم ہو گیا اور کچھ لوگوں نے بھی مجھ سے ان نا جائز حرکتوں کا ذکر کیا اور ان کی کئی حرکتوں کے ثبوت مجھے ملے، جس کی وجہ سے میں ان سے طلاق چاہتی ہوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری مدد کر کے مجھے ان سے طلاق دلوادیتے۔

درخواست دہندہ مدعیہ ہندوستان میں ہے، مدعی علیہ کا مکان پاکستان ہے اور مستقل سکونت امریکہ میں ہے، کیا ایسے کیس کی سماعت ممکن ہے؟

المسئتی: حفظ الرحمن، جنرل سکرٹری محکمہ شرعیہ، مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عدالت شرعیہ کو فیصلہ کے لئے جن شرائط کی پابندی ضروری ہے، ان کی پابندی کرتے ہوئے، اگر مقدمہ کی سماعت ہو سکتی ہے، تو ایسے کیس کی سماعت بھی ممکن ہے؛ لیکن مذکورہ دعویٰ میں شرعاً نہ عورت کو طلاق کے مطالبہ کا حق ہے، نہ محکمہ کو فیصلہ دینے کا۔ نیز اگر شوہر کی بدکاریاں شرعی شہادتوں سے بھی ثابت ہو جائیں، تب بھی تفریق لازم نہیں ہے۔

نیز ہندوستان میں شدید ضرورت کے وقت مالکیہ کے مذہب پر محکمہ کو فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا ہے۔

ولا یجب علی الزوج تطلیق الفاجرة و لاعلیہا تسریح الفاجر.

(شامی، کتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء، فصل فی لیع، کراچی ۶/۴۲۷، زکریا ۹/۶۱۱)

لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر، إلا إذا خاف أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن ينفرا. (البحر الرائق، كوثته ۳/۱۰۷، زكريا ۳/۱۸۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵/ ذی الحجہ ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۳/۱۰۳۱)

لواطت کرنے والے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے کا حکم

سوال [۶۰۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص اپنی بیوی کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے (قوم لوط کا طریقہ) لڑکی اس فعل سے ناخوش ہے، لڑکی نے لڑکے سے بارہا منع کیا یہ فعل کرنے کو؛ لیکن لڑکے نے یہ کہا کہ تو اگر مجھ کو اس طریقے سے خوش نہیں کرے گی تو میں تجھ کو طلاق دیدوں گا، اگر اس فعل سے لڑکی طلاق خود لینا چاہے، تو مہر کی کیا شرائط ہوں گی، لڑکی حمل سے ہے، تو طلاق کس صورت میں ہوگی؟ لڑکے کے اس فعل کی شریعت میں کیا سزا ہے؟

المستفتی: سجاد حسین، بارہ دری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اپنی بیوی کے ساتھ ایسا فعل شنیع کا ارتکاب کرنا گناہ عظیم ہے، کسی بھی وقت خدا کا عذاب آسکتا ہے، اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کر کرے گا، تو ایمان سے خارج ہو جائے گا؛ اس لئے بہر حال شوہر پر لازم ہے کہ سچی توبہ کر لے۔

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضاً، أو امرأةً في دبرها، أو كاهناً، فقد كفر بما أنزل على محمد. الحديث.

(ترمذی، کتاب الطہارۃ، باب ماجاء فی اتیان الحائض، النسخۃ الہندیۃ، ۳۵/۱،

لہذا اگر کوئی شوہر اس فعل شنیع سے توبہ کر کے باز نہ آئے، تو بیوی کو طلاق کے مطالبہ کا حق ہوگا اور شوہر کو پورا مہر ادا کرنا لازم ہوگا اور اگر شوہر نے اس فعل سے نادم ہو کر سچی توبہ کر لی ہے، تو طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہئے، پھر اگر طلاق پر مصر ہے، تو شوہر کو طلاق پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے؛ البتہ مہر معاف کر کے خلع پر شوہر کو راضی کرنے کی زحمت ہو سکتی ہے۔

حمل کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، ولادت تک عدت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ولادت کے بعد عدت ختم ہو جائے گی۔

وطلاق الحامل یجوز عقیب الجماع. (ہدایۃ، کتاب الطلاق، باب ایقاع

الطلاق، النسخۃ الہندیۃ، اشرفی دیوبند ۲/۶/۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۷/رمضان المبارک ۱۴۲۰ھ

۱۳۲۰/۹/۲۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۳۲/۶۳۲۰)

عورت کا مکان کی تبدیلی نہ کرنے پر طلاق کا مطالبہ کرنا

سوال [۶۰۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد عمر کی شادی ہمراہ معظمہ خاتون سے مبلغ پندرہ ہزار روپیہ مہر کے ہوئی، شادی کے بعد دو مہینہ تک دونوں مل کر ازدواجی زندگی گزارتے رہے، ایک دن لڑکی کے والد بہانہ بنا کر سارے زیور کے ساتھ (جو زیور لڑکی کے والد نے دیا تھا اور محمد عمر نے شادی کے موقع پر دیا تھا) لے کر اپنے گھر چلے گئے، چند روز کے بعد جب محمد عمر اپنی بیوی معظمہ خاتون کو بلانے گیا، تو ان کے والد نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ تم لوگوں سے کچھ بات چیت کروں گا؛ اس لئے اپنے ذمہ دار کو ساتھ لے کر آؤ۔ جب محمد عمر دوبارہ چند حضرات کو لے کر گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ لڑکی وہاں (یعنی گلاب باڑی جو محمد عمر کا مکان ہے اور وہیں پر کاروبار کرتے ہیں) نہیں جائیگی، محمد عمر اپنا مکان اور کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں، اس مسئلہ کو قریب دو سال گذر گئے،

اب لڑکی والے طلاق مانگ رہے ہیں، محمد عمر طلاق دینے کو تیار نہیں۔

المستفتی: محمد عمر گلاب باڑی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ مذکورہ میں اگر شوہر از خود طلاق دینے کے لئے تیار نہیں اور لڑکی والے طلاق مانگ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بلا ظلم و زیادتی کے محض رہائشی مکان کی تبدیلی کی ضد پر شوہر کے اوپر دباؤ ڈالنا اور پھر طلاق کا مطالبہ کرنا بیوی کے لئے جائز نہیں ہے، ہاں البتہ وہاں رہنے میں اس کے اوپر ظلم و زیادتی یا عصمت درمی کا خطرہ ہو رہا ہو، تو تب تبدیلی مکان کا مطالبہ جائز ہو سکتا ہے اور مذکورہ صورت میں بلا کسی خاص وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرنا بیوی کے لئے جائز نہیں ہے، اب اگر پھر بھی طلاق لینے پر بضد ہے، تو شوہر پر طلاق دینا لازم نہیں ہے اور بیوی اپنا مہر معاف کر کے خلع کر سکتی ہے۔

وإن تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به، فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال. (هداية، كتاب الطلاق، باب الخلع، اشرفی دیوبند ۴/۲، ۴۰، ہندیہ، زکریا ۱/۸۸۴، جدید زکریا الباب الثانی فی الخلع ۱/۵۴۸، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۵، رقم: ۷۱، ۷۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۱۹/۵/۲۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ
فتویٰ نمبر: الف ۶۲۳۳ (۵۷)

پہلی بیوی کا دوسری بیوی کو طلاق دینے پر اصرار کرنا

سوال [۶۰۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی تقریباً چار سال قبل ہندہ کے ساتھ ہوئی تھی، اب زید نے دوسری

شادی چند ماہ قبل خالدہ سے بھی کر لی ہے، زید کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں عدل و انصاف کے ساتھ دو بیویوں کو رکھنا جائز ہے؛ لہذا میں دونوں بیویوں کو رکھنا چاہتا ہوں اور دونوں کے درمیان برابری کروں گا انشاء اللہ۔

ہندہ اور ہندہ کے میکہ والوں کا کہنا یہ ہے کہ زید جب تک خالدہ کو طلاق نہ دے دے تب تک ہندہ گھر میں واپس نہیں آئے گی، زید کا کہنا یہ ہے کہ میں خالدہ کو بلا وجہ طلاق نہیں دوں گا؛ کیونکہ شرعاً وہ میری بیوی ہے اور شرعاً کسی کو بھی اس طرح طلاق کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے۔

اب ہندہ کے میکہ والے بضد ہیں کہ اگر زید خالدہ کو طلاق نہیں دیتا ہے، تو ہماری بیٹی ہندہ کو طلاق دیدے؛ جبکہ زید ہر حال میں ہندہ کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے اور ہندہ کے والد نے کچھ اخراجات زید پر اپنی مرضی سے کئے تھے، اب وہ طلاق کے ساتھ ان اخراجات کی واپسی بھی چاہتے ہیں، جو کہ بنا کسی شرط کے کئے تھے۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ چونکہ ہندہ اور ہندہ کے میکہ والے خود طلاق چاہتے ہیں، یا پھر خالدہ کی طلاق کی فاسد شرط لگا رہے ہیں، تو زید ہندہ کا مہر اور عدت کا خرچ ہندہ کو نہ دے، تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ اور جو اخراجات سسر نے بغیر کسی شرط کے زید پر کئے تھے، ان اخراجات کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ زید کو واپس کرنے ہوں گے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے نواز کر ممنون فرمائیں۔

المستفتی: نظام الدین، مقبرہ دوئم، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شوہر مکمل حقوق زوجیت ادا کرنے کے ساتھ ہندہ کو اپنے پاس رکھنے کے لئے تیار ہے اور ہندہ دوسری بیوی خالدہ کو طلاق دینے بغیر شوہر کے پاس رہنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ہر صورت میں طلاق لینے پر بضد ہے، تو زید کو اس بات کا حق ہے کہ شرط لگا دے کہ مہر اور عدت کے خرچہ کی معافی کی شرط پر طلاق دے گا، اس کے بغیر

طلاق نہ دے گا اور شریعت اسلامی میں ایک ساتھ دو بیویوں کو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے؛ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دونوں بیوی کے درمیان برابری کا معاملہ کرے کسی کے حق کی ادائے گی میں کوتاہی نہ کرے۔

وإن طلقها على مال، فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال؛ لأن الزوج يستبد بالطلاق تنجيزاً وتعليقاً وقد علقه بقبولها، والمرأة تملك التزام المال لولايتها على نفسها، وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه وإن لم يكن مالاً كالقصاص، وكان الطلاق بائناً. (هداية كتاب الطلاق، باب الخلع،

اشرفی دیوبند ۲/۴۰۵، ہندیہ، زکریا ۱/۴۹۵، جدید زکریا ۱/۵۵۴)

عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. (مسند أحمد ۲۷۷/۵، رقم: ۲۲۷۳۸، ۲۸۳/۵، رقم: ۲۲۸۰۴، سنن الترمذی، أبواب الطلاق، واللعان، باب ما جاء في المختلعات، النسخة الهندیة ۱/۲۲۶، دارالسلام رقم: ۱۱۸۷، المعجم الأوسط للطبرانی، دارالفکر بیروت ۴/۱۳۳، رقم: ۵۴۶۹)

خسر نے داماد کے مطالبہ کے بغیر جو کچھ بھی داماد کے اوپر اپنی طرف سے خرچ کیا ہے، وہ منجانب خسر تبرع ہے، وہ قرض نہیں ہے کہ جس کی ادائے گی داماد پر لازم ہو۔

فإن كفل بلا أمره أي المكفول عنه لا يرجع الكفيل عليه أي المكفول عنه بما أدى عنه؛ لأنه متبرع بأدائه بغير رجوع. (مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۱۸۵، ملتی الأبحر ۳/۱۸۴، درالمتقی ۳/۱۸۴)

لأن الكفالة بغير أمر تبرع إبتداءً و انتهاءً، فبدعواه أحدهما لا يقضي له بالآخر. (هداية، كتاب الكفالة، اشرفی دیوبند ۳/۱۲۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۳۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۱۱۸۰۶)

لڑکی کا طلاق پر مجبور کرنا

سوال [۶۰۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ لڑکا طلاق نہیں دینا چاہتا اور لڑکی طلاق پر مجبور کر رہی ہے، تو کیا حکم ہے؟

المستفتی: نعیم الدین، ریتی محلہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: محض مطالبہ طلاق سے طلاق واقع نہ ہوگی؛ جب تک کہ شوہر طلاق نہ دے اور عورت کے مطالبہ کرنے سے شوہر پر طلاق دینا لازم نہیں ہے؛ البتہ اگر زوجین کے درمیان نبھاء کی کوئی صورت نہ ہو اور شوہر طلاق بھی نہ دے، تو عورت کو خلع کا اختیار ہے کہ شوہر کو کسی مال پر راضی کر کے نکاح فسخ کرائے۔

ولا بأس به عند الحاجة للشقاق بعدم الوفاق. وفي الشامية: السنة إذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع أهلها ليصلحوا بينهما، فإن لم يصلحها جاز الطلاق، والخلع. (شامی، کتاب الطلاق، باب الخلع، کراچی ۳/۴۴۱، زکریا ۵/۸۷) وإن تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. (سورة البقره، ۲۹۹، هداية، ديوبند ۲/۴۰۴، هندية زكريا ۱/۸۸۱، جديد زكريا ۱/۵۴۸، تاتارخانية، زكريا ۵/۵، رقم: ۷۰۷۱)

ثم الاختلاف إذا وقع بين الزوجين فالسنة فيه أن يجتمع أهل الرجل، وأهل المرأة ليصلحوا بينهما، فإن لم يجتمعا على الصلح فليس إلى الحكيمين التفريق بينهما، فإن طلقها جاز، وإن خلعها أيضاً جاز. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۵/۵، رقم: ۸۰۷۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۰/۲/۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عقاب اللہ عنہ

۶ صفر المظفر ۱۴۲۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۰۱۶/۳۳)

لڑکی کی خواہش پر طلاق

سوال [۶۰۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ لڑکی کو کس کس مجبوری پر طلاق دی جاتی ہے؟ اگر عورت کی مرضی طلاق کی ہے، تو اس مرضی پر طلاق دے دی جائے یا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟

المستفتی: محمد افضل حسن

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جو وجہ آپ کے یہاں پیش آئی ہے، اس کو تحریر فرمائیں اس کا جواب مل جائے گا، عورت کی مرضی پر طلاق دینا شوہر پر لازم نہیں ہے اور نہ ہی شوہر اس کا پابند ہے؛ بلکہ شریعت اسلامیہ نے طلاق کا اختیار شوہر کو دیا ہے۔

ویقع طلاق کل زوج إذا کان عاقلاً بالغاً. (ہدایۃ، کتاب الطلاق، باب

طلاق السنۃ، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۸)

ویقع طلاق کل زوج بالغ عاقل. (درمختار مع الشامی، کراچی ۳/۲۳۵،

زکریا ۴/۴۳۸، مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۲/۸، ہندیۃ، زکریا ۱/۳۵۳، جدید زکریا ۱/۴۲۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۴ رشوال المکتبہ ۱۴۱۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۶/۱۹۸۷)

طلاق کے مطالبہ پر یوں ہی طلاق کے الفاظ کہنا

سوال [۶۰۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ صغیر احمد کی بیوی ریشماں پروین ناراض ہو کر اپنے میکہ چلی گئی اور اس نے اور اس کی ماں نے ضد کی کہ اس کو طلاق دو، صغیر نے کہا میں کہیں سے کہیں تک اسے

طلاق نہ دوں گا، مگر انہوں نے کہا تم یوں ہی کہہ دو؛ لہذا میں نے یوں ہی تین مرتبہ طلاق دے دی، کیا طلاق ہو گئی؟

المستفتی: صغیر احمد، اصوات پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: طلاق کے مطالبہ کے وقت یوں ہی طلاق کے الفاظ ادا کرنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا جب آپ نے تین دفعہ طلاق کہہ دیا ہے، تو آپ کی بیوی پر تین طلاق، طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب بغیر حلالہ دوبارہ اس کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں۔

عن عائشةؓ، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقني، فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلي رفاعة؟ لا، حتى يدوق عسيلتك وتذوق عسيلته. (صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من اجاز طلاق الثلاث ۲/۷۹۱، رقم: ۵۰۶۱، ف: ۵۲۶۰)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هندية، زكريا ۱/۴۷۳، جديد زكريا ۱/۵۳۵، تاتارخانية، زكريا ديوبند ۵/۴۸، رقم: ۷۵۰۴، هداية اشرفي ديوبند ۲/۳۹۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱/ربیع الاول ۱۴۲۶ھ

۱۴۲۴/۳/۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف-۳۶/۷۹۳۵)

بیوی کے مطالبہ پر کتنی طلاق دی جائے؟

سوال [۶۰۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ میری بیوی کے میکہ والے اور میری بیوی طلاق مانگ رہی ہے اور مر چھوڑ رہی ہے؛ لیکن جہیز کا سامان مانگ رہی ہے، کچھ سامان ٹوٹ پھوٹ گیا، تو سامان دیا جائے گا یا نہیں اور طلاق کتنی دینی چاہیے؟ شرعی حکم تحریر فرمادیں۔

المسفتی: محمد نسیم بروالان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بیوی اور بیوی کے میکہ والوں کے طلاق مانگنے اور مر چھوڑنے پر طلاق دینا جائز ہے اور اس صورت میں ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ نیز جہیز کا جو سامان بچا ہوا ہے، وہ بیوی کا حق ہے، اس کا حق جس حالت میں بھی ہو، اس حالت میں اس کو واپس کرنا ضروری ہے اور طلاق صرف ایک دی جائے، ایک سے زیادہ طلاق دینا شریعت میں ممنوع ہے۔

وإن طلقها على مال، فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال. (هدایة، کتاب الطلاق، باب النخلع، اشرفی دیوبند ۲/۴۰۵، ہندیہ، زکریا ۱/۴۹۵، جدید زکریا ۱/۵۵۴)

إن طلقها على مال، فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال، وكان الطلاق بائناً. (ہندیہ، زکریا ۱/۴۹۵، جدید زکریا ۱/۵۵۴)

أن الجهل للمرأة إذا طلقها تأخذ كلة. (شامی، کراچی ۳/۱۵۸، زکریا ۴/۳۱۱)

وكذا يسترد ما بعث هدية وهو قائم دون الهلاك والمستهلك؛ لأنه في معنى الهبة (الدر المختار) وفي الشامي الهلاك والاستهلاك مانع من الرجوع بها. (شامی، زکریا ۴/۳۰۴، کراچی ۳/۱۵۳)

عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. (المصنف لابن أبي شيبة، مؤسسة علوم القرآن بيروت ۹/۵۱۲، رقم: ۱۸۰۴۰، مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي بيروت ۶/۳۰۲، رقم: ۱۰۹۲۶)

فالأحسن: أن يطلق الرجل امرأته تطلقاً واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. (هدایة، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۴)

فالأحسن: أن يطلق امرأته واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. (ہندیہ، زکریا ۱/۳۴۸، جدید زکریا ۱/۴۱۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۵ ربیع الاول ۱۴۳۰ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۵۳۷۹۷)
 الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۳۰/۳/۶ھ

ایک لڑکی کی طلاق سے دوسری لڑکیوں کی طلاق کا مطالبہ

سوال [۶۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے اطراف میں بچے اور بچیوں کا نکاح بچپن میں والدین کر دیتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد حسب دستور ان کی رخصتی کر دی جاتی ہے؛ لیکن اس وقت ایک شدید مشکل پیش نظر ہے، ہوا یہ کہ ہماری ایک لڑکی زریینہ بیگم کا نکاح ظفر اللہ سے ہوا تھا، زریینہ کے اس وقت ایک لڑکی بھی ہے، بغیر وجہ کے جس کا اعتراف خود ظفر اللہ کو بھی ہے، زریینہ کے نام طلاق نامہ لکھ کر بھیج دیا اور اس کو شرعی طلاق ہو بھی گئی۔

اب صورت حال یہ ہے کہ زریینہ کی دوسری قریبی عزیزہ دو بہنیں ظفر اللہ کے سگے دو بھائیوں کے نکاح میں ہیں، ان کا نکاح بھی حسب رواج والدین نے بچپن میں کر دیا تھا، جس کو لوگ بھگ ۲۰ سال ہو گئے، مگر ابھی تک ان بچیوں کی رخصتی نہیں کی ہے، زریینہ کے معاملہ کے پیش نظر اس کی ان دو بہنوں اور دوسرے عزیزوں بشمول ان کے والدین کو یہ احساس ہے کہ ہماری ان دو لڑکیوں کو بھی اگر رخصت کر دیا گیا، تو ان کے ساتھ بھی یہ لوگ زیادتی کریں گے، اب خود لڑکیاں بھی کسی قیمت پر جانے کے لئے تیار نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے ہم زندگی اسی طرح گذاریں گے، مگر نہیں جائیں گے، ادھر لڑکے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قیمت پر ان کو طلاق نہیں دیں گے؛ جبکہ لڑکی والے چاہتے ہیں کہ ہم طلاق لے لیں، اس صورت کے اندر شرعی نوعیت کیا ہے؟ ان دو بچیوں کا حل کیا ہے؟ فسخ نکاح کی جو شکل ممکن ہو اس سے مطلع

کریں، ہم کو لڑکوں سے کسی طرح کی خیر کی توقع نہیں ہے؛ جبکہ وہ لوگ بہت حد تک اپنے اس اقدام پر شرمندہ بھی ہیں کہ ہم نے زرینہ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، مگر ہم ان کی اس بات سے بالکل مطمئن نہیں ہیں۔

نوٹ: معاملہ چونکہ طرفین میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں خوں ریزی نہ ہو جائے، اس وجہ سے ایسا جواب تحریر فرمائیں جو دونوں کے لئے قابل قبول ہو۔ بیڑوا تو جروا۔

المستفتی: محمد علی، احمد آباد، جمال پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق نہایت مجبوری کے وقت جب نباہ بالکل مشکل ہو، تو ضرورہ دینے کی گنجائش ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق بہت بری چیز ہے۔

عن ابن عمرؓ، أن النبي صلى الله عليه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق .
(سنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق، النسخة الهندية ۱/ ۲۹۶،
دارالسلام رقم: ۲۱۷۸، سنن ابن ماجه، أبواب الطلاق، النسخة الهندية ۱/ ۱۴۵،
دارالسلام رقم: ۲۰۱۸)

بلاوجہ شرعی طلاق دینے والا شرعاً ظالم، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا؛ لیکن ایک بھائی نے اگر اپنی بیوی کے ساتھ ظالمانہ حرکت کی ہے، تو اس پر یہ دوسرے بھائی کو بھی قیاس کر لینا اور اس کا احساس دل میں جمالینا شرعاً مفید نہیں ہے، خاص کر جب وہ لوگ خاندان کے ایک فرد کے فعل شنیع پر نادم بھی ہوں؛ اس لئے دونوں خاندان پر لازم ہے کہ آپس میں ملاپ کر لیں اور لڑکیوں کو رخصت کر دیں تاکہ وہ لوگ باعصمت زندگی گزار سکیں، شرعاً لڑکیوں کو شوہروں کے پاس نہ جانے کا حق نہیں؛ بلکہ رخصت پر تیار ہونا لازم ہے؛ جبکہ شوہر حقوق زوجیت ادا کرنے پر آمادہ ہے، لڑکیوں کو روکنے والے اور ان کو شوہروں کے خلاف بدظن کرنے والے سب گناہ گار ہوں گے، شرعاً لڑکیاں رخصت کرائی جانے پر مجبور کی جائیں گی۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۱۴۰)

لڑکی والے رخصت کرنے پر راضی ہو جائیں گے، تو انشاء اللہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور شوہروں پر لازم ہے کہ بیویوں کے ساتھ میل محبت اور مودت کا معاملہ کریں اور ان پر ظلم نہ کریں جیسا کہ قرآن کریم کی آیت: [إمساك بمعروف . [البقرہ: ۲۲۹] سے مستفاد ہو رہا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱/رمضان المبارک ۱۴۰۷ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۱۳/۲۳)

بیوی شوہر کے پاس نہ جائے تو کیا کریں؟

سوال [۶۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی لڑکی کی شادی قرض لے کر ۲۰۰۵ء کو کی، اس کے چار دن بعد جہیز کی مانگ شروع کی گئی کہ یہ دیا وہ نہیں دیا اور لڑکی کو طعنے دیئے گئے، اب لڑکی گھر پر آگئی اور اب ہماری لڑکی جانے کے لئے تیار نہیں ہے؛ اسے ہم نے ہر طرح سمجھالیا، مگر وہ پھر بھی جانے کو تیار نہیں ہے، وہ بس یہی کہہ رہی ہے کہ مجھے وہاں جانا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے دو دن کے بعد لڑکے کے چھوٹے بھائی سے پتہ چلا کہ لڑکے کا ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے علاج چل رہا تھا، اس بات کے تین گواہ ہیں، لڑکی کو اس بارے میں بھی سمجھا کر دیکھ لیا کہ علاج سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں؛ لیکن وہ پھر بھی تیار نہیں ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی لڑکی کو سمجھاؤ اور اسے بھیجنے کی کوشش کرو۔ آپ یہ بتائیے کہ ہم نے بہت سمجھایا؛ لیکن جب وہ جانے کے لئے تیار نہیں ہے، تو ہم کیا کریں ہماری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، آپ یہ بتائیں ہم اس رشتہ کو ختم کریں یا نہیں؟ اور اس وقت مہر فاطمی کے کتنے روپے ہو رہے ہیں؟

المستفتی: افضال حسین، کچا باغ، باغ بہادر گنج، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوال میں ذکر کردہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کسی اندرونی بیماری کا شکار ہے، جس کی بنا پر لڑکی جانے کے لئے راضی نہیں ہے، اگر علاج وغیرہ سے صحت یابی کی امید ہو، تو جلد بازی سے کام نہ لیں؛ بلکہ بہتر ہے کہ علاج کے لئے کچھ عرصہ موقوف دیا جائے اور لڑکی کو سمجھا بچھا کر بھیج دیا جائے، یہی زیادہ مناسب ہے اور اگر اس کے بعد بھی شوہر کی بیماری بدستور باقی رہتی ہے، تو عدالت شرعیہ میں اپنا مقدمہ دائر کر کے فیصلہ کرائیں۔

عن عبدالله قال: يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي بيروت ۹/۳۴۳، رقم: ۹۷۰۶، سنن الدارقطني، دار الكتب العلمية بيروت ۳/۲۱۱، رقم: ۳۷۶۹، السنن الكبرى للبيهقي، دار الفكر بيروت ۱۰/۵۲۸، رقم: ۱۴۶۳۱)

وإذا وجدت المرأة زوجها عنيئاً، فلها الخيار إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت خاصمته عند القاضي وطلبت الفرقة، فإن خاصمت فالقاضي يؤجله سنة. (تاتارخانية، زكريا ۵/۲۲۰، رقم: ۷۷۰۴)

وإذا كان الزوج عنيئاً أجله الحاكم سنة، فإن وصل إليها فيها وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك. (هداية، كتاب الطلاق، باب العنين اشرفي ديوبند ۲/۴۲۰)

(۲) مہر فاطمی موجودہ اوزان اور دس گرام کے حساب سے ۱۵۳ تو لہ ۹۰۰ ملی گرام چاندی ہے، اس کی قیمت بازاری ریٹ سے معلوم کر لیں۔ (مستفاد: ایضاح المسائل ص: ۱۳۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۷۳۳۳۸۶)

بٹی، داماد کا سوتیلی ساس کی برائیاں بتا کر سسر سے طلاق کا مطالبہ کرنا

سوال [۶۰۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری پہلی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، ۱۹۸۹ء میں، میں نے ۱۹۹۴ء میں عقد خوانی کیا اور عقد خوانی سے پہلے اپنی تین بیٹیوں کی نکاح کی ذمہ داری بفضلہ تعالیٰ انجام دے چکا ہوں اور ایک لڑکے کی بھی شادی سے فارغ ہو چکا ہوں۔ اب میری شادی کو تقریباً چھ سال سے زائد ہو چکے، میرے داماد میری اہلیہ ثانی جو کہ میرے داماد کی سوتیلی ساس ہیں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بدتمیز ہے اور بدکار ہے اور ان کا مزاج چوری کرنے کا ہے، غیر مردوں سے اس کے تعلقات ہیں، میرے بڑے داماد کو یہ شکایت ہیں، اس حالت میں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیدوں، ورنہ بھیا نک انجام ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بیوی کو طلاق دلوا کر اور عورت سے نکاح کرادیں گے، وہ بیوی کو گوارہ نہیں کرتے؛ بلکہ اس سے بہت ہی عداوت رکھتے ہیں۔ اب بتائیں کہ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینا جائز ہوگا کہ نہیں اور مجھے اپنی اولاد، داماد سے کس طرح کے معاملات رکھنا چاہئے؟ کیونکہ میں بڑی مشکل میں ہوں، میری دوسری بیوی سے کوئی بھی اولاد نہیں ہے اور پہلی بیوی کی چار اولادوں کے نکاح کی ذمہ داری الحمد للہ ادا ہو چکی ہے۔

المستفتی: محمد حنیف، پیرزادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب آپ کو اپنی بیوی سے ذاتی طور پر کوئی شکایت نہیں ہے اور وہ آپ کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہی ہے، تو اس صورت میں محض داماد اور بیٹیوں کے الزام تراشی کی وجہ سے موجودہ بیوی کو طلاق دیں، یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے، اگر آپ طلاق دیں گے تو سخت گنہگار ہوں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کی موجودہ

بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے اور داماد اور بیٹیوں کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں۔

نیز داماد اور بیٹیوں کا طلاق کا مطالبہ کرنا قطعاً جائز نہیں، اس طرح کے مطالبات سے وہ لوگ گنہگار ہوں گے۔

وأما الطلاق، فإن الأصل فيه الحظر بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر. (شامی، زکریا ۴/۳۸، کراچی ۲۲۸/۳)

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجسوا، ولا تباعضوا، ولا تتحاسدوا، ولا تتباغضوا، ولا تتدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.

(مسلم شریف، کتاب البر و الصلۃ، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس الخ۔ النسخة الهندية ۲/۳۱۶، بیت الأفكار رقم: ۲۵۶۴، بخاری شریف، کتاب الأدب، باب ما ينهي عن التحاسد والتدابير، النسخة الهندية ۲/۸۹۶، رقم: ۵۸۲۹، ف: ۶۰۶۴، مشکوٰۃ شریف ۴۲۷)

مشکوٰۃ شریف ۴۲۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۶/۲۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۱ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۶۷۷۸)

طلاق کے مطالبہ پر بیوی کو مہر دینا لازم ہے یا نہیں؟

سوال [۶۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے بیٹے کی شادی ۱۸ جولائی ۱۹۹۸ء کو ہوئی تھی، افسوس میرا الزکا شادی کے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے اس کی اہلیہ اپنے میکہ میں رک گئی، اس کو رکے ہوئے تقریباً ۳ ماہ ہو گئے ہیں، اس دوران میں نے اپنے بیٹے کا علاج کر لیا، جس سے وہ

ٹھیک ہو گیا ہے، جن صاحب نے علاج کیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اب آپ کا لڑکا ٹھیک ہے؛ لیکن لڑکی کی والدہ اپنی بیٹی کو بھیجنے کو راضی نہیں ہیں اور طلاق چاہتی ہیں، میرے بیٹے کا مہر معجل تیس ہزار روپیہ ہے اور ہم لڑکی کو رکھنے کو تیار ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایسی شکل میں اگر لڑکی خود طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو مہر کے روپے دینے ہوں گے یا نہیں؟

المستفتی: سید منور علی، جامع مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر لڑکے کی کمی دور ہو گئی ہے، تو لڑکی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کے پاس آ کر حق زوجیت ادا کرے؛ لیکن اگر لڑکی از خود شوہر کے پاس رہنے کے لئے تیار نہیں ہے، تو مہر معاف کر کے خلع کے لئے پیشکش کی جاسکتی ہے اور لڑکے کو مہر معاف کرنے کی شرط لگانے کا حق ہے۔

وان تشاق الزوجان و خافا أن لا یقیما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدی نفسها

منہ بمال یخلعہا بہ. (ہدایۃ، کتاب الطلاق، باب الخلع اشرفی دیوبند ۲/۴۰۴، ہندیۃ، زکریا

۱/۴۸۸، جدید زکریا ۱/۵۴۸، تاتارخانیۃ، زکریا ۵/۵، رقم: ۷۰۷۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲ شوال المکرم ۱۴۱۹ھ

۱۲/۱۰/۱۴۱۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳/۵۸۹)

نامر د شوہر سے طلاق و مہر کا مطالبہ کرنا

سوال [۶۷۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی کو تقریباً دو سال ہو چکے ہیں؛ لیکن ابھی تک صحبت میں پوری کامیابی نہیں ہوئی ہے، اور زید علاج بھی کافی کرا چکا ہے، مگر ناکام رہا، اب بیوی طلاق مانگ رہی ہے اور اپنے مہر کا مطالبہ بھی کر رہی ہے۔ رہا سوال یہ کہ زید کو طلاق دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اب

اسی کے ساتھ ساتھ کیا مہر پورا دینا پڑے گا اور غربت کی وجہ سے مہر ادا کرنے کی زید طاقت نہیں رکھتا، دیگر کا کہنا یہ ہے کہ عدت بھی ضروری ہوگی؟ جبکہ مباشرت نہیں ہوئی ہے۔

المستفتی: میاں سرائے، سنجل، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں لکھا ہے کہ شادی کو دو سال ہو چکے، مگر ابھی تک صحبت میں پوری کامیابی نہیں ہوئی، شوہر سے زبانی معلوم کیا گیا کہ بیوی جب سے میکے گئی تھی، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی، ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ شوہر کو ایک سال تک حاکم مسلم یا اس کے نائب پنچایت کی نگرانی میں علاج کا موقع دیا جائے اور اس درمیان بیوی کو شوہر کے پاس ہی رہنا لازم ہے اور علاج بھی ہوتا رہے، اور دونوں میں بار بار ملاقات بھی ہوتی رہے، اگر ایک بار بھی صحبت پر قادر ہو جائے تو بیوی کو جدائیگی کے مطالبہ کا حق نہیں اور مذکورہ صورت میں بیوی علاج کے زمانہ میں شوہر کے پاس نہیں رہتی؛ اس لئے طلاق اور مہر دونوں کا مطالبہ درست نہیں، ہاں البتہ مہر معاف کر کے شوہر کو خلع پر آمادہ کر لیا جائے تو درست ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۱۳۷۶، جدید زکریا ۱۶۷/۱، جدید زکریا مطول ۳۹۹/۸)

عن عبد اللہ قال: يؤجل العین سنة، فإن وصل إليها فبها، وإلا فرق

بينهما، ولها الصداق. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي بيروت ۳/۴۳، رقم: ۹۷۰، سنن الدار قطنی، دارالکتب العلمیة بیروت ۳/۲۱۱، رقم: ۳۷۶۹، السنن الكبرى للبيهقي، دارالفکر بیروت ۱۰/۵۲۸، رقم: ۱۶۶۳۱)

وإذا وجدت المرأة زوجها عیناً، فلها الخيار إن شاء تأقمت معه، وإن شاءت خاصمته عند القاضي وطلبت الفرقة، فإن خاصمت فالقاضي يؤجله سنة. (تاتارخانیة، زکریا ۵/۲۲۰، رقم: ۷۷۰۴)

إذا رفعت المرأة زوجها إلي القاضي وادعت أنه عین وطلبت الفرقة،

فإن القاضي يسأله هل وصل إليها أو لم يصل؟ فإن أقر أنه لم يصل أجله سنة سواء كانت المرأة بكراً أم ثيباً. (هندية، زكريا قديم ۵۲۲/۱، جديد زكريا ۵۷۶/۱) اور خلع کے بعد عدت بھی لازم ہوگی۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۵/۲/۱۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ صفر المظفر ۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۸۲۵۶۳۷)

بیوی کے مطالبہ طلاق پر ”ہاں ہاں جا دیدوں گا“ کہنے کا حکم

سوال [۶۰۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بقرعید میں ہم دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، تو بیوی نے کہا کہ ”مجھے میرے شوہر نے ڈھائی سال پہلے طلاق دینے کے الفاظ دوبار کہے اور دو عورتیں بھی کہتی ہیں کہ ہمارے سامنے جب دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تب مرد نے دوبار طلاق کے الفاظ کہے تھے، مگر شوہر کہتا ہے کہ جب بیوی طلاق مانگ رہی تھی، تو میں نے کہا تھا، ”ہاں ہاں جا دیدوں گا“ اور یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی؛ لیکن اب ۱۰/۱۰/۲۰۱۰ء جمعہ کو شوہر کسی عدالتی کام سے الہ آباد گیا تھا، تو بیوی ۲۰/۱۰/۲۰۱۰ء کو اپنے شوہر سے فون پر پوچھ کر میکہ چلی گئی، جب شوہر واپس آیا اور اپنی بیوی کو لینے گیا، تو بیوی نے آج کل کہہ کر ٹال دیا اور پھر وہی ساڑھے تین سال پرانی بات دہرانے لگی کہ مجھے دو عورتوں کے سامنے دوبار طلاق کیلئے کہا ہے، ۱۷/۸/۲۰۰۷ء کو یہ عورتیں بھی کہتی ہیں کہ ہمارے سامنے دوبار طلاق کے الفاظ کہے تھے، ان دو عورتوں کے علاوہ اور کوئی نہیں کہتا، شوہر بار بار منع ہی کرتا ہے اور جن آدمیوں کے سامنے بیوی نے پہلے منع کیا تھا، ان ۲۰ یا ۲۵ آدمیوں میں سے ان تین آدمیوں کی گواہی ہے کہ ہمارے سامنے منع کیا تھا، ان تینوں گواہوں کے نام ۱۔ شمیم احمد ۲۔ نواب خاں ۳۔ رئیس احمد ان دو عورتوں کے نام ۱۔ بھوری ۲۔ آسو۔

المستفتی: شجاع الدین بن حاجی حسین الدین، اشرف پور روڈ، بلی، نجیب آباد، بیجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں بیوی کا بیان متضاد ہے، کبھی کہتی ہے کہ مجھے طلاق دی، کبھی کہتی ہے کہ طلاق نہیں دی ہے اور میں نے غصہ میں طلاق کا دعویٰ کیا ہے، اس لئے بیوی کی باتوں کا اعتبار نہیں اور شوہر کا دعویٰ یہ ہے کہ جھگڑے کے دوران طلاق دیدوں گا کہا تھا، یہ وعدہ طلاق ہے، اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی اور صرف دو عورتوں کی شہادت سے طلاق کا ثبوت نہیں ہوتا اور اگر بالفرض دو طلاق مان بھی لی جائیں، تو اس واقعہ کے بعد دونوں میاں بیوی ساتھ رہے بھی ہیں، اس سے رجعت ہو چکی ہے، لہذا دونوں کا نکاح بدستور باقی ہے اور بیوی کا کبھی بھی شوہر سے ناراض ہو کر گھر جا کر بیٹھ جانا درست نہیں۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا، كقولہ: أنت طالق، أنت طالق. (شامی،

كتاب الطلاق، باب الصريح، زكريا ۴/۶۳، كراچي ۲۰۲/۳)

أنت طالق، أنت طالق فيقع رجعتان، إذا كانت مدخولاً بها. (مجمع

الأنهر، دار الكتب العلمية، بيروت ۱۳/۲)

لو قال أطلقك لم يقع. (الدر الممتقي على هامش مجمع الأنهر

قديم ۱/۳۸۷، جديد دار الكتب العلمية بيروت ۲/۱۴)

فقال الزوج: أطلق أطلق طلاق می کنم ” طلاق کنم“ وكرر ثلاثاً،

طلقت ثلاثاً، بخلاف قوله: سأطلق ” کنم“ لأنه استقبال، فلم يكن تحقيقاً

بالتشكيك. (هنديّة، زكريا ۱/۳۸۴، جديد زكريا ۱/۴۵۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳/۲/۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸/صفر المظفر ۱۴۳۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۲۸۵)

بیوی کے مطالبہ پر دو مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۰۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد سجاد زیدی نے جھگڑے کے دوران بیوی کے طلاق مانگنے پر کہا جا طلاق دی، جا طلاق دی، تیسری دفعہ کہنے سے قبل ماں نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور منہ بند کر دیا، تو کون سی طلاق ہوئی؟ شرعی حکم تحریر فرمادیں۔

المستفتی: سجاد زیدی، محلہ دربارکلاں، امر وہہ، چوٹی باپھولے لنگر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر صرف دو بار کہہ پایا تھا، جیسا کہ سوال نامہ میں مذکور ہے، تو اس سے دو طلاق رجعی واقعی ہو چکی ہیں، عورت سے عدت کے اندر اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کی گنجائش ہے۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا، كقوله: أنت طالق، أنت طالق.

(در مختار، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۲۰۲/۳، زکریا ۴/۶۳)

أنت طالق، أنت طالق، فیقح رجعتان، إذا كانت مدخولاً بہا. (مجمع الأنهر،

دارالکتب العلمیہ، بیروت ۲/۱۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷/رجب المرجب ۱۴۲۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲۳۲۲۶)

زوجین میں نباہ نہ ہونے کی صورت میں بیوی کا مطالبہ طلاق

سوال [۶۰۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی کو تقریباً پانچ سال کا عرصہ ہو چکا ہے، زید کی بیوی زید کے

ساتھ ازدواجی زندگی گزارنا نہیں چاہتی، زید کی بیوی جب بھی میکہ جاتی ہے طلاق مانگتی ہے، آج بھی میکہ میں ہے اور طلاق مانگ رہی ہے، زید طلاق دینا نہیں چاہتا، اپنی بیوی کو زید لانا چاہتا ہے، زید کی بیوی کسی قیمت پر آنے کو تیار نہیں ہے اور طلاق مانگ رہی ہے، اس عرصہ میں زید کے گھر کسی بھی قسم کا جھگڑا نہیں ہے، جب جب میکہ جاتی ہے، وہاں پر رک جاتی ہے اور آنا نہیں چاہتی ہے، کئی مرتبہ طلاق مانگ چکی ہے، ایسے حالات میں طلاق کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب عنایت فرمائیں، نوازش ہوگی۔

المستفتی: اکبر علی، سابق چیرمین، ٹاؤن ایریا، بھونچ پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی صورت میں لڑکی اور لڑکے کے والدین ان اسباب وجوہ پر غور کریں جن کی بنا پر لڑکی طلاق کی طالب ہے، اگر لڑکی کے پاس اس مسئلہ کے سلسلہ میں کوئی معقول وجہ اور شکایت ہو، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور اگر لڑکے کی طرف سے کسی طرح کی کمی اور شکایت کی بات نہیں ہے، تو ایسی صورت میں لڑکے کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اس کو طلاق نہ دے اور لڑکی کے والدین پر ضروری ہے کہ وہ لڑکی کو سمجھائیں اور اس کو شوہر کے پاس بھیج دیں، اگر سسرال میں لڑکی کا دل نہیں لگتا ہے، تو دل لگانے کی کوشش کرے اور جلدی جلدی میکہ نہ جائے، زیادہ وقت شوہر کے ساتھ گزارے، اس طرح انشاء اللہ تعلقات اور محبت میں اضافہ ہوگا۔

لا یجب علی الزوج تطلیق الفاجرة. وفي الشامية: الفجور: العصیان
کما فی المغرب، إلا إذا خاف أن لا یقیمما حدود اللہ. (شامی،
زکریا ۴/ ۴۳۳-۱- ۱۴۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۷/۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۲۹۷/۳۵)

(۴) باب وقوع الطلاق

کتاب الطلاق کے چند مقامات سے عدم اتفاق کی رائے

مع تصدیقات علماء مدرسہ شاہی مراد آباد

سوال [۶۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آج سے پہلے کتاب النکاح، کتاب الہبہ، کتاب الوصیۃ آپ حضرات کی خدمتوں میں جا چکی ہیں، کتاب النکاح پر تو آپ حضرات کی رائیں آئیں؛ اس لئے چند مہینوں سے کتاب النکاح کے سلسلہ میں کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے؛ لیکن کتاب الہبہ، کتاب الوصیۃ سے متعلق آراء اب تک آرہی ہیں، گرچہ ان کی رفتار بہت سست ہے، اس وقت آپ کی خدمت میں کتاب الطلاق ارسال کی جا رہی ہے، کتاب الطلاق میں بھی متعدد مسائل ایسے آئے ہیں، جن میں ضرورت اور مقتضائے وقت نے ہمیں سابقہ فیصلوں سے کچھ ہٹنے پر مجبور کیا ہے، جب اس کا مطالعہ فرمائیں گے ساری چیزیں آپ کے سامنے آجائیں گی، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ کتاب الطلاق پر بھی آپ اسی توجہ کے ساتھ اپنی قیمتی رائے سے سرفراز فرمائیں، جس طرح آپ نے کتاب النکاح میں اپنے مشوروں سے استفادہ کا موقع عنایت فرمایا ہے، ساتھ ہی ساتھ دعا بھی فرماتے رہیں کہ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس اہم کام کو ہمارے کمزور ہاتھوں کے ذریعہ پایہ تکمیل تک پہنچائے۔

المستفتی: (حضرت مولانا) منت اللہ غفرلہ (صاحب مدظلہ العالی)

جزل سکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ خانقاہ، موگیٹر (بہار)

دارالافتاء مدرسہ شاہی کی جانب سے جواب

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: حضرت اقدس جناب جنرل سکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ خانقاہ مونگیر دامت فیوضکم رزقنا اللہ وایاکم مایحب ویرضی.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آنجناب کا ارسال کردہ رسالہ کتاب الطلاق از اول تا آخر حرف بحرف بغور مطالعہ کیا گیا اور مسائل کے ہر پہلو پر غور و خوض کر کے سوچا گیا، کام فی نفسہ قابل احترام ہے؛ البتہ چند مسائل ایسے آگئے ہیں جن پر بار بار غور کیا گیا، حسب استطاعت کتابوں کی طرف مراجعت بھی کی گئی بالآخر ہم کو ان مسائل کے بارے میں عدم اتفاق کا اظہار کرنا پڑا، جن کو مع دلائل درج کر دیا جا رہا ہے۔

(۱) صفحہ ۳-۴ میں طلاق سکران کے سلسلہ میں قول مفتی بہ اور فقہاء کے اجماع کو چھوڑ کر علی الاطلاق عدم وقوع طلاق کو اختیار کرنے میں ہم کو اتفاق نہیں ہے؛ بلکہ عام فقہاء اور اہل فتاویٰ کے ترجیح شدہ دلائل سے اتفاق ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۷۴/۱، ڈبھیل ۱۲/۲۸۵، میرٹھ ۱۸/۱۲۶، فتاویٰ دارالعلوم ۱۰/۱۳۹، ۱۶۰، أحسن الفتاویٰ ۵/۱۸۲، کفایت المفتی قدیم ۲۶۶-۷۳)

المختار فی زماننا لزوم الحد ووقوع الطلاق (إلی قوله) ان الخلاف مقید بما إذا شربه للتداوی فلو للهو والطرب فیقع بالاجماع الخ. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی تعریف السکران و حکمہ زکریا ۴/۴۴۴، کوئٹہ ۲/۶۰۷)

فطلاقه واقع عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم الخ.

(بدائع الصنائع زکریا ۳/۱۵۸-۳/۹۸)

وطلاق الکسران واقع إذا سکر من الخمر أو النبیذ وهو مذهب

أصحابنا رحمهم الله تعالى' (إلى قوله) وعليه الفتوى في زماننا الخ. (هندية، كتاب الطلاق، فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع قديم ۱/۳۵۳، جديد ۱/۴۲۰، البحر الرائق زكريا ۳/، كراچی ۳/۲۴۸، بزازية على هامش الهندية زكريا ۴/۱۷۱، تبیین الحقائق، كوئٹہ ۲/۱۹۴، زكريا ۳/۳۴، حاشية چلپي على التبيين كوئٹہ ۲/۱۹۴، زكريا ۳/۳۷، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ۴/۲۸۲، ملتقى الأبحر مع الدر المننتقي قديم ۱/۳۸۴، بيروت ۲/۸، ومثله في المحج ۲/۸)

نیز مسائل منقولہ غیر منقولہ میں غیر مجتہد کے لئے تبدیل و ترمیم جائز نہیں ہے؛ بلکہ بطریق حکایت نقل کرنا واجب ہے۔

لما القطع المفتي المجتهد في زماننا ولم يبق إلا المقلد المحض
وجب علينا اتباع التفصيل الخ. (عقود رسم المفتي جديد ۷۲)

وترجيحاتهم وتصحيحاتهم باقية فعلينا اتباع الراجح والعمل له
كما لو افتوا في حياتهم الخ. (رسم المفتي جديد ۷۱)

وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحل له ان يفتي إلا بطريق الحكاية
فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء الخ. (رسم المفتي جديد ۷۹)
اسی طرح مقلد کے لئے قول راجح کو چھوڑ کر غیر راجح کو اختیار کرنا حرام ہے۔

ان ما اتفق عليه ائمتنا لا يجوز لمجتهد في مذهبهم أن يعدل عنه
برأيه؛ لأن رأيهم أصح الخ. (رسم المفتي ۶۹)

وكلام القرا في دال على أن المتجهد والمقلد لا يحل لهما الحكم،
والإفتاء بغير الراجح؛ لأنه اتباع للهوى وهو حرام اجماعاً الخ. (عقود رسم المفتي ۲۷)
(۲) صفحہ ۲/۲-۳ صفحہ ۵/۵ حاشیہ ۱/۱ کا حوالہ تفسیری سرا کے بارے میں شامی اور ہدایہ علی فتح القدیر وغیرہ میں ہم کو نہیں ملا۔

(۳) صفحہ ۲/۲ میں شرط بلوغ شرط میں انزال و احتلام کے ساتھ پندرہ سال عمر کی قید مسامحت سے خالی نہیں ہے۔

و بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال، والجارية بالاحتلام، والحیض، والحبل، فان لم يوجد فيهما شيء فحتي يتم لكل منهما خمس عشر سنة به يفتي الخ. (الدر المختار ۵/۱۰۷)

(۴) صفحہ ۲۱ میں شوہر کا قول مدخول بہا کے بارے میں ”تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، ایک مجلس میں تین جملوں کے ساتھ قضاء اور دیدۃ دونوں صورتوں میں ایک طلاق ثابت کرنے میں ہم کو اتفاق نہیں؛ بلکہ ہم تمام فقہاء اور اہل فتاویٰ کی طرح اس کو تین طلاق سمجھتے ہیں، جو ذیل کے دلائل سے ثابت ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۲۹۲/۹، محمودیہ قدیم ۵۲/۳، کفایت المفتی قدیم ۷۶/۷۵)

التأسيس خیر من التأكيد فإذا دار اللفظ بينها تعين الحمل على التأسيس؛ ولذا قال اصحابنا: ولو قال لزوجته أنت طالق، طالق، طالق طلقت ثلاثاً، فإن قال أردت التأكيد صدق ديانة لا قضاء الخ. (الأشباه والنظائر قدیم ۲۱۹)

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق الخ. (فتاویٰ عالمگیری، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الأول، زكريا ديوبند ۱/۳۵۶، قاضيخاں علی ہامش الہندیہ، زكريا ۱/۴۵۴، شامي، زكريا ۴/۵۲۱، کراچی ۳/۲۹۳)

ولو كرر لفظ الطلاق ولم ينو الاستيناف ولا التأكيد وقع الكل أو التأكيد فواحدة ديانة والكل قضاء. (الأشباه والنظائر قدیم ۹۷)

ولو كرر لفظ الطلاق ولم ينو الاستيناف ولا التأكيد يقع الكل قضاء؛ لأنه يجعل تأسيساً لا تأكيداً؛ لأنه خير من التأكيد. (حموي، على الأشباه، قدیم ۹۷)

بان لم ينو استينافاً ولا تأكيداً؛ لأن الأصل عدم التأكيد. (شامي، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، زكريا ۴/۵۲۲)

نیز اگر ایسی صورت میں قاضی ایک طلاق کا حکم لگا دے یا مفتی ایک طلاق ہی کا فتویٰ دیدے تو نافذ نہیں گا؛ کیونکہ یہ جدید اور نئے مسائل نہیں ہیں؛ بلکہ فقہاء کے ساتوں طبقات کی نظر سے گزرے ہوئے مسائل ہیں اور زمانہ اور حالات کا دخل بھی ایسے مسائل میں نہیں ہے حتیٰ کہ علامہ بن ہمام جیسی شخصیت کی رائے کا بھی اعتبار نہیں کیا گیا، خود ان کے شاگرد نے ان کی تردید کر دی تھی۔

ليس للقاضي ولا للمفتي العدول عن قول الإمام الا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فليس للقاضي أن يحكم بقول غير ماض الخ. (عقود رسم المفتي ۷۳)

ان المحقق ابن الهمام من أهل الترجيح حيث قال عنه أنه أهل النظر في الدليل وح قلنا اتباعه فيما يحققه ويوجهه من الروايات والأقوال ما لم يخرج عن المذاهب فان له اختيارا خالف فيها المذهب فلا يتابع عليها كما قاله تلميذه العلامة قاسم الخ. (رسم المفتي جديد ۷۶)

(۵) دفعہ ۲۳ میں لفظ چھوڑ دیا وغیرہ سے ہر حال میں نیت طلاق بائن واقع ہونے میں ہم کو اتفاق نہیں ہے؛ بلکہ اس سے طلاق صریح رجعی ہی واقع ہوا کرتی ہے، جو یہاں کا عرف بھی ہے اور فقہاء اور اہل فتاویٰ نے اس کی صراحت بھی کر دی ہے۔ (مستفاد: محمودیہ قدیم ۱۶/۴، امداد الفتاویٰ جدیدہ ۲۳/۴، احسن الفتاویٰ ۱۶۶/۵)

كما في الشامي: فإذا رهاكردم أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضًا. (شامي، كتاب الطلاق، باب الكنايات زكريا ۴/۵۳۰، كوئثه ۲/۵۰۳) وفي البزازية: أو رهاكردم ففي هذا يقع بلانية الخ. (بزازية على هامش الهندية زكريا ۴/۲۰۰)

یہاں کے عرف میں لفظ چھوڑ دیا بیوی کے لئے طلاق ہی کی غرض سے بولا جاتا ہے، جس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں۔

الثابت بالعرف كالثابت بالنص الخ. (رسم المفتي ۹۴)

تترک الحقیقۃ بدلالة الاستعمال والعادة الخ. (رسم المفتی ۹۵،

الأشباہ والنظائر ۱۵۰)

(۶) دفعہ ۳۶ میں جمہور کے قول کو چھوڑ کر حضرت امام زفرؒ کے قول کو اختیار کرنے میں ہم کو اتفاق نہیں ہے؛ کیونکہ جب تک کہ اہل ترجیح امام زفرؒ کے قول کو ترجیح نہ دیں تو جمہور کے قول کو چھوڑ کر امام زفرؒ کے قول کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے، نیز مسئلہ بھی جدید حوادث میں نہیں ہے۔

ليس للقاضي ولا للمفتي العدول عن قول الإمام الا إذا صرح أحد

من المشائخ بأن الفتوى على قول غير ه الخ. (عقود رسم المفتی ۷۳)

چنانچہ زیر بحث مسئلہ قسم میں عمدۃ المتأخرین علامہ علاء الدین ہسکلفی نقل فرماتے ہیں۔

والله ليصعدن السماء أو ليقبلن هذا الحجر ذهابا حث للحال

لامكان البر حقیقۃ، ثم يحث للعجز عادة الخ. (الدر المختار کوئٹہ ۱۱/۳،

هكذا بنایہ عینی شرح ہدایۃ ۲/۶۱۰، ۶۱۱)

(۷) دفعہ ۱۷ میں بالغہ عاقلہ کے غیر کفو میں ولی کی بغیر مرضی کے نکاح کر لینے میں ولی عصبہ کو حق تفریق دیا گیا ہے، جس سے انعقاد نکاح کا اثبات ظاہر ہوتا ہے؛ حالانکہ مفتی بہ قول یہی ہے کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا ہے اور علیحدہ ہونے کے لئے قضاء قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے؛ اس لئے دفعہ ۱۷ سے بھی اتفاق نہیں ہے۔

(۸) دفعہ ۸۷ میں کہا گیا ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی بھی اسلام سے منحرف

ہو جائے تو نکاح ختم ہو جائے گا، اس سے ہم کو اتفاق نہیں ہے؛ کیونکہ اہل فتاویٰ نے اسی

کو اختیار کیا ہے کہ شوہر کے ارتداد سے تو نکاح ختم ہوتا ہے؛ البتہ بیوی کے ارتداد سے

نکاح ختم نہیں ہوتا ہے؛ بلکہ بدستور باقی رہتا ہے اگرچہ تجدید اسلام کے بعد جماع جماع

واستمتاع کے لئے احتیاطاً تجدید نکاح بھی لازم ہے۔

مذکورہ مقامات کے علاوہ باقی مسائل جن کو موصوف دامت برکاتہم نے قلم برداشتہ تحریر فرمایا

ہے وہ صحیح ہیں ان سے ہم کو اتفاق ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳/رجب المرجب ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۳/۷۹)

کیا طلاق واقع ہونے کے لئے تحریر ضروری ہے؟

سوال [۶۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ملکہ صبا بنت شیخ عبداللہ پتہ ۲۸/۲۷۲ نئی کھڑکی ایروڈاپونا-۶/میرانکاح ناصر خاں بن محبوب خان کے ساتھ ۱۵ اگست ۱۹۸۶ء کو ہوا، کچھ عرصہ بعد جب میرے شوہر بے روزگار ہو گئے، تو انہوں نے شراب پینی شروع کر دی اور بات بات پر جھگڑا کرنا گالی، گلوچ کرنا، روپیوں کا تقاضہ کرنا، روپے نہ ہونے کی صورت میں مار پیٹ کرنا ان کا شیوہ بن گیا، یکم نومبر ۱۹۹۳ء کو بھی انہوں نے مجھ سے روپیوں کا تقاضہ کیا، میرے انکار پر انہوں نے زد و کوب کیا اور میرے بچہ کو میرے حوالہ کر کے مجھے گھر سے نکال دیا اور یہ کہا کہ جا تو مجھے روپیہ لاکر نہیں دیتی، تو تین طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیتا ہوں اور یہ گھر میں نے کرایہ پر دیا ہے، ان سے روپیہ لے لوں گا، اور اس وقت یہ کہا کہ جا میں نے تجھے تین طلاق دی، طلاق، طلاق، طلاق، اس واقعہ کے گواہ شیخ افسر عبداللہ (میرے بھائی) ۲۔ شیخ عزیز عبدالقادر (ماموں) ۳۔ شیخ شاہین عبداللہ (بہن) ۴۔ شیخ امین نور محمد (بھائی کے دوست) ہیں، میں نے انہی گواہوں کے سامنے اپنی مرضی اور راضی خوشی سے اس وقت اپنا مہر ناصر خاں کو معاف کر دیا اور اس کی دی ہوئی طلاق کو قبول کر لیا؛ چونکہ اس نے مجھے طلاق دینے کے بعد یکم نومبر ۱۹۹۳ء کو گھر سے نکال ہی دیا تھا، تو میں اس وقت سے آج تک اس سے بالکل علیحدہ رہ رہی ہوں، اس کے بعد بھی ناصر خاں مجھ پر اپنا حق جتاتے رہے، کبھی روپیوں کا تقاضہ کرنا، مار پیٹ کرنا گالی گلوچ کرنا،

ذہنی طور سے مجھے پریشان کرتے رہے، کبھی اخبار میں بے سرو پا باتیں نکلوا دیتے، اسی بناء پر کورٹ میں میں نے ان پر کچھ کیس کئے ہیں،

اب دریافت طلب بات یہ ہے کہ ناصر خاں نے یکم نومبر ۱۹۹۳ء کو جو مجھے طلاق زبانی دی ہے، جس کا میں مہر معاف کر چکی ہوں، گواہ ہونے کی صورت میں وہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ کیا شرعاً ثبوت طلاق کے لئے شوہر کی جانب سے طلاق کی تحریر ملنا ضروری ہے یا زبانی طلاق، جس کا میں مہر معاف کر چکی ہوں گواہ ہونے کی صورت میں کافی ہے؟

میری عدت کی مدت کیا ہے، میری عدت کب سے شمار ہوگی، اگر عدت کی مدت ختم ہوگئی، تو کیا اپنا دوسرا نکاح کہیں کر سکتی ہوں یا نہیں؟

المستفتیہ: ملکہ صبا بنت شیخ عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق واقع ہونے کے لئے شوہر کا زبان سے کہنا کافی ہے، تحریری شکل میں ہونا ضروری نہیں ہے؛ لہذا صورت مسئولہ میں تین طلاق واقع ہوگئی ہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۸۰/۹، جدید ڈائجسٹ ۱۲/۳۵۵)

وان کرر لفظ الطلاق وقع الكل. (در مختار علی هامش در المختار، کتاب الطلاق، باب طلاق غیر لمدخول بہا، کراچی ۲۹۳/۳، زکریا ۵۲۱/۴، ہندیہ، زکریا ۳۵۶/۱، جدید زکریا ۲۳/۱، قاضیخان علی هامش الہندیہ ۴۵۴/۱، جدید زکریا ج ۱ سیٹ ۲۷۳/۷) مطلقہ مدخول بہا کی عدت تین حیض ہے۔

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. [البقرہ: ۲۲۸]

وہی فی حق حرۃ تحیض لطلاق ثلاث حیض کو امل. (در مختار مع الشامی

کراچی ۵۰۴/۳، زکریا ۱۸۱/۵)

شوہر نے جس وقت طلاق دی ہے، اسی وقت سے عدت شروع ہوگئی اور تین ماہواری پوری ہونے پر عدت ختم ہوگئی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم دیوبندہ ۲۹۲/۱)

ہی أي العدة انتظار مدة معلومة يلزم المرأة بعد زوال النكاح.

(عالمگیری، الباب الثالث عشر فی العدة، زکریا ۱/۵۲۶، جدید زکریا ۱/۵۷۹)
وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق..... فإن لم تعلم بالطلاق، أو الوفاة
حتى مضت المدة فقد انقضت عدتها. (هدایة، اشرفی بکڈپو دیوبند ۲/۴۲۵)
و مبتدأ العدة بعد الطلاق وبعد الموت على الفور، وتنقضي العدة
وإن جهلت المرأة بهما. (الدر مع الرد، کراچی ۳/۵۲۰، زکریا ۵/۲۰۲)
مطلقة عورت عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے؛ لہذا مطلقہ مذکورہ کو شرعاً دوسرا نکاح کرنے
کی اجازت ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۰/۲۹۰)

لو قالت امرأته لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي، لا بأس أن ينكحها.
(در مختار علی هامش رد المحتار، کتاب الطلاق، باب العدة، مطلب في المنعي إليها زوجها،
زکریا دیوبند ۵/۲۱۵، کراچی ۳/۵۲۹، جدید زکریا ۱/۳۶۱، ہندیہ، زکریا ۵/۳۱۳،
المبسوط للسرخسي، دارالکتب العلمیة بیروت ۵/۱۵۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۲۲/۲۸۰۲)
الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۶/۳/۱۴۱۷ھ

مسئلہ معلوم نہ ہو کے کی صورت میں طلاق کا حکم

سوال [۶۰۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مختار احمد نے اپنی بیوی کو شدید غصے کی حالت میں طلاق دی، غصہ اس حد تک تھا کہ عقل جاتی رہی تھی، عورت حیض کی حالت میں تھی، صبح ۶ بجے پیر کے دن شوہر نے بیوی کے روبرو ہو کر تین بار چیخ چیخ کر طلاق، طلاق، طلاق کہا؛ حالانکہ شوہر کا ارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا اور نہ شوہر کو یہ معلوم ہے کہ اس طرح طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ واضح رہے کہ شوہر کو اپنی طلاق کے الفاظ خوب یاد ہیں۔

المستفتی: مختار احمد، ساکن: ریلوے اسٹیشن باج پور، نی تال (پوٹی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں درج شدہ صورت میں مختار احمد کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو کر بیوی مغلطہ ہوگئی؛ جبکہ مختار احمد کو طلاق کے الفاظ خوب یاد ہیں۔ نیز طلاق واقع ہونے کے لئے لفظ تجھے طلاق دیدی وغیرہ کا ہقیقہ ذکر کرنا لازم نہیں ہے، اسی طرح حالت حیض میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

متیٰ کرر لفظ الطلاق بحرف الواو أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق الخ. (فتاویٰ عالمگیری، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الأول، زکریا دیوبند ۱/۳۵۶، جدید زکریا ۱/۴۲۳، قاضیخاں علی ہامش الہندیہ، زکریا ۱/۴۵۴، شامی، زکریا ۴/۵۲۱، کراچی ۳/۲۹۳)

ولو کرر لفظ الطلاق ولم ینو الاستئناف ولا التأكيد يقع الكل قضاءً؛ لأنه يجعل تأسيساً لا تأكيداً؛ لأنه خير من التأكيد. (حموي على الأشباه، قديم ۹۷) ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه (وقوله) لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها. (شامی، کتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب (سن بوش) يقع به الرجعي، کوئٹہ ۲/۴۶۶، کراچی ۳/۲۴۸، زکریا دیوبند ۴/۴۵۸) ولا يفتقر إلى النية؛ لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال. (هداية، باب إيقاع الطلاق اشرفي بك ڈپو ۲/۳۰۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳/رجب المرجب ۱۴۰۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۸۶۷)

وقوع طلاق کے لئے شوہر کا اقرار کافی ہے

سوال [۶۰۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ طلاق دیدی، پھر میں نیچے اتر کر آیا، تو محلہ میں بہت شور ہو رہا تھا، وہ میرے ساتھ نیچے اتر آئی، اس سے میں نے کہا کہ میں تجھے لے کر نہیں جاؤں گا اور کافی لوگ اکٹھے ہو گئے، شور شرابہ ہونے لگا، پھر میں نے دوبار طلاق طلاق کہا، دونوں ہی بار لوگوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جس کی وجہ سے میری آواز دب گئی اور اس نے کہا کہ میں نے نیچے نہیں سنا؟

المستفتی: محمد اکرام محلہ: بھٹی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شوہر خود اس بات کا قرار کر رہا ہے کہ ایک طلاق دے کر نیچے آیا، پھر نیچے دوبار طلاق دی، اس سے کل تین طلاق مغلظہ واقع ہو گئیں اور طلاق کے واقع ہونے کے لئے عورت کا اپنے کان سے سننا لازم نہیں، صرف شوہر کا اقرار کافی ہے؛ لہذا دونوں کے درمیان زوجیت کا تعلق ختم ہو چکا ہے، بدون حلالہ کے بیوی شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی۔

من أقر بطلاق سابق يكون ذلك إيقاعاً منه في الحال. (مبسوط سرخسی،

دارالکتاب العلمیۃ بیروت ۶/۱۳۳)

إذا قال لامرأته أنت طالق، وطالق، وطالق ولم يعلقه بالشرط، إن كانت مدخولة طلقت ثلاثاً. (ہندیۃ، زکریا ۱/۳۵۵، جدید زکریا ۱/۲۳، الأشباہ والنظائر، زکریا ۲۱۹)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها.

(ہندیۃ، زکریا ۱/۴۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ

۱۴۳۱/۳/۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۹۰۸)

طلاق کا جھوٹا اقرار کرنا

سوال [۶۰۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں محمد عمرو لد بابوا اپنی بیوی کو اپنے ساڑھو یعنی بیوی کے بہنوئی سے ملنے کو منع کرتا تھا؛ چونکہ میرے ساڑھو مجھ سے نہیں ملتے تھے، صرف اتنی ہی بات تھی اور کوئی شک وغیرہ نہیں تھا؛ لیکن میری بیوی میرے منع کرنے پر بھی میرے پیچھے اپنے بہنوئی سے خیریت وغیرہ معلوم کر لیا کرتی تھی، مجھے اس بات پر بہت غصہ رہتا تھا، ایک دن میرے ساڑھو میرے پیچھے میرے گھر آئے اور میری بیوی نے ان سے خیریت وغیرہ معلوم کی، میں نے جب اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم اپنے بہنوئی سے ملیں تھیں، تو انہوں نے مجھ سے منع کر دیا اور جھوٹ بولا، تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنی بیوی کو مارا اور مارتے مارتے میں نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دیدی، یہ جملہ میں نے ایک ہی بار کہا تھا، اور یہ جملہ کہتے ہوئے ایک طمانچہ کپٹی پر مارا، تبھی میری بیوی بے ہوش ہو کر گر گئی، تو میں بھی گھبرا کر اس کے قریب آیا، اٹھا کر دیکھا تو وہ بے ہوش تھی، میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا، اس کے بعد مجھ سے میرے گھر والوں نے معلوم کیا کہ تو نے یہ جملہ کتنی بار کہا ہے، تو میں نے بتایا کہ ایک ہی بار کہا ہے، پھر دوسرے دن ہمارے سر صاحب آئے اور الٹی سیدھی بکنے لگے، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، پھر کہا تم نے کتنی بار کہا ہے؟ تو میں نے بھی غصہ میں ان کو جواب دینے کے لئے جھوٹ میں کہا کہ تین بار کہا ہے، جو تم سے کرنا ہو کر لو؛ حالانکہ طلاق میں نے ایک ہی بار دی تھی، اور خسر اور میرے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، اس میں بیوی کو طلاق دینے کا کوئی مقصد نہیں، صرف خسر کو غصہ کا جواب جھوٹ میں دینا مقصد تھا، تو ایسی صورت میں میری بیوی پر کتنی طلاق ہوئیں اور میں نے دوران گفتگو طلاق کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا ہے، تب سر صاحب نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا ایک ہی بار کہا ہے اور گھر والوں نے بھی ان کو یہی بتایا تھا کہ ایک بار طلاق دی ہے۔

حضور والا مندرجہ بالا واقعات کی روشنی میں کیا میری بیوی کو طلاق پڑگئی اور کونسی طلاق پڑی برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ بتانے کی تکلیف فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔

المستفتی: محمد عمر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب واقع میں صرف ایک طلاق دی ہے، بعد میں خسر کو چھیڑنے کے لئے جھوٹ میں تین کا اقرار کیا ہے اور واقع میں ایک طلاق دینا ثابت ہے، تو صرف ایک طلاق کا اعتبار ہوگا؛ لہذا مذکورہ صورت میں ایک طلاق ہوئی ہے۔

ولو أقرب بالطلاق هازلاً أو كاذباً، وقع قضاءً (إلى قوله) لو أراد به الخبر عن الماضي كذباً لا يقع ديانة، وإن أشهد قبل ذلك لا يقع قضاءً.

(شامی، کتاب الطلاق، زکریا ۴/۴۴۳، کراچی ۳/۲۳۸، بزازیہ علی ہامش الہندیۃ، زکریا ۴/۱۷۸، جدید زکریا ۱/۱۱۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۳/۱/۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۴ محرم الحرام ۱۴۱۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۸/۲۹۵۱)

شوہر کا طلاق دینے کے بعد انکار کرنا

سوال [۶۰۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ صغیر نامی لڑکے نے اپنی بیوی کو پانچ طلاقیں دیں اور لڑکے کی عمر ۲۸ سال کی ہے، اور دو اولادیں بھی ہیں، آیا طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟ اور دوسروں کے پاس کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے۔

المستفتی: محمد پیشکار (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر لڑکی کو پانچ بار یا تین بار طلاق دینے کا یقین ہے، یا اس نے اپنے کان سے سنا ہے اور شوہر طلاق کا منکر ہے اور بیوی کے پاس شرعی گواہ موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں عورت شوہر کو اپنے اوپر قابو نہ دے؛ بلکہ خلع وغیرہ کے ذریعہ علیحدگی اختیار کر لے اور اگر شوہر اس پر راضی نہیں ہے، تو فرار اختیار کر کے عدت گزار کر کہیں جا کر دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے اور اگر ان میں سے کوئی شکل نہ ہو سکے اور شوہر طلاق نہ دینے پر قسم کھا لیتا ہے، تو قضاء بیوی کو شوہر کے ساتھ جانا لازم ہو جائے گا اور ایسی صورت میں شوہر گنہگار ہوگا بیوی پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔

المراة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه،
والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها؛ بل تفتدي نفسها بمال،
أو تهرب - إلى قوله - ترفع الأمر فإن حلف ولا بينة لها، فالإثم عليه.
(شامی، کتاب الطلاق، باب الصريح، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۲۵۱/۳، البحر
الرائق، کوئٹہ ۳/۲۵۷، زکریا ۳/۳۹، ہندیہ، زکریا ۱/۳۵۴، جدید زکریا
۱/۲۲۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۴/۳/۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ ربیع الاول ۱۴۱۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۹/۳۳۴)

فرضی راضی نامہ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۰۸۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیٹی شہناز تبسم کا نکاح مورخہ: ۱۰ ستمبر ۲۰۰۵ء کو ہمراہ ریحان اسلامی رسم و رواج سے ہوا تھا، مگر مورخہ: ۲۳ مارچ ۲۰۰۸ء کی رات کو ریحان خان اور اس کی ماں، بہنوئی

نے شہناز تبسم کو جلا کر مار ڈالنے کی کوشش کی، کسی طرح شہناز تبسم کی جان بچ گئی اور وہ اپنے میکے آگئی، جس کا مقدمہ زیر عدالت ہے۔

اس درمیان ریحان خان نے ایک جھوٹا راضی نامہ، طلاق نامہ ٹائپ کرا کے (جو اس درخواست کے ساتھ نتھی ہے) اور اس کے نیچے اپنے دستخط کر کے ڈاک سے شہناز تبسم کے گھر بھیج دیا؛ جبکہ اس فرضی راضی نامہ پر نہ شہناز تبسم کے دستخط ہیں، نہ کسی گواہ کے اور نہ میرے۔

سوال: اس فرضی راضی نامہ سے طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ جبکہ ریحان کے دستخط اصلی ہیں اور ریحان کا کہنا ہے کہ میں نے کوئی طلاق ولاق نہیں دی۔

المستفتی: محمد فر، محلہ مفتی، سہارنپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: طلاق نامہ یا راضی نامہ تحریر کی شکل میں لڑکی یا لڑکی کے باپ کو جو وصول ہوا ہے اور اس کے بارے میں لڑکا انکار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں چند معزز آدمیوں کے ذریعہ سے ریحان خان سے بات کرنی چاہئے کہ اس تحریر پر جو دستخط ہیں، وہ اسی کے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ دستخط کا سرے سے انکار کر دے اور دستخط اس کی تحریر سے ملتا نہیں ہے، تو اس تحریر کا اعتبار نہیں، اگر دستخط کا انکار نہ کرے اور اس کی تحریر سے اس کے دستخط کی تحریر ملتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی تحریر سے متعلق تحقیق کی جائے، اگر ثابت ہو جاتا ہے یا اقرار کر لیتا ہے، تو اس سے جتنی طلاق دی ہے، اتنی ہی واقع ہو جائے گی اور راضی نامہ کا اعتبار نہ ہوگا، رضامندی کا اعتبار لڑکی کے اوپر ہے، راضی نامہ کی جو باتیں لکھی گئی ہیں، وہ لڑکی کے حق میں کسی طرح معتبر نہیں ہیں؛ البتہ طلاق کے حق میں معتبر ہیں۔

لو استکتب من آخر کتاباً بطلاقها، وقرأه علی الزوج فأخذہ الزوج وختمه وعنونہ وبعث بہ إليها فأتاها، وقع إن أقر الزوج أنه كتابه. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی الطلاق بالکتاب، زکریا ۴/۵۶، کراچی ۲/۴۶، ۲/۴۷، ہندیہ، زکریا ۱/۳۷۹، جدید زکریا ۱/۴۴۶، الفتاویٰ التاتاریخانیہ، زکریا ۴/۵۳۱،

رقم: ۶۸۴۳، الموسوعة الفقهية الكويتية ۴/۳۷۶ (۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۵ رجب المرجب ۱۴۲۹ھ

۲۵/۷/۱۴۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸۵۷۹۷)

دل میں سوچی ہوئی طلاق کو زبان سے ادا کرنا

سوال [۶۰۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی وہ اس طرح سے کہ ماں اور اس کی بیوی میں تکرار ہو رہی تھی، تو زید نے اپنی ماں سے کہا کہ تم اس سے جھگڑا کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تو اس کو دل میں طلاق دے دی ہے، اس کے بعد زید نے طلاق طلاق کہا، اس سے اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

(۲) بعض علماء کا کہنا ہے کہ دل میں طلاق دینے کے معنی دل میں سوچنے سے طلاق نہیں پڑتی؛ اس لئے اس سوچنے سے طلاق نہیں پڑی، پھر اسی دل میں سوچے ہوئے طلاق کی تشریح طلاق طلاق سے کی ہے؛ لہذا اس سے بھی کوئی طلاق نہیں پڑی، دلائل شرعیہ کی روشنی میں جواب سے آگاہ فرما کر ممنون فرمائیں۔

(۳) یہ کہ اگر طلاق واقع ہوگئی ہو، تو پھر سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہیں، تو کیا صورت ہوگی؟

المستفتی: محمد صنعتی صدیقی، ۸/۲۲۷، چمن گنج، کانپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۲) دل میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، مگر الفاظ طلاق زبان سے ادا کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، زید نے زبان سے الفاظ طلاق ادا کئے ہیں؛ اس لئے زید کی بیوی مذکورہ صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو کر مغلطہ ہوگئی ہے۔

وأما الطلاق، والعقاق، فلا يقعان بالنية؛ بل لا بد من التلفظ الخ.

(الأشباه والنظائر قديم ۸۹)

رکنہ آئی رکن الطلاق لفظ مخصوص (در مختار) وهو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية (إلى قوله) وأراد اللفظ ولو حكماً.

(شامی، کتاب الطلاق، زکریا دیوبند ۴/۴۳۱، کراچی ۳/۲۳۰، مطبوعہ کوئٹہ ۲/۴۵۳،

مصری ۲/۵۴۷، ہکذا عالمگیری، زکریا ۱/۳۴۸، جدید زکریا ۱/۴۱۵)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قديم ۹۲۱، وهكذا في العالمگیری ۱/۳۵۶، جدید زکریا ۱/۴۲۳، الأشباه حموي ۹۷)

(۳) دوبارہ رخصت از دواج میں منسلک ہونے کے لئے حلالہ شرعیہ ضروری ہے، جس کی

صورت یہ ہے کہ عدت گزار کر دوسرے مرد سے نکاح کرے اور ہمہستر ہونے کے بعد وہ مرد

طلاق دیدے، یا انتقال کر جائے، پھر عدت گزار کر زوج اول سے نکاح کرے۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى

تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالمگیری، زکریا ۱/۴۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ رمضان المبارک ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۴/۸۶۷)

شوہر کے طلاق دینے پر بیوی کا قبول نہ کرنا

سوال [۶۰۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ دلشاد حسین نے اپنی زوجہ منکوحہ کو معمولی تکرار میں باواز بلند کہا کہ ”میں نے تمہیں

طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“، جس کو زوجہ نے باساعت اپنی سنا؛ لیکن طلاق کو قبول

یا ناقبول نہیں کیا؛ بلکہ خاموشی اختیار کی، ایسی صورت میں کیا طلاق واقع ہوگی؟

المستفتی: حاجی اشتیاق حسین، کروڑہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب دلشاد نے اپنی زوجہ منکوحہ کو تین مرتبہ ان الفاظ سے طلاق دی ہے، جو سوال نامہ میں مذکور ہیں، تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہوگی ہے، اب بغیر حلّہ شرعیہ کے دوبارہ نکاح بھی جائز نہیں ہے اور طلاق کے واقع ہونے کے لئے بیوی کا سننایا قبول کرنا لازم نہیں ہے۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . [البقرہ: ۲۳۰]

الطلاق، والخلع یصح دون علم الآخر۔ (الفقہ الإسلامی وأدلته، مکتبہ

هدی انٹرنیشنل دیوبند ۹/۲۹۱)

ولو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه

والنظائر قدیم ص: ۲۱۹)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگیری، زکریا ۱/۴۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵، ہدایہ اشرفی ۲/۳۹۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲/رجب المرجب ۱۴۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۶۵۸)

بیوی کا نام لئے بغیر طلاق دینا

سوال [۲۰۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہر اور بیوی میں کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا، تو شوہر نے بیوی کے ایک تمانچہ مارا، تو بیوی نے غلط باتیں کیں، تو شوہر نے تین بار ”طلاق، طلاق، طلاق“ کہا، اس

میں شوہر نے کسی کا نام نہیں لیا۔

المستفتی: عابد حسین، جامع مسجد، مراآباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب شوہر نے تین بار ”طلاق، طلاق، طلاق“ کہا، تو اس کی بیوی پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو گئیں اور وہ اس پر حرام ہو گئی، اگرچہ شوہر نے کسی کا نام نہ لیا ہو؛ کیونکہ بیوی ہی سے جھگڑا ہو رہا ہے؛ اس لئے اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی۔ اب بغیر حلالہ شرعیہ کے اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔

ولو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه و لفظاً قديم ۲۱۹)
 وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة، اشرفي بكتب ديوبند ۳۹۹/۲، قدوري، مكتبه امدايه ديوبند ۱۷۸، ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ شوال المکرم ۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۷/۸۵۶۸)

ایک طلاق کے بعد دوسروں کے سوال کے جواب میں طلاق کی خبر دینا

سوال [۶۰۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی اہلیہ کو ایک طلاق دی اور دونوں نے بعد میں رجعت کر لی، پھر ۱۵ دنوں کے بعد دونوں کے مابین جھگڑا ہوا، زید کے گھر کچھ لوگ جمع ہو گئے، ان میں سے ایک نے پوچھا ”کچھ کہا تو نہیں؟“ زید نے جھوٹ بولا کہ کہہ چکا ہوں؛ حالانکہ کہا کچھ نہیں تھا، دوسرے نے پھر پوچھا کہ تم نے طلاق دیدی، تو اس کے جواب میں زید نے کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، میں نے اس کو طلاق دیدی، پھر کسی تیسرے نے پوچھا کہ کیا تم نے طلاق دیدی، تو اس

کے جواب میں بھی زید نے وہی جملہ کہا یعنی میں تم سے کہہ رہا ہوں، میں نے اس کو طلاق دی، ارادہ دل میں پہلے ہی سے طلاق ہی کا تھا، پھر پنچایت والوں نے زید سے پوچھا کہ طلاق تو ہوگئی، تو اس کے جواب میں زید نے کہا ہاں طلاق تو ہو ہی گئی ہے، ان چاروں جملوں میں زید نے طلاق کی مقدار متعین نہیں کی، ایک دی یا دودی، یا تین دی۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ پہلے جو طلاق رجعی دی تھی، وہ طلاق بعد رجعت کے باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟

دوسری بات قابل دریافت یہ ہے کہ مذکورہ چاروں جملوں سے زید کی بیوی، زید کے نکاح میں رہے گی یا نہیں؟ اگر نہیں تو زید کی بیوی پر طلاق رجعی پڑی یا مغلطہ یا بائسہ، اگر زید دوبارہ نکاح میں لانا چاہے، تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ واضح رہے کہ زید کی بیوی ڈیڑھ ماہ کی حاملہ بھی ہے۔

المستفتی: محمد شاہد، ٹانڈہ، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اول ایک طلاق دے کر رجعت کرنے کے پندرہ روز بعد جب دوسرے کے سوال کے جواب میں کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو طلاق دی، تو اگر اس جملہ سے پندرہ روز قبل والی طلاق کی خبر دینا مقصود نہیں ہے، تو اس جملہ سے دوسری طلاق واقع ہوگئی اور رجعت کر کے رکھ سکتا ہے اور اگر خبر دینا مقصود ہے، تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی اور تیسرے کے سوال کے جواب میں خبر دینا واضح ہے؛ اس لئے اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ولو قال لامرأته: أنت طالق، فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: طلقتها، أو قال قلت: هي طالق، فهي واحدة في القضاء؛ لأن كلامه انصرف إلى الإخبار بقريئة الاستخبار. (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل النية في طلاق الكناية، زكريا، ۱۶۳/۳، كراچی ۱۰۲/۳، فتاویٰ عالمگیری،

زکریا ۱/۳۵۵، جدید زکریا ۱/۴۲۳، بزازیہ علی ہامش الہندیہ، زکریا ۱/۱۸۱،
جدید زکریا ۱/۱۱۸، قاضی خاں علی ہامش الہندیہ، زکریا ۱/۴۵۲، جدید زکریا
۱/۲۷۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷/۲ ذی قعدہ ۱۴۰۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۱۵۱۴/۲۵)

سسر سے کہا کہ تیری لڑکی کو طلاق

سوال [۶۰۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ زید نے اپنی سسرال میں آکر اپنی زوجہ کو اپنے سسر سے کہا کہ بڑھے میں نے تیری
لڑکی کو طلاق کئی بار کہا، بڑی سلج نے سنا، ساس اور چھوٹی سلج نے، زوجہ طلاق دینے کی جگہ سے
قریب بیس پچیس گز دور تھیں اور کھانا کھانے کی مشغولیت میں غور سے نہ سنا، نہ سمجھ میں آیا۔
المستفتی: حاجی شاہنواز، گرام بکھیاں معانی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق واقع ہونے کے لئے شوہر کے الفاظ کا بیوی یا کسی
اور کا سننا مشروط نہیں۔

الطلاق والخلع یصح دون علم الآخر. (الفقہ الإسلامی وأدلته، تعریف

الفسخ لغة واصطلاحًا، ہدی انٹرنیشنل دیوبند ۱/۲۹۱)

اور کئی بار میں لڑکی کو طلاق کہنا وضاحت طلب ہے شوہر اس سے طلاق دی کہنا چاہتا تھا یا طلاق
دیدوں گا کہنا چاہتا تھا، شوہر اپنا ارادہ اور مراد ظاہر کر دے، اس کے بعد حکم شرعی لکھا جاسکتا
ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۵/رمضان المبارک ۱۴۱۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۱۹۴۴/۲۶)

بیوی کی عدم موجودگی میں طلاق کا حکم

سوال [۶۰۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے شوہر اور مجھ میں کوئی ناراضگی نہیں تھی، لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دیدی؛ لیکن میں نے سنا نہیں تھا، یہ بات میرے پھوپھی زاد بھائی نے بتائی کہ طلاق واقعی دیدی ہے اور اس وقت میں ساڑھے تین مہینہ کا حمل تھا، اب اس وقت میں اپنے ماں، باپ کے گھر ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ اپنے گھر چلی جاؤں اور میرے شوہر بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں ان کے گھر رہوں؟ جواب مرحمت فرمائیں۔

المستفتیہ: نعیمہ خاتون

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی اور مجھ میں کوئی ناراضگی نہیں تھی، ایک دن میرے پھوپھی زاد سالے ہمارے گھر آئے اور مجھے بے حد گالی بکنے لگے اور گالی بک کر کہ تم نعیمہ خاتون کو طلاق دیدو، میں نے اپنا ہوش و حواس کھو دیا اور میں نے بے شمار طلاق کہہ دیا؛ لیکن یہ آواز میری بیوی نے نہیں سنی، میری بیوی کو اس وقت ساڑھے تین ماہ کا حمل تھا۔ جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد انصار الحسین، محلہ: لال پور بستور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بیوی کو لفظ طلاق کا سننا طلاق واقع ہونے کے لئے شرط نہیں ہے، بیوی کی عدم موجودگی میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگر تین مرتبہ یا اس سے زائد بوقت مطالبہ لفظ طلاق کہا ہے، تو بیوی پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو گئیں ہیں۔ اب دوبارہ بلا حلالہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا، بلا حلالہ نہ بیوی شوہر کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی شوہر کے لئے لانا جائز ہو سکتا ہے۔

ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه. (شامي، كتاب الطلاق، باب الصريح، زكريا ۴/۵۵۸، كراچی ۳/۴۷، کوئٹہ)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قديم ص: ۲۱۹)

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق. (عالمگیری، زكريا ۱/۳۵۶، جدید زكريا ۱/۴۲۳، قاضي خان علی هامش الہندیہ، زكريا ۱/۴۵۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ جمادی الثانیہ ۱۴۰۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۲۲۲۶۱۲)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳/۶/۱۴۰۹ھ

قوع طلاق کے لئے عورت کی موجودگی، سہل اور اس سے خطاب ضروری نہیں

سوال [۶۰۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ کی عدم موجودگی میں چند افراد کے سامنے طلاق دی، اور ان موجودہ حضرات نے اس بات کی اطلاع ہندہ کو دیدی کہ تمہارے شوہر زید نے ہماری موجودگی میں تم کو طلاق دیدی ہے، عورت کی عدم موجودگی میں طلاق مانی جائے گی یا نہیں؟

المستفتی: محمد عرصیق، آزاد پرنٹنگ پریس لائن - آزاد نگر، ہلدوانی، نئی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق شرعی واقع ہونے کے لئے عورت کا سامنے ہونا یا سننا یا نام لے کر خطاب کرنا شرط نہیں ہے؛ بلکہ عدم موجودگی میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه، كما في البحر: لو قال طالق ففيل له من عنيت، فقال: امرأتي طلقت امرأته. (شامي، كتاب الطلاق، باب الصريح،

مصری ۵۹۰/۲، کوئٹہ ۶۶۶/۲، کراچی ۲/۴۸، زکریا ۴/۴۵۸، فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ شعبان المعظم ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۴۲/۸۴)

وقوع طلاق کے لئے بیوی کے سماع کی شرعی حیثیت

سوال [۶۰۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بندہ محمد جاوید خاں کی شادی تقریباً ڈھائی سال قبل صوبہ پنجاب میں ہوئی تھی، شادی کے چھ سات ماہ تک ہم دونوں میاں بیوی باہم خوشگوار زندگی گزارتے رہے، اس کے بعد میرے سر نے مجھ سے یہ کہا کہ تم اپنا آبائی وطن مراد آباد چھوڑ کر مستقل پنجاب رہائش اختیار کر لو، میں اپنی گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے وہاں رہنے کے لئے تیار نہیں ہوا، پھر ایک موقع پر میرے سر میری بیوی کو چند ایام کے لئے پنجاب بلا کر لے گئے اور کسی طرح کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوئی کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ اب دوبارہ وہ اپنی لڑکی مراد آباد میرے گھر نہیں بھیجیں گے، میں جب پنجاب اپنی بیوی کو بلانے کے لئے گیا، تو میرے سر نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ اگر پنجاب میں رہنا ہے، تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مراد آباد لڑکی کو نہیں بھیجوں گا اور اس کے بعد میرے خلاف طرح طرح کے جھوٹے مقدمات عدالت میں پیش کر دیئے، میں ان مقدمات میں الجھا رہا اور ہر ممکن کوشش اپنا گھر بسانے کی کرتا رہا؛ لیکن اپنے سر کی شاطرانہ چالوں کی وجہ سے ناکام رہا۔ اب میں نے حالات سے تنگ آ کر اپنی بیوی شہنازی بی بی کو اس کی عدم موجودگی میں تین طلاق دیدی ہیں؛ جبکہ میری بیوی نے میرے طلاق کے الفاظ کو سنا بھی نہیں ہے، عرض یہ ہے کہ اس طرح طلاق دینے سے کیا میری بیوی مطلقہ ہوگی یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق واقع ہونے کے لئے بیوی کا طلاق کے الفاظ کو سننا ضروری نہیں ہے، نیز بیوی کی عدم موجودگی میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا جب آپ نے آپسی جھگڑے اور حالات سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں، تو ایسی صورت میں بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر آپ پر قطعی طور پر حرام ہو چکی اب بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ آپ کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے۔

الطلاق، والعقاق یصح دون علم الآخر. (الفقه الإسلامی وأدلته، مکتبہ

ہندی انٹرنیشنل ۹/۲۹۱)

ولا یلزم کون الإضافة صریحة فی کلامه (إلی قوله) لأن العادة أن من له امرأة إنما یحلف بطلاقها لا بطلاق غیرها. (شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۳/۲۴۸، زکریا ۴/۴۵۸)

ولا یلزم کون الإضافة صریحة فی کلامه، كما فی البحر: لو قال طالق فقیل له من عنیت، فقال: امرأتی طلقت امرأته، ویؤیده ما فی البحر: لو قال: امرأة طالق، أو قال: طلقت امرأة ثلاثاً، وقال لم أعن امرأتی ینصدق بفهم منه، أنه لو لم یقل ذلك تطلق امرأته؛ لأن العادة أن من له امرأة إنما یحلف بطلاقها لا بطلاق غیرها. (شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۳/۲۴۷، زکریا ۴/۴۵۸)

فی الخانیة: رجل قال لامرأته: طالق، ولم یسم وله امرأة معروفة طلقت امرأته استحساناً. (تاتارخانیة، زکریا دیوبند ۴/۴۲۱، رقم: ۶۵۷۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳/۵/۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۰/۱۱۰۸۵)

حاملہ طلاق کے الفاظ نہ سنے تو طلاق کا حکم

سوال [۶۰۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اختر نے اپنی بیوی شاکرہ خانم کو تین طلاق دیدیں، بیوی حمل سے ہے، بیوی کہتی ہے کہ میں نے سنا نہیں؛ لہذا دریافت یہ کرنا ہے کہ اب میاں بیوی ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ شرعاً کیا صورت ہے؟

المستفتی: حاجی نبین، دیوان بازار، مراٹھا آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: طلاق واقع ہونے کے لئے بیوی کا سننالا زمن نہیں۔

الطلاق، والعناق یصح دون علم الآخر. (الفقه الإسلامی وأدلته، مکتبہ

هدی انٹرنیشنل دیوبند ۹/۲۹۱)

اور حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

و طلاق الحامل یجوز. (ہدایۃ، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۶)

جب اختر نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی ہے، تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو حلالہ کے بغیر ساتھ رہنا جائز نہیں ہوگا۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . [البقرہ: ۲۳۰]

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى

تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. كذا

في الهداية. (ہندیۃ، زکریا ۱/۴۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵، ہدایۃ، اشرفی

دیوبند ۲/۳۹۹، قدوری امدادیہ دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ ربیع الاول ۱۴۱۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۳/۵۶۶۴)

کیا طلاق کے وقوع کے لئے بیوی کا سننا ضروری ہے؟

سوال [۶۰۹۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہر مشرف ساکن محمود پور معانی نے اپنی بیوی کو جو سسرال میں ہی تھی، وہاں سے بلانے کو گئے تھے؛ لیکن آپس کی نا اتفاقی کی بناء پر غصہ میں نہ بھیجنے پر اس طرح کے الفاظ زبان سے نکل گئے کہ میں تجھے طلاق دیدوں گا، پھر بیوی خاموش رہی اور بیوی آڑ سے ایک طرف کھڑی تھی؛ لیکن شوہر نے دیکھا بھی نہیں، ساس کے مجبور کرنے سے طلاق طلاق، اس طرح کہا ہے اور بیوی نے اپنے بیان کے مطابق سنا ہے، ایک صاحب ڈاکٹر ہیں وہ گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، اس وقت وہ گھر میں موجود تھے، انہوں نے بھی یہ الفاظ سنے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہے جو اسلام کی رو سے میری بیوی میرے گھر آجائے، میں پریشان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ بیوی نہ آئے، میں نے ڈرانے کے لئے ساس سے اس طرح کہا ہے، شریعت کی رو سے مسئلہ واضح فرمائیں تاکہ بطور ثبوت پیش کر کے میرے بچے میرے گھر آجائیں۔

نوٹ: بیوی دو ماہ کے حمل سے ہے۔

المستفتی: محمد یسین محمود پور معانی، وایا: سرسی، ضلع: مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق واقع ہونے کے لئے بیوی کا آمنے سامنے ہونا لازم نہیں ہے اور نہ ہی بیوی کا سننا لازم ہے؛ بلکہ صرف بیوی کی طرف منسوب کرنا کافی ہوتا ہے، اور بیوی کی طرف نسبت بھی صراحتہ ضروری نہیں ہے؛ بلکہ قرآن کافی ہیں اور سوال نامہ میں جھگڑا قرینہ کے لئے کافی ہے، اس لئے مذکورہ صورت میں طلاق واقع ہو چکی ہے۔

ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه (إلى قوله) لأن العادة أن من له

امراة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها . (شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح،
کراچی ۳/۲۴۸، زکریا ۴/۴۵۸)

اور جب تین مرتبہ طلاق کا لفظ دہرایا ہے، تو اس سے تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔
لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر
قدیم ۹، ۲۱، جدید زکریا ۳۷۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ شعبان المعظم ۱۴۱۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۷/۲۳۳۶)

دفع طلاق کے لئے عورت کا سننا لازم نہیں

سوال [۶۰۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ میرا نام محمد معراج ولد ضمیر احمد محلہ گنیا باغ میں نے اپنی بیوی کو سامنے بیٹھا کر اپنی
بیوی کے کان میں خوب زور سے یوں کہا کہ ”میں نے تجھے اپنے نکاح سے آزاد کیا، میں
نے تجھے طلاق دی، تین بار کہا اس کے بعد میری بیوی نے شور مچایا اور کہنے لگی کہ ”مجھے طلاق
دے دی“ کچھ دور میری بیوی کے ماموں کھڑے تھے، میری بیوی نے ان سے جا کر کہا کہ
مجھے طلاق دے دی، تو میری بیوی کے ماموں نے میری بیوی کو خاموش کر دیا، اس کے بعد
میری بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جو کچھ تم نے کہا میں نے کچھ نہیں سنا۔ قرآن
وحدیث کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔

المستفتی: محمد معراج ولد ضمیر احمد، محلہ گنیا باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق کے وقوع کے لئے بیوی کا سننا شرط نہیں ہے،
جب شوہر خود تین طلاق دینے کا اقرار کر رہا ہے، تو بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو کر شوہر کے

لئے قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے۔ اب حلالہ شرعیہ کے بغیر دونوں کے درمیان نکاح بھی درست نہ ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈیڑھ اہل ۳۰۲/۱۳)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قدیم ۲۱۹)

ولو أقر بالطلاق كاذباً أو هازلاً، وقع في القضاء. (شامی، كتاب الطلاق، قبيل مطلب في المسائل التي تصح مع الإكراه، كراچی ۳/۳۰۳، زکریا ۴/۴۴۰)

وان كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (هندیہ زکریا ۱/۴۷۳، ہدایہ، جدید زکریا ۱/۵۳۵، اشرفی ۲/۳۹۹، قلدوری، المنادیہ دیوبند ۱۸۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۶ھ

۱۴۳۶/۱/۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۱/۱۱۷۹۵)

وقوع طلاق کے لئے بیوی کا سننا یا سامنے ہونا لازم نہیں

سوال [۶۰۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے ایک سال پہلے اپنی بیوی کو موبائل پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ”میں نے تجھے طلاق، طلاق، طلاق دی“؛ لیکن بیوی نے فوراً فون بند کر دیا، تو مذکورہ صورت میں میری بیوی پر کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ اور اب میری بیوی دوبارہ میرے پاس آنا چاہتی ہے، تو کیا میں اپنی بیوی کو دوبارہ لاسکتا ہوں؟ حکم شرعی بیان فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

المستفتی: محمد سراج الدین، کنگھڑ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق کے واقع ہونے کے لئے بیوی کا سننا لازم نہیں ہے

اور نہ ہی بیوی کا سامنے ہونا ضروری ہے، نیز بیوی کا قبول کرنا بھی شرط نہیں ہے؛ بلکہ شوہر کی زبان سے بیوی کے واسطے طلاق کے جملے نکل جانا کافی ہے اور جب شوہر تین بار یا اس سے زائد طلاق کے الفاظ بیوی کے حق میں کہنے کا اقرار کر رہا ہے، تو یہی وقوع طلاق کے لئے کافی ہے؛ لہذا آپ کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر آپ کے لئے قطعاً طور پر حرام ہو گئی ہے۔ اب اگر دوبارہ دونوں ساتھ رہنا چاہیں، تو بغیر حلالہ شرعی اور تجدید نکاح کے جائز نہ ہوگا۔

ولو أقر الزوج بالطلاق كاذباً أو هازلاً وقع. (شامی، کتاب الطلاق، قبیل

مطلب في المسائل التي تصح مع الإكراه، كراچی ۳/۳۰۳، زکریا ۴/۴۴۰)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، مجمع الأنہر،

دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۶ھ/۱۲/۲۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۳۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۴۱/۱۱۸۴۹)

وقوع طلاق کے لئے عورت کا سننا اور پاک ہونا لازم نہیں

سوال [۶۰۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو ۳ بار یا ۷ بار طلاق دی، طلاق کی حالت میں لڑکی بحالت غسل تھی اور طلاق کے وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا، بیوی اندر دوری پر تھی، لڑکی کا کہنا ہے کہ مجھ کو بالکل آواز نہیں آئی، اس مسئلہ میں علمائے دین کیا فرماتے ہیں؟ فتویٰ صادر فرمائیں، شافعی مسلک کے مطابق مسئلہ میں طلاق نہیں ہوئی، لڑکی غریب ہے، ۳ بچے ہیں، دونوں اپنے غصے کی غلطی پر نادم ہیں۔

المستفتی: علیم الدین، امیر خاں، لالباغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورت مذکورہ میں بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو کر مغلطہ ہو گئی ہے۔

متیٰ کرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق الخ. (فتاویٰ عالمگیری، زکریا دیوبند ۱/۳۵۶، جدید زکریا ۱/۴۲۳، قاضیخاں علی ہامش الہندیۃ، زکریا ۱/۴۵۴، جدید زکریا ۱/۲۷۳، شامی، زکریا ۴/۵۲۱، کراچی ۳/۲۹۳)

لہذا اب بلا حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی صحیح نہیں ہوگا، طلاق واقع ہونے کے لئے بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے۔ نیز حالت جنابت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ شافعی مسلک کی وہ کتاب ہمارے پاس لیتے آئیے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ ذی الحجہ ۱۴۰۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۳/۳۹۵)

توقع طلاق کے لئے بیوی کا طلاق کے الفاظ سننا لازم نہیں

سوال [۶۰۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد ظفر نے اپنی بیوی عظمت کو تھانہ مغل پورہ میں کچھ لوگوں کی موجودگی میں یہ الفاظ کہے ”میں نے تجھ کو طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“ پھر یہی الفاظ دوبارہ بلند آواز سے کہے میں نے تجھ کو طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، لیکن لڑکی کچھ فاصلہ پر بیٹھی ہوئی تھی، لڑکی کا کہنا ہے کہ میں نے طلاق کے الفاظ نہیں سنے لڑکی کو دھوکہ سے تھانہ بلایا گیا اور اچانک یہ واقعہ پیش آ گیا، کچھ لوگ دوبارہ اپنے کام سے گئے ہوئے تھے، انہوں نے سنا ہے وہ حضرات مندرجہ ذیل ہیں۔

مولانا ریاست علی، حاجی محمد جاوید، اچھے میاں، محمد آصف، منظور احمد، حافظ محمد عمر، حاجی امیر

خاں مذکورہ صورت حال میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل جواب تحریر فرما کر کرم فرمائیں۔

المسفتی: حاجی محمد حبیب خاں، محلہ فیض گنج شوکت باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق کے واقع ہونے کے لئے بیوی کا سننا لازم نہیں ہے، اس کے سنے بغیر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور متعدد افراد کے سامنے شوہر نے اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق دی ہے، اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر شوہر کے لئے قطعی طور پر حرام ہو گئی ہے، آئندہ دونوں کے درمیان بغیر حلالہ کے نکاح بھی درست نہ ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈائجسٹ ۱۲/۴۲۵، فتاویٰ دارالعلوم، ۴۲/۹، آپ کے مسائل اور ان کا حل ۶۳/۶)

الطلاق، والخلع یصح دون علم الآخر. (الفقہ الإسلامی وأدلته، مکتبہ

ہدیٰ انٹرنیشنل ۲۹۱/۹)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (ہندیۃ زکریا ۱/۴۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵، ہدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، قلدوری، امدادیہ دیوبند ۱۸۷)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۰۲۰/۱۴۳۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹/شوال المکرم ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۴۱۶۶۶)

”نانی اماں ایک دو تین“ کہنے کا حکم

سوال [۶۰۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ میری بیوی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، پچھلے دس ماہ سے اس کے دماغی مرض کی دوائیں چل رہی تھیں، میری بیوی نے پچھلے چھ ماہ سے دوائی لینا بند کر دیا تھا، اس دوران ایک دن میرے نانا کی اچانک طبیعت ناساز ہو گئی، جو میری بیوی کے بھی نانا ہوتے ہیں، تو میں ان کی دوا کے کام میں پورے دن مصروف و مشغول رہا، اس درمیان میں جب گھر آیا تو میری بیوی نے دماغ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور کہنے لگی ”دوسروں کے کام میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہو؟ جس کا ہوگا وہ دیکھ لے گا“ یہ کہہ کر میرے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اس دوران میں سیڑھی سے نیچے اترا۔ اور میں نے غصہ کی حالت میں کہا کہ نانی اماں! ”ایک، دو، تین“ اور دوسری بار اسی وقت میں نے میرے نانا کو بھی آواز لگا کر کہا کہ ”ایک، دو، تین“ تو سوال یہ ہے کہ اس سے میری بیوی کو طلاق پڑے گی یا نہیں؟ اگر طلاق پڑے گی تو کتنی؟

المستفتی: اشرف گودھروی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کے بعد جب شوہر نے اپنی نانی اور نانا کو مخاطب کر کے یہ کہا ”ایک، دو، تین“ تو ظاہری حالت کے تقاضہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیوی ہی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کئے ہیں؛ لہذا اس کی بیوی پر تینوں طلاقیں مغلظہ واقع ہو کر شوہر کے لئے وہ قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے۔ اب حلالہ شرعیہ کے بغیر ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ واضح رہے کہ یہاں پر لفظ ”ایک، دو، تین“ الفاظ کنائی میں سے ہیں اور یہ اصول ہے کہ الفاظ کنائی سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے؛ لہذا قاعدہ کے اعتبار سے ایک کہتے ہی ایک طلاق بائن واقع ہو جانی چاہئے تھی، جس کے نتیجہ میں بعد کے دو الفاظ یعنی ”دو“ اور ”تین“ البائن لایلحق البائن کے اصول کے مطابق لغو ہو جاتے؛ لیکن چونکہ فقہاء کرام نے اس اصول سے کچھ الفاظ مستثنیٰ کئے ہیں، اس میں سے ”أنت واحدة“ بھی ہے؛ اگرچہ یہ کنائی ہے؛ لیکن فقہاء کرام نے اسے

صریح کے درجہ میں قرار دیا ہے اور اس سے طلاق رجعی ہونے کی صراحت کی ہے کہ جس طرح طلاق صریح میں تین لفظ سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی تین لفظ سے تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، تحقیق سے معلوم ہوا کہ شہر گودھرا میں ایک دو تین کے الفاظ بیوی کے حق میں طلاق ہی کے لئے مستعمل ہیں؛ اس لئے اس وجہ سے بھی طلاق صریح مراد لی جاسکتی ہے، جیسا کہ فتاویٰ رجیمیہ میں گودھرا والوں کے بارے میں یہ وضاحت موجود ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ رجیمیہ ۲۹۶/۸، محمودیہ ڈبھیل ۱۲/۱۴۶۳)

وأما الكنايات الرواجع كاعتدي واستبرئي رحمك، وأنت واحدة، وما ألحق بها، فإنها وإن كانت تحلق للبائن في ظاهر الرواية بشرط النية؛ لكنها لما وقع بها الرجعي أنت في معنى الصريح كما في البدائع: أي فهي ملحقة بالصريح في حكم اللحاق للبائن. (شامي، كتاب الطلاق، باب الكنايات مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن، زكريا ۴/۵۴۰، كراچی ۳۰۶/۳، الفتاویٰ التاتارخانية، كتاب الطلاق، الفصل الخامس في الكنايات، زكريا ۴/۴۷۲، رقم: ۶۶۹۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۶ھ/۷/۱

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴۳۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۱۳۰۲۲/۳۱)

آپسی نزاع کے درمیان ”آپ کی بہن کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا“ کہنا

سوال [۶۱۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مورخہ ۳۱ دسمبر ۲۰۱۳ء بوقت صبح زوجین کے درمیان باہم کسی نازیبا حرکت کو لے کر جھگڑا ہو گیا، محلہ کے بااثر لوگ اور بیوی کے بھائی آگئے، نزاع کم ہونے کے بجائے طول پکڑتا رہا کہ بیوی کے بھائی یعنی میرے ہم نسبتی بھائی محمد قاسم نے کہا کہ جب سے ہم نے اپنی

بہن کی شادی کی ہے، میری بہن گوشت کو ترس گئی، تو شوہر محمد علی نے جواب دیا کہ آپ کو اپنی بہن کو لے جانا چاہئے تھا، آپ کی بہن میرے پاس کیوں رہ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بہن تمہارے پاس نہیں رہ رہی ہے؛ بلکہ تم میری بہن کے پاس رہ رہے ہو، تم مکان سے نکل جاؤ اور بہن کو چھوڑ دو، تو میں محمد علی نے غصہ میں کہہ دیا کہ مکان اپنے پاس رکھو اور اپنی بہن کو رکھو اور دوکان بچوں کو دے کر جا رہا ہوں، ”میں نے تمہاری بہن کو آزاد کیا، چھوڑ دیا“ یہ الفاظ تین سے زائد مرتبہ کہے یہ بات ملحوظ رہے کہ مکان بیوی کا ہے اور میری بیوی اپنا مہر زیور وغیرہ سب بہت پہلے وصول کر چکی ہے اور اس رقم سے اس نے مکان خرید کر اپنے نام کر لیا تھا، اس کے دو لڑکے اور ایک لڑکی ہے، بڑا لڑکا ۱۶ سال کا اور چھوٹا لڑکا ۱۳ سال کا اور لڑکی ۷ سال کی ہے۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا بیوی پر طلاق واقع ہوگئی ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تمہاری بیوی پر طلاق پڑ گئی، اگر طلاق واقع ہوگئی ہے، تو اب دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر عورت دوبارہ نکاح کرنے کے لئے تیار نہ ہو، تو بچے کس کے پاس رہیں گے؟ میں اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے کر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں۔

نوٹ: اس وقت محمد شمیم، محمد اسلام، حاجی محمد اسرار، شبیر بھائی، اور میری بیوی کے بھائی محمد قاسم، حافظ محمد شاہ اور محمد طاہر و دیگر لوگ موجود تھے، جب ہمارے سالوں نے مجھ سے یہ الفاظ کہلوائے تو یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔

المستفتی: محمد علی، میاں کالونی، نورین مسجد گلی نمبر ۳، کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: پورے سوال نامہ پر غور کیا گیا ہے آپسی جھگڑے اور نزاع کے درمیان شوہر نے اپنے سالہ کو مخاطب کر کے کہنا کہ ”میں نے آپ کی بہن کو آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا“ کے الفاظ تین سے زائد مرتبہ استعمال کئے گئے ہیں، جس سے بیوی کے اوپر طلاق مغلظہ واقع ہوگئی ہے؛ اس لئے کہ آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا کے الفاظ طلاق صریح کے

معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور تین سے زائد مرتبہ کہنے سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں؛ اس لئے حلالہ کے بغیر دونوں کے درمیان نکاح درست نہیں ہوگا۔

إن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (ہندیہ، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به زكريا ۱/۴۷۳، جديد زكريا ديوبند ۱/۵۳۵، هداية اشرفي ديوبند ۲/۳۹۹، بدائع الصنائع، زكريا ۳/۲۹۵)

فإذا قال: ”رہا کردم“ أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضاً، وما ذاك إلا لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاق. (شامی، زكريا ۴/۵۳۰، كراچی ۳/۲۹۹)

اور سوال نامہ میں یہ پوچھا گیا ہے کہ بچے کس کے پاس رہیں؟ ایک لڑکا ۱۶ سال اور دوسرا لڑکا ۱۲ سال کا ہے، لڑکوں کی عمر ۷ سال پورا ہو جانے کے بعد باپ کو اپنے پاس رکھنے کا حق ہوتا ہے، لڑکی کے بالغ ہونے تک ماں کو اپنے پاس رکھنے کا حق ہوتا ہے اور اس معاملہ میں سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ آپسی صلح و رضامندی سے بچوں کو رکھا جائے اور ماں باپ دونوں سے ملنے کی اجازت دیدیں۔

والأم، والجدة أحق بالغلام حتى يستغني، وقدر بسبع سنين، وقال القدوري: حتى يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده، وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين. والفتوى على الأول. والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض، وفي نوادر ابن هشام عن محمد: إذا بلغت حد الشهوة فالأب أحق. (الفتاوى العالمگیریة، الباب السادس عشر: في الحضانة قديم زكريا ۱/۵۴۲، جديد زكريا ديوبند ۱/۵۹۳، ۱/۴۵۲، البحر الرائق ۴/۲۸۷، شامی، زكريا ۵/۲۶۷-۲۶۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴/۳/۲۳۶۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳/ربیع الاول ۱۴۳۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۱۹۵۶)

”تیری بہن کو طلاق ہوگئی، اس کی خیر خبر لے لو، کہنے کا حکم

سوال [۶۲۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص سعودیہ میں رہتا ہے اور وہ کافی دنوں کے بعد گھر آتا ہے اور جب وہ گھر آتا ہے، تو وہ بیوی کے پاس بہت ہی کم دن گزارتا ہے، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے ایک دن غصہ میں بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو بیوہ عورت کی طرح ہوں، آپ سعودی سے یہاں آ کر بھی میرے پاس نہیں رہتے اور یہ کہہ کر اپنے زیورات نکال کر شوہر کے ہاتھ میں دیدیئے، اس کے بعد شوہر نے اپنے سالہ کو فون کر کے کہا کہ تیری بہن کو طلاق ہوگئی، اس کی خیر خبر لے لو، تو کیا یہ کہنے سے اس عورت کو طلاق ہو جائے گی؟ برائے کرم جواب بحوالہ عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد شہادت بردوانی، مغربی بنگال (الہند)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شوہر نے اپنے سالے کو یہ بتلایا کہ تمہاری بہن پر طلاق ہوگئی ہے، اس کی خبر گیری کر لو اور حالت یہ ہے کہ اس سے پہلے طلاق نہیں دی گئی ہے؛ کیونکہ یہ شوہر کی طرف سے اقرار طلاق ہے؛ اس لئے اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے ساتھ میں رکھنے کی گنجائش ہے۔

ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء. وصرح في البزازیة: بأن له في الديانة إمساكها إذا قال: أردت به الخبر عن الماضي كذباً، وإن لم يرد به الخبر عن الماضي أو أراد به الكذب، أو الهزل وقع قضاءً وديانة. (البحر الرائق، زکریا ۴۲۸/۳)

وفي الصغرى: في امالي أبي يوسف: إذا قال لها: قد طلقك، أو قال لها:

”أنت طالق“ وأراد الخبر عما مضى كذباً وسعه فيما بينه وبين الله تعالى^۱ أن يمسكها وإن لم يرد الخبر عما مضى وأراد الكذب فهي طالق في القضاء، وفيما بينه وبين ربه، وكذا إذا أراد الهزل طلقت قضاء وديانة. (تاتارخانية،

كتاب الطلاق، الفصل الرابع فيما يرجع إلي صريح الطلاق، زكريا ۴/۱، رقم: ۶۵۲۵)

وإذا طلق الرجل امرأته تطلقاً رجعيةً، أو تطلقين، فله أن يراجعها في عدتها، رضيت بذلك أو لم ترض. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة، اشرفيه ۲/۳۹۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۶ھ/۶/۲۶

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۴۱/۱۲۰۵۸)

”طلاق دیدوں گا، نبھاؤ نہیں ہو سکتا ایک دو تین“ کا حکم

سوال [۶۱۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور اس کی بیوی کے درمیان تکرار ہونے لگا اور دوران تکرار زید نے بیوی سے کہا کہ ”میں تمہیں طلاق دیدوں گا“ پھر اس کے دس پندرہ منٹ بعد زید نے بیوی سے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان نبھاؤ نہیں ہو سکتا، پھر زید نے کہا ایک، دو، تین، تو مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اس واقعہ میں زید کی بیوی پر کوئی طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اکابر کے فتاویٰ اور فقہاء کے جزئیات سے مدلل کر کے جواب تحریر فرما دیجئے۔

المستفتی: عبید اللہ بھاگل پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید اور بیوی کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو میں تین جملے ہیں، پہلا جملہ ہے ”میں تمہیں طلاق دیدوں گا“ یہ مذاکرہ طلاق ہے اور دوسرا جملہ

ہے، میرے اور تمہارے درمیان نبھاؤ نہیں ہو سکتا اور تیسرا جملہ ہے ایک، دو، تین“ اور مذاکرۃ طلاق میں ایک، دو، تین کہنے سے طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے؛ کیونکہ یہ ایسا کنائی لفظ ہے جس سے صریح طلاق واقع ہوتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں زید کی بیوی پر تین طلاقیں مغلظہ واقع ہو گئیں۔ فتاویٰ محمودیہ میں اسی موضوع سے متعلق دو فتاویٰ ہیں ان دونوں کا حاصل بھی یہی ہے؛ لہذا بغیر حلالہ کے دونوں کے درمیان دوبارہ نکاح بھی درست نہ ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ترتیب جامعہ فاروقیہ کراچی ڈبھیل ۱۲/۲۶۲ تا ۲۶۳، میرٹھ ۱۸/۳۸۴ تا ۳۸۷)

ولو قال: أنت مني ثلاثاً طلقت إن نوي، أو كان في مذاكرة الطلاق. إلى قوله: فيفيد العلم بعدد الطلاق المقدر الذي نواه المتكلم، كما أن قوله بثلاث دل على عدد طلاق مقدر نواه المتكلم، ولا فرق بينهما إلا من جهة أن العدد في أحدهما صريح وفي الآخر غير صريح، وهذا الفرق غير مؤثر بدليل أنه لا فرق بين قوله: أنت طالق، هكذا مشيراً إلى الأصابع الثلاث، وبين قوله: أنت طالق بثلاث. (شامی مع الدر، کتاب الطلاق، باب الصریح تحت مطلب فی قول الإمام: ایمانی کایمانی جبرئیل، کراچی ۳/۲۷۵ تا ۲۷۶، زکریا ۴/۴۹۷ تا ۴۹۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ صفر المظفر ۱۴۳۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۱/۱۱۹۴۳)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۹/۲/۱۴۳۶ھ

کیا پاگل بیوی کو طلاق دینے سے واقع ہو جائے گی؟

سوال [۶۱۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص کی بیوی پاگل ہو گئی ہے، اگر وہ شخص پاگل بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ مع حوالہ جواب تحریر فرمادیں۔

المستفتی: بدرالزمان، پیرزادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق کے واقع ہونے کے لئے شوہر کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے اور شوہر کے ہوش و حواس درست ہونا لازم ہے، بیوی کا عاقل بالغ یا ہوش و حواس درست ہونا لازم نہیں؛ لہذا شوہر کا جب دل و دماغ درست ہے، تو اس کے لئے اپنی پاگل بیوی کو طلاق دینا درست ہے اور پاگل بیوی پر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں شوہر اپنی پاگل بیوی کو طلاق دیدے گا، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔

ویقع طلاق کل زوج بالغ عاقل. (التنویر مع الدرر ۴/۴۳۸)

أما الشرط فمن الزوج كونه عاقلاً بالغاً، ومن المرأة كونها في نكاحه، أو عدته التي تصلح محلاً للطلاق. (الفتاویٰ الشاتارخانیة، ۴/۳۷۷، رقم: ۶۴۷۱، كنز مع البحر الرائق، ذكرها ۳/۴۲۴، مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية بيروت ۲/۷-۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۶/۶/۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲/ جمادی الثانیہ ۱۴۳۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۶۹/۱۲۰)



(۵) باب طلاق الحامل والحائض

حالت حمل کی طلاق

سوال [۶۱۰۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی حاملہ بیوی کو تین طلاق دیں، پھر اسی کے ساتھ زن و شوہر والا رشتہ قائم کئے ہوئے ہے، زید کا خیال یہ ہے کہ حمل کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔

المستفتی: حافظ محمد سرفراز عالم، موضع غوث پور، باغپت

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حالت حمل میں بھی بلاشبہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، جب زید نے اپنی بیوی کو حالت حمل میں تین طلاق دیدی ہیں، تو اس سے تینوں طلاق واقع ہو کر بیوی زید پر بالکل حرام ہو گئی، آئندہ بغیر حلالہ کے آپس میں نکاح بھی جائز نہیں ہوگا۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۶/۳۶۶، زکریا جدید ۶/۸۲۶، جدید زکریا مطول ۷/۵۵۱، نظام الفتاویٰ ۲/۵۹۶)

عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، وهي حامل، فلها عليه النفقة حرة أو أمة. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟..... مؤسسہ علوم القرآن جدید ۱۰/۸۳، رقم: ۱۸۹۹۷)

وفي الدر: وحل طلاقهن أي الآيسة والصغيرة والحامل. (در مختار، كتاب الطلاق، كراچی ۳/۲۳۲، زکریا ۴/۴۳۴)

وفي الهداية: وطلاق الحامل يجوز. (هداية، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۶، قدوری، مکتبہ امدادیہ دیوبند ۱۷۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۹ھ/۷

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۸۶۳۶۹)

حمل کی حالت میں طلاق کا حکم

سوال [۶۱۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد راشد ولد شہزاد نے اپنی بیوی عرشٰی کو حالت حمل میں تین بار طلاق دی ہے، تو ایسی صورت میں کونسی طلاق واقع ہوگی؟

المستفتی: محمد راشد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا جب آپ نے اپنی بیوی کو تین بار طلاق دے دی ہے، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر شوہر پر وہ قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے۔ اب بغیر حلالہ شرعیہ اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۹۲/۹، فتاویٰ عثمانیہ ۳۱۸/۲)

و طلاق الحامل یجوز عقیب الجماع؛ لأنه لا یؤدی الی اشتباہ وجہ العدة. (هدایۃ، کتاب الطلاق، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۶، قدوری، امدادیہ دیوبند ۱۷۱، ونحو ذلک فی فتاویٰ ہندیۃ، زکریا قدیم ۱/۳۴۹، زکریا جدید ۱/۴۱۷)

عن ہشام عن الحسن، ومحمد قالا: إذا كانت حاملاً طلقها متی شاء. (المصنف لابن أبی شیبہ، کتاب الطلاق، ما قالوا فی الحامل کیف تطلق؟ مؤسسۃ علوم القرآن، جدید ۹/۵۱۳، رقم ۱۸۰۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۴/۸/۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

ارشعوان المعظم ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۰۱۸۱۱)

حاملہ کو طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۱۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ میں نے اپنی بیوی شمع بنت خورشید احمد جہانگیر پوری دہلی کو ۱۷ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے تین طلاق دیدی تھیں، اس وقت بیوی حاملہ تھی، تو کیا اس پر طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد عثمان، نئی بستی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شوہر خود ہی اقرار کر رہا ہے کہ ۱۷ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو لڑائی کے دوران اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ہیں، تو اس کے اوپر طلاق مغلظہ واقع ہوگئی ہے اور حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة..... فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً. (هداية، كتاب الطلاق، اشرفي ۲/۳۵۶، قدوري، امداديه ديوبند ۱۷۱)

وحلّ طلاقهن أي الآئسة، والصغيرة، والحامل. (شامی، کتاب الطلاق، کراچی ۲/۲۳۲، زکریا ۴/۴۳۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ شعبان المعظم ۱۴۲۷ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۸/۹۱۴۰)

کیا حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟

سوال [۶۱۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) میری دختر فرحانہ کفیل عرف رانی کو اس کے شوہر نوید الرحمن ولد حبیب الرحمن نے بذریعہ تحریر اپنے ہوش و حواس کا حوالہ دے کر تین مرتبہ طلاق دی ہے، مگر لڑکی تقریباً دو ماہ کی حاملہ ہے۔

(۲) مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا دوران حمل طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ یا ایسی طلاق ولادت کے بعد خود بخود واقع ہو جائے گی؟

(۳) فی الحال لڑکی ابھی سسرال میں ہے اس کا شوہر تحریر دے کر کہیں باہر چلا گیا ہے، ایسی صورت میں لڑکی کو کہاں رکھنا مناسب ہے؟ برائے کرم شرع کی روشنی میں تفصیلی جواب تحریر فرمائیں۔

المستفتی: محمد کفیل، پیر غیب، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ صورت میں تین مرتبہ تحریری طلاق دینے سے فرحانہ کفیل پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، اب بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے، بلا حلالہ شرعیہ اس شوہر سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً. (عالمگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵، ہدایہ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، قدوری، املایہ دیوبند ۱۷۸)

(۲) حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع۔ (ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۶)

(۳) معتدہ کو عدت گزارنا اس گھر میں ضروری ہے جہاں طلاق ہوئی ہے، اور اگر وہاں عدت گزارنا دشوار ہے، تو میکہ میں عورت پوری عدت گزار سکتی ہے۔

وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة، والموت. (ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۴۲۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ رزی قعدہ ۱۴۱۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۲۶۲۶۵)

حالت حمل میں دو طلاق

سوال [۶۱۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں دو بار طلاق، طلاق، کہہ دیا اور وہ چار ماہ کی حاملہ ہے طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟ ہوگئی تو کونسی طلاق ہوئی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل جواب سے نوازیں عین نوازش ہوگی۔

المستفتی: محمد سالم، سرائے ترین سنبھل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا جب اس حالت میں شوہر دو بار طلاق کہہ دیا ہے، تو اس سے دو طلاق رجعی واقع ہوگئی ہیں، ولادت سے پہلے رجعت کرنے کی گنجائش ہے اور رجعت کی صورت یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ہمبستری کر لی جائے یا زبان سے کہہ دیا جائے کہ میں نے تمہارے ساتھ رجعت کر لی اور ولادت کے بعد رجعت کا حق ختم ہو جائے گا، اور باضابطہ نکاح کرنے کی گنجائش ہے۔

طلاق الحامل يجوز عقيب الجماع. (هداية، اشرفي ۲/۳۵۶، ہندیہ،

زکریا قدیم ۱/۳۴۹، زکریا جدید ۱/۴۱۷)

و حل طلاقهن أي الآيسة، والصغيرة، والحامل؛ لأن كراهة الطلاق في طهر جامع فيه ذوات الحيض لتوهم الحمل، فيشتبه وجه العدة أنها بالحيض أو بالوضع. (شامي، زکریا ۴/۴۳۴، کراچی ۳/۲۳۲)

وإذا أراد الرجل أن يراجع امرأته فالأحسن أن يراجعها بالقول لا بالفعل والرجعة بالقول أن يقول: رجعتك أو راجعتك أو رددتك، أمسكتك في الحضرة أو الغيبة. (تاتارخانیہ، زکریا ۵/۱۳۸، رقم: ۷۴۷۸)

ولو ولدت بعد الطلاق تنقضي العدة بالولادة، فلا تتصور الرجعة.

(تاتاریخانیہ، زکریاہ / ۱۴۰، رقم: ۷۸۸ ۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳۰ محرم الحرام ۱۴۳۶ھ

۱۴۳۶/۱/۳۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۱۱۸۶۱/۱)

حالت حمل میں تین طلاق کا حکم

سوال [۶۱۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی کی شادی دس سال پہلے ہوئی، اب اس کی چار اولادیں ہیں، لڑکی کا شوہر دہلی میں کام کرتا ہے، چار پانچ مہینے کے بعد گھر آتا ہے؛ لیکن اب اس نے دہلی میں دوسری شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد سے جب بھی پہلی بیوی کے پاس آتا ہے، تو اس پہلی بیوی کو پریشان کرتا ہے، اسی دوران پہلی بیوی کو پانچ مہینے کے لئے گھر پر چھوڑ کر چلا گیا، پھر جب شوہر گھر پر لوٹ آیا، تو کچھ ہی دیر بعد دوعورتوں کے سامنے پہلی بیوی کو تین طلاق دے کر چلا گیا، اب اس وقت عورت حاملہ ہے، تو کیا اس عورت پر طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: انخار خاں، نواب پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور جب شوہر نے تین طلاق دیدی، تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر وہ شوہر پر بالکل حرام ہوگئی۔ اب بغیر حلالہ کے آئندہ اس کے ساتھ نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

وطلاق الحامل یجوز عقیب الجماع - (هدایة، اشرفی دیوبند ۶/۲، ۳۵)

قدوری، امدایة دیوبند (۱۷۱)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها

اویموت عنہا۔ (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، زکریا جدید ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، قلوری، امدادیہ دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۷۳/۸۶۵)

حالت حمل میں تین طلاق، نیز وضع حمل کے بعد پھر طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۱۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سرفراز احمد نے اپنی بیوی کو پہلے تین طلاق دیدی تھیں، ان کی بیوی کسی حال سے تھی، تو ہم نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا تھا اور اب وہ فارغ ہوگئی ہے، تو اس کے شوہر سرفراز احمد نے پھر سے طلاق دیدی ہے، تین بار کہا ہے دوگوا ہوں کے بیچ میں ان کے نام یہ ہیں رابعہ خاتون، رحمت جہاں۔

المستفتی: اختر حسین، کیت والی مسجد، مقبرہ دوئم، مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا سرفراز احمد نے اپنی بیوی کو حمل کی حالت میں جو تین طلاقیں دی ہیں، وہ واقع ہو چکی ہیں، اور اسی وقت سے بیوی شوہر کے لئے قطعی حرام ہو چکی ہے، اور بچہ ہونے کے بعد عدت پوری ہو چکی ہے اور اس کے بعد چونکہ مطلقہ شوہر کی بیوی نہیں رہی ہے؛ اس لئے بعد میں جو طلاقیں دی گئی ہیں، وہ محل طلاق نہ ہونے کی وجہ سے لغو ہیں۔

وَأَوْلَاثِ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. [الطلاق: ۴]

أخرج عبد الرزاق عن الشعبي في طلاق الحامل. قال: يطلق عند الأهلة. (مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب طلاق الحامل، المجلس

ولو قال لامرأته الحامل: أنت طالق للسنة تقع في الحال واحدة، وبعد شهر أخرى، وبعد شهر أخرى، كما في ذوات الأشهر. (تاتارخانية، زکریا ۴/۳۸۵، رقم: ۶۴۸۵)

وتنقضي العدة وإن جهلت المرأة. (شامی، کتاب الطلاق، باب العدة، زکریا ۵/۲۰۲، کراچی ۳/۵۲۰، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۴۲۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ رزی قعدہ ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۰۸۵۵)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۵/۱۱/۱۴۳۳ھ

حاملہ بیوی کو تین طلاق دینا

سوال [۶۱۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) تجھے طلاق دیدی، تین مرتبہ کہہ دیا، اس حالت میں بیوی حاملہ بھی ہے، لہذا اب حکم شرعی کیا ہے؟

(۲) اور عورت نے مرد کو مار دیا، آپسی جھگڑے میں، تو کیا اس عورت کی بدتمیزی سے طلاق کے واقع ہونے میں کوئی فرق پڑے گا؟ جواب دے کر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد کفام، پتیل نگری، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: عورت کی بدتمیزی یا عورت کے حاملہ ہونے کی وجہ سے طلاق کے واقع ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؛ لہذا آپسی کے جھگڑے کے درمیان جب کفام نے اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق دیدی ہے، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلطہ واقع ہو کر وہ شوہر پر بالکل حرام ہو گئی ہے۔ اب آئندہ بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

وطلاق الحامل یجوز. (ہدایہ، کتاب الطلاق، باب طلاق السنة، اشرفی

ولو قال لزوجه: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه

والنظائر قدیم ۲۱۹)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (هنديہ، زكريا قدیم ۱/۴۷۳، زكريا جدید ۱/۵۳۵، هداية، اشرفي بکڈپو

ديوبند ۲/۳۹۹، قلدوري، امدادية ديوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ

۱۴۲۶/۳/۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۸۷۸۲/۳۷)

جھگڑے کے دوران حالت حمل میں پانچ مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۱۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد شاہ نواز نے اپنی بیوی کو لڑائی جھگڑے کے دوران پانچ بار طلاق دیدی، بیس پچیس لوگ موجود تھے، اس کے طعن سے ایک لڑکی ہے اور چار ماہ کا حمل ہے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ طلاق ہوگئی یا نہیں؟ اب اگر اس کو رکھنا چاہیں تو کیا حکم ہے؟

المسئلی: محمد شاہ نواز، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شاہ نواز نے اپنی بیوی کو جھگڑے کے دوران جب پانچ مرتبہ طلاق دیدی ہے، تو اس سے طلاق مغلظہ واقع ہوگئی ہے اور حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے؛ لہذا اب دونوں ساتھ رہنا چاہیں، تو حلالہ شرعیہ کے بعد نکاح کرنے کی گنجائش ہے؛ بغیر حلالہ کے دونوں کے درمیان نکاح درست نہیں ہوگا۔

وحلّ طلاقهن أي الآئسة، والصغيرة، والحامل. (شامی، کتاب الطلاق،

کراچی ۳/۲۳۲، زکریا ۴/۴۳۴)

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه. (سنن الدر قطني، كتاب الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت ۲۱/۴، رقم: ۳۹۳۲، مجمع الزوائد ۴/۳۴۰)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (هندية، زكريا قديم ۱/۴۷۳، زكريا جديد ۱/۵۳۵، هداية، لشرفي ديوبند ۲/۳۹۹، قلوري، امدادية ديوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۱۱/۲۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ ذی قعدہ ۱۴۳۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۲۱)

حمل میں طلاق اور عدت کا حکم

سوال [۶۱۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد وسیم نے اپنی بیوی شائستہ پروین کو مار پیٹ اور گالی گلوچ کرتے ہوئے، تین مرتبہ طلاق دیدتھی، طلاق کو بھی تقریباً دس سال گزر چکے ہیں، تو کیا عدت گزر چکی ہے؟ اور میں اس وقت حمل سے تھی، تو حمل میں بھی طلاق واقع ہوگئی تھی یا نہیں؟ شوہر بھی اب لاپتہ ہے، تو ہمارے لئے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہوں یا نہیں؟ طلاق کے گواہان بھی موجود ہیں، منسلک کاغذ میں ان کے دستخط موجود ہیں۔

گواہان: عرفان، ریاست حسین، محمد آصف، محمد جاوید، محمد عزیز، محمد جنید۔

المسفتیہ: شائستہ پروین، نئی بستی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب آپ کے شوہر محمد وسیم نے آپ کو حالت حمل

میں تین طلاق دی تھیں، تو آپ پر طلاق مغلظہ اسی وقت واقع ہو چکی تھی، اور شریعت میں حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور آپ کی عدت اسی وقت پوری ہو گئی تھی، جس وقت بچہ کی ولادت ہو چکی تھی؛ لہذا آپ کو بچہ کی ولادت کے بعد نفاس سے فارغ ہو کر کسی بھی مرد سے شادی کر کے باعصمت زندگی گزارنے کی شرعی طور پر اجازت حاصل ہو چکی ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباہ

والنظائر قدیم ص: ۲۱۹)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (هندية، زكريا قدیم ۱/۴۷۳، زكريا جدید ۱/۵۳۵، تاتارخانية، زكريا ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳، هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۹۹)

والعدة في حق الحامل وضع حملها. (در مختار، زكريا ۵/۱۹۰، كراچي

۵/۱۱، تاتارخانية، زكريا ۵/۲۲۸، رقم: ۷۷۲۷)

وعدة الحامل أن تضع حملها..... وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق، أو الموت بيوم أو أقل. (هندية، زكريا قدیم ۱/۵۲۸، زكريا جدید ۱/۵۸۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ رزی الحجہ ۱۴۳۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۵۶۷)

حالت حمل کی طلاق، بچہ کی پرورش، مہر اور جہیز کا حکم

سوال [۶۱۱۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانے کی زحمت فرمائیں کہ کیا دوران حمل طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں؟ طلاق دی جاسکتی ہے؟ شرعی طور پر فتویٰ دیں، طلاق ایک ہوتی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟

(۲) حاملہ کی طلاق کے بعد بچہ پیدا ہونے کی صورت میں اس کی پرورش کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟

(۳) طلاق کے بعد مہر جہیز ولادت کا خرچ اور عدت کا خرچ طلاق دینے والا کچھ بھی ادا نہ کرے صرف طلاق ہی دیدے، تو اس کے لئے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا طلاق شدہ بیوی بالکل ہی بے سہارا ہو جائے گی؟

المستفتی: شمشاد حسین، سرجن، نگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق (۱) شرعی طور پر حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو حالت حمل میں طلاق دے سکتا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۹۲/۹)

و طلاق الحامل یجوز عقیب الجماع۔ (هدایة، کتاب الطلاق، باب طلاق،

السنة، اشرفی دیوبند ۳۵۶/۲، قلوری، امدایة دیوبند ۱۷۱، شامی، مصری ۵۷۶/۲، کراچی ۲۳۲/۳، زکریا ۴۳۴/۴)

(۲) زوجین کے مابین جدائیگی کے بعد پرورش کا سب سے زیادہ حق ماں کو حاصل ہوتا ہے اور اس کا خرچہ بچہ کے باپ کے ذمہ واجب ہے۔

وإذا وقعت الفرقة بین الزوجین، فالأم أحق بالولد (إلی قوله) والنفقة

علی الأب علی ما نذکر..... (هدایة، اشرفی دیوبند ۴۳۴/۲)

(۳) شوہر پر مہر ادا کرنا اسی طرح جہیز واپس کرنا اور بچہ کی ولادت کا خرچہ دینا لازم ہے، نہ دینے کی صورت میں سخت گنہگار ہوگا۔

وَأِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ. [الطلاق: ۶]

وفیه أجرة القابلة علی من استأجرها من زوجة، أو زوج ولو جاءت

بلا استئجار، قيل: علیہ، وقيل: علیها، قوله قيل: علیہ عبارة البحر عن الخلاصة:

فلقائل أن يقول: علیہ؛ لأنه مؤنة الجماع، ولقائل أن يقول علیها كأجرة

الطبيب (إلى قوله) ويظهر لي ترجيح الأول. (الدرمع الرد، كتاب الطلاق،

باب النفقة، زكريا ۵/۲۹۱، ۲۹۲، كراچي ۳/۵۷۹، ۵۸۰، مصري ۲/۸۹۳)

نیز مطلقہ کی عدت کا خرچہ بھی شوہر پر لازم ہے، نہ دینے کی صورت میں گنہگار ہوگا۔

عن أبي اسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد

الأعظم - إلى - لها السكنى، والنفقة، قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من

بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. (صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثاً

لا نفقة لها، النسخة الهندية ۱/۴۸۵، بيت الأفكار رقم: ۱۴۸۰)

وإذا طلق الرجل امرأته، فلها النفقة، والسكنى في عدتها، رجعيًا

كان أو بائناً. (هداية، اشرفي ديوبند ۲/۴۴۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ

۱۴۱۹/۵/۳۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۳/۵۷۸۸)

حالت حمل میں طلاق سے متعلق چند سوالات و جوابات

سوال [۶۱۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ ایک عورت شادی شدہ ہے، جو اپنے شوہر سے الگ رہتی ہے؛ لیکن نکاح میں

ہے، اس کا تعلق ایک دوسرے مرد سے ہو گیا اور اس کے ساتھ صحبت بھی ہوئی، دوران صحبت

دوسرے مرد سے عورت حاملہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ دونوں نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیتے

ہیں؛ جبکہ دوسرا مرد غیر شادی شدہ ہے اور عورت کے پہلے شوہر نے اسے تحریری اور زبانی تین

طلاق گواہوں کے سامنے دیدی ہیں۔

(۱) کیا حمل میں ہوتے ہوئے طلاق ہوئی یا نہیں؟

(۲) کیا یہ حمل حرام ہوا ہے یا نہیں؟ کیا ہونے والا بچہ حرام کا ہوگا؟

(۳) اگر طلاق ہوئی تو اس معاملہ میں عورت کو عدت کرنی ضروری ہے یا نہیں؟ جبکہ اس کو

یہ حقیقت معلوم ہے کہ حمل اس کے دوسرے شوہر سے ہے۔

(۴) اگر عدت کرنی ضروری ہے، تو کیا وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہ کر عدت پوری کر سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کر سکتی ہے تو کس طرح؟

المستفتی: محمد احتشام، گوگل داس روڈ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) حالت حمل میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، مذکورہ صورت میں طلاق مغالظہ واقع ہو گئی ہے۔

و طلاق الحامل یجوز عقیب الجماع - (ہدایہ، کتاب الطلاق، باب طلاق

السنة اشرفی دیوبند ۶/۲، ۳۵، قلویری، امدایہ دیوبند (۱۷۱)

(۲) اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا، وہ پہلے شوہر کا ہوگا حرامی نہ ہوگا اگرچہ دوسرے مرد نے زنا کیا ہو۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ، زکریا ۳۵/۳۵)

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش، وللعاہر الحجر. (نسائی شریف، باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ینفہ صاحب الفراش، النسخة الهندیة ۲/۱۱۰، دار السلام رقم: ۳۴۸۲)

(۳) اس عورت پر عدت گزارنا ضروری ہے اور عدت وضع حمل ہے۔

وَأَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. [الطلاق: ۴]

وفي حق الحامل مطلقاً، ولو أمة أو كتابية أو من زنا بأن تزوج حبلى من زنا ودخل بها، ثم مات أو طلقها تعدد بالوضع وضع جميع حملها.

(در مختار، کتاب الطلاق، باب العدة، زکریا ۵/۱۸۹، ۱۹۰، کراچی ۳/۵۱۱)

(۴) دوسرے مرد کے ساتھ رہ کر عدت گزارنا جائز نہیں ہے اور عدت کی حالت میں نکاح بھی جائز نہیں ہے، عدت اسی جگہ گزارنا ضروری ہے، جہاں اس کو طلاق دی ہے، وہاں نہ ہو سکے تو میکہ میں گزارنا لازم ہے۔

وأمم نكاح منكوحة الغير ومعتدته لم يقل أحد بجوازه،

فلم ینعقد أصلاً. (شامی، کتاب النکاح، باب المهر زکریا ۴/۲۷۴)

قال الله تعالى: لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ. [الطلاق: ۱]

وعلی المعتمدۃ أن تعتد فی المنزل الذی یضاف إليها بالسکنی حال
وقوع الفرقة والموت. (هدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۲۸، شامی، زکریا ۵/۲۲۵،
کراچی ۳/۵۳۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ محرم الحرام ۱۴۱۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۲/۲۶۲۱)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸/۱۷/۱۴۱۷ھ

حالت حیض میں طلاق

سوال [۶۱۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں:
کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق کا لفظ تین مرتبہ بول دے، تو اس حالت میں
طلاق صحیح ہوگی؟ یا کسی صورت سے کوئی گنجائش نکلتی ہے، بایں طور کہ اس کا کوئی کفارہ ادا کر دیا
جائے اور یہ بات ملحوظ رہے کہ طلاق تین بار غصہ میں ایک دیندار عورت کے سامنے دی ہے،
اس کے بعد جا کر اپنی بہن سے بھی کہا کہ میں آج طلاق دے آیا ہوں، جس وقت طلاق دی
ہے، بیوی حیض کی حالت میں تھی، اب یہ بتائیے کہ حیض کی حالت میں طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد اکرام علی، محلہ کھاری کنواں، مغلوپورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حالت حیض میں طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی
ہے؛ لیکن شوہر سخت ترین گنہگار ہوگا۔

عن عبد اللہ بن عمرؓ أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. الحديث

(صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب قول اللہ تعالیٰ: یا ایہا النبی إذا طلقتم النساء..... النسخة الهندیة ۲/۷۹۰، رقم: ۵۰۵۵، ف: ۵۲۵۱)

وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق. (هدایة،

کتاب الطلاق، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۷)

اور جب شوہر نے حالت حیض میں تین بار لفظ طلاق اپنی بیوی کے لئے استعمال کیا ہے، تو اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر وہ شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے، اب اگر بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لئے حلالہ شرعیہ لازم ہے نیز غصہ کی حالت میں بھی طلاق وقع ہو جاتی ہے۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، زکریا جدید ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، قدوری امدادیہ ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۴ رمضان المبارک ۱۴۱۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۷/۲۳۵۹)

حالت حیض میں طلاق دینے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۱۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رئیس اعظم نے ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کی، دوسری بیوی کے ساتھ چند دن رہنے کے بعد جب وہ پہلی بیوی کے پاس آیا، تو جب اس کو دوسری شادی کے بارے میں علم ہوا، تو فوراً اس نے رئیس اعظم سے دوسری بیوی کو تین طلاقیں دلوائیں، پھر رئیس اعظم نے طلاق کے تین دن بعد دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیا، پھر نکاح کرانے کے ایک ہفتہ بعد رئیس اعظم اس کو پھر بھگا کر اپنے گھر لے آیا، اور اپنے ساتھ رکھنے لگا، جب لوگوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم نے تو اپنی بیوی کو

طلاق دیدی تھی، پھر اسے اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہو؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ میری بیوی گندگی (حیض) کی حالت میں تھی؛ اس لئے اس پر طلاق واقع نہیں ہوئی، تو کیا گندگی کی حالت میں رئیس اعظم کی بیوی پر طلاق پڑی یا نہیں اور اپنی بیوی کو طلاق دے کر تین دن کے بعد ہی دوسری جگہ اس کی شادی کرانا، پھر شادی کے ایک ہفتہ بعد اپنے پاس رکھنا کیسا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد انوار، راپور دوراہہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ناپاکی یعنی ماہواری کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، جب رئیس اعظم نے اپنی دوسری بیوی کو تین طلاقیں دیدیں، تو اس پر طلاق مغلطہ واقع ہو کر وہ شوہر پر بالکل حرام ہو گئی۔ بغیر حلالہ شرعی کے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا بھی درست نہیں ہوگا؛ لہذا طلاق کے تین دن کے بعد دوسری جگہ جو نکاح ہوا ہے، وہ نکاح بھی درست نہیں ہوا، یہ دوسرے آدمی کے ساتھ بدکاری ہوئی ہے، اور پھر ایک ہفتہ کے بعد اپنے گھر لا کر رکھنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے اور اس کے ساتھ ہمبستری زنا کاری کے مترادف ہے، اگر وہ دوبارہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو شرعی حلالہ لازم ہے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ تین ماہواری گزر جانے کے بعد دوسرے مرد کے ساتھ عورت کا نکاح ہو جائے، پھر اس کے ساتھ ہمبستری بھی ہو جائے، پھر وہ مرد طلاق دے دے اور پھر اس طلاق کے بعد تین ماہواری گزر جانے کے بعد رئیس اعظم کے لئے اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش ہے اور اب جس حالت میں رکھا ہے یہ قطعاً جائز نہیں ہے، سراسر حرام کاری اور بدکاری ہے۔

عبد الرحمن بن ایمن مولیٰ عزة، یسأل ابن عمر، وأبو الزبير
یسمع، کیف تری فی رجل طلق امرأته حائضاً، فقال: طلق ابن عمر
امرأته وهي حائض علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فسأل عمر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليراجعها فردها. الحديث. (صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، النسخة الهندية ۱/ ۴۷۶، بيت الأفكار رقم: ۱۴۷۱)

والبدعي من حيث الوقت: أن يطلق المدخول بها، وهي من ذوات الأقرء في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه، وكان الطلاق واقعاً. (عالمگیری، زکریا ۱/ ۳۴۹، زکریا جدید ۱/ ۴۱۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگیری، زکریا قديم ۱/ ۴۷۳، زکریا جدید ۱/ ۵۳۵، هداية، اشرفي بکڈپو دیوبند ۲/ ۳۹۹، قدوري، امدایة دیوبند ۱۷۸)

أما نكاح منحكوحه الغير، ومعتدته، فالمدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلم ينعقد أصلاً. (شامي، كراچي ۳/ ۱۳۲-۵۱۶، زکریا ۴/ ۲۷۴، ۵/ ۱۹۷، البحر الرائق، زکریا ۳/ ۲۴۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۵/۳/۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۸۳۰/۳۷)

حیض و نفاس کی حالت میں طلاق کا حکم

سوال [۶۱۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی اس وقت ہسپتال میں ہے، کسی بات پر لڑائی ہوئی، انہوں نے اسی دوران یہ کہا کہ اپنی صورت ذن کر لو، مجھے غصہ آیا، تو میں نے کہا، میں نے تجھے طلاق دی، پانچ چھ بار کہہ دیا، تو دریافت یہ کرتا ہے کہ طلاق ہوگئی یا نہیں؟ بیوی اس وقت ناپاکی کی حالت میں

ہے، بچہ آپریشن سے ہوا ہے، تو کیا اس حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟
تحریر فرمادیں، آپریشن کے بعد طلاق کا واقعہ پیش آیا ہے۔

المستفتی: ریاض احمد، ٹائٹلہ، راپپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپریشن کے ذریعہ سے بچہ کی پیدائش ہوئی ہے، اور نفاس اور ناپاکی کی حالت میں شوہر نے بیوی کو طلاق دیدی ہے، اور شرعی طور پر حیض و نفاس کی حالت میں طلاق دینے سے شوہر گنہگار بھی ہوتا ہے اور طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں جب پانچ چھ مرتبہ ”طلاق دی“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہوگئی۔ آئندہ بلا حلالہ کے اس کے ساتھ نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق. (هدایة، کتاب الطلاق، باب طلاق السنة، زکریا ۲/۳۵۷)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، زکریا جدید ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، قدوری، امدایہ دیوبند ۱۷۸)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قدیم ص: ۲۱۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ شعبان المعظم ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۷۶۵)



(۶) باب طلاق الهازل والغاضب

مذاق میں طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۱۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نام عارفہ ہے، میرا نکاح میری مرضی کے بغیر میرے والدین کے دباؤ میں آ کر ہو گیا تھا، جس کے بعد میرے تین بچے ہو گئے تھے، اب میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اور سسرال والے مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، میری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اب شوہر نے تین مرتبہ انگلش میں لکھ کر ایک کاغذ میں طلاق دیدی ہے، الفاظ یہ لکھے ہیں ”آئی گیوٹو یوڈائیورس“ (میں تمہیں طلاق دیتا ہوں) مجھ سے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم آپ الگ ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ طلاق نہیں دی، میں مذاق میں کہہ رہا تھا، قبل الطلاق پانچ مہینہ اور بعد الطلاق تین مہینہ سے ہم دونوں الگ الگ سو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں اور ہوئی تو کتنی طلاق ہوئی؟

المستفتیہ: عارفہ، لال مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورت مسئلہ میں جب شوہر نے تین طلاق واضح طور پر انگلش میں لکھ کر دیدی ہیں اور آپ کے سامنے اس طلاق کا اقرار بھی کیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ پر تین طلاق واقع ہو چکی ہیں اب دونوں کے لئے الگ الگ رہنا ضروری ہے اور شوہر کا بعد میں یہ کہنا کہ میں نے مذاق میں ایسا کہا تھا، تو شریعت میں مذاق کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

کتب الطلاق إن مستبیناً علی نحو لوح وقع إن نوى وقيل مطلقاً.

(در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، مطلب فی الطلاق بالکتابۃ، زکریا دیوبند
۴/۴۵۵-۴۵۶، کراچی ۳/۲۴۶)

وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أولم ينو. (شامی، زکریا

۴/۴۵۶، کراچی ۳/۲۴۶)

وأما الطلقات الثلاث، فحكمها الأصلي هو زوال الملك، وزوال
حل المحلية أيضاً من بعد حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزواج آخر.
لقلوله عز وجل: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
(بدائع الصنائع، کراچی ۳/۱۸۷، زکریا ۳/۲۹۵، دارالکتب العلمیة بیروت ۴/۴۰۳)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة..... حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً
صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (هندي، زکریا قديم ۱/۴۷۳،
زکریا جديد ۱/۵۳۵)

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جلهن
جد، وهزلهن جد، النكاح، والطلاق، والعتاق. الحديث (أبو داؤد، كتاب
الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، النسخة الهندية ۱/۲۹۸، دارالسلام رقم: ۲۱۹۴)
وطلاق اللاعب والهازل به واقع. (هندي، زکریا قديم ۱/۳۵۳، زکریا جديد
۱/۴۲۰) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۹/۱۲/۱۴۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹/ذی الحجۃ ۱۴۲۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۱۱۳۳۵)

مذاق اور حمل میں طلاق کا حکم

سوال [۶۱۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو جس کے دو نام تھے، اس کے دونوں نام لے کر تین تین مرتبہ طلاق دی یعنی چھ مرتبہ، اس وقت شوہر اور بیوی کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں تھا، صرف دونوں ہی تھے، ان کی بیوی نے کہا یہ کیا الفاظ کہہ رہے ہو؟ تو شوہر نے جواب میں کہا، میں تو مذاق کر رہا ہوں اور دوسروں سے سنی ہوئی یہ بات کہی کہ بغیر گواہوں کے طلاق نہیں ہوتی اور اس وقت وہ عورت دو یا تین ماہ کے حمل سے تھی، آج وہ پچھن تین سال کی ہو چکی ہے، اس صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: وسیم احمد، کرپور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذاق میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور حمل کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور دوسروں سے غلط مسئلہ معلوم ہونے کی وجہ سے یا اصل مسئلہ سے ناواقفیت کی وجہ سے طلاق کے واقع ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر وہ شوہر پر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے۔ اب آئندہ بغیر حلالہ شرعیہ کے دونوں کا نکاح بھی درست نہیں ہو سکے گا۔

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جدد، وهزلهن جدد، النكاح، والطلاق، والرجعة. (سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب من طلق، أونكح، أورجع لاعباء، النسخة الهندية ۱/۴۷، دارالسلام رقم: ۲۰۴۳۹)

فيقع طلاق الهازل بالطلاق، واللاعب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث جدهن، هزلهن جدد، النكاح، والطلاق، والعناق. (بدائع الصنائع، كراچي ۳/۱۰۰، دارالكتب العلمية بيروت ۴/۲۱۵، زكريا ديو بند ۳/۱۶۰، ونحو في الدر المختار، زكريا ۴/۴۴۳، كراچي ۳/۲۳۸، وھندية، زكريا ۱/۳۵۳)

والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه.

(شامی، کراچی ۲۵۱/۳، زکریا ۴۶۳/۴، تبیین الحقائق، زکریا ۴۱/۳، امدادیہ ملتان ۲/۸۹۸، عالمگیری ۱/۳۵۴)

ولو قال لامرأته الحامل: أنت طالق للسنة تقع في الحال واحدة، وبعد شهر أخرى، وبعد شهر أخرى، كما في ذوات الأشهر. (تاتارخانیة، زکریا دیوبند ۴/۳۸۵، رقم: ۶۴۸۵)

أخرج عبد الرزاق عن الشعبي في طلاق الحامل قال: يطلق عند الأهلة. (مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب طلاق الحامل، المجلس العلمي ۶/۳۰۴، رقم: ۱۰۹۳۳)

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. [الطلاق: ۴]

وإن جهلت به لتفرغها للعلم (وتحتة في الشامية) أي لأنها تفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار دار العلم، فلم تعذر بالجهل. (شامی، زکریا ۴/۱۸۹، کراچی ۳/۷۵)

أو تلفظ به غير عالم بمعناه (أي طلقت). (شامی، زکریا ۴/۴۹، کراچی ۳/۲۴۱) والعدة..... في حق الحامل مطلقاً سواء كان عن طلاق أو وفاة أو متاركة..... ووضع حملها. (شامی، زکریا ۵/۱۸۸-۱۸۹، کراچی ۳/۵۱۱) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳/۱۱/۲۵

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵/زی قعدہ ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۰/۱۰۸۵۹)

مذاق میں بیوی کو ’طلاق دیدوں گا یا دیدی‘ کہنے کا حکم

سوال [۶۱۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ اگر کوئی شخص جاہل ہو اور اس جگہ مسئلہ نہ پہنچا ہو کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو توبیخاً کہا ہو کہ ”میں تم کو طلاق دے دوں گا“ یا دیدی مذاق میں، اور اس کے پیٹ سے بچہ بھی پیدا ہو جائے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اور اس کو کچھ کرنا ہوگا یا نہیں؟ یعنی جب معلوم ہوا ہو تو کیا کرے؟

المسفتی: کلیم الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر طلاق دے دوں گا کہا ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

لو قال: أطلقك لم يقع. (الدر المننتقي شرح ملتقي الأبحر قدیم ۱/۳۸۷،

دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۱۴)

اور اگر دیدی کہا ہے اگرچہ مذاق میں ہی کہا ہے، تو اس سے طلاق واقع ہوگئی ہے، اگر مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اب تک تین طلاق شدہ بیوی کو اپنے پاس رکھا ہے، تو اب مسئلہ معلوم ہوتے ہی فوراً بیوی سے الگ ہو جائے اور جو اولاد پیدا ہوئی ہے، شوہر کے دعویٰ کے ساتھ وہ اس کی نسل سے حلال اور ثابت النسب کے حکم میں ہوگی۔

لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد

وبالوطى عن شبهة. (البنایة، اشرفیہ دیوبند ۵/۶۴۳، البحر الرائق، کوئٹہ ۴/۱۶۵،

زکریا ۴/۲۷۹، شامی، کراچی ۳/۵۴۹، زکریا ۵/۲۴۳)

بأن النسب يحتاط في إثباته الخ. (شامی، مصری ۲/۸۶۴)

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن

جد وهزلهن جد، النكاح، والطلاق، والرجعة. (سنن الترمذی، کتاب الطلاق، باب ما

جاء في الحد والهزل في النكاح،، النسخة الهندیة ۱/۲۲۵، دارالسلام رقم: ۱۱۸۴)

وبشبهة الفعل وإن ظن حلة العبرة لدعوى الظن -إلى- لافي الثانية

أي شبهة الفعل لتمحضه زنا إلا في المطلقة ثلاثاً بشرطه بأن تلد لأقل من سنتين لا لأكثر إلا بدعوة (وتحتة في الشامية) قلت: وتحصل من هذا أنه إذا ادعى الولد يثبت النسب سواء ولدت لأقل من سنتين أولاً أكثر. (الدمع الرد، كتاب الحدود، مطلب الحكم المذكور في بابه أولى من الذكور في باب غيره، كراچی ۲۱/۲۳ تا ۲۹/۶، زکریا ۲۹/۳۲ تا ۳۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۴/۱۱۶۸)

مذاق میں طلاق دینا

سوال [۶۱۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شادی کے دو سال بعد اگر شوہر اپنی بیوی کو مذاق میں رات کو ۱۲ یا ۱۱ بجے دو طلاق دیدے اور اس کا کوئی گواہ نہ ہو، تو شرعی حکم کیا ہے؟
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مذکورہ صورت میں دو طلاق رجعی واقع ہوگئی ہیں، رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کی گنجائش ہے۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا، کقولہ: أنت طالق أنت طالق الخ. (در مختار، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۲/۳۵۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ شوال المکرم ۱۴۱۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۳۶۷۶)

غصے اور مذاق کی حالت میں طلاق کا حکم

سوال [۶۱۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں ایک ہی وقت میں کئی دفعہ طلاق کا لفظ کہہ دے یا مذاق کی حالت میں کئی دفعہ کہہ دے، تو طلاق پڑ جائے گی یا نہیں؟ یا اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری لڑکی ہے اور میں تمہارا باپ ہوں، یا یہ کہہ دے کہ تم اپنی ماں کے گھر میں رہتی ہو، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟

المستفتی: انظر عالم، کشن گنج، صدیق منزل: ۱۵، ہتھورا بانہ
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: غصہ اور مذاق دونوں حالتوں میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں شوہر نے جو طلاقیں دی ہیں، ان میں کئی دفعہ سے تین مرتبہ یا اس سے زیادہ مراد ہے، تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہوگئی، بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ نکاح بھی درست نہیں ہے۔

عن أبي هريرة[ؓ]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح، والطلاق، والرجعة. (سنن الترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الحد والهزل في الطلاق، النسخة الهندية ۱/۲۵، دار السلام رقم: ۱۱۸۴)

لو طلقها هازلاً يقع قضاءً وديانة. (الأشباه والنظائر قديم ۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرية، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها.

(هندية، زكريا قديم ديوبند ۱/۴۷۳، زكريا جديد ۱/۵۳۵، هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۹۹،

قدوري، املادية ديوبند ۱۷۸)

اور تو میری لڑکی یا میں تیرا باپ ہوں، ان الفاظ سے اگر طلاق یا ظہار کی نیت نہیں ہے، تو یہ الفاظ صرف ڈانٹ ڈپٹ پر محمول ہوں گے؛ لیکن ایسے الفاظ کہنا مکروہ ہے۔

یکرہ قوله أنت أمي، ويا ابنتي، ويا أختي، ونحوه. قال الشامي: وينبغي أن يكون مكروهاً. (در مختار مع الشامی، زکریا ۵/۱۳۱، کراچی ۳/۴۷۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵/۷/۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸/۷/۱۴۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۸۳۶۲۳۷)

شوہر کا غصہ کی حالت میں طلاق دینا

سوال [۶۱۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اجمل نے اپنی بیوی شبینہ کو تین چار مرتبہ طلاق دیدی ہے، مگر طلاق کا جب واقعہ پیش آیا ہے، اس وقت وہاں میاں بیوی کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، اور اجمل نے آپسی گفتگو کے دوران غصہ کی حالت میں طلاق دی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غصہ کی حالت میں غیر آدمی کی عدم موجودگی میں بیوی کو طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں اور دوسرا نکاح کرنے کے لئے کیا شرط ہے؟ یعنی کتنا ٹائم گزرنے کے بعد دوسرا نکاح جائز ہو سکتا ہے؟

المسفتی: عارف حسین، مغل پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب اجمل نے اپنی بیوی شبینہ کو تین طلاقیں دیدی ہیں، تو شبینہ پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر اپنے شوہر کے لئے حرام ہوگئی چاہے طلاق دیتے وقت وہاں پر کوئی موجود رہا ہو یا نہ رہا ہو۔

نیز غصہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب بغیر حلالہ شرعی کے شبینہ کا نکاح اجمل

کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور حلالہ کا طریقہ یہ ہے کہ شبینہ اپنی عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر لے اور ہمبستری کے بعد وہ شوہر طلاق دیدے، پھر عدت گزرنے کے بعد اجمل کے ساتھ نکاح درست ہو سکتا ہے، عدت گزارنے سے پہلے دوسری جگہ نکاح کرنا درست نہ ہوگا اور عدت گزارنے کے بعد کسی بھی مرد سے شرعی طریقہ سے نکاح درست ہو سکتا ہے۔

الطلاق، الخلع یصح دون علم الآخر۔ (الفقه الإسلامی وأدلته، تعریف
الفسخ لغة وإصلاحاً، مکتبہ ہدی انٹرنیشنل دیوبند ۲۹۱/۹)

ویقع طلاق من غضب۔ (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی طلاق، مطلب فی
طلاق المدہوش، کراچی ۲۴۴/۳، زکریا دیوبند ۴۰۵۲/۴)

قال أصحابنا: لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً.
(الأشباه والنظائر قدیم ص: ۲۱۹)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها.

(فتاویٰ عالمگیری، زکریا قدیم دیوبند ۱/۴۷۳، زکریا جدید ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی
دیوبند ۲/۳۹۹، قدوری، امدادیہ دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۷۸۴)

غصہ کی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم

سوال [۶۱۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ زید اپنی والدہ سے اپنی بیوی کے بارے میں شکایت کر رہا تھا کہ وہ اپنی بڑی بچی کے اسکول جانے کے سلسلے میں کوئی حکم دے رہا ہے تو وہ نہیں مان رہی

ہے، اس پر والدہ نے پوچھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، اس بات کو لے کر زید اور اس کی والدہ کے بیچ تکرار جاری تھی کہ زید کی بیوی بھی وہاں آگئی اور کہنے لگی کہ حقیقتاً جو بات ہوئی تھی، اسے وہ بھی عرض کرنا چاہتی ہے، زید کی بیوی نے اپنے بیان کے دوران جو کچھ کہا، اس سے زید کو یہ لگا کہ بیوی کے بیان کے مطابق وہ اپنی والدہ سے سراسر جھوٹ واقعہ بیان کر رہا ہے، زید کی باتیں اور اس کی بیوی کی باتیں سن کر زید کی والدہ نے بھی زید کو ہی ڈانٹنا پھٹکارنا شروع کر دیا اور کہنے لگیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنی سختی سے کیوں پیش آتا ہے؟ اور ہمیشہ اپنی بیوی سے کیوں جھگڑتا رہتا ہے، ان باتوں سے زید کو یہ لگا کہ اس کی بات نہیں سنی جا رہی ہے اور والدہ بھی اس کی بیوی کی ہی طرف داری کر رہی ہیں، ان باتوں کا زید کے دل و دماغ پر بہت غلط اثر پڑا اور اس نے اپنا آپا کھو دیا اور اس کا ذہنی توازن بھی برقرار نہیں رہا اور شدید غصہ میں اور تقریباً جنون کی حالت میں وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اپنی والدہ سے کہا کہ بس میں دے رہا ہوں، ’’طلاق، طلاق، طلاق‘‘ پھر اس کی والدہ اور بھابھی نے زید کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا، تو پھر طلاق، طلاق، طلاق کے الفاظ کہہ دیئے، یہاں پر یہ واضح رہے کہ زید نے طلاق کے الفاظ ادا کرتے وقت نہ تو اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر اسے مخاطب کیا تھا اور نہ ہی اس کا نام لیا تھا؛ بلکہ اس کے برعکس جب زید غصہ اور جنون کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا تھا، تو اس کی بیوی مار کھانے کے ڈر سے اس جگہ سے بھاگ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔

یہاں پر یہ بھی واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ زید اپنے بچپن سے ہی حد درجہ کا غصہ کرنے والا ہے اور بات بات پر فوری طور پر اپنا ذہنی توازن کھودیتا ہے اور اس دوران وہ کچھ بھی عول فول بک جاتا ہے، جس کا بعد میں اسے بیحد افسوس بھی ہوتا ہے اور اس کی تلافی کے لئے سب سے معافی بھی مانگتا ہے، اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں زید کی ناک کا آپریشن ہوا ہے اور وہ ابھی بھی زیر علاج ہے، انگریزی دواؤں کے استعمال سے اس کے دماغ پر شدید درجہ گرمی و خشکی کا اثر ہوا ہے اور وہ ہمیشہ شدت کی جلن اور چڑچڑاپن کا شکار رہتا ہے،

اس وجہ سے بھی اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوری طور پر طیش آجاتا ہے، علاوہ ازیں زید کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور اسے واپس اپنے کام پر قطر جانا ہے، اس وجہ سے بھی علاج کے سلسلہ میں اور گھریلو مسئلوں کے بابت وقت کی کمی کے باعث اسے ہمیشہ چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے اور ہمیشہ ذہنی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے؛ کیونکہ زید کو اپنی آنکھوں کے علاج کے سلسلے میں ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق چھٹی بھی جانے کا وقت نہیں مل پارہا ہے اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پارہا ہے کہ اتنے کم وقت میں وہ اتنا لمبا سفر کیسے طے کرے اور وقت کے اندر واپس اپنے کام پر قطر کیسے پہنچ سکے؟ نیز اس سلسلہ میں بھی فیصلہ نہیں کر پارہا ہے؛ لہذا وہ اس وجہ سے بھی ذہنی الجھن میں مبتلا رہتا ہے۔

اوپر بتائے گئے حالات اور پریشانیوں کے مد نظر زید کافی دنوں سے ذہنی الجھن اور کشمکش کا شکار رہتا تھا اور ان سب حالات کا اس کے ذہن پر بہت گہرا اثر تھا، جس کے تحت اس نے چھوٹے سے جھگڑے کے دوران غصہ و طیش کی حالت میں جنونی ڈھنگ سے طلاق کا لفظ استعمال کیا، زید نے اپنی والدہ کو پریشان کرنے کے لئے ان کے سامنے جتلاتے ہوئے ایسا کیا تاکہ انہیں بھی ذہنی تکلیف ہو، اور طلاق کا لفظ کہنے کے بعد والدہ کو بھی قصور وار بھی ٹھہرایا کہ اس کی ذمہ دار آپ ہیں، جس کا بعد میں زید کو افسوس ہوا۔

اس واقعہ کے بعد زید نے فوراً مسجد جا کر دو رکعت صلاۃ التوبہ ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی ندامت ظاہر کی اور توبہ کی، زید کو اپنی بیوی سے کوئی شکایت و شکوہ نہیں ہے، اور یہ احساس کیا اور گھر والوں کو بھی بتایا کہ اس سارے واقعات میں زید کی ہی غلطی ہے اور اس کی بیوی کی غلطی نہیں ہے؛ بلکہ یہ بھی احساس کیا کہ زید نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم کیا ہے، زید کی بیوی نے زید کی خدمت کا حق ادا کیا ہے، زید کو یہ احساس ہے کہ آئندہ قطعی ناراض نہیں ہوگا اور اسے حد درجہ پسند کرتا ہے۔ اور اس واقعے کے لئے تصدیق کرنے والے دو (witness) کے نام بھی درج ذیل ہیں۔

(۱) میں مسعود عالم انصاری یہ تصدیق کرتا ہوں کہ زید (محفوظ عالم میرا بھائی) ہمیشہ غصے کی حالت میں آکر بالکل جنون میں (تقریباً مجنوں) آجاتا ہے اور اس کی کیفیت جنونی ہو جاتی

ہے۔ **گواہ:** مسعود عالم

(۲) میں مقبول عالم انصاری بھی تصدیق کرتا ہوں کہ زید میرا بھائی ہے اور اس کی کیفیت غصے میں واقعی جنونی ہو جاتی ہے۔ **گواہ:** مقبول عالم

المستفتی: محمد عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ کی تفصیل سامنے آئی ہے، کوئی آدمی خوشی میں طلاق نہیں دیتا ہے، غصے ہی کی حالت میں طلاق دیتا ہے، اور غصہ کی حالت میں آدمی اعتدال پر نہیں رہتا ہے اور بے اعتدالی کی حالت میں آکر طلاق دے دیتا ہے، چاہے ماں پر غصہ ہو کر طلاق دے رہا ہو، یا بیوی پر غصہ ہو کر طلاق دے رہا ہو اور طلاق دینے کے بعد اس کو جو افسوس ہوا اور ۲ رکعت صلاۃ التوبہ ادا کی، تو توبہ سے گناہ تو معاف ہو جائے گا، مگر طلاق کی جدائیگی ختم نہیں ہوئی ہے؛ لہذا مذکورہ واقعہ میں طلاق مغلطہ واقع ہو چکی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان اب حلالہ شرعیہ کے بغیر نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

ويقع في حالة الغضب والمذاكرة بلانية. (شامي، كتاب الطلاق،

باب الكنايات، مطلب لا إعتبار بالإعراب هنا، زكريا ديوبند ۵۳۳/۴، كراچي ۳/۱/۳۰)

ورده ابن السيد: فقال: لو كان كذلك، لم يقع على أحد

طلاق؛ لأن أحداً لا يطلق حتى يغضب. (بذل المجهود، مطبوعه مركز الشيخ

الندوي اعظم گڑھ ۱۷۹/۸)

ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان، لكان لكل أحد أن يقول فيما

جناہ: كنت غضباناً. (فتح الباری، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق

..... اشرفیہ دیوبند ۹/۹۷، تحت رقم الحدیث: ۵۲۷۲، دارالفکر ۹/۳۸۹، ارشاد الساری، دارالفکر ۱۲/۳۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۷ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۸/۹۹۴۵)

کیا غصہ میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟

سوال [۶۱۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شوہر عبدالرحمن نے غصے کی حالت میں تین بار بیوی سے طلاق کا لفظ کہہ دیا، کہنے کے بعد فوراً شوہر نے اللہ سے بے حد توبہ کی اور معافی مانگی اور آج تک یہی عالم ہے، کیونکہ نہ تو شوہر ہی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی بیوی، دونوں بے حد پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ رہیں، کیا وہ بغیر حلالہ کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کے دوبارہ نکاح کی کیا صورت ہوگی؟

المستفتی: عبدالرحمن، محلہ چوبان، جمپور، نئی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غصہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، جب شوہر کی زبان سے تین بار بیوی کے لئے طلاق کا لفظ نکلا ہے، تو اس سے شرعی طور پر تین طلاق واقع ہو چکی ہیں۔ اب بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح درست نہیں ہوگا۔

ویقع طلاق من غضب. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی طلاق المدہوش،

زکریا دیوبند ۴/۴۵۲، کراچی ۳/۲۴۴)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها.

(عالمگیری، زکریا قدیم دیوبند ۱/۴۷۳، زکریا جدید ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفیہ دیوبند ۲/۳۹۹، قدوری، امدادیہ دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ ربیع الاول ۱۴۱۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۶/۲۱۷)

غصہ کی حالت میں بیوی کا نام لئے بغیر طلاق دینا

سوال [۶۱۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے بہت غصہ میں بیوی کا نام لئے بغیر ایک سانس میں چار چھ لوگوں کے سامنے بیوی کو تین مرتبہ لفظ طلاق کہا، مگر بیوی نے نہیں سنا، تو کیا یہ طلاق ہوگئی یا نہیں؟ اس کو ہم پھر رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: نزاکت حسین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غصہ کی حالت میں بھی طلاق پڑ جاتی ہے، اور طلاق واقع ہونے کے لئے بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی بیوی کا سننا ضروری ہے؛ لہذا سوال نامہ میں درج کردہ صورت میں بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اب بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے، بغیر حلالہ کے دونوں کے درمیان نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

ویقع طلاق من غضب. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی طلاق المدہوش،

زکریا دیوبند ۴/۴۵۲، کراچی ۳/۲۴۴)

لو قال لزوجتہ: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قدیم ۲۱۹)

ویقع طلاق کل زوج عقل بالغ ولو مکراً. (علمگیری، زکریا ۱/۳۵۳، جدید ۱/۴۲۰)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحررة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى

تنكح زوجاً غیره نکاحاً صحیحاً، ویدخل بها، ثم یطلقها أو یموت عنها.

(ہندیہ، زکریا قدیم دیوبند ۱/۷۳، زکریا جدید ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۶ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۲۳۸/۹۹)

حالت غضب میں دو طلاق

سوال [۶۱۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ادیب الرحمن نے اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں دو مرتبہ طلاق دیدی، یہ لڑکے کا حلیہ بیان ہے، لڑکے کی ماں بھی موقع پر موجود تھی، وہ بھی دو مرتبہ طلاق دینے کی گواہی دیتی ہے؛ لیکن ادیب الرحمن کی بیوی کا بیان ہے چار مرتبہ طلاق دی ہے۔ تو دریافت یہ کرنا ہے کہ کس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور کتنی طلاق ہوئی؟ کیا بیوی کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعی حکم سے مطلع فرمائیں۔

المستفتی: مشاہد، الباغ نئی آبادی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر دو ہی مرتبہ طلاق کے الفاظ استعمال کئے ہیں، تو اس کی بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں اور عدت کے اندر رجعت کی گنجائش ہے۔
 وقعتا رجعتین لو مدخولا بہا، كقوله: أنت طالق، أنت طالق.

(در مختار، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا دیوبند ۴/۶۳، کراچی ۲۵۲/۳)

اور بیوی کا چار مرتبہ کا دعویٰ بغیر شرعی گواہ کے معتبر نہیں۔

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل،
 وامرأتين سواء كان الحق مالا، أو غير مال، مثل النكاح، والطلاق. (هدایہ،
 اشرفی دیوبند ۳/۱۵۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۲۳۶/۷۸۸)

غصہ میں طلاق دی مگر کتنی بار دی یاد نہیں

سوال [۶۱۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور اس کی بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ہندہ نے اپنے لڑکوں کو لے کر زید پر حملہ کر دیا اور اس قدر ہندہ اور اس کے لڑکوں نے مارا کہ زید نے شدتِ غضب کی حالت میں ہندہ کو طلاق دے دی؛ لیکن زید کو نہیں یاد کہ لفظ طلاق کتنی بار کہا؟

المستفتی: منظور علی، مقام دپوسٹ: بسور، فیض آباد (پوٹی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر زید کو کتنی بار طلاق دی یاد نہیں ہے، اور دوسرے لوگوں نے سنا ہے، تو اگر ان کے قول پر اعتماد ہے، تو اتنی طلاق شمار ہوں گی، جتنی وہاں موجود معتبر حضرات بتلائیں۔

سوال نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس کے بالغ لڑکے موجود ہیں اور اگر وہاں معتبر گواہ موجود نہیں ہیں، تو جتنی بار اس کو یاد ہے، اتنی کا اعتبار ہوگا۔

وإن كان بحال لو غضب يجرى على لسانه مالا يحفظه بعده جاز له

الاعتماد على قول شاهدين. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب في طلاق المدھوش،

مصری ۲/۲۸۷، کراچی ۳/۴۴، زکریا دیوبند ۴/۴۵۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲/۲۸۷ الحجۃ ۱۴۰۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۵/۱۵۳۳)

بحالت غضب تین طلاق جبکہ بیوی حاملہ بھی ہو

سوال [۶۱۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد تسلیم نے غصہ کی حالت میں اپنی بیوی کو تین بار سے زائد طلاق دیدی اور بیوی

حاملہ ہے، تو عرض یہ ہے کہ غصہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی؟ جبکہ بیوی حمل سے ہے اور کوسی طلاق واقع ہوگی؟

المستفتی: محمد تسلیم دیوان کا بازار، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق غصہ ہی کی حالت میں دی جاتی ہے اور حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا محمد تسلیم نے جب اپنی بیوی کو غصہ میں تین طلاقیں دیدی ہیں، تو طلاق مغلطہ واقع ہوگئی اور بیوی شوہر پر بالکل حرام ہوگئی۔ بغیر حلالہ شرعیہ کے دوبارہ نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

ویقع طلاق من غضب. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی طلاق المدہوش،

کراچی ۳/۲۴۴، زکریا ۴/۴۵۲)

وحل طلاقهن أي الآیسة، والصغيرة، والحامل. (شامی، زکریا

کراچی ۳/۲۳۲، ۴/۴۳۴)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، والأصل فيه قوله تعالى: 'فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره'. (هدایہ،

باب الرجعة اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، قلدوری، امدادیہ دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۷/۷/۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷/رجب المرجب ۱۴۲۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸، ۹۰۴۹)

غصہ میں تین طلاق دینا

سوال [۶۱۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے غصہ میں اپنی بیوی سے ایک ہی سانس میں اس طرح کہہ دیا کہ میں نے

تجھے طلاق دی، ایک ہی سانس میں تینوں بار کہہ دیا، اس وقت میرے کمرہ میں میری بیوی کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا، نہ ہماری ان باتوں کو کسی نے سنا ہے۔ علمائے کرام کی کیا رائے ہے؟ میری بیوی کو طلاق ہوگئی یا نہیں؟ یا نکاح میں گنجائش ہے؟

المستفتی: منزل نبی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں جو حالات مذکور ہیں اور طلاق کا جو واقعہ نقل کیا گیا ہے، اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر بیوی شوہر پر بالکل حرام ہوگئی ہے اور طلاق کے واقع ہونے کے بعد جو چارپانچ دن ساتھ میں رہنا ہوا ہے، وہ بدکاری ہوئی ہے، دونوں کو اس بدکاری سے توبہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب اگر دونوں ایک ساتھ میں رہنا چاہیں تو بغیر حلالہ شرعی اور تجدید نکاح کے جائز نہیں ہوگا۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه

والنظائر قدیم ص: ۲۱۹)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (ہندیہ، زکریا قدیم دیوبند ۱/۴۷۳، زکریا جدید ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹،

قدوری، مکتبہ امدادیہ دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۶/۱۲/۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۸۷۳/۳۷)

حالت غضب میں آٹھ، نو مرتبہ ”میں تمہیں طلاق دیتا ہوں“ کہنا

سوال [۶۱۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں آٹھ یا نو مرتبہ ان الفاظ میں طلاق دی کہ ”میں

تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اب سوال یہ ہے کہ ان الفاظ سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر واقع ہوئی تو کتنی طلاقیں ہوئیں اور دوبارہ ایک ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہونے کی کیا صورت ہے؟

المستفتی: نسرین، کسرول، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غصہ کی حالت میں جن الفاظ کے ساتھ آپ نے طلاق دی ہے، ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۳۶۹/۹)

ویقع طلاق من غضب خلافاً لابن القیم۔ (شامی، کتاب الطلاق، مطلب

فی طلاق المدہوش، زکریا ۴/۴۵۲، کراچی ۳/۲۴۴)

اور سوال نامہ میں مذکورہ صورت میں شروع کی تین طلاقوں کے ذریعہ بیوی مطلقہ ثلاثہ ہو کر شوہر کے لئے حرام ہو چکی ہے اور بقیہ طلاقیں لغو ہیں، اب بغیر حلالہ شرعی کے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام ہے۔

کر لفظ الطلاق وقع الكل۔ (در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب طلاق

غیر المدخول بہا، زکریا ۴/۵۲۱، کراچی ۳/۲۹۳، ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۶، زکریا جدید

۱/۴۲۳، الأشباہ والنظائر قدیم ۱۹/۲)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له

حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، والأصل فيه قوله تعالى: فلا تحل له

من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. (ہدایہ، کتاب الطلاق، باب الرجعة، اشرفی

دیوبند ۲/۳۹۹، وھكذا في العالمگیریة، زکریا ۱/۴۷۳، زکریا جدید ۱/۵۳۵،

قدوري، امدادیة دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۶/۹ھ

کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۶۷۷)



(۷) باب طلاق السكران والجنون

حمل اور نشہ میں طلاق کا حکم

سوال [۶۱۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نشہ کی حالت میں گھر میں داخل ہوا، تو ان کی بیوی ان کو اور ساتھ ہی ان کی والدہ کو برا بھلا کہنے لگی، تو زید نے نشہ کی حالت میں اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر زیادہ بات کرو گی تو طلاق دیدوں گا، پھر بھی ان کی بیوی نہیں مانی تو زید نے اپنی بیوی کو کہہ دیا دو مرتبہ طلاق، طلاق، اور یہ بات زید نے دو آدمیوں کے سامنے کہی اور زید کی بیوی ۹ ماہ کے حمل سے ہے، طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: محبوب خاں، مغلپورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کی حالت میں اور حمل کی حالت میں دونوں میں شوہر کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں بر تقدیر صحت واقعہ زید کی بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں، عدت کے اندر رجعت کر کے رہ سکتے ہیں۔

عن عبد اللہ بن مقسم [ؓ] قال: سمعت سلیمان بن یسار، يقول: إن رجلا من آل البختری طلق امرأته وهو سکران، فضربه عمر الحد، وأجاز علیه طلاقه. (سنن سعید بن منصور، باب ماجاء فی طلاق، دارالکتب العلمیة بیروت ۱/۲۷۰، رقم: ۱۱۰۶)

عن الشعبي في طلاق الحامل يطلق عند الأهلة. (مصنف عبد الرزاق،

كتاب الطلاق، باب طلاق الحامل، المجلس العلمي ۶/۳۰۳، رقم: ۱۰۹۳۳)

لو مدخولا بها، كقوله: أنت طالق، أنت طالق. (در مختار، كتاب الطلاق، باب الصريح، كراچی ۲۵۲/۳، زکریا دیوبند ۴/۴۶۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶/ذی قعدہ ۱۴۱۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۱/۲۲۰)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۶/۱۱/۱۴۱۵ھ

نشہ اور حمل کی حالت میں طلاق کا حکم

سوال [۶۱۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہر نے شراب کے نشہ میں اپنے آپ سے باہر ہو کر پہلے تو اپنی بیوی کو مارا بعد ازاں غصہ میں بھر کر یوں کہا ”تجھے طلاق، طلاق، طلاق“ تو کیا اس صورت میں بیوی بالکل نکاح سے نکل گئی؟ یا کوئی صورت رجوع کی ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نشہ کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی اور اسی طرح حالت حمل میں طلاق نہیں پڑتی، صحیح حقیقت وضاحت کے ساتھ مطلوب ہے۔

المستفتی: محمد حنیف، آزادنگر، سرسیدنگر، کرولہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہیں، حسب تحریر جب شوہر نے بیوی کو نشہ کی حالت میں تین طلاق دیدی ہے، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر شوہر پر وہ قطعی طور پر حرام ہو چکی۔ اب آئندہ بغیر حلالہ شرعیہ کے اس عورت کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔

عن مالک أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران؟ فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به.

(المؤطا للإمام مالك، كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق، النسخة الهندية ۳۷۲، رقم: ۸۲،
تخریج فوائد عبد اللہ الباقي ۲۱۸۵، تخریج الأعظمی)

ویقع طلاق کل زوج بالغ عاقل ولو تقدیراً. بدائع: لیدخل السكران (إلى قوله) أوسكران ولوبنبيذ أو حشيش أو أفيون أو بنج زجرأ به يفتى وفي الشامية: يقع زجرأ وعليه الفتوى، وتماهه في النهر. (شامي مع الدر المختار، كتاب الطلاق، زكريا ديوبند ۴/۳۸ تا ۴۶۶، كراچی ۳/۲۳۵ تا ۲۴۰، ونحو ذلك في التاتارخانية، زكريا ۴/۳۹۴، رقم: ۶۵۰۹، الدر المنتقى دارالكب العلمية بيروت ۲/۱۰) ولو قال لامرأته الحامل: أنت طالق للسنة تقع في الحال واحدة، وبعد شهر أخرى، وبعد شهر أخرى. (تاتارخانية، زكريا ۴/۳۸۵، رقم: ۶۴۸۵) عن الحسن قال: سئل جابر عن حامل كيف تطلق؟ فقال: يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تضع. (مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، ما قالوا في الحامل كيف تطلق؟ مؤسسة علوم القرآن جديد ۹/۵۱۲، رقم: ۱۸۰۴۳) لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأسباه والنظائر قديم ۲۱۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۱۲۵)

شرابی کے ”اس کو طلاق دی“ کہنے کا حکم

سوال [۶۱۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ موقع پر بیوی نہیں تھی نہ ہی کوئی جھگڑا اور نہ ہی کوئی کہا سنی ہوئی، طلاق دینے والا شخص عبد الغنی شراب کے نشہ میں دھت تھا اور وہ اپنی بہن کے گھر تھا، بہن نے اسے سمجھایا کہ تو شراب مت پیا کر، اس بات کو لے کر اس نے طلاق کا لفظ کہا ہے، کس کو دی بیوی کو یا شراب کو معلوم نہیں، صبح جب ہوش میں آنے کے بعد اس کو رات کا واقعہ بتایا گیا، تو اس نے اس سے لاعلمی کا اظہار کیا، اور طلاق دینے سے منع کر رہا ہے۔

(۱) گواہ حافظ سعید کہتے ہیں کہ عبدالغنی نے کہا کہ میں نے اس کو طلاق دی، کسی کا نام نہیں لیا، تین بار طلاق دی۔

(۲) گواہ نفیسہ بیگم کہتی ہے کہ میں نے طلاق دی تین بار کہا کسی کا نام نہیں لیا۔

المستفتی: حافظ سعید، رام نگر منڈی، نیلی تال، اتر اکھنڈ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر طلاق دینے سے پہلے بیوی کا ذکر ہوا ہے، تو اس کے یہ کہنے سے میں نے اس کو طلاق دی، اس کی بیوی پر یقیناً طلاق واقع ہوگئی ہے، اور اگر نشہ میں بالکل مدہوش تھا اور طلاق سے قبل نہ تو بیوی کا ذکر ہوا، نہ بیوی سامنے موجود تھی؛ بلکہ بیوی اس گھر میں موجود ہی نہیں تھی، وہ دوسری جگہ تھی اور اسی حالت میں اس نے بیوی کا نام لئے بغیر طلاق کے الفاظ کہے اور اسے ہوش آنے کے بعد ان الفاظ کا کہنا یاد بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی؛ اس لئے کہ وقوع طلاق کے لئے یا تو بیوی کا سامنے ہونا ضروری ہے یا غائب ہونے کی صورت میں ایسا لفظ بولا جائے جس سے بیوی کی طرف اشارہ مقصود ہو اور مسئلہ صورت میں ایسا اشارہ موجود نہیں ہے۔

ويؤيده ما في البحر لو قال: امرأة طالق، أو قال: طلقت امرأة ثلاثاً، وقال: لم أعن امرأتي يصدق، ويفهم منه أنه لو لم يقل ذلك تطلق امرأته؛ لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها فقولہ إنی حلفت بالطلاق ينصرف إليها ما لم يرد غيرها؛ لأنه يحتمله كلامه. (شامي، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب سن بوش يقع به الرجعي، زكريا ۴/ ۵۸، كراچی ۲۴۸/۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۵ھ/۶/۱۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ جمادی الثانیہ ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۱۵۵۸/۴۰)

کیا نشہ کی طلاق معتبر ہے؟

سوال [۶۱۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو نشہ کی حالت میں طلاق دی، پھر جب اس کی بیوی اور دو عورتوں نے گواہی دی کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو اس شخص نے انکار کر دیا کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو کیا اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: نظام الدین ندوی استاذ ائمن معاون الاسلام، سنبھل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لیکن سوال نامہ میں کتنی طلاقیں دی ہیں، اس کی صراحت نہیں ہے اگر ایک یا دو طلاق دی ہے تو شوہر کو رجعت کا حق ہے اور اگر تین طلاق دی ہیں تو شوہر کو رجعت کا حق نہیں ہے اور اگر شوہر سرے سے طلاق کا ہی انکار کر رہا ہے اور عورت کے پاس شرعی گواہ نہیں ہیں، صرف عورتوں کی شہادت ہے، مگر بیوی نے خود اپنے کان سے سنا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا اس شوہر کے پاس رہنا قطعاً جائز نہیں، خلع کی شکل میں کچھ مال وغیرہ دے کر جان چھڑانے کی کوشش کرے۔

عن ابن جریج قال: أجاز عمر بن عبد العزيز إذا كان عاملاً على المدينة طلاق السكران، فقال عبيد الله بن أيمن: طلق رجل امرأته رملة ابنة طارق، فأجازها معاوية عليه. (مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب طلاق السكران، المجلس العلمي ۷/۸۳، رقم: ۱۲۳۰۱)

وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجراً وعليه الفوى.

(الدر المتقي، كتاب الطلاق، قبيل باب إيقاع الطلاق، قديم ۱/۳۸۴، جديد ۲/۱۰)

أما السكران إذا طلق امرأته، فإن كان سكره بسبب محظور بأن

شرب الخمر أو النبيذ طوعاً حتى سكر و زال عقله، فطلاقه واقع عند عامة العلماء وعامة الصحابة. (بداء الصنائع، كراچی ۳/۹۹، زکریا ۳/۱۵۸)

حتى إذا شهد بالطلاق رجل وامرأة، أو شهد به أربع نسوة ليس معهن رجل لا تقبل؛ لأن الطلاق مما يطلع عليه الرجال. (المبسوط السرخسي، دارالكتب العلمية بيروت ۶/۱۵۰)

المرأة كالقاضي إذا سمعته، أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه. والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها؛ بل تفدي نفسها بمالٍ أو تهرب. (شامي، زکریا ۴/۴۶۳، كراچی ۳/۲۵۱، هندية، زکریا قديم ۱/۳۵۴، زکریا جديد ۱/۴۲۲) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۱۳۳۳ھ

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۰۹۴۸)

کیا نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟

سوال [۶۱۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ طلاق کا ایک مسئلہ الجھا ہوا ہے، براہ کرم پوری صورت واقعہ کو ملاحظہ فرما کر حکم شرعی سے آگاہ فرمائیں۔ زید جو کہ ادھیڑ عمر کا شخص ہے اور عام حالات میں نماز وغیرہ کا پابند ہے؛ لیکن کبھی کبھی شراب پیتا ہے، اسی حالت میں دو بار پہلے اپنی بیوی ہندہ کو ایک ایک طلاق دے چکا ہے اور اس کو بتلایا جا چکا ہے کہ اب اس کے پاس صرف ایک طلاق کا اختیار باقی بچا ہے، اگر ایک طلاق بھی دیدی، تو بیوی حرام ہو جائے گی، ادھر تقریباً ایک ماہ قبل زید پانچ سو روپے لے کر صبح گھر سے نکلا اور شام کے وقت اس حال میں گھر لوٹا کہ بری طرح نشہ میں مست تھا؛ بلکہ ہوش و حواس بھی غائب تھے، کپڑے کیچڑ میں لت پت، راستہ میں جماعت

سے وابستہ دو جوان ملے، تو ان کو گالیاں بھی دیں، رکشہ والے سے بھی گالی گلوچ کیا؛ جبکہ ہوش و حواس میں ایسا کرنا زید سے بہت مستعد ہے، گھر پہنچنے پر بچے سنبھال کر اوپر لے گئے، کپڑے اتروا کر غسل کرنے میں مدد دی، پھر ہندہ نے کھانا دیا، زید کھانا کھا کر ایک کمرہ میں لیٹ گیا، ہندہ اور اس کے دو جوان العرلڑ کے دوسرے کمرے میں چلے گئے، تقریباً دس بجے شب میں زید نے ہندہ کو اپنے کمرہ میں بلایا، تھوڑی دیر کے بعد ہندہ وہاں سے حواس باختہ بچوں کے پاس لوٹ کر آئی اور اس نے بتلایا کہ زید نے اس کو طلاق دیدی اور یوں کہا کہ طلاق دی کام ختم۔

یہی جملہ ہندہ نے اور ایک دو رشتہ داروں کے سامنے دھرایا، ایک مقامی عالم سے مسئلہ معلوم کر کے زید و ہندہ میں علیحدگی کرادی گئی، زید یہ کہتا ہے کہ مجھے ہوش دودن بعد آیا، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں نے اس دن ہندہ سے کیا کہا تھا، نہ اس کو طلاق دینے کا اقرار ہے نہ انکار۔

اب زید بہت پریشان ہے، اس کا کہنا ہے کہ میری ہندہ سے نہ کوئی لڑائی تھی نہ طلاق دینے کا ارادہ تھا۔ نیز یہ کہ ہندہ کچھ کا کچھ سن لیتی ہے؛ لہذا اس سے اچھی طرح پوچھا جائے کہ میں نے کیا کہا تھا؛ چنانچہ واقعہ کے دو ہفتہ کے بعد ہندہ سے استفسار کیا گیا کہ زید نے اس رات کیا کہا تھا، تو بعض رشتہ داروں کے سامنے تو وہی جملہ دہرایا کہ طلاق دی کام ختم، بعض سے کہا کہ طلاق لوجاؤ، بعض سے کہا ایک بچی ہے، وہ بھی لے کر جاؤ۔ اب اس صورت میں کیا حالت نشہ میں طلاق واقع ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا؟ جبکہ زید نشہ میں ہوش و حواس کھو چکا تھا، اسے طلاق کا نہ اقرار ہے نہ انکار اور کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے، جو بھی حکم ہو آگاہ فرمایا جائے۔

المستفتی: عبدالقوی، مکان B17/90 تل بھنڈیشور پارک، دارانی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگر واقعی اس نے یہ لفظ کہا ہے کہ طلاق دی کام ختم، تو ایسی صورت میں بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو چکی

ہے اور شوہر چونکہ نشہ کی حالت میں تھا، اسے کوئی خبر نہیں ہے؛ اس لئے حکم شرعی کا سارا مدار یہوی کے سننے پر ہے، اگر یہوی نے اپنے کان سے سن رکھا ہے تو طلاق واقع ہو چکی ہے، اس کے لئے اس شوہر کے پاس رہنا قطعاً جائز نہیں ہے۔

عن عمر بن عبد العزیز یقول: طلاق السكران والمکره جائز. (شرح معانی الآثار، للطحاوی، کتاب الطلاق، باب طلاق المکره، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۶۶۷، رقم: ۴۵۵۷)

وطلاق السكران واقع إذا سکر من الخمر أو النبیذ وهو مذہب أصحابنا. (المحیط البرہانی، کتاب الطلاق، الفصل الثالث، المجلس العلمي ۴/۳۹۱، رقم: ۶۵۰۹، ہندیہ، زکریا ۱/۳۵۳ جدید زکریا ۱/۴۲۳)

ویقع طلاق کل زوج عاقل بالغ ولو مکرهاً، أو کان الزوج سکران زائل العقل، فإن طلاقه واقع. (مجمع الأنهر قدیم ۱/۳۸۴، جدید دارالکتب العلمیہ بیروت ۸/۲۶)

والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه. والفتوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها؛ بل تفدي نفسها بمال، أو تهرب (قوله) أنها ترفع الأمر للقاضي، فإن حلف ولا بنية لها، فلائنه ثم عليه. (شامي، كراچی ۳/۲۵۱، زکریا ۴/۶۶۳، البحر الرائق، كوئٹہ ۳/۲۵۷، زکریا ۳/۴۳۹، تبیین الحقائق، مكتبه امداديه ملتان ۲/۲۱۸، زکریا ۳/۸۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ ربیع الثانی ۱۴۳۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۸/۱۰۰۰۳)

نشہ کی حالت میں طلاق دی؛ لیکن گواہ نداد اور شوہر منکر ہے

سوال [۶۱۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ میں نے جھگڑے کے درمیان حالت نشہ میں بیوی سے کہا کہ تم کو طلاق دیدوں گا، تو ایک دوسرے آدمی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میری بیوی برابر کے دوسرے گھر میں چلی گئی اور میں جا کر سو گیا، ایک مرد طلاق کا اظہار کرتا ہے؛ لیکن تردد کے ساتھ کہتا ہے کہ دی کہا تھا کہ دیتا ہوں کہا تھا؛ لیکن قطعی طور پر کوئی بات نہیں بیان کر رہا اور ایک عورت کہتی ہے کہ تین طلاق دی، تو اس صورت میں میری بیوی پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر طلاق واقع ہوگئی تو کتنی طلاق واقع ہوگئی؟

المستفتی: مجید خاں، لالباغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حالت نشہ میں بھی طلاق دینے سے شرعاً طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لیکن اس میں شوہر کا اقرار یا دو عادل مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شرعی شہادت شرط ہے۔

مذکورہ صورت میں یہ شرط مفقود ہے، اس لئے شرعاً طلاق واقع ہو جانے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

وما سوی ذلک من الحقوق یقبل فیہ رجلاً، أو رجل وامرأتان سواء كان الحق مالاً، أو غیر مال، مثل النکاح، والعناق، والطلاق. (قدوری، کتاب الشہادۃ، مکتبۃ امدادیۃ دیوبند ص ۶ ۴۸ تا ۲۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۵/۱۶۸۳)

نشہ کی حالت میں طلاق دینا

سوال [۶۱۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بہن جس کی شادی تقریباً ۸ سال قبل محمد نفیس ولد حاجی رئیس احمد مغل پورہ کے

ہمراہ ہوئی تھی اور مبلغ دس ہزار مغل مہر قرار پائے تھے، شادی کے بعد معلوم ہوا کہ لڑکا بد فعل ہے یہاں تک کہ شراب پیتا ہے، یہ اس کی پرانی عادت تھی، جس کا علم ہم کو شادی کے وقت نہ تھا، اس درمیان اس کے تین بچے ہوئے، دو لڑکے اور ایک لڑکی جس میں لڑکا بڑا ہے، شادی کے چند سال بعد اس کی بد فعلی میں اضافہ ہوتا گیا اور روزمرہ شراب پینے لگا اور بہن کو طرح طرح سے تکالیف پہنچانے لگا، کبھی بہن سے کہتا ہے کہ گھر سے پیسے لے کر آ، جس قابل ہم تھے حتی الامکان کوشش کی اور لگ بھگ آٹھ یا دس ہزار روپیہ سے مدد بھی کی؛ لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہیں آیا اور برائیاں بڑھتی ہی چلی گئیں، اور لوگوں سے اس نے دھوکہ دھڑی سے روپیہ لینا شروع کر دیا، جس سے وہ بہت زیادہ قرض دار ہو گیا، اس کے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھ کر تنبیہ کی نیت سے ہم نے بہن کو روک لیا کہ بیوی بچوں کی محبت میں اس کو سمجھ آ جائے اور اپنے آپ کو سدھار لے؛ لیکن وہ روزانہ شراب پی کر گھر آ جاتا اور ہم سب لوگوں کو گالیاں بکتا، دو چار روز جب یہی حالات چلتے رہے، تو ہم نے اس کے عزیز واقارب یعنی اس کی والدہ اس کے بڑے بھائی کو بلا کر یہ حالات بتائے، وہ بھی اس وقت موجود تھا اور وہ بدتمیزی میں بہت آگے بڑھ گیا اور اس نے کہا کہ اس کو ابھی طلاق دیتا ہوں، سامان کی لسٹ نکالو اور اپنا دیا ہوا مال واپس لے لو، اس وقت اس کے ماموں اور بڑے بھائی نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے خاموش کر دیا اور ہم سے کہا کہ وہ شراب پئے ہوئے تھا، آپ اس کی باتوں پر نہ جاؤ اور دو چار دن کے بعد پھر وہ شراب پی کر آ گیا اور یہ بات کہی کہ ”میں اس کو طلاق دے چکا“ میرے بچے مجھے واپس دیدو، محلہ کے کچھ لوگ آگئے اور اس کو وہاں سے واپس بھیج دیا، پھر کچھ دن بعد آیا اور میری بہن پر آوارگی کا الزام لگایا اور یہ کہا کہ بڑا لڑکا میرا ہے اور دو چھوٹے بچے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، اس کی بدتمیزی پر ہم نے اسے مار بھگایا، میرے چچا کے یہاں گیا اور ان سے کہا تمہاری بیٹی بہت آوارہ ہے اور ”میں نے اسے طلاق دیدی“ اور اب میں اس کو نہیں رکھوں گا، ہم لوگ گھر پر موجود نہیں تھے، نماز پڑھنے گئے تھے، ہمارے پیچھے آیا اور پھر گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا اور یہ کہا

کہ میں اسے نہیں رکھوں گا اور ’نہ ہی طلاق دوں گا‘ اور اس کو یہیں پر سڑا دوں گا، ہم نے جو اس کے بڑوں سے شکایت کی ان لوگوں نے اس پر یہ صفائی پیش کی کہ آپ شرابی کی باتوں پر نہ جائیں، شراب سے تو آدمی میں ہوش ہی نہیں رہتا، ہم نے کہا کہ وہ شراب میں نجاست میں منہ کیوں نہیں ڈالتا یا اپنی ماں بہن سے بدتمیزی کیوں نہیں کرتا، کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو دہلی رہا کر دیا، جس کو آج لگ بھگ تین سال ہو چکے ہیں، اس درمیان نہ وہ ہمارے یہاں آیا اور نہ بیوی بچوں سے ملا اور نہ ہی خرچ بھیجا، اس درمیان میاں بیوی نے ایک دوسرے کی صورت بھی نہیں دیکھی۔

اب ہم نے ان کو خرچ کا نوٹس بھیجا تو اس کے گھر والوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ وہ یہاں سے بھاگ گیا، ہم اس کے گھر والوں سے بھائی اور والدہ سے کئی بار ملے اور ان سے کہا کہ ہماری بہن کو آزادی دلادو؛ کیونکہ اب اس کے ساتھ کیسے نباہا ہو سکتا ہے۔ اب وہ لوگ ہم کو پریشان کر رہے ہیں کہ وہ دہلی سے آجائے یا ہم کو مل جائے تو ہم تمہاری بہن کو آزادی دلوادیں گے (حالانکہ ان کو علم ہے کہ وہ کہاں ہے) اب سے پانچ ماہ قبل میرے دوست نواب کو وہ دہلی کی جامع مسجد کے نزدیک ملا، اس سے کہا کہ میں نے اس کو طلاق دیدی ہے۔ اب میں کسی دن آکر اس کا سامان واپس کر دوں گا، اس تین برس کے عرصے میں اس نے رجوع کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔

(۱) موجودہ حالات کے پیش نظر شریعت اسلام کا حکم طلاق کے متعلق کیا ہے؟

(۲) اس میں حدود طلاق کی شرائط پوری ہو گئیں یا نہیں؟

(۳) ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیا کر چاہئے؟

المستفتی: اختر حسین، اندرا چوک، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حنفی مذہب میں شرابی کے نشہ کی حالت میں طلاق دینے

سے شرعی طور پر طلاق واقع ہو جاتی ہے اور صورت مذکورہ میں محمد نفیس نے اپنی بیوی کو دو مرتبہ طلاق دی ہے؛ لہذا نفیس کی بیوی پر دو طلاق واقع ہو چکی ہیں۔

عن ایوبؓ عن الحسن و ابن سیرین سمعہما یقولان: یجوز طلاق السكران، ویجلد جلداً. (مصنف عبد الرزاق، کتاب الطلاق، باب طلاق السكران، المجلس العلمي ۸۲/۷، رقم: ۱۲۹۹۷)

وطلاق السكران واقع إذا سکر من الخمر أو التیذ وهو مذہب أصحابنا. (ہندیہ، زکریا قدیم ۳۵۳/۱ زکریا جدید ۴۲۳/۱، المحيط البرہانی، المجلس العلمي ۳۹۱/۴، رقم: ۴۶۳۴، الفتاویٰ التاتاریخانیہ، زکریا ۴/۴، رقم: ۶۵۰۹، شامی، زکریا ۴/۴۶۶، کراچی ۲۴۰/۳)

نیز سوال نامہ سے واضح ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد میاں بیوی کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی ہے اور باقی رجعت بھی نہیں کی ہے اس لئے محمد نفیس کی بیوی پر دو طلاق بائن کا ثبوت ہو کر بیوی شوہر سے آزاد ہو چکی ہے دوبارہ آزادی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور طلاق کے بعد عدت بھی گزر چکی ہے۔

وانقضت العدة فقال كنت راجعتها في العدة فصدقتہ فہي رجعية وإن كذبتہ فالقول قولها (ہدایہ، اشرفی دیوبند ۳۹۵/۲، قدوری، امدادیہ دیوبند ۱۷۷، الموسرعة الفقہة ۷۱/۱/۴۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۱ھ/۸/۱۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ شعبان المعظم ۱۴۱۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف)

نشہ کی حالت میں دی گئی طلاق کا حکم

سوال [۲۱۴۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ ایک شخص نے مجلس واحد میں نشہ کی حالت میں اپنی منکوحہ کو تین طلاقیں دیں، رات کا وقت تھا، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا رات تم نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی، میں نے کہا مجھ کو کچھ پتہ نہیں، نہ میرا بیوی سے کوئی جھگڑا ہے، جب مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں بہت رویا اس کے بعد میری بیوی اور بچوں کو بھی سسرال والے اپنے گھر واپس لے گئے، دس مہینہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اب وہ شخص اس فعل بد سے توبہ کر چکا ہے، پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے بیوی بچہ نہایت پریشان و غمگین ہیں؛ لہذا مہربانی فرما کر صرف قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمادیتے گا۔

المستفتی: محمد سعید رحلہ: تحصیل اسکول مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نشہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ شدت نشہ میں اس کو خیال بھی نہ رہا ہو، طلاق بہر حال واقع ہو چکی ہے۔

عن ابن المسيب قال: يجوز طلاق السكران. (مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب طلاق السكران، المجلس العلمي ۷/۸۳، رقم: ۱۲۳۰۳)

وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ، وهو مذهب أصحابنا. (شلمی، كتاب الطلاق، مطلب في الحشيشه، والأفيون، والبيخ، زكريا ۴/۴۴۸، كراچی ۳/۲۴۱)

اور جب تین طلاق دی ہیں، تو طلاق مغلظہ واقع ہو کر بیوی بالکل حرام ہو چکی ہے۔ اب بلا حلالہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، زکریا جدید ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، قدوری، مکتبہ امدادیہ دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ ر شعبان المعظم ۱۴۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۳/۵۲۲۳)

حالت نشہ میں دی ہوئی طلاق کا حکم

سوال [۶۱۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں ریٹشمہ خاتون ہوں، میری شادی آٹھ سال پہلے اختر عرف منا سے ہوئی تھی، میرے دو بچے بھی ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی میں خوش تھی، مگر قریب چار سال پہلے میرے شوہر نے شراب کے نشہ میں کئی بار طلاق دی، مگر جب نشہ اترتا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ میں نے تجھے طلاق نہیں دی، کئی بار یہی سلسلہ چلا، مگر پھر میں نے خود ظاہر میں طلاق مانگی، مگر میرے شوہر نے منع کر دیا، یہاں تک کہ میں عدالت میں طلاق کے لئے گئی، مگر میرے شوہر نے طلاق دینے سے انکار کر دیا، میں پھر اپنے باپ کے گھر آ کر رک گئی اور لڑکی کو ساتھ لے کر آگئی اور کچھ وقت کے بعد میں نے دوسرا نکاح کر لیا، اور میں اپنے دوسرے شوہر چاند کے ساتھ رہنے لگی اور اسی دوران میرے ایک لڑکی دوسرے شوہر سے ہوئی، جو چاند کی ہے، چاند شادی شدہ ہے، جس کی پہلی بیوی بھی ہے، مجھے یہ معلوم تھا کہ چاند پہلے سے شادی شدہ ہے؛ لیکن میں اس پر بھی خوش تھی، مگر دو سال پہلے ہم میاں بیوی میں تکرار ہونے لگی اور میرا شوہر زیادہ وقت اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گزارنے لگا اور اب میں اگر اس سے کہتی ہوں کہ اگر مجھے نہیں رکھا جا رہا ہے، تو طلاق دیدو، تو وہ کہتا ہے کہ طلاق کیسی مجھ سے تیرا نکاح ہی نہیں ہوا ہے؛ کیونکہ پہلے شوہر سے طلاق نہیں ہوئی تھی، تو میرا نکاح کیسے ہوا؟ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اس مسئلہ میں معلومات کرائیں اور بتائیں کہ میں کیا کروں؟

المستفتی: نبی احمد، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شوہر اول کی حالت نشہ میں دی ہوئی طلاق واقع ہوگئی ہے، دوسرا نکاح جو چاند سے ہوا ہے، وہ نکاح صحیح ہے، اگر آپ کا شوہر چاند آپ کو نہیں رکھنا

چاہتا ہے، تو طلاق ضروری ہے، آپ کے شوہر کا یہ سمجھنا کہ پہلے شوہر کے نکاح سے نہیں نکلی ہے درست نہیں ہے؛ بلکہ پہلے شوہر کے نکاح سے نشہ کی حالت میں تین مرتبہ طلاق کے بعد آپ مکمل طور پر نکل گئی ہیں۔

اب اس طلاق کے بعد اگر اس کے ساتھ رہی ہیں، تو حرام کاری ہوئی ہے اور تین ماہواری گزرنے کے بعد جب آپ نے دوسرا نکاح کیا ہے، تو شرعی طور پر یہ نکاح ہو چکا ہے، آپ دوسرے شوہر ہی کی بیوی ہیں۔

عن سعید بن المسیب قال: طلاق السكران جائز. (المصنف لابن أبي شيبة،

كتاب الطلاق، من أجاز طلاق السكران، مؤسسة علوم القرآن ۵/۹، رقم: ۱۸۲۶۳)

أوسكر ولو بنبيذ (وتحتہ في الشامية) أي سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو غيرها إلى قوله: المختار في زماننا لزوم الحد ووقوع الطلاق. (الدر المختار، كتاب الطلاق، مطلب في تعريف السكران وحكمه، زكريا ديوبند ۴/۴۴۴، كراچی ۲۳۹/۳)

أما السكران إذا طلق امرأته، فإن كان سكره بسبب محظور بأن شرب الخمر أو النبيذ طوعاً حتى سكر وزال عقله فطلاقه واقع عند عامة العلماء وعامة الصحابة. (بدائع الصنائع، فصل في شرائط ركن الطلاق، وبعضها يرجع إلى الزوج، كراچی ۳/۹۹، زكريا ديوبند ۳/۱۵۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۵/۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶/جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۶۲۵)

ٹیلیفون سے حالت نشہ میں طلاق دینا

سوال [۶۱۴۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ ایک شخص شراب کا عادی ہے، اس کی شادی کو تقریباً چار سال ہو گئے، شادی کے دو چار مہینے کے بعد ہی سے وہ دس بیس بار اس بات کو کہہ چکا ہے کہ میں تجھے طلاق دیدوں گا، برابر دھمکی بھی دیتا رہا کہ میں تجھے طلاق دیدوں گا، اس نے ۵ رمضان کو اس کی چھوٹی بہن سے فون پر کہا کہ تمہاری بہن کو طلاق دیدوں گا، اس کے بعد اس نے ۲۶ رمضان کو فون کیا، فون اس کی بیوی نے اٹھایا، اس نے اس سے کہا کہ ”میں نے تجھے طلاق دی“ یہ جملے اس نے سات آٹھ بار کہے، اس کے اگلے دن اس نے پھر فون کیا، اگلے دن فون پر لڑکی کے بڑے بھائی سے یہی بات کہی کہ میں نے تمہاری بہن کو طلاق دیدی، لڑکی کے گھر والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ دونوں دفعہ نشہ کی حالت میں تھا۔

المستفتی: محمد یامین، شاہجہاں پور، (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر شوہر فون پر طلاق کا انکار نہ کرے اور مستفتی سے زبانی معلوم ہوا کہ شوہر اقرار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں فون پر دی گئی طلاق معتبر ہوگئی اور جب تین سے زائد بار طلاق دیدی ہے، تو اس سے طلاق مغلظہ واقع ہو کر شوہر پر بیوی بالکل حرام ہوگئی ہے۔ اب بلا حلالہ نکاح بھی درست نہ ہوگا اور نشہ کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔

كما استفيد من هذه العبارة وقرأه على الزوج، فأخذه الزوج وختمه وعونه وبعث به إليها، فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه كتابه. (شامي، كتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة، زكريا ٤٥٦/٤، كراچي ٣/٢٤٧، هندية، زكريا قديم ١/٣٧٩، جلد ١/٤٦٦، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤١٧٦/٣٤، الفتاوى التاتارخانية، زكريا ٤/٥٣١، رقم: ١٦٨٤٣)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها.

(ہندیہ، زکریا قدیم ۴۷۳/۱ جدید زکریا ۵۳۵/۱، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۳۹۹/۲، قدوری، مکتبہ امدادیہ دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۶/۱۰/۲۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ شوال المکرم ۱۴۲۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۷۳۶/۷۸۳)

نشہ کی حالت میں طلاق

سوال [۶۱۴۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے سالے نے شراب پی کر نشہ کی حالت میں اپنی اہلیہ کو طلاق دیدی ہے اور اہلیہ بھی قبول کر رہی ہے، اور کم از کم اس نے الفاظ طلاق کو چار پانچ مرتبہ دہرایا ہے، تو مذکورہ صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد یونس کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں بیوی پر طلاق مغلطہ واقع ہو کر بیوی شوہر پر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے؛ کیونکہ نشہ کی حالت میں طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اب اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو حلالہ شرعیہ لازم ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ اس طلاق کی عدت گزارنے کے بعد عورت کسی دوسرے مرد سے شرعی نکاح کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری ہو اور ہم بستری کے بعد وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دیدے، اس کے بعد پھر عورت کی عدت گزار جائے، تو پہلا شوہر اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔

عن أبي ليلى أن عمرًا أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة. (المصنف لابن أبي

شيبه، كتاب الطلاق، من أجاز طلاق السكران، مؤسسة علوم القرآن ۵۵۶/۹، رقم: ۱۸۲۷۰)

وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ، وهو مذهب أصحابنا. (المحيط البرهاني، كتاب الطلاق، الفصل الثالث، المجلس العلمي ۳۹۱/۴، رقم: ۶۵۰۹، ہندیہ، زکریا ۳۵۳/۱)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قديم ص: ۲۱۹)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (ہندیہ، زکریا ۱/۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵ ہدایہ، اشرفی بکڈپو دیوبند ۲/۳۹۹، قدوری، مکتبہ امدادیہ دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲/۲/۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲/محرم الحرام ۱۴۳۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۱۰۲۶۲/۳۹)

نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۱۴۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ۲۴ اپریل جمعرات کے دن میں نے شراب پی رکھی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت نشہ میں تھا، مجھے خود اپنا ہوش نہیں تھا، جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی میری لڑکی گھر پر تھی، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ امی ترکاری لینے گئی ہیں، میں نشہ میں تھا ہی لیٹ گیا، مجھے نیند آگئی سو گیا، جب ۲-۳ گھنٹہ کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے پوچھا کہاں گئی تھی، اس نے جواب دیا ترکاری لینے گئی تھی، میں نے کہا اتنی دیر کیوں ہوگئی، تو اس نے کہا کہ امی کے گھر بیٹھ گئی تھی، میں نے کہا کیوں بیٹھ گئی؟ صبح میں نہار منہ ڈیوٹی پر گیا تھا، تجھے کچھ کھانا بنا کر رکھنا تھا، تو وہ بولی کیا ہوا بنا تو رہی ہوں، اس پر میں نے نشہ کی حالت میں

اس سے کہا، تو یہاں سے نکل جا اس پر اس نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گی، اس پر میں نے اس کے ایک چپت لگا کر کہا، جاؤ اپنی امی کے گھر جاؤ، اس نے کہا پہلے مجھے طلاق دو جب جاؤں گی، میں نے اسے تین بار ”طلاق، طلاق، طلاق“ لفظ کہا، تو کیا یہ طلاق ہوگئی یا نہیں؟ مجھے اسے اپنے گھر میں رکھنے کا حق ہے یا نہیں؟ وہ میرے نکاح میں رہی یا نہیں؟ موقع کا کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ میں نشہ کی حالت میں تھا، مجھے اپنا ہوش نہ تھا مجھے معلوم نہیں۔

المستفتی: محمد عزیز ولد کریم اللہ، بشن پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کی حالت میں بھی طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے: اس لئے آپ کی بیوی کو تین طلاقیں ہو گئیں، اس کے ساتھ دو بارہ نکاح نہیں ہو سکتا، عدت گزارنے کے بعد یہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے اور اگر پہلے ہی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ حلالہ شرعیہ کرا لے، اس کے بغیر پہلے شوہر کے ساتھ رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔

عن عبد الرحمن بن عنبسة، أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران و جلده. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، من أجاز طلاق السكران۔ مؤسسه علوم القرآن ۹/۵۵۵، رقم: ۱۸۲۶۴)

ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدا أو مكرها أو هازلاً أو سفيهاً أو سكران، ولو بنيذ أي سواء كان سكره من الخمر، أو الأشرطة الأربعة المحرمة، أو غيرها من الأشرطة إلى أن قال: المختار في زماننا لزوم الحد و وقوع طلاق. (الدرمع الرد، كتاب الطلاق، ملتب قي تعريف السكران و حكمه، زكريا ۴/۴۴۴، كراچي ۲/۲۳۹)

وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ وهو مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى. (عالمگیری، زکریا قدیم ۱/۳۵۳، زکریا جدید

دیوبند ۱/۴۲۰، الفتاویٰ التاتارخانیة، کوئٹہ ۳/۲۵۶، زکریا دیوبند ۴/۳۹۴،
رقم: ۶۵۰۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶/صفر المظفر ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۹۴۱/۳۶)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۲/۲۶ھ

نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۱۴۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے شوہر شراب پیتے ہیں اور دوسرے نشہ بھی کرتے ہیں، نشہ میں مجھ سے لڑتے ہیں اور مجھے مارتے بھی ہیں، ایک دن وہ کسی عورت سے ملنے گئے تھے، اس بات کا مجھے پتہ چل گیا، تو جب وہ آئے تو میں نے ان پر غصہ کیا، تو اس بات پر انہوں نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ ”تجھے طلاق دوں؟“ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ جا ”میں نے تجھے طلاق دی“ اور انہوں نے مجھے تین یا چار مرتبہ طلاق نہیں کہا؛ بلکہ ۱۵/۲۰ بار طلاق کہا، کہ جا میں نے تجھے طلاق دی، دو تین سال پہلے بھی میرے شوہر مجھے طلاق دے چکے ہیں، مگر میرے سسرال والوں نے مجھ سے یہ کہا، ہم نے فتویٰ نکلوا لیا ہے کہ نشہ میں طلاق نہیں ہوئی، مگر آگے ذہن میں رکھنا۔

یہ واقعہ تیسری مرتبہ ہوا ہے، اب جب انہوں نے مجھے طلاق دی، تو میں نے اپنی امی کو فون کیا، تو میری والدہ نے مجھ سے کہا، ان کے پاس سے الگ ہو جاؤ، مگر میرے پاس ان سے الگ ہونے کی کوئی جگہ نہیں تھی؛ کیونکہ میں اس وقت ان کے ساتھ کرناٹک میں تھی اور وہاں کا سفر دو دن دورات ہے، جس کی بناء پر میں وہاں سے نہیں آسکی اور میرے والد صاحب اس وقت آسام میں تھے، وہ نہیں آسکتے تھے، مجھے لے لے کے لئے اور میرا کوئی بڑا بھائی بھی نہیں ہے، پھر میں نے ہی کوشش کی اور وہاں کے مولانا سے اس بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں طلاق ہوگئی ہے۔

میرا یہ واقعہ مارچ کے مہینہ کا ہے اور ان کے پاس پانچ مہینہ گزار کر مراد آباد آئی ہوں۔ اب آپ سے یہ درخواست ہے کہ مہربانی کر کے مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا مجھے اب عدت کرنی چاہئے یا نہیں؟ مہربانی کر کے میرے حق میں جو صحیح ہے، وہ فتویٰ دے دیجئے اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟

المستفتیہ: صبیحہ خاتون، جامع مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر ۱۴-۱۵ طلاق دی ہیں، تو ان میں سے صرف تین طلاق واقع ہوں گی، اور باقی لغو ہو جائیں گی، اور اس سے طلاق مغلطہ واقع ہو کر بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گی۔ اب آئندہ دونوں کے درمیان نکاح بھی بغیر حلالہ کے درست نہ ہوگا اور اس طلاق کے بعد دونوں میاں بیوی جو ساتھ رہے ہیں، اس سے حرام کاری ہوتی رہی ہے، سچے دل سے توبہ کر لیں اور دونوں کا فوری طور پر الگ ہونا لازم ہے۔

لوقال: أنت طالق مراراً، أو ألوفاً، أو لا قليل ولا كثير فثلاث، هو المختار كما في الجوهرة (تحتہ في الشامیة) أي فيقع به الثلاث يلغو الزائد. (الدرمع الرد، كتاب الطلاق، باب الصريح، زكريا ديوبند ۴/ ۵۰۴، كراچی ۲۸۰/۳)

عن داؤد بن عباد بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله له، وأما تسع مئة وتسعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء غفر له. (مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب المطلق ثلاثاً، المجلس العلمي ۶/ ۳۹۳، رقم: ۱۱۳۳۹) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ شوال المکرم ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۷۹۷)

نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم

سوال [۵۱۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نام چاندنی ہے، میرے شوہر کا نام کلیم قرہ ہے، تین مہینہ سے بہت جھگڑے چل رہے ہیں، آپسی جھگڑوں کی وجہ سے کلیم نے ۱۵ نشہ کی گولیاں کھالیں، اس نشہ کی حالت میں اور زیادہ جھگڑے کئے، بہت پریشان کیا اور اسی نشہ کی حالت میں سب محلہ والوں کے سامنے چاندنی کو دو بار طلاق کہا اور چاندنی وہاں موجود تھی، دو بار چاندنی کے سامنے کہا اور تیسری بار محلہ والوں نے سنا تھا اور اب کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کب میں نے کیا کہہ دیا اور چاندنی کے تین لڑکے ہیں، ایک لڑکا آٹھ سال کا ہے اور دوسرا چھ سال کا ہے اور تیسرا چار سال کا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں کہاں تک گنجائش ہے؟ چاندنی بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے، وہ بلند شہر کا رہنے والا ہے اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، اب آپ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا کریں گے۔

المستفتیہ: چاندنی، محلہ چیرغیب، مراد آباد (پونہ)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نشہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ نشہ کی مستی کی وجہ سے یاد بھی نہ رہا ہو تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاندنی کے سامنے جو دو طلاق دی ہیں، ان سے دو طلاق واقع ہو گئیں اور تیسری بار جو محلہ والوں نے سنا ہے، وہ اگر پہلی دونوں طلاق کی خبر نہیں ہے، تو اس سے بھی ایک طلاق واقع ہو گئی طلاق واقع ہونے کے لئے بیوی کا سدنا ضروری نہیں صورت مسئلہ میں تینوں طلاقیں واقع ہو کر بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو گئی؛ لیکن سوال نامہ میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ بیوی کے سامنے

کس طرح طلاق دی اور محلّہ والوں کے سامنے کب دی اور کس طرح دی؟ یہ بات واضح ہونی ضروری تھی۔

عن عطاء قال: يجوز طلاق السكران، إنه ليس كالمریض المغلوب علی عقله، إنما أتى ما أتى، وهو يعلم أنه يقول ما لا يصلح ويعلمه. (مصنف عبدالرزاق، کتاب الطلاق، باب طلاق السكران، المجلس العلمي ۷/۸۲، رقم: ۱۲۲۹۶)

وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ، وهو مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى. (شامی، کتاب الطلاق، زکریا ۴/۴۸، کراچی ۳/۲۴۱، ہندیہ، زکریا دیوبند ۱/۳۵۳)

وأما السكران إذا طلق امرأته، فإن كان سكره بسبب محظور بأن شرب الخمر، أو النبيذ طوعاً حتى سكر وزال عقله، فطلاقه واقع عند عامة العلماء وعامة الصحابة. (بدائع الصنائع، زکریا ۳/۱۵۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۷۳۶۳۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۸/۶/۱۴۲۵ھ

نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۱۴۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے نشہ کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق کہہ دی اور تین دفعہ کہا، تو کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگی اور میری بیوی میرے ساتھ رہنے پر راضی ہے، ایسی صورت میں کیا کروں؟ جواب سے نوازیں۔

المستفتی: آصف علی ولد صابر علی، ساکن کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور جب نشہ کی حالت میں تین طلاق دیدیں، تو بیہوشی پر طلاق مغلظہ واقع ہوگئی، وہ شوہر پر بالکل حرام ہوگئی ہے۔

عن الحسنؓ وابن سیرین سمعہما یقولان: یجوز طلاق السكران، ویجلد جلدًا. (مصنف عبد الرزاق، کتاب الطلاق، باب طلاق السكران، المجلس العلمی ۸۲/۷، رقم: ۱۲۲۹۷)

وطلاق السكران واقع إذا سکر من الخمر أو النبیذ، وهو مذہب أصحابنا رحمہم اللہ تعالیٰ. (شامی، کراچی ۲۴۱/۳، زکریا ۴۴۸/۴، الفتاوی التاتاریخانیہ، زکریا ۳۹۴/۴، رقم: ۶۵۰۹، وھکذا فی الدر المننقی قدیم ۳۸۴/۱، دارالکتاب العلمیہ بیروت ۱۰/۲)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (ہندیہ، زکریا ۴۷۳/۱، جدید زکریا ۵۳۵/۱، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۳۹۹/۲، قدوری، مکتبہ امدادیہ دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵/۲/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ صفر المظفر ۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۸۲۵۰۳۷)

نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۱۴۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد فیضان نے نشہ کی حالت میں اپنی بیوی کا نام لے کر تین مرتبہ طلاق

دی، ایسی صورت میں محمد فیضان کی بیوی نکہت جہاں پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اور دوبارہ نکاح میں رکھنے کی کیا صورت ہوگی؟

المستفتی: محمد عظیم اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کی حالت میں بھی شرعاً طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا جب محمد فیضان نے اپنی بیوی نکہت جہاں کو نشہ کی حالت میں تین مرتبہ طلاق دیدی ہے، تو اس پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر شوہر کے لئے وہ قطعی طور حرام ہو گئی ہے، اگر دوبارہ ساتھ رہنا چاہے، تو حلالہ، شرعیہ کے بغیر جائز نہ ہوگا اور شرعی حلالہ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ شوہر کی طلاق کے بعد تین ماہ واری گزارنے کے ذریعہ عدت پوری کر لے، اس کے بعد کسی دوسرے مرد سے شرعی نکاح کر کے ہمبستر ہو جائے، پھر دوسرا شوہر طلاق دیدے، پھر تین ماہ واری کے ذریعہ عدت گذر جائے، پھر اس کے بعد محمد فیضان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ، ۱۲/۲۸۳-۲۸۶)

طلاق السكران واقع إذا سکر من الخمر أو النبیذ، وهو مذہب أصحابنا رحمہم اللہ تعالیٰ. (ہندیہ، زکریا ۱/۳۵۳، جدید زکریا ۱/۴۲۰ تاتار خانیہ، زکریا ۴/۳۹۴، رقم: ۶۵۰۹)

طلاق المکرہ والسكران وخلعہما وإعتاقہما واقع. (تاتارخانیہ، زکریا ۴/۳۹۵، رقم: ۶۵۱۲)

ومن سکر من البنج یقع طلاقہ، ویحد لفسو هذا الفعل بین الناس وعلیہ الفتوی فی زماننا. (ہندیہ، ۱/۳۵۳ جدید زکریا ۱/۴۲۱)

ویقع طلاق کل زوج عاقل بالغ ولو مکرہاً، أو کان الزوج سکران زائل العقل، فإن طلاقہ واقع. (مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیہ ۲/۸)

لو قال لزوجتہ: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قدیم ص ۲۱۹)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها.
(الفتاوى العالمگیریة، زکریا ۱/۴۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵، الفتاوی التاتاریخانیة، زکریا ۵/۴۷، رقم: ۷۵۰۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳ھ/۲۷

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷/صفر المظفر ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف: ۱۰۶۱۸/۳۹)

نشہ کی حالت میں طلاق معلق دینا

سوال [۶۱۴۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حامد کی دو بیویاں ہیں، ایک دن اس نے شراب کے نشہ میں چور ہو کر ایک بیوی سے یہ الفاظ کہہ دیئے کہ اگر تو نے اپنی ماں سے بات چیت کی تو تجھے تین طلاقیں، بعد میں اس نے کہا کہ میری اسی دن بات چیت سے روکنے کی نیت تھی، دوبارہ پوچھنے پر اس نے کہا کہ تین ماہ تیرہ دن بات چیت سے روکنے کی نیت سے میں نے منع کیا تھا، لڑکی کی ماں اکثر بیمار رہتی ہے اور اس کے سوا ماں کا کوئی سہارا نہیں؛ لہذا کوئی حل کتاب و سنت کی روشنی میں تحریر فرمائیے۔

المستفتی: غیاث صدیقی، کلینک نوپ شہر روڈ جمال پور، علی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ شخص نے شراب پی کر گناہ عظیم کا ارتکاب کیا ہے؛ لہذا اس پر صدق دل سے توبہ کرنا لازم ہے، تاہم اگر حامد کی بیوی نے حامد کے مذکورہ الفاظ کہنے کے بعد اپنی ماں سے بات کی تو تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی، حامد کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ اب طلاق سے بچنے کے لئے صرف دو ہی صورتیں ہیں: ایک تو یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرتی رہے بات نہ کرے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طلاق لے کر اس سے بے تعلق ہو جائے، جب عدت تین حیض ختم ہو جائے تو حامد کی بیوی اپنی ماں سے بات کر سکتی ہے۔ نیز اب اگر حامد دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر لیتا ہے، تو اب بیوی کا اپنی ماں سے بات چیت کرنے سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی؛ کیونکہ اس شرط کا تحقق ایسی حالت میں ہوا کہ وہ بیوی محل طلاق نہیں رہی؛ بلکہ مطلقہ ہو کر انقضائے عدت کے بعد اجنبیہ بن گئی۔

فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة، ثم بعد العدة تدخلها، فتحل اليمين فينكحها. (الدرمع الرد، زكريا، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب مهمة الإضافة للتعريف للتعقيد، زكريا ۴/ ۶۰۹، كراچي ۳/ ۳۵۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹/ رجب ۱۴۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۷۸۶۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵/۷/۹ھ

شراب کے نشہ میں طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۱۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے بروز جمعہ شراب کے نشہ میں حویلی کے ایک معزز آدمی کو بلا کر اور کچھ عورتیں بھی موجود تھیں، اپنی بیوی سے کہا ”میں نے آپ کو طلاق، طلاق، طلاق دی“ بیوی گیارہ بچوں کی ماں ہے، بعد میں بیوی کے بھائی کی دوکان پر جا کر کہا میں نے تمہاری بہن کو طلاق دیدی ہے، وہاں بھی چند لوگ جمع تھے، یہ سلسلہ دو دن ہوا، فتویٰ دیں کون سی طلاق واقع ہوئی؟

المستفتی: غلام حسین، فقیر پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شراب کے نشہ میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی

ہے؛ لہذا جب زید نے اپنی بیوی سے کہا ”میں نے طلاق، طلاق، طلاق دی“ تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہوگئی اور اپنے شوہر کے لئے بالکلیہ حرام ہوگئی۔

عن سعید بن المسیب قال: طلاق السكران جائز. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، من أجاز طلاق السكران، مؤسسة علوم القرآن ۵۵/۹، رقم: ۱۸۲۶۳)

و طلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ، وهو مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى؛ كذا في المحيط. (عالمگیری، زکریا دیوبند ۳۵۳/۱ جدید زکریا ۱/۴۲۰، المحيط البرهانی، کتاب الطلاق، الفصل الثالث، المجلس العلمي ۳۹۱/۴، رقم: ۴۶۳۴)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قديم ۲۱۹) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲/۶/۶ھ

کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۵ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۸۰۶۸/۳۷)

نشہ کی حالت میں دو طلاق دینا

سوال [۶۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو نشہ کی حالت میں دو طلاق دیدیں، بیوی کا بیان بھی یہی ہے کہ دو مرتبہ طلاق دی، اب تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اب دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، شرعی حکم تحریر فرمائیں کہ طلاق ہوئی تو کونسی ہوئی؟

المستفتی: محمد رئیس، محلہ چوک محمد سعید، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر طلاق صرف دو مرتبہ دی ہے، تو اس سے دو طلاق

واقع ہو چکی ہیں اور اس واقعہ کی مدت چونکہ ڈیڑھ سال تک ہو چکی ہے؛ اس لئے اس درمیان میں عدت بھی پوری ہو چکی ہے؛ اس لئے اب اگر دونوں ساتھ رہنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کر کے ہی رہ سکتے ہیں۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا، کقولہ: أنت طالق، أنت طالق .

(در مختار، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۶۳، کراچی ۲۰۲/۳)

ومبدأ العدة بعد الطلاق وبعد الموت على الفور، وتنقضي العدة وإن

جهلت المرأة بهما . (الدر مع الرد، کتاب الطلاق، باب العدة، کراچی ۲۰۲/۳،

زکریا ۵/۲۰۲، کذا فی الهدایة، اشرفی دیوبند ۲/۴۲۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ رجب المرجب ۱۴۱۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۸/۳۲۴)

شراب کے نشہ میں تین طلاق دینا

سوال [۶۱۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری لڑکی شاداب جہاں کی شادی انور حسین ساکن بروالان میں ۴ سال پہلے ہوئی تھی، اس سے ایک لڑکی بھی ہے، انور حسین روزانہ شراب پیتا ہے اور گھر میں مار پیٹ کرتا ہے، عید میلاد النبی کے دن لڑکی اپنے میکہ آئی ہوئی تھی، وہ شراب پی کر آیا اور گالیاں دینے لگا اور تین بار طلاق طلاق کہہ کر چلا گیا، اور کہا میں نے تجھ کو طلاق دیدی، اس بات کو کراہیہ داراوردیگر لوگوں نے بھی سنا ہے۔

المستفتی: عبد القیوم، وارثی نگر، جامع مسجد مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مسئلہ صورت میں شوہر انور حسین نے واقعہ اگر اپنی

بیوی شاداب جہاں کو تین بار طلاق، طلاق، طلاق کا لفظ کہا ہو، تو اس کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اب عدت گزرنے کے بعد حلالہ شرعیہ کے بغیر میاں بیوی جیسی زندگی گزارنا جائز نہیں ہے اور نشہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

عن عبد الرحمن بن حرملة قال: طلق جار لي سكران، فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب؟ فقال: إن أصيب فيه الحق، فرق بينه وبين امرأته، وضرب ثمانين. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، من أجاز طلاق السكران، مؤسسة علوم القرآن ۹/۵۵۵، رقم: ۱۸۲۶۵)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية، اشرفي بکڈپو دیوبند ۲/۳۹۹، عالمگیری، زکریا ۱/۴۷۳/۱ جدید زکریا ۱/۵۳۵، قدوری، مکتبہ امدادیہ دیوبند ۱۷۸)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قدیم، ۲۱۹)

وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ، وهو مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى. (عالمگیری ۱/۳۵۳، زکریا جدید ۱/۴۲۰، الفتاویٰ التاتاریخانیہ، کوئٹہ ۳/۲۵۶، زکریا ۴/۳۹۴، رقم: ۶۵۰۹، المحيط البرهانی، کوئٹہ ۳/۳۴۸، المجلس العلمي ۴/۳۹۱، رقم: ۴۶۳۴)

ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ ولو مكرهاً، أو كان الزوج سكران زائل العقل، فإن طلاقه واقع. (ہندیہ، زکریا ۱/۳۵۳ جدید زکریا ۱/۴۲۰ مجمع الانہر دارالکتب العلمیہ ۲/۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۹۷۰)

بحالت نشہ تین طلاق دینا

سوال [۶۱۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نادر نشہ کی حالت میں گھر آیا، گھر میں بیوی سے ملاقات نہ ہونے پر خفا ہو کر لیٹ گیا، پھر کچھ دیر بعد بیوی گھر آگئی، تھوڑی دیر گفت و شنید کے بعد نادر نے بیوی سے کہا، بھاگ جاؤ، ہماری نظر سے دور ہو جاؤ، اس کے آگے نادر کا کہنا ہے کہ میں نے کیا کہا؟ مجھے پتہ نہیں؛ کیونکہ میں نشہ کی حالت میں تھا؛ جبکہ بیوی کا کہنا ہے کہ نادر نے (بیوی کی) بے تکی پٹائی کی اور جب بالکل عاجز آگئی، تو میں (بیوی) نے کہا روز روز کے مارنے سے ایک ہی دن ختم کر دو، تو پھر نادر نے فوراً ہی تین مرتبہ طلاق طلاق کا لفظ اسی جگہ یعنی گھر میں استعمال کیا، پھر بیوی گھر سے باہر آ کر دروازہ پر آ کر کھڑی ہوگئی، تو نادر نے دروازہ بند کر لیا اور پانچ منٹ کے وقفہ وقفہ سے دو مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کیا، پھر دین مہر ادا کرنے کی دھمکی دی، تو مذکورہ حالات کے تحت نادر کے لئے بیوی حلال ہے یا نہیں؟

المستفتی: نادر، بٹن پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ تو جب نشہ کی حالت میں طلاق دینے کا عورت دعویٰ کر رہی ہے اور شوہر انکار بھی نہیں کر رہا ہے تو عورت پر تین طلاق واقع ہو جائیں گی اور بیوی نادر کے لئے حلال نہیں رہے گی، بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ نکاح بھی درست نہیں ہے۔

وطلاق السكران واقع إذا سکر من الخمر أو النبیذ، وهو مذہب أصحابنا رحمہم اللہ تعالیٰ، کذا فی المحيط. (عالمگیری، زکریا

۳۵۳/۱ جدید زکریا ۱/۴۲۰)

ویقع طلاق کل زوج بالغ عاقل، ولو عبداً أو هازلاً أو مکرهاً أو سفیهاً

أوسكران ولو بنييد. قال الشامي: سواء كان سكره من الخمر أو الأثرية المتخذة من الحبوب و العسل عند محمد. (شامي على الدرالمختار، زكريا ۴/ ۴۴۴، كراچی ۲۳۹/۳)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قديم ۲۱۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۹ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۳۶۷۹۹۰)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۳۲۳/۳/۱۹ھ

نشہ کی حالت میں بیوی کو تین طلاق دینا

سوال [۶۱۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ وسیم نے چند آدمیوں کے سامنے نشہ میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں؛ لہذا وسیم کے لئے اس کی بیوی حرام ہوگئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد عمران انصاری، کچا باغ، مراد آباد
 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لہذا جب شوہر نے بیوی کو نشہ کی حالت میں تین طلاقیں دے دی ہیں، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر بیوی شوہر پر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے، اب آئندہ بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ نکاح بھی درست نہیں ہے۔

ویقع طلاق کل زوج بالغ عاقل ولو تقدیراً. بدائع؛ لیدخل الکسران (إلی قولہ) أوسكران ولو بنييد أوحشيش أوأفيون أو بنج زجرأ يفتی به تصحيح القدوري. (شامي مع الدر المختار ۴/ ۴۳۸ - ۴۴۶،

کراچی ۳/۲۳۵-۲۴۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳/ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۰۹۴)

نشہ کی حالت میں طلاق مغلظہ دینا

سوال [۶۱۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے شراب پی کر نشہ کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ (تین طلاق صریح) دے دیں ایک دیگر شخص کی موجودگی میں، تو کیا اس کی بیوی کو طلاق ہوگئی؟

المسفتی: محبوب خاں، نواب پورہ، مسجد حاجی نیک، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حالت نشہ میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ اس لئے جب مذکورہ شخص نے تین طلاق دے دی ہیں، تو اس کی بیوی پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہیں۔ اب بلا حلالہ شرعیہ دوبارہ نکاح بھی درست نہیں۔

وطلاق السكران واقع. (ہدایہ، اشرفی بکڈپو دیوبند ۲/۳۵۸)

کرر لفظ الطلاق وقع الكل. (در مختار، زکریا ۴/۵۲۱)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها.

(ہدایہ، اشرفی بکڈپو دیوبند ۲/۳۹۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶/ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۷/۸۰۵۳)

نشہ میں طلاق مغلظہ دینے کا حکم

سوال [۶۱۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی شبنم کو شراب کے نشہ کی حالت میں تین سے زیادہ مرتبہ طلاق دے دی ہے۔ اب اسے دوبارہ اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہوں، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: سلیم احمد، جامع مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں آپ کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر بیوی آپ کے اوپر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے، آئندہ بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہ ہوگا۔

أما السكران إذا طلق امرأته فإن كان سكره بسبب محظور بأن شرب الخمر أو النبيذ طوعاً حتى سكر و زال عقله فطلاقه واقع عند عامة العلماء وعامة الصحابة. (بدائع الصنائع، زكريا ديوبند ۳/۱۵۸، ۱/۳ کراچی ۹۹/۳)

وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجراً، وعليه الفتوى. (الدر المنتقى قديم ۱/۳۸۴، دارالكتب العلمية بيروت ۲/۱۰، شامي، زكريا ۴/۴۶۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ رذی الحج ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۰۸۰۶/۳۹)

بحالت نشہ تین طلاق دینا

سوال [۶۱۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ ہندہ کی شادی تقریباً بیس سال قبل زید کے ساتھ ہوئی تھی، ایک دن زید نشہ کی حالت میں رات کے وقت گھر آیا ٹیلی ویژن چل رہا تھا، زید نے ہندہ سے کہا ٹیلی ویژن کی آواز کم کر دو، ہندہ سے غلطی سے آواز تیز ہو گئی، اس پر زید بھڑک اٹھا اور بقول ہندہ کے زید نے تین مرتبہ طلاق طلاق کا لفظ کہہ دیا، ہندہ نے گھر والوں کو یہ صورت حال بتلائی، تو گھر والوں نے اس کو گھر بلا لیا، اب صبح کو زید کو ہوش آنے پر زید یہ کہتا ہے کہ میں نے بالکل طلاق نہیں دی ہے، ہو سکتا ہے میں نے دھوکہ سے ایک مرتبہ کہہ دیا ہو۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟

المستفتی: گلزار احمد، شیدی سرائے، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا جب زید نے نشہ کی حالت میں بیوی کو تین مرتبہ طلاق دے دی ہے، تو اس سے بیوی پر طلاق مغضظہ واقع ہو گئی۔ اب بغیر حلالہ کے نکاح بھی درست نہیں اور زید کے انکار کا اعتبار نہیں؛ جبکہ بیوی نے اپنے کان سے تین مرتبہ طلاق سنا ہے اور بیوی کے لئے بغیر حلالہ اس کے پاس جانا ہرگز جائز نہیں ہے۔

أخرج الإمام مالك في الموطأ: أنه بلغه أن سعيد ابن المسيب
وسيلمان بن يسار سئلا عن طلاق السكر، فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه.

(موطأ مالك، النسخة الهندية، زكريا ۲۱۶، رقم: ۸۲)

وطلاق السكران واقع. (هداية، اشرفي بکڈپو دیوبند ۲/۳۵۸)

والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها
تمكينه..... بل تفدي نفسها بمال، أو تهرب. (شامي، زكريا ۴/۶۳،
کراچی ۲/۵۱۳، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۵۷، زكريا ۳/۴۳۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۶۹۳)

نشہ کی حالت میں ایک ہی سانس میں طلاق مغلظہ دینا

سوال [۶۱۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد سبحان نے اپنی بیوی کو شراب پی کر نشہ کی حالت میں تین مرتبہ طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، کہا تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہوگئی یا نہیں اور ایک ہی سانس میں کہا ہے، بیوی اس وقت حاملہ ہے۔

المستفتی: محمد اسلام، محلہ: اصالت پورہ، مراد آباد (یوپی)
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں جب محمد سبحان نے شراب پی کر اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں دیدیں، تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہوگئی؛ اس لئے کہ نشہ کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے۔

لوقال لزوجتہ: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشبہ والنظائر قدیم ص ۲۱۹)

وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ، وهو مذهب أصحابنا. (شامی، کراچی ۳/۲۴۱، زکریا ۴/۴۴۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۹/۳۳۶۳)

نشہ کی حالت میں تین مرتبہ سے زائد طلاق دینا

سوال [۶۱۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں طاہر خان یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے گھریلو مینشن کی وجہ سے نشہ کی گولیاں کھاتا ہوں، اس دن بھی میں نشہ میں تھا، اسی دوران میرا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا،

جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ میں اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا، اسی دوران میں نے اپنی بیوی کو پانچ یا چھ بار طلاق کا لفظ کہہ دیا، میرے کمرے میں میں اور میری بیوی ہی تھی۔ قرآن و حدیث کی رو سے بتائیں کیا یہ طلاق ہوگئی؟ مجھ کو اس کا فتویٰ دیں۔

المستفتی: طاہر خاں

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حالت نشہ میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس لئے جب مذکورہ شخص نے اپنی بیوی پر تین سے زائد مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کیا تو اس سے اس کی بیوی پر تین طلاق واقع ہو گئیں۔ اب بغیر حلالہ، شرعیہ نکاح بھی درست نہیں۔

وفي التاتارخانية: طلاق السكران واقع إذا سكر من النبيذ أو الخمر وهو مذهب أصحابنا. (شامی، زکریا ۴/۴۴۸، کراچی ۲/۳، الفتاویٰ التاتارخانیة، زکریا ۴/۳۹۴، رقم: ۶۵۰۹)

ولو كرر لفظ الطلاق وقع الكل. (شامی، کراچی ۳/۲۹۳، زکریا ۴/۵۲۱، ہندیة، زکریا ۱/۳۵۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ ربیع الاول ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۶/۷۹۵۵)

نشہ کی حالت میں تین سے زائد مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۱۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص ظریف حسین نے شراب پی کر اپنی بیوی کو تین سے زائد مرتبہ طلاق دیدی۔ اب لڑکی اسی شوہر کے پاس رہنا چاہتی ہے، شرعی حکم تحریر فرمائیں؟

المستفتی: جمعہ شاہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب ظریف حسین نے اپنی بیوی کو شراب پی کر نشے کی حالت میں تین سے زائد طلاقیں دیدیں، تو عورت شوہر پر حرام ہوگئی۔

طلاق السكران واقع إذا سکر من الخمر، أو النبیذ وهو مذہب أصحابنا رحمہم اللہ تعالیٰ۔ (شامی، کراچی ۳/۲۴۱، زکریا ۴/۴۴۸)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قدیم ص ۲۱۹)

اب اگر بیوی دوبارہ شوہر کے پاس رہنا چاہتی ہے، تو حلالہ شرعی لازم ہوگا اور اس کی شکل یہ ہے کہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے مراہق یا بالغ مرد سے نکاح کر کے ہمبستری بھی کرے اور پھر وہ شخص آخر اپنے اختیار سے طلاق دیدے، تو پھر عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگیری، زکریا ۱/۴۷۳ جدید زکریا ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، قدوری، مکتبہ امدادیہ ص: دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۹/۳۳۷)

نشہ کی حالت میں چار پانچ مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۱۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شرافت حسین نے اپنی بیوی کو نشہ کی حالت میں چار پانچ مرتبہ طلاق دی، ”طلاق دی“ کہا، شرعاً کونسی طلاق ہوئی؟

المستفتی: محمد ابراہیم، محلہ: اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور جب تین مرتبہ سے زائد طلاق دیدی ہے، تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔

طلاق السكران واقع إذا سکر من الخمر أو النبیذ وهو مذہب أصحابنا رحمہم اللہ تعالیٰ. (شامی، کراچی ۳/۲۴۱، زکریا ۴/۴۸، ہندیہ، قدیم ۱/۳۵۳، جدید زکریا ۱/۴۲۰، المحيط البرہانی، المجلس العلمی ۴/۳۹۱، رقم: ۶۳۴، الفتاویٰ التاتاریخانیہ، زکریا ۴/۳۹۴، رقم: ۶۵۰۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ شعبان المعظم ۱۴۱۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۹/۳۲۷۰)

بیوی کو حالت نشہ میں چھ سات بار ”میں نے تجھے طلاق دی“ کہنا

سوال [۶۱۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد یسین گھر کے اندر شراب پی کر آیا، رات کے قریب اٹھ بجے تھے، اس کی بیوی محمد یسین کے چچا کے گھر موجود تھی، اس نے اپنی بیوی سے کہا ”میں نے تجھے طلاق دی“ اس نے یہ الفاظ کئی مرتبہ کہے گھر کے اندر اس وقت جو لوگ موجود تھے، ان کی شہادت ہے کہ اس نے یہ الفاظ چھ سات مرتبہ کہے، شہادت دینے والوں میں دلشاد حسین، خورشید بیگم، محمد قدیر، نبی حسین موجود تھے، ان کی شہادت سے معلوم ہوا کہ چھ سات مرتبہ طلاق کا لفظ کہا گیا، اور اس کی بیوی کا کہنا بھی یہی ہے، کہ انہوں نے چھ سات مرتبہ کہا، آپ سے گزارش ہے کہ اس کا فتویٰ دیں کہ طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: عبدالقدیر، درگاہ، نبی حسن، اڑپورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب تین مرتبہ سے زائد طلاق کے الفاظ استعمال کر چکا

ہے، تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، اب بلا حلالہ دوبارہ نکاح بھی اس کے ساتھ صحیح نہ ہوگا۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها.
(ہندیہ، زکریا ۱/۷۳۴ جلدید زکریا ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی بکڈپو دیوبند ۲/۳۹۹، قدوری، مکتبہ امدادیہ دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۷۵۵)

حالت نشہ میں کئی بار لفظ طلاق استعمال کرنا

سوال [۶۱۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوں، میری پریشانی اس طرح ہے کہ میں نے ایک سال پہلے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ وہ شخص شرابی ہے، میری بیٹی ہر پریشانی برداشت کرتی رہی، اب اس کی صبح و شام میں ڈیلیوری ہونے والی ہے، کل رات اسی کے شوہر نے خوب شراب پی کر رات کے اربچے اس کو طلاق دیدی، میری بیٹی نے ۶ ماہ بار اپنے کان سے سنا، پھر وہ برابر میں پڑوسی کے یہاں بیٹھ گئی، تو وہاں پر بھی طلاق کی آواز آتی رہی، وہ شخص میری بیٹی کو صحیح نہیں رکھتا ہے، لگ بھگ اس نے ایک ڈیڑھ گھنٹہ تک طلاق دی، تو میری بیٹی کو اس حالت میں طلاق ہوگئی یا نہیں؟ میری بیٹی کی ساس اکثر اس کو طلاق دلوانے کی دھمکی دیتی رہتی تھی۔

المسئفئی: سرتاج بیگم، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور شوہر نے

کئی مرتبہ طلاق کے الفاظ استعمال کئے؛ لہذا آپ کی بیٹی پر طلاق مغلطہ واقع ہوگئی۔ اب شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہ ہوگا۔

طلاق السكران واقع إذا سکر من الخمر أو النبیذ، وهو مذہب أصحابنا رحمہم اللہ تعالیٰ. (شامی، کراچی ۳/۴۱، ۲، زکریا ۴/۴۴۸)

کدر لفظ الطلاق وقع الكل. (درمختار، کراچی ۳/۲۹۳، زکریا ۴/۲۵۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ صفر المظفر ۱۴۱۷ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۲/۳۶۵۵)

نشہ کی حالت میں کئی مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۱۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بدھ کے دن صبح ساڑھے نو بجے میں چرس اور سلفا کے نشہ میں تھا، نشہ مجھے بہت زبردست تھا، مجھ میں اور میری بیوی میں تکرار ہوئی اور گالی گلوچ ہوئی اور نشہ کی حالت میں میں نے اپنی بیوی کو کئی مرتبہ یہ طلاق کے الفاظ کہے، اس وقت مجھے بالکل ہوش نہیں تھا، پھر میری ماں بیوی کو اپنے کمرہ میں لے گئی اور اپنے کمرہ میں لے جا کر اسے کھانا کھلایا اور کپڑے دھلوائے، پھر لڑکی اپنے گھر کو چلی گئی اور میری بیوی میری ماں کے یہاں آتی جاتی ہے، وہ اپنے شوہر کے کمرہ میں نہیں جا رہی ہے، اور وہ اس طلاق کو نہیں مان رہی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا نشہ کی حالت میں طلاق ہوئی یا نہیں؟ اور مجھے نہیں پتہ میں نے کتنی مرتبہ طلاق کا لفظ کہا۔

نوٹ: البتہ لفظ طلاق تین مرتبہ سے زیادہ کہا۔

المستفتی: محمد احمد، نواب پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نشہ کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے، یہاں پر

تین طلاق واقع ہوگئی ہیں۔ اب بیوی بغیر حلالہ کے اس کے لئے حلال نہ ہوگی اور بیوی کے لئے بغیر شرعی حلالہ کے شوہر کے گھر میں آنا جانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۸۹/۹)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. [البقرہ: ۲۳۰]

طلاق السکران واقع إذا سکر من الخمر أو النبیذ، وهو مذہب أصحابنا رحمہم اللہ تعالیٰ! (شامی، زکریا دیوبند ۴/۴۴۸، کراچی ۳/۲۴۱)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها. (هدایة، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، کذا فی الہندیۃ، زکریا ۱/۴۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۱۱/۱۴ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۶۲۲۶/۳۳۲)

طلاق سکران کا تحقیقی جائزہ

شراب کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ شراب ام الفواحش اور ام الخبائث اور ام الکبائر، تینوں برائیوں کی جڑ ہے۔ (الحجج الکبیر رقم: ۱۱۳۷، المعجم الاوسط رقم: ۲۶۶۷)

ہزاروں مسلمان مرد شراب کی نحوست اور مستی میں آکر بیوی کو طلاق دے کر گھر اجاڑ دیتے ہیں؛ اس لئے اس موضوع پر مدلل مضمون اور مقالہ کی ضرورت تھی؛ چنانچہ دیوبند میں ہندوستان بھر کے علماء و مفتیان کرام کا اس موضوع پر ایک فقہی اجتماع ہوا، اس موقع پر اس سیاہ کار نے جو مقالہ پیش کیا تھا اور تمام علماء و مفتیان کرام نے اس سے اتفاق کر لیا تھا، وہ ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا ☆ عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. [سورہ مائدہ: ۹۰-۹۱]

اے ایمان والو! بیشک شراب اور جو اور بت پرستی اور جوے کے تیرے یہ سب شیطان کے گندے اور ناپاک کام ہیں؛ اس لئے ان چیزوں سے بالکل الگ دور رہو تاکہ ان کے دینی اور دنیوی مضرتوں سے نجات پا کر فلاح و کامیابی سے ہم کنار ہو سکو، یقیناً شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعہ سے تمہارے درمیان آپس میں عداوت اور دلوں میں

بغض پیدا کر دے، اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز جیسی عبادت سے روک دے، جب ایسی بری چیز ہے، تو بتلاؤ کہ اب بھی تم باز آؤ گے یا نہیں؟

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ان میں انسان کو دوسری تمام مخلوق سے الگ ایک امتیازی شان عطا فرمائی اور عقل و شعور عطا فرمایا، مگر دوسری کسی بھی مخلوق کو انسانی عقل کا گرد و غبار تک حاصل نہیں، یہی وہ انسان ہے جس نے اپنی عقل و شعور سے ہوائی جہاز کے پرزے تیار کئے، میزائل اور راکٹ تیار کئے، یہی وہ انسان ہے، جس کی عقل نے آج ایسا ہوائی جہاز تیار کیا ہے، جو بغیر پائلٹ کے دنیا کے ذرہ ذرہ کا پیچہ لگاتا ہے، مگر دوسری کسی بھی مخلوق کو ایسی عقل اور فراست کا ہزارواں حصہ بھی حاصل نہیں، اس عقل کے ذریعہ سے ہر چیز کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہے؛ لیکن جب یہی دانشمند اور عقل و شعور کے اعلیٰ درجہ کا انسان شراب جیسی ناپاک چیز پر منہ لگا لیتا ہے، تو عقل و شعور سے محروم ہو کر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، پھر اسے یہاں تک بھی امتیاز نہیں رہتا ہے کہ باپ کون ہے؟ بیٹا کون ہے؟ ماں کون ہے؟ بیوی کون ہے؟ اپنا اور غیر کا فرق تک باقی نہیں رہتا، چوپاؤں اور جانوروں میں اتنا تو شعور ہوتا ہے کہ اپنا کون ہے غیر کون ہے؛ لیکن شراب پینے کے بعد انسان میں اتنا بھی شعور باقی نہیں رہتا، وہ ایسی دماغ وہ برقی صلاحیت سب کچھ خاک میں مل جاتی ہے۔

پوری کائنات میں انسان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس لعین ہے، وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ انسان میں عقل و شعور کا توازن باقی رہے، ہر طرف سے انسانی دماغ پر حملہ کرتا ہے، دماغی توازن کا سب سے بڑا زہریلا سبب شراب ہے؛ اس لئے ابلیس لعین ہر وقت یہی کوشش کرتا ہے کہ انسان میں اس خبیث ترین ناپاک چیز کی رغبت پیدا کر کے گمراہی کا شکار بنا دے؛ چنانچہ ہزار حیلہ سازی اور خیالی منافع کے دھوکہ میں ڈالتا ہے، جس سے انسان شیطان کے فریب میں مبتلا ہو کر پیشاب سے بھی ناپاک اور گندی چیز جو کہ شراب ہے منہ میں لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد عقل و فراست ہوش و حواس سب چیزوں سے محروم ہو کر لڑائی جھگڑے کا

شکار ہو جاتا ہے؛ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ آیت کریمہ میں شراب اور خمر کو شیطان کا ناپاک عمل قرار دیا ہے، پھر اس کے بعد شیطان انسان کو چار قسم کے نقصانات سے دوچار کرتا ہے۔

(۱) أن یوقع بینکم العداوة: شراب کے ذریعہ سے آپس میں دشمنی اور عداوت پیدا کرتا ہے۔

(۲) والبغضاء: دلوں کے اندر بغض و عناد اور تعصب پیدا کرتا ہے۔

(۳) ویصدکم عن ذکر اللہ: انسان کو خدا کی یاد سے روک کر غفلت اور لاپرواہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔

(۴) وعن الصلوة: نماز جیسی اہم ترین عبادت سے روک دیتا ہے۔

پھر انسان پر نماز کے بارے میں لاپرواہی اور غفلت سوار ہو جاتی ہے؛ اس لئے دنیا نے کسی بھی شرابی کو ذکر خدا میں مشغول نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی کسی بھی شرابی کو نماز کی جماعت اور عبادت میں مشغول دیکھا ہوگا، شیطان نے ہر طرف سے اس کو خدا کی خوبیوں پر پردہ ڈال کر فتنے کے شکنجے میں پھانس رکھا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں شراب کو شیطانی عمل اور آپس میں عداوت اور دشمنی اور فتنہ و فساد لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بتایا ہے، شراب پینے کے بعد شرابی ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، پھر نہیں سوچتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا ہونا ہے؟ اگر شرابی شادی شدہ ہے، تو اس کی بیوی پر روزانہ ایک مصیبت کھڑی رہتی ہے، ایک تو شراب کی بدبو اس طرح خطرناک ہوتی ہے کہ ہر انسان برداشت نہیں کر سکتا، دوسرے شراب کی حالت میں بیوی کو مغالطت بکتا ہے اور آگے بڑھ کر مار دھاڑ میں بھی کمی نہیں کرتا۔ الغرض بیوی کے حق میں شرابی سراپا ظالم ہوتا ہے اور بیوی سراپا مظلوم رہتی ہے؛ لیکن یہ مظلومہ عورت کہاں تک برداشت کرے آخر کار اس کو شرابی کی باتوں کا جواب دینا پڑ جاتا ہے،

پھر لڑائی کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، آخر کار منٹوں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، بے حیاء بے غیرت شرابی کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی کہ شراب پی کر خاندان کے سامنے ننگے ناچ ناچتا ہے، میاں بیوی کی خوش گوار زندگی کو تباہ کر ڈالتا ہے اور طلاق کے نتیجے میں دونوں کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اور بچے ماں باپ کے زندہ ہونے کے باوجود یتیموں کی طرح بے سہارا ہو جاتے ہیں، بیوی اور بچوں کو گھر سے بے گھر ہو جانا پڑتا ہے، ملک میں جتنے طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں ان میں کم از کم چالیس فیصد شرابیوں کے واقعات ہوتے ہیں اور شرابی کی طلاق معتبر مانی جاتی ہے، طلاق کا واقعہ پیش آنے کے بعد فتویٰ بازی کا سلسلہ شروع کرتا ہے اور مارا مارا پھرتا ہے اور بے غیرتی سے کہتا ہے کہ شراب کی حالت میں ہوش و حواس باقی نہیں رہا پتہ نہیں کیا ہوا، اور کتنی بار کہا؟ مفتی صاحب! کوئی گنجائش نکال دیجئے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسئلے مسائل مفتی صاحب کے گھر کی چیز ہیں وہ بے چارے کہاں سے بتائیں گے، وہ تو وہی بتائیں گے جو شریعت کا حکم ہے، اسی وجہ سے مخبر صادق امین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شراب کو ہر شر اور فتنہ کا ذریعہ اور کنجی بتلایا ہے اور کنجی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ذریعہ سے ہر فتنہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

عن ابن عباسؓ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. (المستدرک للحاکم جدید مصطفیٰ الباز، مکة المكرمة، الرياض ۷/۲۵۸۱، رقم: ۷۲۳۱، قدیم ۴/۱۶۲)

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم شراب سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو؛ اس لئے کہ شراب ہر شر اور فتنہ کی کنجی ہے۔

ایک اور حدیث میں شراب کو ام الفواحش بے حیائی کی جڑ اور ام الکبائر کبیرہ گناہوں کی جڑ بتلایا ہے۔

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے۔

عن ابن عباسؓ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. (المعجم الكبير للطبراني، دار أحياء التراث العربي ۱۱/۱۳۲، رقم: ۱۱۳۷۲، المعجم الاوسط للطبراني، دارالكتب العلمية بيروت ۲/۲۳۹، رقم: ۳۱۳۴)

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شراب بے حیائی کی جڑ ہے، اور بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، جو شراب پی لیتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے، اور اپنی خالہ اور پھوپھی کے ساتھ بھی منہ کالا کر سکتا ہے۔

ایک حدیث پاک میں شراب کو ام الخبائث گندگیوں اور خبیث اور ناپاک چیزوں کی جڑ بتلایا ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے۔

عن عبد الله بن عمرو بن العاصؓ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل منه صلاحه أربعين يوماً، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. (المعجم الأوسط للطبراني، دارالكتب العلمية بيروت ۲/۴۰۶، رقم: ۳۶۶۷)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شراب ہر خبیث اور گندی چیزوں کی جڑ ہے؛ لہذا جو پی لے گا اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوں گی، پھر اگر اس حال میں مرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں شراب کے اثرات موجود ہوں تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

اللهم احفظنا من الفواحش والخبائث والكبائر



طلاق سکران

الحمد لله الذي جعل الخمر رجساً وحرماً وجعل الحلال بيناً
والحرام بيناً وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على آله وأصحابه
وسائر المتقين الكرام أجمعين.

طلاق سکران سے متعلق آقائے نامدار رحمہم اللہ سے وقوع یا عدم وقوع سے متعلق براہ راست کوئی روایت ثابت نہیں ہے، اور اس مسئلہ کا سلسلہ سرور کائنات رحمہم اللہ کے زمانہ کے بعد صحابہ کرام کے زمانہ سے شروع ہوا کہ طلاق سکران واقع ہوگی یا نہیں؟ اس لئے اس مسئلہ سے متعلق وقوع یا عدم وقوع میں کوئی مرفوع روایت ہم نقل نہیں کر سکیں گے؛ لہذا ہم گفتگو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے شروع کرتے ہیں چنانچہ!

طلاق سکران سے متعلق حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین ائمہ مجتہدین اور مسلک حنفیہ کے مفتی بہ قول سے متعلق حدیث و فقہ کی کتابوں کا احاطہ کرنے سے تحقیقی طور پر ہمارے سامنے پانچ باتیں آتی ہیں جو یہاں پیش کرنی ہیں۔

(۱) حضرات صحابہ کرام کی رائے۔

(۲) اجلہ تابعین کی رائے۔

(۳) ائمہ اربعہ کی رائے۔

(۴) فقہاء احناف کی رائے۔

(۵) حنفیہ کا قول مفتی بہ۔

حضرات صحابہ کی رائے

حدیث کی کتابوں میں حضرات صحابہ میں سے صرف تین صحابی سے اس موضوع میں صراحت کے ساتھ قول یا عمل ملتا ہے، ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کا قول حدیث میں صراحت کے

ساتھ نہیں ملتا؛ بلکہ کتب فقہ اور شروح حدیث میں دیگر صحابہ کے اقوال بھی ملتے ہیں اور تین صحابی جن کا قول واضح الفاظ میں ملتا ہے حسب ذیل ہیں۔

نمبر ۱ صحابی: حضرت عثمانؓ: حضرت عثمانؓ سے مروی ہے کہ سکران کی طلاق واقع نہیں ہوگی، جس کو حدیث کی کتابوں میں اس قسم کے الفاظ سے نقل کیا گیا ہے۔

عن أبان بن عثمان عن عثمانؓ، قال: كان لا يجيز طلاق السكران، والمجنون. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، باب من كان لا يرى طلاق السكران جائزاً، مؤسسة علوم القرآن ۹/۵۵۶ رقم ۱۸۲۷)

اس کو امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے تحت اور امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. (صح البخاري، كتب الطلاق، باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران الخ، النسخة الهندية ۲/۷۹۳، رقم الباب ۱۱، السنن الكبرى للبيهقي جديد دارالفکر بیروت ۱۱/۲۶۸، رقم: ۱۵۴۹۷، قديم ۷/۳۵۹، مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي ۷/۸۴، رقم: ۱۲۳۰۸)

نمبر ۲ صحابی: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ: ان کے نزدیک بھی طلاق سکران واقع نہیں ہوتی، اس کو حضرت امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب کے تحت ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

وقال ابن عباسؓ: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. (كتاب الطلاق، باب الطلاق، في الغلاق والكره والسكران، النسخة الهندية ۲/۷۳۹، رقم: الباب ۱۱) ان دونوں صحابہؓ سے یہی ثابت ہوا کہ نشہ کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔

نمبر ۳ صحابی: حضرت معاویہؓ: ان کی رائے یہ ہے کہ نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی؛ چنانچہ اس کے مطابق انہوں نے رملہ بنت طارق کے شوہر کی طلاق کو حالت نشہ میں واقع قرار دیا تھا، اور میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دی تھی، اس کو مصنف عبد الرزاق میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔

فقال عبید اللہ بن ایمن طلق رجل امرأته رملۃ بنت طارق فأجازہ

معاویۃ علیہ۔ (المصنف لعبد الرزاق، کتاب الطلاق، المجلس العلمي ۸۳/۷، رقم: ۱۲۳۰۱) اب ہمارے سامنے کل تین صحابہ کی آراء آتی ہیں، حضرت عثمانؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت معاویہؓ۔ ان میں سے اول الذکر دونوں صحابہؓ کے نزدیک طلاق سکران واقع نہیں ہوتی اور مؤخر الذکر صحابی یعنی حضرت معاویہؓ کے نزدیک طلاق سکران واقع ہو جاتی ہے، اوپر ذکر کردہ تینوں صحابہ کرام کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کا قول حدیث کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ ہم کو نہیں مل سکا؛ لیکن علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمۃ نے ہدایۃ کی شرح بنایہ میں اور علامہ موفق الدین ابن قدامہ نے المغنی میں کچھ فرق کے ساتھ ملے جلے انداز میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عمرؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیر کے نزدیک نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ (المغنی لابن قدامہ، کتاب الطلاق، دار الفکر بیروت ۲۸۹/۷، بنایہ شرح ہدایۃ، مکتبہ امدادیۃ مکۃ المکرمۃ ۲۲۵/۲، المکتبۃ الشرفیۃ ۳۰۰/۵)

نیز المغنی میں حضرت ابن عباسؓ کا بھی قول نقل کیا ہے کہ سکران کی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لیکن ابن عباسؓ کی طرف اس قول کو منسوب کرنے میں ہمیں تردد ہے؛ اس لئے کہ حدیث کی کتابوں میں ان کا یہ قول نہیں ملتا۔ (المغنی لابن قدامہ، کتاب الطلاق، دار الفکر بیروت ۲۸۹/۷) لہذا علامہ بدر الدین عینی اور موفق الدین ابن قدامہ کو حضرت علیؓ اور حضرت ابن عمرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت زبیرؓ کی روایت یا ان کا قول اگر کسی حدیث کی کتاب میں مل گیا ہے، تو کہا جاسکتا ہے کہ صحابہؓ میں سے ایک بڑی جماعت کے نزدیک نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

۲/ حضرات اجلہ تابعین کی رائے

حضرات اجلہ تابعین جن کے اوپر ہمارے فقہ و حدیث اور پورے دین کا مدار ہے، ان کے

درمیان میں بھی نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں اختلاف رہا ہے؛ چنانچہ حضرات تابعین کی دو جماعتیں ہو گئیں۔

ایک جماعت حضرت عثمان اور ابن عباسؓ کی رائے کے مطابق عدم وقوع طلاق کی قائل ہے، اور دوسری جماعت حضرت معاویہؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ وغیرہم کی رائے کے مطابق نشہ کی حالت میں وقوع طلاق کی قائل ہے۔ اب دونوں فریق کی الگ الگ فہرست ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔

عدم وقوع طلاق کے قائلین

حضرات اجلہ تابعین میں سے ایک بڑی جماعت حضرت عثمانؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی رائے کے مطابق عدم وقوع طلاق کی قائل ہے کہ نشہ کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کے قائلین میں علامہ بدرالدین عینیؒ نے عمدۃ القاری میں اور ہدایہ کی شرح بنا یہ میں اور علامہ موفق الدین ابن قدامہ نے المغنی لابن قدامہ میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، علامہ ابن حزم ظاہریؒ نے المحلی بالآثار میں طے جلتے طور پر حضرات تابعین اور تبع تابعین میں دس افراد ایسے نقل فرمائے ہیں کہ ان سب حضرات نے ان تابعین کے اقوال مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق سے زیادہ نقل فرمائے ہیں۔

(۱) عطاء بن ابی رباح: عن عطاء أنه كان لا يجيز طلاق السكران.

(المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، باب من كان لا يري طلاق السكران جائزاً،

مؤسسة علوم القرآن ۵۵۷/۹، رقم: ۱۸۲۷۸، قديم ۳۷/۵)

(۲) جابر بن زيد:

(۳) عكرمة:

(۴) طاؤس بن كيسان: عن جابر بن زيد وعكرمة وعطاء و طاؤس

قالوا ليس بجائر. (المنصف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، باب من كان لا يرى طلاق

السكران جائزاً، مؤسسة علوم القرآن ۹/۵۵۷، رقم: ۱۸۲۷۶، قديم ۳۹/۵)

(۵) قاسم بن محمد.

(۶) عمر بن عبد العزيز: أن القاسم وعمر بن عبد العزيز كانا لا

يجيزان طلاق السكران. (المصنف لعبد الرزاق، كتاب الطلاق، المجلس

العلمي ۷/۸۴، رقم: ۱۲۳۰۷)

عن القاسم بن محمد أنه كان يقول لا يجوز طلاق السكران.

(المنصف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، باب من كان لا يرى طلاق السكران جائزاً،

مؤسسة علوم القرآن ۹/۵۵۷، رقم: ۱۸۲۷۷، قديم ۳۹/۵)

(۷) ربيعة الراي.

(۸) ليث بن سعد.

(۹) اسحاق بن راهويه.

(۱۰) امام مزني.

علامہ بدرالدین عینی نے اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

وأما طلاق السكران؛ هل يقع أم لا فإن الناس اختلفوا فيه، وممن

قال إنه لا يقع عثمان بن عفان، وجابر بن زيد، وعطاء وطاؤس،

وعكرمة، والقاسم، وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة، وزاد ابن

المنذر عن ابن عباس، وربيعه، وليث، وإسحق، والمزني، واختاره

الطحاوي. (عمدة القاري، كتاب الطلاق، اختلاف العلماء في طلاق السكران،

دار إحياء التراث العربي ۲۰/۲۵۱، جديد زكريا ديوبند ۱۴/۲۶۰، بنايه شرح هداية، قديم

المكتبة الامدادية، مكة المكرمة ۲/۲۲۵، المكتبة الأشرفية ديوبند ۵/۳۰۰، المغني لابن

قدامة، دار الفكر بيروت ۷/۲۸۹، المحلي بالآثار، دار الكتب العلمية بيروت

۹/۷۱ تا ۷۶، فتح الباري، كتاب الطلاق، تحت بات الطلاق في الإغلاق والكره

والسكران، دار الفكر بيروت ۹/۳۹۱، دار الإيمان للتراث ۳/۳۰، اشرفيه ۹/۴۸۹)

وقوع طلاق کے قائلین

حضرات اجلہ تابعین اور تبع تابعین میں سے ایک بڑی جماعت حضرت معاویہؓ اور حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی رائے کے موافق اس بات کی قائل ہے کہ نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی؛ چنانچہ علامہ بدرالدین عینیؒ نے عمدۃ القاری شرح بخاری، بنایہ شرح ہدایہ میں، حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے فتح الباری میں، علامہ موفق الدین ابن قدامہؒ نے المغنی لابن قدامہ میں، علامہ ابن حزم طاہریؒ نے المحلی بالآثار میں ملے جملے طور پر اجلہ تابعین اور تبع تابعین میں سے بیس افراد ایسے نقل کئے ہیں، جن کے نزدیک نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق سے ان حضرات کے اقوال نقل کرنے میں استفادہ کیا ہے۔

(۱) امام حسن بصریؒ۔

(۲) امام محمد بن سیرین: عن الحسن وابن سیرین سمعہما یقولان یجوز طلاق

السكران. (المصنف لعبد الرزاق، کتاب الطلاق، المجلس العلمي ۸۲/۷، رقم:

۱۲۲۹۷، المصنف لأبي شيبه، مؤسسة علوم القرآن ۵۰۴/۹، رقم: ۱۸۲۶۱)

(۳) امام سعید بن المسیب: عن سعید بن المسیب قال: طلاق السكران جائز.

(المصنف لابن أبي شيبه، کتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق السكران، مؤسسة علوم

القرآن ۵۰۵/۹، رقم: ۱۸۲۶۳، قدیم ۳۷/۵)

(۴) امام عامر شعمیؒ۔

(۵) امام ابراہیم نخعیؒ: عن إبراهيم قال: يجوز طلاقه. (المصنف لابن أبي

شيبه، کتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق السكران، مؤسسة علوم القرآن ۵۰۵/۹،

رقم: ۱۸۲۶۶، المصنف لعبد الرزاق ۸۳/۷، رقم: ۱۲۳۰۲)

(٦) امام مجاهد بن جبر: عن مجاهد قال: طلاق السكران جائز. (المصنف

لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق السكران، مؤسسة علوم القرآن

٥٥٤/٩، رقم: ١٨٢٥٨، المصنف عبد الرزاق ٨٣/٧، رقم: ١٢٣٠٤)

(٧) حميد بن عبد الرحمن: عن حميد بن عبد الرحمن قال: يجوز طلاق

السكران. (مصنف لابن أبي شيبة كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق السكران المجلس

العلمي ٥٥٥/٩ رقم ١٨٢٦٨)

(٨) عبد الرحمن بن أبي ليلى: وقال ابن أبي ليلى يجوز نكاحه وطلاقه.

(المصنف لعبد الرزاق، كتاب الطلاق، المجلس العلمي ٨٣/٧، رقم: ١٢٣١٠)

(٩) ابن شبرمة: عن ابن شبرمة قال: يجوز الطلاق للسكران. (المصنف

لعبد الرزاق، كتاب الطلاق المجلس العلمي ٨٣/٧، رقم ١٢٣١٠)

(١٠) امام ابن شهاب زهري: عن ابن شهاب قال: يجوز الطلاق للسكران؛

لأنه يشرب الخمر وقد نهى الله عنها. (مصنف عبد الرزاق المجلس العلمي

٨٢/٧ رقم ١٢٣٠٠)

(١١) حضرت عمر بن عبد العزيز: عن عمر بن عبد العزيز يقول: طلاق

السكران والمكره جائز. (شرح معاني الآثار للطحاوي قديم، مطبع

أصفيه ٥٨/٢، جديد ٦٧/٢ رقم: ٤٥٥٧)

أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب

الطلاق، من أجاز طلاق السكران، مؤسسة علوم القرآن ٥٥٥/٩، رقم: ١٨٢٦٤، قديم

٣٧/٥)

(١٢) سليمان بن يسار: أن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب قالوا:

طلاقه جائز. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، من أجاز طلاق السكران،

المؤسسة علوم القرآن ٥٥٥/٩، رقم: ١٨٢٦٩، قديم ٣٨/٥)

(۱۳) میمون بن مهران.: عن میمون قال: يجوز طلاقه. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، من اجاز طلاق السكران، مؤسسة علوم القرآن ۹/۵۵۵، رقم: ۱۸۲۶۷)

(۱۴) إمام شريح بن هاني.: عن شريح قال: طلاق السكران جائز. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، من اجاز طلاق السكران، مؤسسة علوم القرآن ۹/۵۵۶، رقم: ۱۸۲۷۴، قديم ۵/۳۸)

(۱۵) سالم بن عبد الله:

(۱۶) امام قتادة:

(۱۷) حسن بن حميد.:.

(۱۸) امام حكم.: عن الحكم: من طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، من اجاز طلاق السكران، مؤسسة علوم القرآن ۹/۵۵۶، رقم: ۱۸۲۷۳، قديم ۵/۳۸)

(۱۹) عطاء بن أبي رباح: عن عطاء قال: يجوز طلاق السكران أنه ليس كالمريض المغلوب على عقله. (المصنف لعبد الرزاق كتاب الطلاق، طلاق السكران، المجلس العلمي ۷/۸۲، رقم: ۱۲۲۹۶)

(۲۰) سليمان بن حرب:

علامہ بدرالدین عینی نے اس قسم کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے۔

ومعظم العلماء صاروا إلى وقوع طلاق السكران، وفي المغني وهو قول سعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وميمون بن مهران، والحكم وشريح، وسليمان بن يسار، ومحمد بن سيرين وابن شبرمة، وسليمان بن حرب، وابن عمر، وعلي وابن عباس، ومعاوية رضي الله عنهم، وبه قال قتادة وحميد وجابر بن زيد وابن أبي ليلى،

وعمر بن عبد العزیز، والحسن بن حمید۔ (بناہ شرح ہدایہ لطلاق الارویہ مکہ مکرمہ ۲/۲۲۵ اشرفیہ دیوبند ۵/۳۰۰، المغنی لابن قدامة، دارالفکر بیروت ۷/۲۸۹، المحلی بالآثار، دارالکتب العلمیہ ۹/۴۷۱، رقم: ۱۹۶۴، عمدۃ القاری، داراحیاء التراث بیروت ۲۰/۲۵۱، زکریا دیوبند ۱/۲۶۰)

اس تقریر کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نشر کی حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کے قائلین کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ علامہ ابن حزم ظاہری نے ان اجلاء تابعین میں سے تین کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے وقوع طلاق کے قول سے رجوع کر لیا ہے۔

(۱) امام ابن شہاب زہریؒ:

(۲) عمر بن عبدالعزیزؒ:

(۳) عطاء بن ابی رباحؒ:

جس کو ابن حزم ظاہری نے ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے۔

وقد روينا رجوع الزهري، وعمر بن عبد العزيز إلى هذا.

ومن طريق وكيع عن رباح بن ابي معروف عن عطاء بن ابي رباح قال:

طلاق السكران لايجوز. (المحلی بالآثار، کتاب الطلاق، دارالکتب العلمیہ ۹/۴۷۳)

وقوع طلاق کے قائلین کی ترجیح

ابن حزم ظاہریؒ کی یہ بات قریب قریب درست معلوم ہوتی ہے؛ اس لئے کہ حضرت عطاء بن ابی رباح اور عمر بن عبدالعزیزؒ سے دونوں طرح کی روایتیں دستیاب ہوتی ہیں، مگر امام زہریؒ کی طرف سے ہم کو صرف وقوع طلاق کی روایت ملی ہے، عدم وقوع طلاق کی روایت ہم کو دستیاب نہیں ہوئی۔

لیکن پھر بھی اگر ان تینوں حضرات کو وقوع طلاق کے قائلین میں سے مستثنیٰ کر دیا جائے، تو پھر بھی اجلاء تابعین میں سے جن کو جہاں علم سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، ایسے سترہ افراد کی تائید اس

سلسلہ میں ملتی ہے کہ نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، جس کو ہم نے نام بنام اوپر کی فہرست میں ذکر کر دیا ہے۔

اور عدم وقوع طلاق کے قائلین صرف دس گیارہ کی تعداد میں ہیں، تو معلوم ہوا کہ حضرات تابعین میں سے اکثر تابعین اس بات کے قائل ہیں کہ نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ اس لئے امت کو اسی پر عمل کرنا چاہئے۔

ائمہ اربعہ کی رائے

علامہ بدرالدین عینیؒ نے عمدۃ القاری میں اور علامہ عبدالرحمن الجزیری نے کتاب الفقہ میں نقل فرمایا کہ: ائمہ اربعہ میں سے حضرت امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ (عمدۃ القاری، کتاب الطلاق، اختلاف العلماء فی طلاق السکران، دار احیاء التراث العربی ۲۵۱/۲۰، ذکر یاد یو بند ۲۶۰/۱۴، کتاب الفقہ علی المذہب الاربعہ، مکتبہ عباس احمد الباز ۲۸۲/۲۸۳ تا ۲۸۳/۲۸۳)

عمدۃ القاری اور فتح الباری اور المغنی لابن قدامہ اور بنیہ شرح ہدایہ میں حضرت امام شافعیؒ کی طرف سے دو روایتیں نقل کی گئی ہیں۔

ایک روایت کے مطابق نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق نشہ کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ (عمدۃ القاری، کتاب الطلاق، اختلاف العلماء فی طلاق السکران، دار احیاء التراث العربی ۲۵۱/۲۰، ذکر یاد یو بند ۲۶۰/۱۴، بنیہ شرح ہدایہ، مکتبہ لدادیہ مکہ المکرمہ ۲۲۵/۲، اشرفیہ دیوبند ۳۰۰/۵، المغنی لابن قدامہ، دار الفکر بیروت ۲۸۹/۷)

لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں وقوع طلاق کے قول کو زیادہ راجح قرار دیا ہے۔

وعن الشافعي قولان الصحيح منهما وقوعه. (فتح الباري، کتاب الطلاق،

باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، دار الفکر، ۹/۳۹۱) اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ کی طرف سے تین روایتیں مروی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسری روایت کے مطابق طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور تیسری روایت کے مطابق وقوع یا عدم وقوع سے توقف اختیار کیا جائے کوئی جواب نہ دیا جائے۔ (المغنی لابن قدامہ، کتاب الطلاق، دار الفکر بیروت ۷/۲۸۹) لیکن ان کے نزدیک عدم وقوع کی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے۔

یہ ائمہء اربعہ کے اقوال ہیں کہ ان میں سے حضرت امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ ایک بات کے قائل ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور امام شافعیؒ کا راجح قول یہی ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ صرف امام احمد بن حنبلؒ کی طرف سے کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی جاسکتی؛ لیکن پھر بھی چاروں اماموں میں سے تین کے نزدیک نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ نیز ائمہ مجتہدین میں سے امام سفیان ثوریؒ اور امام اوزاعیؒ وغیرہ کے نزدیک بھی نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے؛ لہذا وقوع طلاق کے قائلین کو ہر اعتبار سے زیادہ قوت اور تائید حاصل ہے؛ اس لئے امت پر لازم ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔

اس کو علامہ بدرالدین عینیؒ نے عمدۃ القاری میں اس قسم کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے۔
 وذهب مجاهد إلى أن طلاقه يقع - إلى قوله - كذلك قاله الأوزاعي،
 والثوري، وهو قول مالک، وأبي حنيفة، واختلف فيه قول الشافعي
 فأجازة مرة، ومنعه أخرى، وألزمه مالک الطلاق والقود من الجراح.
 (عمدة القاري، کتاب الطلاق، اختلاف العلماء في طلاق السكران، دار احیاء

التراث، ۲۰/۲۵۱، ذکر یاد دیوبند ۱۴/۲۶۰)

اور علامہ عینی نے بتایا ہے میں ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

وطلاق السكران واقع، وبہ قال الشافعی فی المنصوص والأصح: وهو قول الثوري، مالک، وأحمد فی رواية-إلى قوله- وفي جوامع الفقه عن أبي حنيفة: يقع وبه أخذ شداد. (المغني لابن قدامة، كتاب الطلاق، دارالفکر بیروت ۲۸۹/۷ بناہ شرح ہدایہ ۳۰۰/۵ مکتبہ اشرفیہ دیوبند) اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

وقال بوقوعه طائفة من التابعين، كسعيد بن المسيب، والحسن، وإبراهيم، والزهري، والشعبي، وبه قال الأوزاعي، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة، وعن الشافعي قولان الصحيح منهما وقوعه، والخلاف عند الحنابلة؛ لكن الترجيح بالعكس. (فتح الباری، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران، دارالفکر ۳۹۱/۹، المکتبہ اشرفیہ دیوبند ۴۸۹/۹)

حضرات محدثین اور فقہاء کی ان تمام فقہی جزئیات اور احادیث شریفہ اور اقوال صحابہ سے استنباط کردہ اقوال سے یہ بات واضح ہوگئی کہ نشہ کی حالت میں طلاق واقع نہ ہونے کے قائلین کی تعداد بہت کم ہے۔

اور ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک یا تو کلی طور پر نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہونے کے قائل ہیں یا فی الجملہ وقوع طلاق کے قائل ہیں، جیسا کہ اوپر کی عبارات سے واضح ہو چکا ہے۔

فقہاء احناف کی رائے

فقہاء احناف میں دو قسم کی رائے ملتی ہیں، ایک رائے یہ ملتی ہے کہ نشہ کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی اور دوسری رائے یہ ملتی ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، ان دونوں اقوال کو ہم الگ الگ پیش کرتے ہیں۔

۱. حنفیہ میں سے عدم وقوع طلاق کے قائلین

حنفیہ میں سے حضرت امام ابو جعفر طحاویؒ، امام ابوالحسن کرخیؒ، امام محمد بن سلمہؒ، اور امام زفر بن ہذیلؒ کے نزدیک نشہ کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ان چاروں حضرات نے حضرت امام ابوحنیفہؒ کے مسلک کو اس مسئلہ میں پیش نظر نہیں رکھا؛ بلکہ براہ راست قول صحابہؓ سے استدلال کیا ہے، اور اقوال صحابہؓ میں سے حضرت عثمانؓ کے قول کو پیش نظر رکھ کر ان لوگوں نے عدم وقوع طلاق کا قول کیا ہے، اپنے دعویٰ پر استدلال میں حضرت عثمانؓ کے قول کو پیش کیا ہے؛ اس لئے ان حضرات کے اس قول کو امام ابوحنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمد بن حسن شیبانیؒ میں سے کسی کی طرف منسوب کر کے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان لوگوں نے امام ابوحنیفہؒ کی ایک روایت کو اختیار کیا ہے؛ بلکہ اس مسئلہ سے متعلق ان لوگوں نے امام ابوحنیفہؒ کے قول کا اعتبار نہیں کیا۔

نیز فقہاء احناف نے اس موقع پر یہ لکھا ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک نشہ کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اس میں فقہاء احناف نے امام شافعیؒ کا قول راجح نقل نہیں کیا ہے؛ بلکہ یہ امام شافعیؒ کا قول مرجوح ہے؛ اس لئے کہ شافعی المسلک کے ترجمان حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ کا قول راجح اور قول صحیح یہی ہے کہ نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

ان لوگوں کے قول کو فتاویٰ بزازیہ اور البحر الرائق میں اس طرح کے الفاظ سے نقل کیا فرمایا ہے۔

وقال أمير المؤمنين عثمان: لا يقع طلاق السكران وبه أخذ الشافعي، والطحاوي، والكرخي، ومحمد بن سلام. (الفتاوى البزازية، كتاب الطلاق، الفصل الاول ي صريح الطلاق، زكريا جديد ۱/۱۱۲، البزازية على هامش الهندية ۴/۱۷۱، البحر الرائق، كوئٹہ ۳/۲۴۷، زكريا ديوبند ۳/۴۳)

اس کو صاحب درمختار اور علامہ شامیؒ ان الفاظ کے ساتھ نقل فرماتے ہیں۔

ولم يوقع الشافعي طلاق السكران واختاره الطحاوي، والكرخي،
وتحتة في الشامية: وكذا محمد بن سلمة وهو قول زفر. (الدر المختار مع
الشامي، كراجي ۳/۲۴۱، زكريا ديوبند ۴/۴۴۸)

اس کو علامہ عینی نے بنیہ شرح ہدایہ میں اس قسم کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے۔

وعن عثمان[ؓ] أنه لا يقع طلاقه، وبه قال طاؤس - إلى قوله - وزفر بن
هذيل، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو الحسن الكرخي. (بنیہ شرح ہدایہ، مکتبہ
امدادیہ، مکة المكرمة ۲/۲۲۵، مکتبہ اشرفیہ دیوبند ۵/۳۰۰، فتح القدیر بیروت ۳/۴۹۰،
کوئٹہ ۳/۳۴۳، زکریا ۳/۴۷۲)

ان عبارات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلک احناف کے ان چار بزرگوں نے جو عدم
وقوع طلاق کا قول کیا ہے، اس کا مدار امام ابوحنیفہ کے مسلک پر نہیں ہے؛ بلکہ صرف حضرت
عثمان کی رائے پر ہے، جیسا کہ مذکورہ عبارات سے واضح ہو چکا۔

۲. حنفیہ میں سے وقوع طلاق کے قائلین

مسلک احناف کے بانی اول حضرت امام ابوحنیفہ[ؒ] اور حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد بن
حسن شیبانی کے نزدیک نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، ان حضرات نے حضرت
عثمان کے قول کو ترجیح نہیں دی ہے؛ بلکہ اس کے خلاف حضرت علی[ؓ]، حضرت معاویہ[ؓ]
اور حضرت عبداللہ بن عمر کی رائے کو بنیاد بنایا ہے اور ان ہی کے ساتھ ائمہ مجتہدین میں سے
جبال علم حضرت امام سفیان ثوری، امام اوزاعی اور امام مالک وغیرہ نے متفقہ طور پر اس بات
کی تائید فرمائی ہے کہ نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی؛ لہذا ثابت ہوا کہ مسلک حنفی
کے بانئین کے نزدیک نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور حنفی مسلک کے تمام
لوگ انہیں کے مقلد ہیں؛ اس لئے طلاق سکران کے مسئلہ میں سب کو متفق ہو کر امام ابوحنیفہ[ؒ]
اور امام ابو یوسف[ؒ] اور امام محمد[ؒ] کے مسلک کو اختیار کرنا لازم ہوگا۔

اس کو المغنی لابن قدامة میں ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

يقع طلاقه، اختارها أبو بكر الخلال - إلى قوله - ومالك والثوري، والأوزاعي، والشافعي في أحد قوليه وابن شبرمة، وأبي حنيفة، وصاحبيه إلى آخره. (المغني لابن قدامة، كتاب الطلاق، دارالفكر بيروت ۲۸۹/۷)

حنفیہ کا قول مفتی بہ

اب اس کی پوری تفصیل کے بعد یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ حنفیہ کے اصل مسلک کے مطابق نشر کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے جو کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ، حضرت امام ابو یوسفؒ اور امام محمد بن حسن شیبائیؒ کا متفقہ مسلک ہے؛ اس لئے امام زفرؒ، امام طحاویؒ، امام کرخیؒ، اور محمد بن سلمہؒ کی رائے کو ان حضرات کے مسلک پر ترجیح نہیں دی جاسکتی؛ بلکہ حنفیہ کا اصل مسلک عمل کے لئے معیار ہوگا اور اس کو تمام فقہاء نے قول راجح اور قول مفتی بہ قرار دیا ہے؛ اس لئے ہمارے علمائے ثلاثہ کے قول کے مطابق فتویٰ دینا اور مسلک حنفی کے تمام لوگوں پر عمل کرنا لازم اور واجب ہوگا اور مفتی بہ قول سے فاسق و فاجر اور شرابی کا ساتھ دینے کے لئے صرف نظر کرنا اور اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہوگا، یہ کسی طرح کی ضرورت اور مصلحت نہیں ہے کہ شرابی کا ساتھ دیا جائے اور اس کا ساتھ دے کر اصل مسلک کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا شراب پینا ایسی دینی ضروریات میں سے ہے کہ اس کی رعایت کے لئے مسلک کے اصل مذہب کو چھوڑ کر قول ضعیف اختیار کیا جائے؟

قول مفتی بہ کی عبارات ملاحظہ فرمائیے:

(۱) وطلاق السكران واقع إذا سکر من الخمر أو النبيذ، وهو مذہب

أصحابنا. (الفتاویٰ التاتارخانیة، کتاب الطلاق، الفصل الثالث، باب من يقع طلاقه ومن لا يقع جدید زکریا دیوبند ۳۹۴/۴، رقم: ۶۵۰۹، قدیم ۲۵۶/۳، مثلہ فی الشامیة، کراچی

۳/۲۴۱، زکریا ۴/۴۸ (۲) مجمع الانہر اور الدر المنقہ نیز شامی میں اس قسم کے الفاظ سے بھی قول مفتی بہ نقل فرمایا ہے۔

وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجراً، وعليه الفتوى.
(الدر المنقہ، كتاب الطلاق، مكتبة عباس أحمد الباز، جدید ۲/۱۰، قدیم ۱/۳۸۴، مجمع
الأنہر، مكتبة عباس أحمد الباز بیروت جدید ۲/۱۰، قدیم ۱/۳۸۵، شامی، زکریا دیوبند
۴/۴۶۶، کراچی ۳/۲۴۰)

اور اس کو صاحب بدائع نے اس قسم کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

(۳) أما السكران إذا طلق امرأته، فإن كان سكره بسبب محظور بأن
شرب الخمر أو النبيذ، طوعاً حتى سكر و زال عقله فطلاقه واقع عند عامة
العلماء وعامة الصحابة. (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، زکریا دیوبند ۳/۱۵۸،
بیروت ۴/۲۱۳، کراچی ۳/۹۹)

(۴) اور شرح السیر الکبیر میں ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

لأن السكر لا يمنع وقوع الطلاق. (شرح السیر الکبیر قدیم ۴/۲۱۵)

(۵) اور فتاویٰ بزازیہ میں ہے:

وكذا المختار وقوع الطلاق. (الفتاویٰ البزازیة، كتاب الطلاق، الفصل الاول

في صريح الطلاق، جدید زکریا دیوبند ۱/۱۱۲، بزازیہ علی هامش الهندیة ۱/۱۷۱)

(۶) اور البحر الرائق میں اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

المختار: في زماننا لزوم الحد؛ لأن الفساق يجتمعون عليه،

وكذا المختار وقوع الطلاق. (البحر الرائق، كتاب الطلاق، كونه ۳/۲۴۸،

زکریا دیوبند ۳/۴۳۲)

ان تمام فقہی جزئیات سے مجموعی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شرکی حالت میں طلاق واقع

ہو جاتی ہے، چاہے انگور اور کھجور کی شراب سے نشہ آیا ہو یا شہد کی شراب سے یا دیگر اناج اور پھل فروٹ کی شراب سے، یا ہمارے ہندوستان میں گنا اور سبزیوں کی شراب سے نشہ آیا ہو، قول مفتی بہ یہی ہے کہ ہر قسم کے نشہ میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔

اشیاء مخدرہ

اب تک جتنی تفصیل پیش کی گئی ہے، ان سب میں ایک مجموعی انداز سے مطلق حکم بیان کیا گیا ہے کہ طلاق سکران ہمارے علماء ثلاثہ کے نزدیک واقع ہو جاتی ہے؛ لیکن اشیاء مخدرہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر کسی نے شراب پی لی ہے یا نشہ لانے والی نیبیز پی لی ہے، مثلاً کھجور، کشمش وغیرہ کی نشہ آور نیبیز پی لی ہے، تو ایسی صورت میں چاہے اس نے بے خیالی میں پی ہو یا شدید ضرورت میں پی ہو، یا اپنی مرضی اور خوشی سے پی ہو، جس سے اس کو نشہ آ گیا ہو، تو ایسی صورت میں حضرت امام ابوحنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ تینوں کے نزدیک اگر بیوی کو طلاق دیدی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔

اس کو بنیاد پر شرح ہدایہ میں اس قسم کے الفاظ سے نقل کیا گیا ہے:

طلاق السكران واقع إذا سکر من الخمر أو النبیذ، فلو أکره علی الشرب فسکر أو شرب للضرورة فذهب عقله يقع طلاقه. (بنیاد پر شرح ہدایہ، کتاب الطلاق، مکتبہ امدادیہ مکة المكرمة ۲/۲۲۵، مکتبہ اشرفیہ دیوبند ۵/۳۰۰، فتاویٰ قاضیخان، زکریا دیوبند جدید ۱/۲۸۶، علی ہامش الہندیہ ۱/۴۷۰)

اور اگر بھنگ یا گانجہ وغیرہ پی لیا ہے اور پیتے وقت اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز نشہ پیدا کرے گی، تو ایسی صورت میں اگر نشہ آ گیا ہے، اور اسی حالت میں بیوی کو طلاق دیدی ہے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، ہاں البتہ اگر اس کو پیتے وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چیز نشہ پیدا کر سکتی ہے، بے خیالی میں پی لیا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔

اس کو حضرات فقہاء نے اس قسم کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے۔

قال سئل أبو حنيفة وسفيان الثوري عن رجل شرب البنج، فارتفع إلى رأسه فطلق قالوا إن كان يعلم حين شرب ما هو؟ يقع وإلا لا يقع. (بنايه شرح هداية، كتاب الطلاق، مكتبة امداديه مكة المكرمة ۲/۲۶، ۲۲، مكتبة اشرفية ديوبند ۵/۳۰۰)

اور اگر شہد یا کسی اناج سے نبیذ بنالی گئی ہے، پھر اس نبیذ کے پینے کے بعد نشہ آ گیا ہے اور نشہ کی حالت میں طلاق دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے علماء ثلاثہ کے درمیان اختلاف ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی اور حضرت امام محمد بن حسن شیبانیؒ کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی۔

اس کو بنا یہ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

ولو سكر من الأنبذة المتخذة من الحبوب والعسل لا يقع طلاقه عندهما، وعند محمد يقع. (بنايه شرح هداية، كتاب الطلاق، المكتبة امدادية، مكة المكرمة ۲/۲۶، ۲۲، اشرفية ديوبند ۵/۳۰۰)

اور اس کو تاتارخانیہ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

فلو شرب من الأشربة التي تتخذ من الحبوب أو العسل أو الشهد وسكر فطلق امرأته لا يقع طلاقه عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا جديد ۴/۳۹۵، رقم: ۶۵۱۱، قديم ۳/۲۵۷)

لیکن اس مسئلہ میں شیخینؒ اور امام محمد کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے فتویٰ کس پر ہوگا؟ تو بزازیہ اور البحر الرائق میں لکھا ہے کہ امام محمدؒ کا قول قول مختار ہے اور اسی پر فتویٰ ہوگا، اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا گیا ہے۔

ولو من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر، المختار في زماننا لزوم الحد؛ لأن الفساق يجتمعون عليه، وكذا المختار وقوع الطلاق.

(الفتاوى البزازية، كتب الطلاق، الفصل الاول في صريح الطلاق جديد زكريا ۱/۱۱۱،

علی ہامش الہندیہ ۱۷۱/۷

وفي البحر وفتح القدير: ويفتى بقول محمد. (البحر الرائق، كتاب الطلاق، كوئٹہ ۳/۴۸، ۲، زکریا دیوبند ۳/۴۳۱، فتح القدير بیروت ۳/۹۲، ۴، کوئٹہ ۳/۴۸، زکریا دیوبند ۳/۴۷۲)

اب پوری تفصیل کا حاصل یہی ہے کہ اگر شرابی نشہ کی مستی اور مدہوشی کی حالت میں طلاق دیتا ہے جو بعد میں اس کو یاد بھی نہ ہو تب بھی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی اور یہی قول مشہور و معمول بہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

والله الموفق والمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضی وأعدنا من خزی الدنیا والأخرۃ وصلی اللہ تعالیٰ علی ما انزل علیہ الفرقان بین الحلال والحرام، وعلی آلہ واصحابہ وسائر المؤمنین والمؤمنات أجمعین



يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ☆ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. الحديث
(المعجم الكبير ۲/۱۳۵، برقم: ۱۵۷۰)

(مفتی) شبیر احمد قاسمی

خادم الحدیث والافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد (یو۔ پی)

۲۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۱ھ

پاگل کی طلاق

سوال [۶۱۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے لڑکے شریف احمد کی دماغی حالت بھی خراب ہے، اسے یہ بھی ہوش نہیں رہتا کہ گھر میں کس طرح رہنا ہے؟ رکشہ چلانے میں دماغی حالت اس درجہ خراب ہو گئی ہے کہ اسے اپنے تن کا ہوش نہیں رہتا، ان حالات میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی، طلاق کے الفاظ اس نے اس طرح سے ادا کئے، ”یہاں سے چل نکل تجھے میں نے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“ اس جملہ میں علماء کرام شریعت کے مطابق کیا فیصلہ دیتے ہیں؟ شریف احمد کی دماغی حالت میں اس کی بیوی کو طلاق ہوگئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد ثاقب درہنگہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شریف احمد کو دارالافتاء حاضر کر کے اکابر شاہی کے سامنے لا کر مشاہدہ کیا گیا، وہ بالکل مجنون و پاگل تو نہیں ہے؛ لیکن معتوہ اور مبرسم کے درجے میں ہونا ظاہری حالت بتا رہی ہے، تو اگر واقعی محتل العقل کی حالت میں طلاق دی ہے، تو فقہاء کی تصریحات کے مطابق اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی۔

عن قتادة قال: الجنون جنونان، فإن كان لا يفريق لم يجز له طلاق، وإن كان يفريق فطلق في حال إفاقته لزمه ذلك. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب

الطلاق، ما قالوا في الذي به الموتة تطلق، مؤسسة علوم القرآن ۹/۵۴۹، رقم: ۱۸۲۲۹)

عن سعيد بن المسيب قال: طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشيء، طلاقه إلى وليه. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، ما قالوا في المجنون،

والمعتوه..... مؤسسة علوم القرآن ۹/۵۵۰، رقم: ۱۸۲۳۲)

أخرج البخاري تعليقات وقال علي: وكل الطلاق جائز، إلا طلاق المعتوه. (صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الطلاق في

الإغلاق..... النسخة الهندية ۲/۷۹۴)

ولا يقع طلاق المولى على امرأة عبده، والمجنون، والصبي،
والمعتوه، وهو اختلال في العقل، والمبرسم الخ. (تنوير الأبصار مع الدر، كتاب
الطلاق، زکریا ۴/۴۹-۴۵۱ کراچی ۳/۴۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱/ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۶/۲۱۹۹)

پاگل پن کا دورہ پڑنے والے کی طلاق

سوال [۶۱۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مجھے کبھی کبھی غصہ میں پاگل پن کا سا دورہ پڑ جاتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسی دوران بچوں کو بے دردی سے مارنے لگتا ہوں، مارتے وقت بیوی کو بلاوجہ کہہ دیا کہ میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی بیوی وہاں موجود نہیں تھی مجھے کچھ یاد نہیں ہے البتہ میرا لڑکا کہتا ہے کہ میں نے تین بار طلاق دی اور لڑکے کے اس بیان پر مجھے یقین ہے، لڑکا میرے حق میں غلط بیانی نہیں کرے گا، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ میری بیوی پر طلاق ہوئی یا نہیں؟ شرعی حکم کیا ہے۔

المستفتی: گلگیر احمد، آزادنگر، کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر اس لڑکے کے ساتھ کسی دوسرے نے بھی شہادت دی ہے، تو طلاق مغلطہ واقع ہو جائے گی؛ جبکہ شوہر کو ان کی شہادت پر یقین ہو؛ لیکن اگر صرف ایک لڑکا شہادت دے رہا ہے اور کوئی شہادت میں شامل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بیوی پر طلاق کا اعتبار نہ ہوگا، بدستور ساتھ رہ سکتے ہیں۔

لو طلق فشهد عنده اثنان أنک استثنیت، وهو غیر ذاکر إن کان
بحیث إذا غضب لا یدری ما یقول وسعه الأخذ بشہادتهما وإلا لا الخ

(وقولہ) إكان بحال لو غضب يجرى على لسانه ما لا يحفظه بعده جاز له الاعتماد على قول الشاهدين. (شامي، كتاب الطلاق، مطلب في طلاق المدهوش، زكريا ديوبند ۴/۴۵۳، كراچي ۳/۲۴۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ محرم الحرام ۱۴۲۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۶/۷۸۸)

کبھی ہوش اور کبھی جنون طاری ہونے والے کی طلاق

سوال [۶۱۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی دماغ کی حالت یہ ہے کہ کسی وقت عقل رہتی ہے، کسی وقت اس کی حالت مجنونہ کی سی ہو جاتی ہے، عمر ۸۰ سال کی ہو رہی ہے، اور یہ حالت جوانی میں تھی مگر کم، اس وقت عروج پر ہے، زید کا بیان ہے کہ میں کہتا کچھ ہوں اور زبان سے کچھ نکلتا ہے۔

(۲) مذکورہ بالا صفات کے حامل زید نے ایک دن تنہائی میں اپنی بیوی ہندہ کو تین طلاق دیدی ہیں، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد زید اپنی مذکورہ بیوی سے کہتا ہے کہ تم کو میں تین طلاقیں دے چکا ہوں، ہندہ نے جواباً کہا کہ اب تو ہمیں تم سے پردہ کرنا چاہئے اور اب میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی، زید نے کہا کہ ہمارا سب کام کرو اور ہماری خدمت کرو اور روٹی پکاؤ وغیرہ وغیرہ، ہم نے طلاق روٹی پکانے وغیرہ سے نہیں دی ہے؛ بلکہ ایک فعل مخصوص و معروف سے رکنے کی دی ہے یعنی جماع سے مزید براں کہتا ہے کہ جوانی میں پردہ نہیں اور سیکڑوں عورتیں پردہ نہیں کرتی، تو تم کیسے پردہ کرو گی؟ اس قسم کی لغویات زید بکتا ہے، صورت مسئلہ میں دریافت طلب امر یہ ہے کہ زید کی طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ زید کو مرفوع الفعل سمجھا جائے گا یا نہیں؟ زید کا شمار مجنون میں ہے یا نہیں؟ تفصیل سے جواب مطلوب ہے۔

(۳) اگر طلاق پڑ گئی تو پردہ کرانے کی کیا صورت ہوگی جبکہ بوڑھا ہے، میاں کی دیکھ بھال ہونی مشکل ہے، کیا عدم پردہ کی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ اجیبو اتوجروا۔

المستفتی: محمد عظیم، محلہ اسلام گنج، ناگرانی، بستی، ہرودئی (یوپی)
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں زید کا اپنی بیوی سے آکر یوں کہہ دینا کہ تم کو میں نے تین طلاقیں دے چکا ہوں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس وقت طلاق دی ہے، اس وقت حالت جنون میں نہیں تھا؛ بلکہ عاقل باہوش مند تھا اور عاقل اور ہوشمند کی طلاق کا واقع ہو جانا واضح ہے۔

عن قتادة قال الجنون جنونان، فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق، وإن كان يفيق، فطلق في حال إفاقته لزمه ذلك. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، ما قالوا في الذي به الموتة تطلق، مؤسسة علوم القرآن ۹/۴۹، رقم: ۱۸۲۲۹)
اور جب عدتیں ذکر کر دیا، تو تینوں طلاقیں واقع ہو کر بیوی مغلطہ ہو گئی ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر
قديم ص: ۲۱۹، زكريا ص: ۳۷۶)

اور زید کا لغو بات بکنا عدم عقل کی وجہ سے نہیں ہے؛ بلکہ عدم علم کی وجہ سے ہے، جو عد شرعی نہیں۔

(۲) جب طلاق مغلطہ واقع ہو گئی ہے، تو اب پردہ شرعی بھی واجب رہے گا، جس کمرہ میں بیوی رہے، اس میں شوہر نہ پہنچے؛ کیونکہ بالکل اجنبیت ثابت ہو چکی ہے، ہاں حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح کرے تو پردہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ رمضان المبارک ۱۴۰۷ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۱۹۸/۲۳)

جنون کو طلاق دینا یا در ہے

سوال [۶۱۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی تقریباً ۱۹ سال پہلے حسن پور میں نواب خان ولد حمید خاں سے ہوئی تھی، کچھ سال خیر و عافیت کے ساتھ گزرنے کے بعد ازدواجی زندگی کے حالات بد سے بدتر ہو گئے، اب سے تقریباً تین سال پہلے میرے شوہر نے رات دو بجے سوتے ہوئے میرے اوپر چاقو سے حملہ کیا اور میری گردن کافی حد تک کٹ چکی تھی، خدا کی طرف سے زندگی تھی فوری طور سے صحیح علاج ہونے پر مجھے نئی زندگی مل گئی، میرے پانچ بچے بھی ہیں، اس حملہ کی وجہ سے میرے بچے بھی اپنے باپ سے خوف زدہ رہتے ہیں اور اپنے باپ کے پاس جانے سے بھی ڈرتے ہیں، بڑی بیٹی جس کی عمر ۱۴ سال ہے، وہ اپنے تایا کے یہاں رہتی ہے، مجھے ہر وقت ستاتے رہتے ہیں اور پوری رات جگاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی ہوں اور آج بتاریخ ۳۱ مئی حسب معمول فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف پڑھ رہی تھی، اسی وقت میرا چھوٹا بیٹا جس کی عمر ۵ سال ہے وہ چائے کی ضد کرنے لگا، میرے شوہر نے مجھ سے چائے کے لئے کہا میں نے قرآن شریف پڑھنے کے بعد چائے کے لئے کہا، اس پر اسی وقت انہوں نے اپنی بڑی بھابھی اور بھتیجے کے سامنے مجھے تین طلاق دیدیں، اس کے بعد میرے شوہر نے ہمارے گھر والوں کو مراد آباد فون پر بھی کہہ دیا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دیدی ہے، اسے آکر یہاں سے لے جائیے، ہمارے شوہر کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کی وجہ سے دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں، ان کے دماغ کا دہلی کے ڈاکٹر کا علاج بھی ہو رہا ہے؛ لیکن وہ علاج پوری طرح سے نہیں کر پاتے، اب میری اور میرے بچوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے؛ اس لئے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میری صحیح رہنمائی فرماتے ہوئے تحریری طور سے مفید مشوروں اور دعاؤں سے نوازیں؛ جبکہ ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی،

اس مسئلہ پر آپ کے جواب کی منتظر ہوں، شوہر کو طلاق دینا یاد ہے، اسی وجہ سے اس نے بیوی کے میکہ والوں کو طلاق کی اطلاع دی۔

المستفتیہ: طاہری بی، حسن پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوالنامہ میں صاف طور پر وضاحت موجود ہے کہ اس نے بیوی کو طلاق دینے کے بعد سسرال کو فون کر کے بتلایا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دیدی ہے، اسے آکر یہاں سے لے جاؤ اور سوال نامہ میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ شوہر کو طلاق دینا یاد ہے، تو اس قدر ہوش و حواس کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؛ لہذا سوال نامہ کی ان باتوں سے وقوع طلاق میں کوئی اثر نہیں پڑے گا جن میں اس کے دماغی حالات خراب ہونے کی بات لکھی گئی ہے، ہاں البتہ حالات ایسے خراب ہو جائیں کہ اسے طلاق دینا یاد نہ ہو، تو اس کا حکم دوسرا ہوتا ہے، جب شوہر نے اس حالت میں تین بار طلاق دی ہے، تو طلاق مغلطہ واقع ہو کر بیوی شوہر پر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے، آئندہ بغیر حلالہ شرعیہ کے آپس میں نکاح بھی درست نہیں۔ (مستفاد: امداد الاحکام ۴/۱۳۳)

عن الشعبي قال: ما كان في إفاقة المجنون من طلاق، أو عتاقه، أو قذف، فهو جائز و ماصنع وهو يبغف، فليس بشييء. (المصنف لعبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب المجنون و الموسوس، المجلس العلمي ۷/۷۸، رقم: ۱۲۲۸۲، سنن سعيد بن منصور، باب ماجاء في طلاق السكران، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۲۷۳، رقم: ۱۱۲۰-۱۱۲۲)

عن قتادة قال: الجنون جنونان، فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق، وإن كان يفيق فطلق في حال إفاقته لزمه ذلك. (المصنف لابن أبي شيبه، كتاب الطلاق، ما قالوا في النبي به الموتة تطلق، مؤسسة علوم القرآن ۹/۵۴۹، رقم: ۱۸۲۲۹)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

زکریا ص: ۳۷۶، قدیم ۲۱۹)

إن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. (عالمگیری، کتاب الطلاق الباب السادس فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به جدید ۱/۵۳۵ زکریا ۱/۴۷۳، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، قدوری، مکتبہ امدادیہ دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳ھ/۷/۱۶

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ رجب المرجب ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۱۹۶)

مجنون کو طلاق دینا یا دہوتو کیا حکم ہے؟

سوال [۶۱۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گلزار احمد نے اپنی بیوی ستارہ کو بلایا، جب نہیں سنا تو زور سے ڈانٹ کر بلایا اور خسار احمد ولد خلیل احمد کو بھی آواز دے کر خوب زور سے بلایا اور اس کو گواہ بنا کر تین مرتبہ طلاق دی، پھر گلزار احمد کے بھائی سردار نے معلوم کیا، یہ سب کیا معصہ ہے؟ تو گلزار احمد نے کہا بات کو ایک ہفتہ ہو گیا ہے؛ جبکہ کل صبح آٹھ بجے کی بات ہے، سردار احمد نے یہ اندازہ کیا کہ دماغی توازن خراب ہے؛ لیکن طلاق دینے کی بات یاد ہے۔

المستفتی: گلزار احمد، لال مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب گلزار احمد کو طلاق دینا اچھی طرح یاد ہے، تو شرعاً اس کی طلاق کا اعتبار ہوگا اور جب تین مرتبہ طلاق دیدی ہے، تو اس سے طلاق مغلطہ واقع ہو چکی ہے۔ اب بلا حلالہ دوبارہ نکاح بھی جائز نہ ہوگا۔

عن قتادة قال: الجنون جنونان، فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق، وإن كان يفيق فطلق في حال إفاقته لزمه ذلك. (المصنف لابن أبي شيبه، كتاب الطلاق، مقالوفاي الذي به المودة تطلق، مؤسسة علوم القرآن ۹/۵۴۹، رقم: ۱۸۲۲۹)

عن إبراهيم وغير واحد من أصحابنا عن الشعبي، قال: طلاق المجنون في إفاقته جائز، وإذا طلق في غير إفاقته لم يجز. (سنن سعيد بن منصور، كتاب الطلاق، باب ماجاء في طلاق السكران، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۲۷۳، رقم: ۱۱۲۲)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (هندية، زكريا ۱/۴۷۳، كتاب الطلاق، الباب السادس فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به حديثاً ۱/۵۳۵، هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۹۹، قدوري، مكتبه امداديه ديوبند ص: ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲/۲۳۰)

دماغی مرض میں مبتلا شخص کی طلاق

سوال [۶۱۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری عقل تھل ہو چکی ہے، دماغی ہوش و حواس خراب ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے کچھ پتہ نہیں چل پاتا ہے، میری حالت خراب تھی، میرا کاروبار وغیرہ بھی خراب ہے، میں نے اپنائی وی بھی توڑ دیا ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا میں نے تین بار طلاق طلاق طلاق کا لفظ کہا، مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی چیز میری زبان سے نکلی ہو، مجھے

پتہ نہیں چلا کہ میں نے کیا کہا، یہ الفاظ بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے جاری ہوئے، جو بھی شرعی حکم ہو آپ نافذ فرمادیں۔

المسفتی: چراغ الہی، محلہ بھٹی، گلی انجیر والی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سائل کو احقر نے خود بھی دیکھا اور باشرع واقف لوگوں سے بھی معلوم ہوا، نیز ڈاکٹری معائنہ بھی کرایا گیا، ان سب وجوہات سے ثابت ہوا کہ واقعی سائل بدحواسی اختلال عقل اور سخت دماغی مرض میں مبتلا ہے، ایسے شخص کی طلاق شرعاً معتبر نہیں ہوتی ہے؛ اس لئے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۰۱۹ء)

عن عمروؓ قال: سئل جابر عن رجل طلق امراته، وهو مجنون حين أخذه جنونه؟ قال: لا يجوز. (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، ما قالوا في طلاق المجنون، مؤسسة علوم القرآن ۶/۹، ۵۴، رقم: ۱۸۲۱۱)

عن الشعبي قال: لا يجوز طلاق المغلوب على عقله. (سنن سعيد بن منصور، باب ما جاء في طلاق السكران، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۲۷۳، رقم: ۱۱۲۴)

وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته، فمادام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها؛ لأن هذه المعرفة والإرادة، غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتبر من الصبي العاقل الخ. (شامي، كتاب الطلاق، باب طلاق المدهوش، كراچی ۳/۲۴۴، زكريا ديوبند ۴/۵۳، ۴ کوئٹہ ۲/۶۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ رمضان المبارک ۱۴۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۸۷)

حالت جنون میں تین طلاق دینا

سوال [۶۱۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے پاگل پن کی حالت میں جس کا دماغی توازن تقریباً چار ماہ سے ڈاکٹری سائٹیفکٹ کے مطابق خراب ہے، اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں اور اسی حالت میں اور دوسرے کے سوال کرنے کے جواب میں اس نے کہا کہ میں نے دی اور اس کی حالت یہ ہے کہ مارتوڑ کر رہا ہے، کسی کے قبضہ میں نہیں آ رہا ہے اور اپنے جسم میں چھری کانٹے، جو کچھ ہاتھ میں آتا ہے مار لیتا ہے اور اپنے جسم کو زخمی بھی کر لیا ہے، تو کیا ایسی حالت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: ابن جاوید علی، کھوکران، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر واقعی مذکورہ شخص پر جنون طاری ہو چکا ہے اور اس طرح جنون و مدہوشی میں طلاق دیدی ہے اور اس نے جو سوال کے جواب میں ”میں نے دی“ کہا ہے محض ضد اور جنون میں کہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی ہے؛ لیکن اگر دماغی توازن درست ہو جانے کے بعد اقرار کرے گا، تو طلاق صحیح مان لی جائے گی۔

عن الشعبي قال: لا يجوز طلاق المجنون إذا طلق في جنونه، وإذا

عقل فطلاقه جائز. (سنن سعيد بن منصور، باب ما جاء في طلاق السكران، دارالكتب

العلمية بيروت ۱/۲۷۳، رقم: ۱۱۲۰)

عن الزهري قال: لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ به، فإذا صح

فهو جائز. (مصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، ماقالوا في طلاق المجنون،

مؤسسة علوم القرآن ۹/۵۴۶-۵۴۷، رقم: ۱۸۲۱۲ ولا يقع طلاق الموتى على امرأة

عبدہ والمجنون الخ تنوير الابصار على الدر المختار مع الشامی کراچی ۳/۲۴۲،

زکریا ۴/۴۹-۴۵۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۱ شعبان المعظم ۱۴۱۴ھ
 (فتویٰ نمبر: الف: ۳۱/۳۱۵۵۶)

بے ہوشی میں طلاق کا حکم

سوال [۶۱۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میاں بیوی میں آپسی تنازع ہوا، درآں حالیکہ شوہر صاحب کابچی کے انتقال کے سبب دماغ صحیح نہیں چل رہا تھا، اس تنازع کے درمیان بیوی نے اپنے پورے جہیز اور طلاق کا مطالبہ کیا، تو جب تک شوہر صاحب اپنے ہوش و حواس میں تھے، تب تک انہوں نے کوئی طلاق نہیں دی ہے، جب ہوش میں نہ رہے تو ان کی پھوپھی اور ایک بہن کا کہنا ہے کہ ان کی زبان سے تین مرتبہ طلاق کے الفاظ نکلے ہیں اور بیوی کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ اور شوہر کا کہنا ہے کہ اسے کوئی خبر نہیں ہے کیا کہا اور کس کو کہا ہے، اور یہ اپنی اس بات پر قسم کھانے کو تیار ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں شرعاً طلاق واقع ہو جاتی ہے؟

المستفتی: محمد رمضان، مرزا پور، پرتاپ گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب بے ہوشی سے افاقہ کے بعد شوہر کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ کیا کہا ہے اور کس کو کہا ہے اور وہ اس پر قسم کھانے کو تیار ہے۔ نیز اس کی پھوپھی بہن وغیرہ بھی اس کی بے ہوشی کی قائل ہیں، تو اس بے ہوشی کی حالت میں بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۴۰۷، احسن الفتاویٰ ۱۶۲/۵)

ولایقع طلاق المولیٰ علی امرأة عبده والمجنون والصبی والمعتوه
 والمبرسم، والمغمیٰ علیہ والمدہوش . (تنویر الأبصار مع الدر، کتاب الطلاق،
 زکریا ۴/۴۹ تا ۴/۵۲، کراچی ۳/۲۴۲، ۲۴۳)

الثاني أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريد، فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله. (شامي، زكريا ۴/۴۵۲، كراچی ۳/۲۴۴، الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۸/۲۹)

ولا طلاق صبي ومجنون وكذا المغمى عليه والمبرسم، والملهوش. (ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ۲/۱۰، فتاوى هندية، كتاب الطلاق فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه جديد ۱/۴۲۰ زكريا ۱/۳۵۳)

سئل نظاماً فيمن طلق زوجته ثلاثاً في مجلس القاضي، وهو مغتاض مدهوش، فأجاب نظاماً أيضاً بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع، وإذا كان يعتاده بان عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان (شامي، زكريا ۴/۴۵۲، كراچی ۳/۲۴۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۷/رجب المرجب ۱۴۳۳ھ
 (فتویٰ نمبر: الف: ۱۰۷۵۰/۳۹)

بے ہوشی کی حالت میں طلاق دینا

سوال [۶۱۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا میاں بیوی کا جھگڑا مار پیٹ ہوئی، بہت کچھ ٹکرار ہو گیا اور یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا اور اسی غفلت کی حالت میں میرے منہ سے لفظ طلاق نکل گیا، جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، مگر وہاں پر موجودہ لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ میں غفلت کے عالم میں کئی مرتبہ لفظ طلاق اپنے منہ سے ادا کر چکا ہوں، جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اب آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس معاملہ پر آپ صاحبان فیصلہ دے کر احسان فرمائیں۔

المستفتی: محمد مقبول حسین، مقرب پور، نزدیک دم دے کی کوشی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر آپ اپنے بیان میں سچے ہیں اور حلفیہ بیان دے

سکتے ہیں اور جو لوگ آپ کو زبانی بتلا رہے ہیں، ان میں سے دو عادل باشرع مقبول الشہادۃ گواہ موجود نہیں ہیں، تو آپ کی بیوی پر شرعاً طلاق واقع نہیں ہوئی اور اگر عادل باشرع مقبول الشہادۃ مرد آپ کو بتلا رہے ہیں تو ان کی شہادت معتبر ہوگی اور آپ کی بیوی پر اتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی جتنی کی وہ لوگ شہادت دیتے ہوں؛ البتہ تین سے زائد میں تین ہی واقع ہوگی۔

والثانی أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده، فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله (وقوله) ثم رأيت ما يؤيد ذلك الجواب هو أنه قال في الولوالجية إن كان بحال لو غضب يجري على لسانه ما لا يحفظه بعده جاز له الاعتماد على قول الشاهدين الخ. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب في طلاق المدهوش، كوئته ۲/۴۶۳، كراچي ۳/۲۴۴، زكريا/۴۵۲، وهكذا في الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۸/۲۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹ شعبان المعظم ۱۴۰۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۴/۸۳۹)

بے ہوشی کی حالت میں طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۱۷۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اپنی بیوی کو بلانے کے لئے گیا راستے میں اس کی مخالف پارٹی نے گھر جانے نہیں دیا، مار پیٹ کر اس کو بے ہوش کر دیا، اس نے بے ہوشی میں طلاق دی، طلاق دی، کئی بار کہا مگر اس کو معلوم نہیں، مخالف پارٹی نے شور مچایا، طلاق دی، طلاق دی، بیوی اس طلاق کو نہیں مان رہی ہے، بیوی اپنے میاں کے گھر آنے کو تیار ہے؛ لہذا اس کی طلاق ہونے میں گنجائش ہے یا نہیں؟ تحریر فرمائیں۔

المستفتی: عبدالغنی، محلہ نالہ پار قصبہ شاہ آباد، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: غصہ کی حالت میں بیوی کے سنہ اور مانے بغیر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا اگر کئی مرتبہ کہنے سے مراد تین بار یا اس سے زائد ہے اور شوہر کو لوگوں کے بیان پر اعتماد بھی ہے، تو بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، دوبارہ بلا حلالہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔

إن كان بحال لو غضب يجرى على لسانه ما لا يحفظه بعده جاز له الاعتماد على قول الشاهدين. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی طلاق المدہوش، زکریا ۴/۴۵۳، کراچی ۳/۲۴۴)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۶/۳۷)

متی کرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق. (فتاویٰ عالمگیری، زکریا ۱/۳۵۶ کتاب الطلاق الباب الثانی فی ایقاع الطلاق جدید ۱/۴۲۳)

اور اگر کئی مرتبہ سے مراد صرف دو مرتبہ ہے، اس سے زائد نہیں ہے یا شوہر کو لوگوں کے بیان پر اعتماد نہیں ہے، تو یقیناً طلاق قضاء واقع نہیں ہوگی۔ ۲ طلاق کی صورت میں رجعت کر کے اور عدم اعتماد کی صورت میں یونہی بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے۔ اب میاں بیوی خود ہی سوچ لیں! اگر غلط سوال کر کے کسی مفتی سے واقعہ کے خلاف فتویٰ حاصل کر لیا جائے تو حرام چیز حلال نہیں ہوگی۔ نیز مفتی پر کوئی الزام بھی نہیں ہے۔

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (هدایة، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴، ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۰ کتاب الطلاق الباب السادس فی الرجعة الخ جدید ۱/۵۳۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۵ رجب المرجب ۱۴۰۹ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۲۵/۱۲۳۳)

آسیب زدہ شخص کا دوران جنون طلاق دینا

سوال [۶۱۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید پر جنات و سحر وغیرہ کا اثر ہے، جس کی وجہ سے دماغی حالت اچھی نہیں ہے اور اپنی عقل کھوئے رہتا ہے، جو زبان پر آتا ہے کہہ دیتا ہے، اسے اس حالت کا بھی ہوش نہیں ہے، اس کا کام کاج گھروالے انجام دیتے ہیں، عاقلوں کے زیر علاج ہیں، جنہوں نے جنات وغیرہ کا اثر تجویز کیا ہے، تقریباً یہ کیفیت ۱۵/۱۴ سال سے ہے۔

ایک روز شام یہ واقعہ پیش آیا، عامل کی بتائی ہوئی چراغی لے رکھی تھی، رات کا وقت تھا بیوی سوئی ہوئی تھی، اس نے چراغی پر بیٹھے بیٹھے چھوڑ دی، چھوڑ دی، چھوڑ دی، چھوڑ دی، کالفظ استعمال کیا، یہ لفظ اس کی بیٹی اور ماں نے سنے، قبل اس کے اس کی اور اس کی بیوی میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، اس کا کہنا ہے کہ یہ لفظ میں نے خود نہیں کہے ہیں؛ بلکہ جنات وغیرہ نے دباؤ دے کر کہلوائے ہیں۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ ان حالات میں اس کی بیوی پر ان الفاظ سے طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟ مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد حنیف قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامہ میں جو صورت لکھی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ شخص بسا اوقات ہوش میں نہیں رہتا ہے، اور جب اس کے اوپر جن سوار ہو جاتا ہے، تو اس کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا بک رہا ہے، اور جو واقعہ پیش آیا ہے، وہ اسی طرح کی حالت میں پیش آیا ہے، اور اس واقعہ سے پہلے بیوی سے کوئی لڑائی وغیرہ نہیں

رہی ہے؛ بلکہ بیوی اپنی جگہ سو رہی ہے، شوہر کے سامنے مخاطب بھی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر چراغی کرتے ہوئے اس کا چھوڑ دی، چھوڑ دی، چھوڑ دی کے الفاظ زبان سے نکالنا اور یہ کہنا کہ میں نے خود نہیں کہا ہے؛ بلکہ مجھ سے کہلوا یا گیا ہے، تو اس میں شوہر نہ بیوی سے مخاطب ہے اور نہ اس کی مراد بیوی ہے، تو ایسی صورت میں ان الفاظ کے ذریعہ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی؛ اس لئے کہ لفظ طلاق کے ساتھ بھی ایسے موقع پر بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوتی ہے؛ کیونکہ وقوع طلاق کے لئے الفاظ طلاق بولتے وقت اس میں بیوی مراد ہونا یا مخاطب ہونا لازم ہوتا ہے اور یہاں دونوں چیزیں مفقود ہیں۔

إن الصريح لا يحتاج إلى النية؛ ولكن لا بد في وقوعه قضاءً وديانةً من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالماً بمعناه..... لو لقنته لفظ الطلاق، فنلفظ به غير عالم بمعناه فلا يقع أصلاً على ما أفتى به مشايخ أوز جند صيانة عن التلبیس. (شامی، کتاب الطلاق، باب الصريح، کراچی ۳/۲۵۰، زکریا ۴/۴۶۱)

الأصل أن الطلاق إنما يقع لوجود لفظ الإيقاع من مخاطب في ملكه..... وحكى عن القاضي الإمام محمود الأوزجندی أنه سئل عن لقنته امرأته طلاقاً، فطلقها وهو لا يعلم بذلك؟ قال: وقعت هذه المسئلة باوز جند، فقال: شاورت أصحابي في ذلك واتفقت آراؤنا أنه لا يفتى بوقوع الطلاق صيانة لأموال الناس عن الإبطال بنوع تلبیس. (تاتارخانية، زکریا دیوبند ۴/۳۹۲، ۳۹۸، رقم: ۶۵۱۸، تاتارخانية قديم ۳/۲۸۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸/۱۳۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۲۲۱۱)

آسیب زدہ شخص کا بیوی کو طلاق دینا

سوال [۶۱۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا چچا زاد بھائی ”عبدالرحمن خاں عرف نواب خان“، عاملوں نے اس پر جن اور سحر کے اثرات بتائے ہیں، جب اس پر سحر اور جینی اثرات کا دورہ طاری ہوتا ہے تو وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے، بیوی پر شک کرتا ہے، خوب گالی گلوچ کرتا ہے، بے تحاشہ مارتا ہے، خودکشی کرنے کو بھی کہتا ہے، ماں باپ بھائی بہنوں کو گالیاں دیتا ہے، جب اس پر یہ دورہ طاری ہوتا ہے، تو دانت پیتتا ہے، آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہو جاتی ہیں، ایسی حالت میں اس نے بیوی کو تین طلاق دی ہیں، اب کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا مجھے بھی معلوم نہیں اور پچھتا رہا ہے، کیا شریعت کی روشنی میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: حاجی اظہار مجزل میڈیکل باری ٹاکی، اکولہ (مہاراشٹر)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سوال میں ذکر کردہ صورت واقع کے مطابق ہے اور مذکورہ شخص پر واقعی جن سوار ہو جاتا ہے، اور اس وقت کیا بول رہا ہے، ہوش آنے کے بعد اس کو یاد نہیں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں مذکورہ حالت میں وہ خود نہیں بولتا ہے؛ بلکہ اس پر سوار ہونے والا جن بولتا ہے، اس حالت میں دی گئی طلاق شرعاً معتبر نہ ہوگی، بیوی اس کے لئے بدستور حلال رہے گی۔

ولایقع طلاق الصبی وإن کان یعقل، والمجنون والنائم والمبرسم والمغمیٰ علیہ والمدهوش. (ہندیہ، کتاب الطلاق فصل فیمن یقع طلاقہ الخ جدید ۱/۴۲۰ زکریا ۱/۳۵۳)

طلاق الصبی غیر واقع، وکذلک طلاق المجنون والمعتوه
 کذلک المغمیٰ علیہ والمعتوه، والمدہوش. (الفتاویٰ التاتاریخانیہ، زکریا
 ۴/۳۹۲، رقم: ۶۵۰۵، درمختار مع الشامی، زکریا ۴/۴۵۱-۴۵۲، کراچی
 ۳/۲۴۲، ۲۴۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶/۷۱ قعدہ ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۴۱/۱۱۶۹۴)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۵/۱۱/۶ھ

ہارٹ اٹیک کے دورے کے دوران طلاق دینا

سوال [۶۱۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو اس کی زبان درازی و نافرمانی پر اپنے لڑکے کے کہنے پر طلاق، طلاق، طلاق کے الفاظ ۳ بار ایک سانس میں کہہ رکھے، وقت میں نے یہ الفاظ کہے تھے نہ میں نے بیوی کی طرف کو مخاطب ہو کر کہے، نہ وہ موجود تھی، کیا اب دوبارہ ہم دونوں ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں؟

ہوش آنے پر مجھے پتہ چلا تو میں اپنی غلطی پر نادم ہوا اور آپ سے معلوم کرتا ہوں تاکہ کوئی سہولت نکل سکے۔

المستفتی: رئیس احمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شوہر کو اتنا ہوش باقی ہے کہ اس نے ایک سانس میں تین طلاق دی ہیں اور اس کو یاد بھی ہیں، تو شرعی طور پر بے ہوش نہیں ہے، اس کی دی ہوئی تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اب بلا حلالہ دوبارہ نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (هندية، كتاب الطلاق، الباب السادس فصل فيما تحل به المطلقة الخ زكريا قديم ۱/۴۷۳، زكريا جديد ديوبند ۱/۵۳۵ هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۹۹، قنوري، امدادية ديوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ صفر المظفر ۱۴۱۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۳/۵۱۶۶)

ڈرانے کے ارادے سے طلاق دینا

سوال [۶۱۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عبد اللہ کی عمر ۵۵ سال ہے اور سال میں دو تین مرتبہ اس کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میرے اوپر آسیب ہے، اس حالت میں کسی کو بھی مارنا ہر کسی سے بلا وجہ جھگڑا کر لینا۔ نیز الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شامل ہے، اب ایک روز عبد اللہ کی یہی حالت تھی کہ پہلے تو اس نے اپنی بیوی کو خوب مارا اور پھر اپنے لڑکے اور اس کے لڑکے کے دوستوں کے سامنے کہنے لگا کہ میں نے تمہاری ماں کو طلاق دیدی اور یہ بات کہ طلاق دیدی تین بار کہی ہے، اگرچہ اس وقت اس کی بیوی نے اس کی بات سنی نہیں؛ کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھی، بعد میں جب اس کی حالت ٹھیک ہوئی، تو اس سے کہا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو یوں ہی ڈرانے کے لئے کہا تھا اور میرا ارادہ ہرگز طلاق دینے کا نہیں تھا حتیٰ کہ وہ ہاتھ جوڑنے لگا کہ اگر تم اسے میری غلطی سمجھتے ہو تو مجھے معاف کر دو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کی عورت کو طلاق ہوگئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد ذکی بن ممتاز احمد قاسمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب اتنے ہوش میں طلاق کے الفاظ استعمال کئے ہیں کہ بعد میں حالت بالکل صحیح ہونے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈرانے کے لئے یہ الفاظ کہے تھے اور طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا، اس طرح کی حالت مدہوش یا بے ہوشی میں شامل نہیں ہوتی ہے اور اس حالت کی طلاق کا اعتبار کیا جاتا ہے؛ لہذا جب اس حالت میں بیٹے

سے آ کر کہہ دیا کہ تمہاری ماں کو طلاق دیدی تو یہ طلاق دینے کی خبر اور اقرار ہے، اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے اور اگر دوسری اور تیسری مرتبہ میں پہلی بار کی خبر دینا مقصود ہے، نئے سرے سے طلاق دینا مقصود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی اور اگر دوسری اور تیسری بار سے بھی طلاق واقع کرنا مقصود تھا، تو تین طلاقیں پڑ جائیں گی اور ڈرانے کے ارادے سے بھی طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس شخص سے معلوم کر لیا جائے کہ دوسری اور تیسری بار سے طلاق کا ارادہ کیا تھا یا پہلی بار کی خبر دینا چاہتا تھا اور طلاق رجعی کی صورت میں عدت کے اندر رجعت کی گنجائش ہے اور تین طلاق واقع ہونے کی صورت میں رجعت کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔

ولو أقر بالطلاق كاذباً أو هازلاً وقع قضاءً. (شامی، کتاب الطلاق، قبیل

مطلب في المسائل التي تصح مع الإكراه، كراچی ۳/۲۳۶، زکریا ۴/۴۰/۴۴)

والذي يظهر لي أن كلام من المدعوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول؛ بل يكتفي فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجذ بالهزل كما هو المفتى به في السكران على ما مر..... والعاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلاً نادراً. (شامی، مطب في طلاق المدعوش، زکریا ۴/۴۰۲-۴۵۳، كراچی ۴/۲۴، فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۹/۲/۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴۲۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۴۵۶)



(۸) باب طلاق المکره

طلاق بالجبر کا حکم

سوال [۶۱۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص کو اس کی سسرال والوں نے اپنے یہاں بلا کر زبردستی تین طلاقیں کہلوا لیں؛ جبکہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے پر رضا مند نہیں تھا، تو کیا اس صورت مذکورہ میں طلاقیں واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر طلاقیں ہو گئیں تو دوبارہ اس کو اپنے پاس رکھنے کی کیا صورت ہوگی؟ وضاحت فرمائیں۔

المستفتی: صغیر احمد، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زبردستی ڈرا دھم کر طلاق دلوانے کی صورت میں اگر زبان سے تین مرتبہ شوہر نے طلاق کا لفظ کہہ دیا ہے، تو اگرچہ وہ طلاق دینے پر رضا مند نہ رہا ہو، پھر بھی زبان سے کہنے کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے؛ لہذا جب زبان سے تین مرتبہ طلاق کا لفظ کہہ دیا ہے، تو اس سے بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو کر شوہر پر وہ بالکل حرام ہو گئی۔ اب اگر دوبارہ رکھنے کا ارادہ ہو تو بغیر حلالہ کے رکھنا جائز نہیں ہے۔

عن صفوان بن عمر الطائي أن رجلاً كان نائماً مع امرأته، فقامت: فأخذت سكيناً، فجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه وقالت: لتطلقني ثلاثاً البتة، وإلا ذبحتك، فناشدها الله فأبت عليه فطلقها ثلاثاً فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا قبولة في الطلاق. (سنن سعيد بن منصور، باب ماجاء في طلاق المکره، دارالکتب العلمیة

وفي الكافي: وطلاق المكره والسكران وخلعهما وإعتاقهما واقع.

(تاتارخانیة، زکریا ۴/۳۹۵، رقم: ۶۵۱۲)

وطلاق المكره واقع. (هدایة، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۸)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها.

(عالمگیری، زکریا ۱/۴۷۳ کتاب الطلاق الباب السادس فصل فيما تحل به المطلقة الخ جدید ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵ھ/۶/۲۰

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ جمادی الثانی ۱۴۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۷/۸۴۱۰)

مکرہ کی تحریری اور زبانی طلاق کا حکم

سوال [۶۱۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی فرماں بردار نہیں ہے، اور میری بات کو نہیں سنتی اور مجھے بہت پریشان کرتی ہے، ایک دن میں نے اس کو ڈرانے کے لئے ایک پرچے پر تین بار تلاک لکھ کر بھیج دیں، تاکہ وہ میری فرماں بردار ہو جائے اور ڈر جائے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں یہ بتادیتے کہ کیا یہ طلاق ہوگئی یا نہیں؟ اگر طلاق نہیں ہوئی اور اس کے گھر والے اس کا نکاح دوسری جگہ کرتے ہیں تو کیا یہ نکاح جائز ہوگا یا ناجائز؟ میں نے پڑچے پر تلاک بددلی سے صرف اس کو ڈرانے کے لئے لکھا تھا۔

المستفتی: محمد محسن، محلہ ڈپٹی گنج، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ڈرانے اور دھمکانے کی غرض سے جو تلاک زبانی طور پر یا تحریری طور پر دی جائے وہ واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا جب آپ نے تین بار تلاک لکھ کر بھیج دی

ہے، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلظ واقع ہو چکی ہے اور عدت گزرنے کے بعد وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے اور آپ کے ساتھ بغیر حلالہ کے نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔

ویقع بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريح، ويدخل نحو طلاع، وتلاخ، طلاك، وتلاك.....بلا فرق بين عالم و جاهل، وإن قال تعدته تخويفاً لم يصدق قضاءً إلا إذا أشهد عليه قبله، به يفتى! (درمختار، كتاب الطلاق، باب الصريح، كراچی ۲۴۹/۳، زکریا ۴۵۹/۴)

قال في الهندية: الكتاب على نوعين مرسومة وغير مرسومة (إلى قوله) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (شامي، كراچی ۲۴۶/۳، زکریا دیوبند ۴۵۵/۴، ۴۵۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (هندية، عالمگیری، زکریا ۴۷۳/۱ کتاب الطلاق الباب السادس فصل فيما تحل به المطلقة الخ جدید ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، قدوری، مکتبہ امدادیہ دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴ شعبان المعظم ۱۴۳۴ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۱۱۲۳۳)

زور زبردستی زبانی طلاق دلوانے کا حکم

سوال [۶۱۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری سسرال کے لوگوں نے مجھ سے عدالت میں زبردستی سے زبانی طور پر طلاق کا لفظ کہلوا یا اور میں نے تین دفعہ طلاق دے دی تھیں، اب میری بیوی کی عدت بھی پوری ہو چکی ہے، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو کیا شرعاً سے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: عبدالماجد، لاجپت نگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر شوہر سے زور زبردستی کر کے اور جبراً زبانی طور پر طلاق کے الفاظ کہلوادیئے اور شوہر نے بھی زبان سے تین مرتبہ طلاق کے الفاظ کہہ دیئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب حلالہ شرعیہ کے بغیر دونوں کے لئے ایک ساتھ میاں بیوی کی طرح رہنا جائز نہیں ہے۔
(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۱۸/۱۷۱)

عن ابن عمر[ؓ] قال: طلاق الکرة جائز. (مصنف عبدالرزاق، المجلس لعلی بیروت ۶/۴۱۰)
ویقع طلاق کل زوج إذا کان بالغاً عاقلاً سواء کان حراً أو عبداً
أوطاناً أو مکرهاً. (ہندیہ، کتاب الطلاق، فصل فیمن یقع طلاقہ وفیمن لا یقع، زکریا
قدیم ۱/۳۵۳، زکریا جدید دیوبند ۱/۴۲۰، الجوہرۃ النیرۃ، امدادیہ ملتان ۲/۱۰۲،
دارالکتاب دیوبند ۲/۹۸-۹۹)

ویقع طلاق کل زوج عاقل بالغ ولو مکرهاً الخ فإنه طلاقہ صحیح.
(ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، کتاب الطلاق، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۲/۷-۸، در
مختار مع الشامی، کراچی ۳/۲۳۵، زکریا ۴/۴۳۸)
ویقع طلاق کل زوج عاقل بالغ لصدورہ من أهلہ فی محلہ،
ولو مکرهاً، أي ولو کان الزوج مکرهاً علی إنشاء الطلاق لفظاً. (البحر الرائق،
زکریا ۳/۴۲۶-۴۲۸، کوئٹہ ۳/۲۴۴-۲۴۵)

وطلاق المکره واقع؛ لأنه عرف الشرین واختار أهونهما، وهذا
آیة القصد والاختیار؛ إلا أنه غیر راض بحکمہ، وذلك غیر منخل به.
(ہدایۃ، کتاب الطلاق، باب طلاق السنۃ ۲/۳۵۸)

طلاق المکره واقع. (تاریخانیۃ، زکریا ۴/۳۹۵، رقم: ۶۵۱۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷/۱۱/۱۴۳۲ھ

۱۴۳۲/۱۱/۱۷

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۵)

بحالتِ اکراہ دی ہوئی طلاق کا حکم

سوال [۶۱۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی کو پورے دو سال ہو گئے اور جب زید اپنی سسرال گیا تو زید کی سسرال والے اسے پکھری لے کر آگئے اور وکیل کے سامنے زبردستی زید سے کہا کہ تم طلاق دو، ایک بار کہا، زید نے طلاق نہیں دی، دوسری بار پھر زید کی سسرال والوں نے کہا کہ تم طلاق دو، پھر بھی زید نے طلاق نہیں دی، تیسری بار زید کے سسرال والوں نے ہندوق دکھائی کہ اگر طلاق نہیں دو گے، تو گولی مار دیں گے، تو زید نے صرف ایک بار طلاق دی، تو کیا اس صورت میں طلاق ہو گئی؟

المستفتی: عبدالغفار، بھٹ پورہ اسمولی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں زید کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی عدت کے اندر اگر چاہے تو وہ لوٹا سکتا ہے، طلاق بالجبر بغیر عذر شرع کے لینا اگرچہ حرام ہے مگر واقع ہو جاتی ہے۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ. [البقرہ: ۲۲۹]

عن عمر بن عبد العزيز يقول: طلاق السكران والمكره جائز.

(شرح معانی الآثار للطحاوي، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره، دار الكتب العلمية بيروت ۲/۴۶۷، رقم: ۴۵۵۷)

ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو مكرهاً، فإن طلاقه صحيح.

(درمختار مع الشامسي، كتاب الطلاق، مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق، كراچی ۳/۲۳۵، زکریا ۴/۴۳۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۵/۱۱/۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵/۱۴۱۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۱/۱۹۵)

زبردستی لی ہوئی طلاق کا حکم

سوال [۶۱۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی مسماۃ حمیدہ سے کئی سال قبل ہوئی تھی، شادی کے بعد کچھ ابتدائی زمانہ خیریت کے ساتھ گزرا، مگر کچھ ہی زمانہ کے بعد زید اپنی سستی کا پہلی بد اطواری بد اخلاقی اور سٹے بازی کی وجہ سے معاش سے بیٹھ گیا اور خود اپنے نان و نفقہ کے لئے اس نے لڑکی کا وہ سامان جس کو وہ بطور جہیز کے والدین کے یہاں سے اپنے ساتھ لائی تھی اس کو فروخت کرنا شروع کر دیا۔

ثانیاً مسماۃ حمیدہ کو مجبور کیا کہ وہ نان و نفقہ کے لئے اپنے والدین سے پیسہ وصول کرے، والدین نے ایک عرصہ تک اس کو برداشت کیا، مگر جب معذرت کی تو فون اور غیر فون پر دھمکیاں دینا شروع کیں، مسماۃ حمیدہ کو زد و کوب کرنا شروع کیا حتیٰ کہ سگریٹ کے ذریعہ جسم کو داغنا، چہرے پر مارنا، نشانات کی ضرب لگانا اس کا مستقل عمل بن گیا، کبھی کبھی نوبت یہاں تک پہنچی کہ اہل محلہ نے آکر مسماۃ حمیدہ کو بچایا نوبت بایں جا رسید کہ والدین اور مسماۃ حمیدہ کے بھائیوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، نصیحت فہمائش کی ساری منزلیں طے کرنے کے بعد جب کچھ حاصل نہ ہوا، تب مسماۃ حمیدہ کے اہل تعلق اور برادران نے زید مذکور سے زبانی طور پر جبراً تین بار طلاق لے لیں، اب جبکہ شوہر چہرے پر مار، ایک ہی مقام پر بار بار مار، نشان ڈالنے والی مار، چڑا پھاڑنے والی مار، ہاتھ اور ڈنڈے کے استعمال کا مرتکب ہے، اور اہل محلہ اس کے گواہ ہیں اور ہمارے ہندوستان کے موجود ماحول میں جبکہ مقتدر قوت ہمارے پاس نہیں جو ایسے لوگوں کی سرزنش کر سکے تو ایسے ماحول میں اگر اس طرح جبراً طلاق لی جائے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامہ پڑھ کر ان چیزوں سے واقفیت ہوئی جن پر نشان وہی کی گئی ہے، جبراً طلاق لینے میں اگر زبان سے طلاق کے الفاظ کہلوائے جائیں تو شرعاً طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اگر زبان سے نہ کہلو کر صرف تحریری گئی ہے، یا طلاق نامہ پر دستخط کرا لئے گئے، تو طلاق نہیں ہوتی؛ لہذا سوال نامہ میں اگر جبراً طلاق لینے میں شوہرنے زبان سے طلاق کے الفاظ استعمال کئے ہیں، تو طلاق ہو چکی ہے ورنہ نہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳۷/۹)

عن صفوان بن عمر الطائی: أن رجلاً كان نائماً مع امرأته، فقامت: فأخذت سكيناً، فجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه، وقالت: لتطلقني ثلاثاً البتة وإلا ذبحتك، فناشدها الله فأبت عليه فطلقها ثلاثاً، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا قبولة في الطلاق.

(سنن سعید بن منصور، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱/۲۷۵، رقم: ۱۱۳۰-۱۱۳۱)

ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل - ولو عبداً أو مكرهاً، فإن طلاقه صحيح (در مختار) وفي الشامية: هذا، وفي البحر: أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق. (در مختار مع شامي، كتاب الطلاق، مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق،

کراچی ۳/۲۳۵، ۲۳۶، زکریا ۴/۴۳۸، ۴۴۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۶ رجب الثانی ۱۴۲۰ھ

۱۴۲۲/۲۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۵/۶۶۷)

دباؤ میں آکر زبانی طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۱۸۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ میں نے ایک عاقل بالغ لڑکی سے تقریباً دو ماہ قبل اپنی مرضی سے نکاح کر لیا تھا، لڑکی منصورہ برادری سے تعلق رکھتی ہے اور میں صدیقی برادری سے۔ اب لڑکی کے والدین نے اس نکاح کی اطلاع ملنے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور لڑکی کے والد کچھ لوگوں کے ہمراہ میرے گھر آئے اور عزت کا حوالہ دیتے ہوئے طلاق دینے کے لئے مجبور کرنے لگے اور دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے طلاق نہ دی تو لڑکی کو جان سے مار دیں گے اور مجھے مارا پیٹا گیا، ان کے دباؤ میں آ کر میں نے ان لوگوں کے سامنے لڑکی کو تین طلاق دے دیں؛ جبکہ میری دل سے طلاق دینے کی مرضی نہیں تھی اور نہ ہی لڑکی کے روبرو طلاق دی گئی، نہ ہی لڑکی کی مرضی مجھے چھوڑنے کی تھی، جواب طلب مسئلہ یہ ہے کیا اس طرح کے دباؤ اور دھمکی دے کر طلاق لینے سے طلاق ہوگی اور اگر میں اسے پھر سے اپنانا چاہوں تو کوئی گنجائش ہے؟

المسئتی: انعام علی ولد صفدر علی، لاکڑی والان، مراوا آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ڈرانے دھمکانے کے دباؤ میں آ کر زبانی طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس طرح زبانی طلاق کے واقع ہونے میں لڑکی کا سامنے ہونا لازم نہیں ہے اور نہ لڑکی کا سنن لازم ہے۔ نیز زبانی طلاق دینے میں بغیر ارادے اور بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں طلاق مغلظہ واقع ہو کر لڑکی شوہر کے اوپر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے۔ اب آئندہ بغیر حلالہ شرعیہ کے اس کے ساتھ نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔

عن ابن عمرؓ قال: طلاق الکرة جائز. (مصنف عبدالرزاق، کتاب الطلاق،

باب طلاق الکرة، المجلس العلمي بیروت ۶/۴۱۰، رقم: ۱۱۴۲۱)

وفي الكافي: وطلاق المکره والسكران وخلعهما وإعتاقهما واقع.

(تاتلرخانیة، ۴/۳۹۵، رقم: ۶۵۱۲)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى

تنکح زوجاً غیرہ نکاحاً صحیحاً ویدخل بہا، ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. (عالمگیری، زکریا ۱/۴۷۳، کتاب الطلاق، الباب السادس فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به جدید ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۱۱/۱۴۳۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ ذی قعدہ ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۰۸۲۶)

طلاق دینے پر جبر کرنے کی صورت میں سر سے اشارہ کرنا

سوال [۶۱۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے لڑکی کے والد سے کہا تھا کہ میں شادی کر کے آپ کی لڑکی کو مراد آباد لے جاؤں گا اور اس کو وہیں رکھوں گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد شادی کر کے میں اپنے گھر چلا گیا اور لڑکی کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ دیا، چند دنوں کے بعد مراد آباد آنے کے لئے اس کے گھر گیا اور لڑکی کو لے کر بس اڈے تک آیا، لڑکی خود اپنی مرضی سے آئی، اس کے بعد بس پر سوار نہیں ہو رہی تھی، بہانہ کیا کہ سر میں درد ہے؛ اس لئے ابھی نہیں جاؤں گی، دو چار ماہ کے بعد جب آپ آئیں گے تب چلوں گی، اس کے بعد میں نے سوچا دو چار دن کے بعد جب طبیعت صحیح ہو جائے گی تب لے کر جاؤں گا، پھر اسی رات تمام لوگ جمع ہوئے، لڑکی کا باپ بھی موجود تھا، ان لوگوں نے کہا تم لڑکی کو طلاق دے دو، تو میں نے کہا میرا سامان واپس کر دو، تو ان لوگوں نے میرا سامان واپس کر دیا، اس کے بعد لڑکی کے باپ نے مجھ سے اپنا سامان طلب کیا، تو میں نے صرف انگوٹھی نکال کر دے دی، بقیہ سامان نہیں دیا، اس کے بعد ان لوگوں نے طلاق دینے پر مجبور کر دیا، اس کے باوجود میں آدھا گھنٹہ رکا رہا، جب میرے اوپر خطرہ زیادہ آ گیا، تو میں نے زبان سے طلاق کے الفاظ نہیں کہے؛ بلکہ سر کا اشارہ کیا؛ لیکن میرے دل میں طلاق کا

ارادہ نہیں تھا اور سربھی ایک مرتبہ ہلایا اور نہ طلاق کی نیت تھی لیکن عوام یہ سمجھی کہ طلاق دیدی اور نہ اس کے ساتھ ہمبستری کی تھی۔ یہ صورت حال پیش آنے کے بعد دوبارہ پھر نکاح ہو تو کیا وہ لڑکی میرے لئے جائز ہے یا نہیں؟

المسفتی: عبد السجان، بھاگل پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: لوگوں کے کہنے کے باوجود طلاق کے لئے محض سر سے اشارہ کیا اور زبان سے تلفظ نہیں کیا تو محض اشارہ سے طلاق واقع نہ ہوگی، اگرچہ لوگوں نے اسے طلاق سمجھا ہو اور دوبارہ نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بدستور آپ کی بیوی ہے، آپ کے نکاح سے نہیں نکلی۔

إمرأة قالت لزوجها: فأشار إليها بثلاثة أصابع ونوى به ثلاث تطليقات لا تطلق مالم يتلفظ به. (خانية على هامش الهندية، كتاب الطلاق، زكريا ۱/۶۳ ۴ جدید زکریا ۱/۲۸۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۰/۶/۲۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۳/۶۲۳۳)

جان کے خوف سے بیوی کو طلاق دینا

سوال [۶۱۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو مجبور کیا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دیدو، ورنہ میں جان سے مار دوں گا، اس شخص نے ڈر کے مارے طلاق دیدی، کیا اس طرح طلاق پڑ جاتی ہے؟

المسفتی: سلیم مسجد چوہان بانگر، دہلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر زبردستی اور خوف کی وجہ سے الفاظ طلاق زبان سے

ادا کر دیے، تو طلاق واقع ہوگئی؛ لیکن اگر ایک طلاق دی ہے، تو رجعت کی بھی گنجائش ہے۔
(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۳۳۷ء)

عن صفوان بن عمر الطائي: أن رجلاً كان نائماً مع امرأته، فقامت: فأخذت سكيناً، فجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه، وقالت: لتطلقني ثلاثاً البتة وإلا ذبحتك، فناشدها الله، فأبت عليه فطلقها ثلاثاً، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا قيلولة في الطلاق. (سنن سعيد بن منصور، باب ماجاء في طلاق المكره، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۲۷۵، رقم: ۱۱۳۰-۱۱۳۱)

فإن طلاقه أي طلاق المكره صحيح، وفي البحر: أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق. (در مختار، كتاب الطلاق، مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق، كراچی ۳/۲۳۵، ۲۳۶، زکریا ۴/۴۴۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ رجب المرجب ۱۴۲۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۵/۶۸۲۳)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۹/۷/۱۴۲۲ھ

مارڈالنے کی دھمکی دے کر زبردستی طلاق دلوانا

سوال [۶۱۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی اور لڑکے مابین محبت تھی، دونوں نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا، چند دن کے بعد لڑکی کے گھر والوں کو معلوم ہوا، انہوں نے لڑکے کو دھمکا کر اسے مارڈالنے کی دھمکی دی اور اس سے زبردستی طلاق دلوائی، لڑکے نے لڑکی کو طلاق لڑکی کے والد کے سامنے دی، اس کے والد نے لڑکی سے کہا، اس نے تجھے طلاق دیدی۔ اب بتائیے کہ یہ طلاق ہوئی یا نہیں؟ طلاق تین مرتبہ دی تھی۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ڈرانے اور دھمکانے پر طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

عن ابن عمرؓ قال: طلاق الکرة جائز. (مصنف عبدالرزاق، کتاب الطلاق،

باب طلاق الکرة، المجلس العلمي بیروت ۶/۴۱۰، رقم: ۱۱۴۲۱)

وان أكره على طلاق امرأته، أو عتق عبده، ففعل وقع ما أكره عليه عندنا. (هدایة، کتاب الاكراه، فصل وفي إكراه على أن ياكل الميتة، اشرفي دیوبند ۳/۳۵۰)

لہذا جب تین مرتبہ طلاق دیدی ہے، تو مذکورہ لڑکی پر طلاق مغلطہ واقع ہو چکی ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ص: ۲۱۹، زکریا ۶/۳۷۶)

ولو كرر لفظ الطلاق وقع الكل. (شامی، کتاب الطلاق، باب طلاق

غير المدحول بها، كراچی ۳/۲۹۳، زکریا ۴/۵۲۱، حنایة علی هامش الهندیة،

۴/۴۵۴، ہندیة، کتاب الطلاق الباب الثاني في ايقاع الطلاق زکریا قدیم ۱/۳۵۶،

زکریا دیوبند جدید ۱/۴۲۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴/۲/۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ صفر المظفر ۱۴۱۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۹/۳۲۲۵)

دباؤ میں آکر طلاق دینا

سوال [۶۱۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ مجھ میں اور میری بیوی میں کوئی ناراضگی نہیں تھی، نہ آج تک ہے؛ لیکن میرے والد

کسی وجہ سے میری دوسری بیوی سے کافی دن سے ناراض تھے ایک دن میری بیوی جب اپنے

میسے گئی ہوئی تھی میرے والد نے میری بیوی کی غیر موجودگی میں مجھ پر دباؤ دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں، میں نے والد صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنے فیصلے سے نہیں ہٹے، میرے سمجھانے کی کوشش کے نتیجے میں مجھے مارنے کو تیار ہو گئے، اس درمیان گاؤں کے چند معزز آدمی جمع ہو گئے اور انہوں نے بھی والد صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے لڑکے سے اس کی بیوی کو طلاق دلوا رہا ہوں، یہ کام میں زبردستی کراؤں گا، گاؤں کے لوگوں نے پھر بھی والد صاحب کو بے حد سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا مت کرو؛ لیکن وہ اپنے فیصلہ پر اٹل رہے اور مجھ سے جبراً کئی مرتبہ طلاق کے الفاظ کہلوا لیے، جو میں نے بیوی کی غیر موجودگی میں بیوی کی عرفیت سے بغیر ارادے اور نیت کے ادا کئے، یہ آج سے ایک ہفتہ قبل کا واقعہ ہے۔

میری اس مجبوری کے کئی گواہ ہیں اور میں اور میری بیوی ساتھ رہنے کو تیار ہیں؛ لہذا جناب عالی سے گزارش ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں میری رہنمائی فرمائیں۔

نوٹ: میں نے طلاق کے الفاظ جو دہرائے، وہ اس طرح ہیں ”میں نے منو کو طلاق دی“ جبکہ میری بیوی کا نام جو نکاح میں بھی درج ہے مہر النساء ہے۔

المستفتی: اقبال حسین، ملک پٹھانوں والی، مراڈ آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: دباؤ میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا اگر تین مرتبہ سے زائد یا تین بار کہا ہے تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہوگا۔

عن عمر بن عبد العزیز یقول: طلاق السكران والمکره جائز. (شرح)

معانی الآثار للطحاولی، کتاب الطلاق، باب طلاق المکره، دارالکتب العلمیہ

بیروت ۲/۶۶۷، رقم: ۴۵۵۷)

وإن أكره علي طلاق امرأته.....ففعل وقوع ما أكره عليه. (هدایة، كتاب الإكراه، فصل وإن أكره أن يأكل الميتة، اشرفي ديوبند ۳/۳۵۰، جيسوري ۴/۳۳۴) اور طلاق میں اصل نام لینا لازم نہیں ہے؛ بلکہ منوی بیوی کا عرفی نام ہے اور اس نام سے لوگ آپ کی بیوی کو جانتے ہیں، تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

إنما الأيمان مبنية على العرف والألفاظ. (بنیایہ) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۶ محرم الحرام ۱۴۱۴ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۲۹/۳۲۹۶)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴/۱۲/۱۴۱۴ھ

کیا جبراً طلاق کے الفاظ کہلوانے سے طلاق واقع ہو جائے گی؟

سوال [۲۱۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مجھ میں اور میری بیوی میں کوئی ناراضگی نہیں تھی، نہ آج تک ہے؛ لیکن میرے والد کسی وجہ سے میری دوسری بیوی سے کافی دن سے ناراض تھے، ایک دن میری بیوی جب اپنے میکے گئی ہوئی تھی، میرے والد نے میری بیوی کی غیر موجودگی مجھ پر دباؤ دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیدوں، میں نے والد صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنے فیصلہ سے نہیں ہٹے، میرے سمجھانے کی کوشش کے نتیجے میں مجھے مارنے کو تیار ہو گئے، اس درمیان گاؤں کے چند معزز آدمی جمع ہو گئے اور انہوں نے بھی والد صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی جس کے جواب میں انہوں نے کہا میں اپنے لڑکے سے اس کی بیوی کو طلاق دلوارہا ہوں اور یہ کام میں زبردستی کراؤں گا، گاؤں والوں نے پھر بھی والد صاحب کو بے حد سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا مت کرو؛ لیکن وہ اپنے فیصلہ پر اٹل رہے اور مجھ سے جبراً کئی مرتبہ طلاق کے الفاظ کہلوا لیے، جو میں نے بیوی کی غیر موجودگی میں بیوی کی عرفیت سے بغیر ارادے اور نیت کے ادا کئے، یہ آج سے ایک ہفتہ قبل کا واقعہ ہے، میری اس مجبوری کے کئی گواہ ہیں اور میں اور میری بیوی ساتھ رہنے کو

تیار ہیں؛ لہذا جناب عالی سے گزارش ہے کہ جواب عنایت فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: دباؤ طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا اگر تین مرتبہ سے زائد یا تین بار کہا ہے، تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، اب بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہوگا۔

عن صفوان بن عمر الطائي: أن رجلاً كان نائماً مع امرأته، فقامت: فأخذت سكيناً، فجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه، وقالت: لتطلقني ثلاثاً البتة، وإلا ذبحتك، فناشدها الله، فأبت عليه فطلقها ثلاثاً، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا قيلولة في الطلاق. (سنن سعيد بن منصور، باب ما جاء في طلاق المكره، دار الكتب العلمية بيروت ۱/۲۷۵، رقم: ۱۱۳۰-۱۱۳۱)

وإن أكره على طلاق امرأته..... ففعل وقع ما أكره عليه. (هداية، كتاب الإكراه، فصل وإن إكره أن ياكل الميتة، اشرفي ديوبند ۳/۳۵۰، جیسوری ۴/۳۳۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۱۲/۲۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف-)

حالت اکراه میں دو طلاق

سوال [۶۱۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رسالت حسین کا نکاح نعیمہ خاتون سے ہوا تھا، کسی بات پر نعیمہ خاتون کے رشتہ داروں نے رسالت حسین سے زبردستی دھمکا کر طلاق لی اور رسالت حسین نے خوف کی وجہ

سے اپنی زبان سے صرف دو دفعہ طلاق کا لفظ کہا، یہ واقعہ بیس تیس آدمیوں کے درمیان میں ہوا، تو شرعاً کتنی طلاق واقع ہوں گی، رسالت حسین کے لئے بیوی کو رکھنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟

المسفتی: محمد یوسف، امام جامع مسجد، دیرہ معان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر رسالت حسین نے اپنی زبان سے صرف دو ہی مرتبہ طلاق کا لفظ نکالا ہے، تو بیوی پر دو طلاق رجعی پڑ گئی ہیں، تین حیض گزرنے سے پہلے پہلے رجعت کر کے بلا نکاح بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے اور رجعت کر لینے کے بعد بیوی کا نکاح کسی دوسری جگہ صحیح اور درست نہیں ہوگا اور رجعت میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا كقوله أنت طالق أنت طالق الخ

(الدر المختار، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۲/۳، ۲۵۲، زکریا ۴/۶۶۳)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين فله أن يراجعها في

عدتها رضيت بذلك أولم ترض (وقوله) والرجعة أن يقول راجعتك

أوراجعت امرأتي. (هداية، باب الرجعة اشرفي ديوبند ۲/۳۹۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ رزی الحج ۱۴۰۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۵/۱۵۵۳)

زبردستی لفظ تلاق سے طلاق کا حکم

سوال [۶۱۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: محمد مسلم الدین قاسمی کے دیئے ہوئے فتویٰ کے بارے میں کہ منکوحہ شاکرہ بیوی محمد

مسلم الدین استاذ حدیث و تفسیر و عالم تجوید کا نکاح چاند محمد کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت

نے دنیاوی فائدہ کی غرض سے کر دیا، تو شاہ کا یہ دوسرا نکاح نہیں ہوا؛ لیکن شاہ کا یہ چاند محمد کے یہاں رہتی رہی، پھر ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد ایک دن موقعہ پا کر مسلم الدین کو پکڑ کر کمرہ میں بند کر کے قتل کی دھمکی دے کر لکھے ہوئے اور بغیر لکھے ہوئے کاغذ پر دستخط کرا لیے، زبانی طلاق پر مجبور کرنے سے محمد مسلم الدین اپنی حکمت سے سیاسی کھیل کھیل کر نکل گیا، یعنی بلا طلاق کی نیت کے فضول لفظ جس کو شارع علیہ السلام نے نکاح ٹوٹنے کے لئے وضع نہیں کیا، یعنی ”تلاک“ ہے کہہ دیا، اس بات کی طرف دھیان رکھتے ہوئے کہ میری بیوی شاہ کا یہ پر طلاق بھی نہ پڑے اور میری جان بھی بچ جائے؛ اس لئے وہ بولا تھا کہ ”میں نے تلاک دی، میں نے تلاک دی، میں نے تلاک دی“، تو ایسے فضول بے موضوع لفظ کو بولنے سے طلاق نہیں ہوتی۔

قرآن کریم کے ۲۴ پارہ سورۃ المؤمن کی آیت: ۱۵، میں لفظ طلاق آیا ہے، اس کے معنی ہیں ملاقات، حرفوں کی تبدیلی سے لفظ کی ادائیگی میں تبدیلی آتی ہے اور معنی میں بھی فرق آجاتا ہے، ایک لفظ قرآن و حدیث میں آیا ہے طلاق، معنی نکاح ٹوٹنے کا، ایک لفظ آیا ہے تلاک بمعنی ملاقات، لفظ تلاک کو نکاح ٹوٹنے کیلئے وضع نہیں کیا گیا، جیسے موسیٰ ابن عیسیٰ نے اپنی بیوی کو لفظ صریح سے طلاق دی تھی، اپنی بیوی سے کہا تھا، اگر تمہاری فوقیت چاند پر نہ ہوئی، تو تم پر تین طلاق رہی، اس لفظ صریح کی وجہ سے تمام اماموں نے فتویٰ دیا کہ موسیٰ ابن عیسیٰ کی بیوی پر تین طلاق واقع ہوگئی ہیں، یہ واقعہ خلیفہ جعفر ابو منصور کی خلافت کے وقت کا ہے، خلیفہ کے ساتھ موسیٰ ابن عیسیٰ کی بڑی دوستی تھی اور مسئلہ کا حل خلیفہ کے دربار میں ہو رہا تھا، اس مجلس میں امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد بھی تھے، انہوں نے فتویٰ دیا، موسیٰ ابن عیسیٰ کی بیوی پر طلاق نہیں ہوئی یہ غلط بات ہے کہ لفظ صریح سے طلاق ہو ہی جاتی ہے، لفظ صریح سے بھی مقتضاء حال کے مطابق طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اور اس واقعہ میں سورۃ تین کی دلیل پکڑ کر بتایا کہ موسیٰ ابن عیسیٰ کی بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی لفظ صریح سے، تو محمد مسلم الدین کی بیوی شاہ کا یہ پر کیسے طلاق واقع ہوگئی؟ لفظ فضول سے معلوم یہ ہوا کہ ”تلاک“ کے لفظ سے نکاح نہیں ٹوٹتا؛ اس لئے شاہ کا یہ اس وقت بھی مسلم الدین کی بیوی ہے۔

اور تلاک بالجبر کا واقعہ 14/06/95 کو ہوا تھا، اس تاریخ کے بعد پھر دوبارہ تین ماہ ۱۳/۱۳/۹۵ کے بعد چاند محمد کے ساتھ شاکرہ کا نکاح پڑھایا گیا، شرعاً دونوں مرتبہ چاند محمد کے ساتھ نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح جب تک مسلم الدین کے ساتھ شاکرہ کا باقی ہے، تب تک چاند محمد کے ساتھ ہزار مرتبہ نکاح پڑھانے سے بھی شاکرہ چاند محمد کی بیوی نہیں بن سکتی ہے اور چاند محمد کے نطفہ سے شاکرہ نے جتنی اولاد جنی ہیں، وہ سب بچوں کا بھی شرعاً باپ نہیں بنے گا۔ الولد للفرش مذکورہ دنیاوی فائدہ کے تحت محمد مسلم الدین کے دشمنوں کی گواہی شرعاً مقبول نہیں۔ دلیل:

لا تقبل شهادة عدو بسبب الدنيا.

نوٹ: جواب مطلوب ہے کہ شاکرہ کا اس وقت کون شوہر ہے؟

(۲) چاند محمد کے نطفہ سے جو اولاد ہوئی اس کا مالک چاند محمد کیوں نہیں؟

(۳) مذکورہ مسلم الدین کے دشمنوں کی گواہی شرعاً مقبول کیوں نہیں؟

(۴) شاکرہ کو پاک ہونے کے لئے کیا کرنا پڑے گا؟

المستفتی: شاکرہ بیگم، آئیر پار، والدہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) محمد مسلم الدین (مکرہ) نے بطور حیلہ کے تین مرتبہ جو لفظ ”تلاک“ استعمال کیا ہے، اس کا شاکرہ بیوی کے ساتھ نکاح ختم ہو گیا اور شاکرہ پر تین طلاقیں واقع ہو گئیں؛ اس لئے اس واقعہ طلاق سے قبل شاکرہ کا اجنبی مرد چاند محمد کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے، وہ صحیح نہیں تھا اور جب واقعہ طلاق وعدت کے بعد اس مرد سے دوبارہ نکاح ہوا، وہ حلال و جائز طریقے پر ہوا؛ لہذا اس وقت شاکرہ مسلم الدین کی نہیں؛ بلکہ چاند محمد کی زوجہ ہے۔

عن ابن عمرؓ قال: طلاق الکمرہ جائز. (مصنف عبدالرزاق، کتاب الطلاق،

باب طلاق الکمرہ، المجلس العلمي بیروت ۶/۴۱۰، رقم: ۱۱۴۲۱)

طلاق المکره واقع الخ. (هدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۷۷، جیسوری ۲/۳۵۸،

شامی، کراچی ۳/۲۳۵ زکریا ۴/۴۳۸، البحر الرائق، کوئٹھ ۳/۲۴۴، زکریا ۳/۴۲۶)

ویدخل فیہ نحو طلاق تولاک. (در مختار مع رد المختار،

کراچی ۳/۲۴۹، زکریا ۴/۴۵۹، البحر الرائق، زکریا ۳/۴۳۹، کوئٹھ ۳/۲۵۲)

(۲) زوج اول محمد مسلم الدین کے طلاق دینے کے بعد اور شا کرہ کے عدت گزارنے کے بعد زوج ثانی چاند محمد کے نطفہ سے پیدا ہونے والی اولاد چاند محمد کی ہوگی اور اسی کی جانب منسوب ہوگی اور طلاق سے پہلے جو چاند محمد سے اولاد ہوئی ہے، وہ زنا کاری سے حاصل شدہ اولاد ہے؛ لہذا وہ چاند محمد کی نہیں؛ بلکہ محمد مسلم الدین کی جانب منسوب ہوگی، چاند محمد ان کا باپ نہ ہوگا۔

عن محمد بن زیاد قال: سمعت أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه

وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. (صحيح البخاري، كتاب المحاربن،

باب للعاهر الحجر، النسخة الهندية ۲/۱۰۰۷، رقم: ۶۵۶۰، ف: ۸۶۱۸، مشكوة ۲۸۷،

در مختار مع الشامی، باب العدة، زکریا ۵/۲۴۸، کراچی ۳/۵۵۲)

وفي الهندية: لو زنى بامرأة فحملت، ثم تزوجها فولدت إن جاءت به

لستة أشهر فصاعداً ثبت نسبه وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت

نسبه. (الفتاوى الهندية، زکریا ۱/۵۴۰) كتاب الطلاق قبيل الباب السادس عشر

في الحضانة جديد ۱/۵۹۱

(۳) جب طلاق بالجبر کے واقعہ کا منکر کوئی نہیں، تو پھر کسی قسم کی گواہی کی کوئی ضرورت

نہیں۔

لو أكره على طلاق فطلق وقع الطلاق. (عالمگیری، كتاب الاكراه الباب الثاني،

زکریا قدیم ۵/۴۲، زکریا جدید ۵/۵۱)

(۴) شا کرہ نے مسلم الدین سے طلاق حاصل کرنے سے قبل چاند محمد کے ساتھ رہ کر جو وقت

گزارا ہے، اس کا بدکاری اور زنا کاری میں شمار ہوگا، اس گناہ عظیم سے پاک ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ندامت کے ساتھ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو وہ سنگسار کر کے پاک کی جاتی۔

أما نكاح منكوحة الغير..... فلم ينقذ أصلاً؛ ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة؛ لكونها زنا. (رد المختار، کراچی ۵۱۶/۳، زکریا ۱۹۷/۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۷ھ / ۲۴ / ۲۴

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۴ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۲/۹۲۷)

مکرہ کی طلاق اور نکاح ثانی کی صحت

سوال [۶۱۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی کو دو سال ہوئے تھے، مگر خصتی نہ ہونے کی وجہ سے خلوت نہ کر سکا تھا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو بھیجا اور کہلا دیا کہ اگر زید اپنی منکوحة کو طلاق نہ دے گا تو میں زید کو جان سے مار دوں گا؛ لہذا زید نے بہت سے آدمیوں کے سامنے زبانی بھی اور تحریری بھی اپنی منکوحة کو طلاق دیدی، جب عدت پوری ہوگئی، تو اس شخص نے اس عورت کا نکاح عمر و کے ساتھ پڑھا دیا، قاضی جی کو طلاق نامہ دکھا دیا تھا؛ لہذا سترہ اٹھارہ سال کے بعد عمر و کو ایک آدمی نے بتایا کہ تیری جو بیوی ہے اس کی طلاق جبریہ لی گئی تھی اور جبریہ کی طلاق جائز نہیں ہوتی، تیرا نکاح بھی ناجائز ہوا، یہ سن کر عمر و زید کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا تم نے طلاق جبراً دی تھی، تو زید نے بتایا کہ مجھے طلاق دینے کے لئے ایک آدمی نے اور اس عورت نے مجبور کیا تھا، تو میں نے اسے آزاد کر دیا تھا، عمر و نے کہا کہ اب خوش دلی سے دوبارہ طلاق دے دو؛ لہذا زید نے بہت سے آدمیوں کے سامنے زبانی بھی اور تحریری بھی طلاق دے دی، میں نے یہ مسئلہ مفتی عبدالرب صاحب دین منگر پوری کو لکھا تھا، انہوں نے جواب میں لکھا کہ

جبریہ طلاق ہو جاتی ہے، طلاق ہوگئی نکاح بھی برقرار رہا اور بچے بھی صحیح ہوئے؛ لیکن مفتی صاحب نے کوئی وجہ نہ بتائی کہ جبریہ کی طلاق کیوں اور کیسے جائز ہوتی ہے؟ نہ کوئی مثال دے کر سمجھایا ہے اور شامی عالمگیری کا حوالہ دیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ کے بارے میں بائفصیل لکھئے اور حوالہ مع جلد اور صفحہ کے لکھئے اور اگر وہ جبریہ والی طلاق ناجائز نکلی، تو وہ نکاح بھی فسخ ہو گیا یا برقرار رہا اور جو بچے اس دور میں پیدا ہوئے وہ جائز ہوئے یا ناجائز؟ جو طلاق خوشی سے ہوتی ہے، اس کے بعد بھی عورت عدت کرے گی یا نہیں؟ میری یہ تحریر جواب کے ساتھ واپس آنا ضروری ہے، آپ کی مہر بھی ضروری ہے۔

نوٹ: عمر کو آج تک یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیوی کی طلاق جبریہ لی گئی یا راضی سے۔

المستفتی: نواب جان، ہاشم پورہ، گوپال، پوسٹ: پاکپڑہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مفتی عبدالرب صاحب کا فتویٰ صحیح ہے کہ جبریہ طلاق جو زبان سے دی جائے وہ شرعاً واقع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں دلی ارادہ اور نیت شرط نہیں ہے بلکہ زبان سے کسی بھی طرح سے تلفظ ہو جائے اس پر حکم لگ جاتا ہے؛ البتہ جبر کرنے والے ضرور گناہ گار ہوں گے۔

عن عمر بن عبد العزیز یقول: طلاق السكران والمکرہ جائز۔

(طحاوی شریف، کتاب الطلاق، باب طلاق المکرہ، دارالکتب العلمیہ

بیروت ۲/۶۷، رقم: ۴۵۵۷)

وإن أکره علی طلاق امرأته أو عتق عبده، ففعل وقع ما أکره علیہ

عندنا. (هدایہ، کتاب الإکرہ، فصل وإن إکره أن یاکل المیتة، اشرفی دیوبند ۳/۳۵۰،

جیسوری ۴/۳۳۴، ہکذا البدائع الصنائع، قدیم ۷/۱۸۲، جدید زکریا ۶/۹۳، شامی،

کراچی ۳/۲۳۵، زکریا ۴/۴۳۸، بناہ ۳/۷۷۶)

اور مسئلہ شرعیہ میں فقہ کی عبارت کافی ہے، وجہ بیان کرنا لازم نہیں؛ لہذا جبریہ طلاق معتبر ہونے

کی بنا پر نکاح صحیح ہو چکا تھا اور بعد میں خوشی سے جو طلاق لی گئی ہے وہ معتبر نہیں اور نہ اس کے بعد عدت کی ضرورت ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ صفر المظفر ۱۴۱۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۵/۱۲۴۵)

کسی کے مجبور کرنے پر طلاق دینا

سوال [۶۱۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص کو جبراً اس کے گھر والوں نے مار پیٹ اور دھمکا کر طلاق دینے پر آمادہ کیا، اسی وجہ سے اس شخص نے یہ الفاظ استعمال کئے، طلاق دی، دی، دی۔ صورت مسئولہ میں طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: عمیل احمد، سہس پور، بجنور (پوئی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شخص مذکور کو جبراً اس کے گھر والوں نے مار پیٹ کر دھمکا کر طلاق دینے پر مجبور کیا اور اسی حالت میں اس نے طلاق دی، دی، دی کے الفاظ استعمال کئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کا ارادہ طلاق دینے کا نہیں رہا ہے اور مجبوراً اس نے یہ الفاظ استعمال کئے ہیں، تو ایسی صورت میں طلاق دی کے الفاظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی، اس کے بعد دومرتبہ ’دی، دی‘ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں چونکہ طلاق کی نیت نہیں کی ہے اور سامنے والوں کو سنانے کے لئے بطور تاکید استعمال کیا ہے، تو ایسی صورت میں ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوئی؛ بلکہ ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوئی ہے اور اگر ان الفاظ سے بھی اس نے طلاق کی نیت کی تھی، تو تین طلاق واقع ہو جائیں گی۔ اب شوہر سے معلوم کیا جائے کہ اس کی نیت کیا رہی ہے؟ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم

قال في الدر: كثر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التأكيد

دين. (در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب طلاق غیر المدخول بہا، زکریا ۴/۵۲۱، کراچی ۲۹۳/۳)

وفي الأشباه: لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً، فإن قال: أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء، ذكره الزيلعي في الكنايات. (الأشباه قديم ۱/۲۱۹، زکریا ۳۷۶ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۸ ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ
فتویٰ نمبر: الف ۳۸/۹۵۵۵)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۹/۲/۸ھ

بیوی کے بھائیوں کا جبراً بہنوئی سے طلاق دلوانا

سوال [۶۱۹۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہارون سے اس کی بیوی شبانہ کے بھائیوں نے زبردستی دھمکا کر مجبور کر کے اس کی بیوی کو تین طلاقیں دلوا دیں، تو کیا اس طرح طلاق واقع ہو گئیں یا اس کی بیوی کا ماننا اقرار کرنا ضروری ہے؛ کیونکہ اس کی بیوی شبانہ کہتی ہے کہ ہارون میرا شوہر ہے، مجھے طلاق نہیں ہوئی۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئلہ کو حل فرمائیں۔

المستفتی: محمد ہارون

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر شبانہ کے بھائیوں نے شبانہ کے شوہر محمد ہارون سے زبردستی اور جبراً زبانی طور پر طلاق کے الفاظ کہلوادیئے اور شوہر نے بھی زبان سے تین مرتبہ طلاق کے الفاظ کہہ دیئے ہیں، تو ایسی صورت میں محمد ہارون کی بیوی شبانہ پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے اور طلاق کے واقع ہونے کے لئے شبانہ کا تسلیم کرنا اور ماننا ضروری نہیں۔ (مستفاد:

فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۱۸/۱۷۱)

ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغاً عاقلاً سواء كان حراً أو عبداً،
أو طائعاً أو مكرهاً. (هندية، زكريا ١/٣٥٣ كتاب الطلاق فصل فيمن يقع طلاقه الخ
جديد ١/٤٢٠، الجوهرة النيرة، امدادية ملتان ٢/١٠٢، دارالكتب ديوبند ٢/٩٨)

ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ ولو مكرهاً الخ فإن طلاقه صحيح.
(ملتقي الأبحر مع مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بيروت ٢/٨، در مختار مع الشامى،
زكريا ٤/٤٣٨، كراچي ٣/٢٣٥)

ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ لصدوره من أهله في محله،
ولو مكرهاً، أي ولو كان الزوج مكرهاً على إنشاء الطلاق لفظاً. (البحر الرائق،
زكريا ٣/٤٢٦-٤٢٨، كوئته ٣/٢٤٤-٢٤٥)

عن ابن عمر^{رضي} قال: طلاق الكره جائز. (مصنف عبدالرزاق، المجلس العلمي
بيروت ٦/٤١٠، رقم: ١١٤٢١)

طلاق المكره واقع. (الفتاوى التاتارخانية، زكريا ٤/٣٩٥، رقم: ٦٥١٢)
فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبة: شبير احمد قاسم عفا الله عنه
٥/محرم الحرام ١٣٣٣ هـ
(فتوى نمبر: الف ٣٩٠/١٠٥٤)



(۹) باب الطلاق بالألفاظ المصحفة

ایسی زبان میں طلاق جس کو شوہر نہیں سمجھتا

سوال [۶۱۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص یوپی کا رہنے والا ہے، اس نے تمل ناڈ کی رہنے والی ایک عورت سے شادی کی، وہ تمل زبان بالکل نہیں جانتا ہے، ایک دن اس کی اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی، بیوی نے تمل زبان میں شوہر سے طلاق کے الفاظ کہلوائے، جس کے معنی شوہر بالکل نہیں جانتا۔ نیز اس کی نیت بھی بیوی کو طلاق دینے کی نہ تھی، تو کیا ان کلمات سے بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟

المستفتی: محمد سیخ الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورت مذکورہ میں شوہر چونکہ تمل زبان سے بالکل ناواقف ہے اور بیوی کے کہلوائے ہوئے کلمات کے معنی نہ تو اس کو معلوم ہیں اور نہ ان کا محل واستعمال پتہ ہے؛ اس لئے مفتی بہ قول کے مطابق اس کی بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی۔
(مستفاد: محمودیہ ڈائجیل ۱۲/۱۸۷، میرٹھ ۱۸/۵۹)

لو لقتنه لفظ الطلاق، فتلفظ به غير عالم بمعناه، فلا يقع أصلاً على ما أفتى به مشائخ أوز جند صيانة عن التلبیس. (شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، مطلب فی قول البحر: إن الصریح يحتاج..... زکریا ۴/۶۱، شامی، کراچی ۳/۲۵۰، هكذا فی التاتارخانیة، زکریا ۴/۳۹۸، رقم: ۶۵۱۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴ شعبان المعظم ۱۴۳۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۵۷۸)

لفظ تلاق سے وقوع طلاق کا حکم

سوال [۶۱۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے ایک ہی مجلس میں لفظ طلاق ط سے نہیں؛ بلکہ تلاق ت سے تین مرتبہ کہا ہے، مزید زید کا کسی طرح کا طلاق دینے کا ارادہ بھی نہیں تھا، پہلی بیوی اور اس سے متعلق بچوں کے ورغلانے اور بہکانے کی بنا پر ایک طلاق کے الفاظ منہ سے نکل گئے اور اس بات کو واضح فرماتے ہوئے تحریر فرمائیں کہ لفظ طلاق کے معنی ہیں جدائی کا واقع ہونا اور لفظ ت سے جو تلاق ہے، ان دونوں لفظوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے جواب مرحمت فرمائیں۔

المستفتی: ضمیر الدین، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بغیر ارادہ کے اور کسی کے ورغلانے اور بہکانے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بگڑے ہوئے الفاظ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس میں عالم اور جاہل کا کوئی فرق نہیں ہے، ہر صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا جب زید نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین مرتبہ ”تلاق، تلاق، تلاق“ کہا ہے، تو اس سے بھی بیوی پر تین طلاق مغلطہ واقع ہو کر بیوی شوہر پر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے۔ اب آئندہ زید کا اس بیوی کے ساتھ بغیر شرعی حلالہ کے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے اور مجتہدین کرام و فقہاء عظام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ لفظ تلاق (جوت سے ہے) سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

ويقع بها أي بهذه الألفاظ و ما بمعناها من الصريح، و يدخل نحو طلاغ، وتلاغ، و طلاك، و تلاك أو (ط، ل، ق) أو طلاق باش بلا فرق بين عالم و جاهل..... به يفتى (وتحتہ فی الشامیہ) قال فی البحر: ومنه الألفاظ المصحفة وهي خمسة: فزاد علی ما هنا تلاق الخ. (رد المحتار علی الدر

المختار، کتاب الطلاق، باب الصریح، مطلب من الصریح الألفاظ المصحفة،
کراچی ۳/۲۴۸، ۲۴۹، زکریا ۴/۴۵۹)

ومنہ الألفاظ المصحفة وهي خمسة: تلاق، وتلاغ، وطلاک،
وتلاک فیع قضاءً (إلی قوله) ولا فرق بین العالم والجاهل، وعليه الفتوى.
(البحر الرائق، کوثه ۳/۲۵۲، زکریا ۴۳۹)

صریحه مالم يستعمل إلا فيه ولو بالفارسية (إلی قوله) وإن قال
تعمدته تخويفاً لم یصدق قضاءً..... وإن نوى خلافها، أو لم ينو شيئاً (فی
الشامیة) وعرفه فی التحریر بما یشب حکمه الشرعی بلانیه. (شامی مع در
مختار، کراچی ۳/۲۴۷ تا ۲۵۰، زکریا ۴/۴۵۷-۴۶۱)

عن سهل بن سعدؓ فی هذا الخبر قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ابوداؤد شریف، کتاب الطلاق، باب اللعان، النسخة الهندیة ۱/۳۰۶، رقم: ۲۲۵۰)
فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۱ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۱۰۹۳۶)

جان بچانے کے خوف سے بلانیت طلاق ”تلاک دیتا ہوں“ کہا

سوال [۶۱۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ میں عظیم الدین کی شادی بی بی زینت سے ہوئی، کچھ مدت کے بعد بی بی زینت کے
گھر والوں سے لڑائی و فساد ہو گیا، عظیم الدین کو راستہ چلتے تن تہا پا کر زینت کے خاندان
والوں میں سے کچھ بدمعاشوں نے کہا کہ تم اس لڑکی کو طلاق دیدو، ورنہ ابھی جان سے ختم کر
دیں گے، عظیم الدین طلاق دینے سے انکار کرنے لگے؛ لیکن بندوق دکھا کر بولے کہ دیکھتے ہو

ابھی ماروں گا، اگر تم خیریت چاہتے ہو تو ابھی طلاق دو، عظیم الدین نے جان کے خطرہ سے بچنے کے لئے یہ چال چلی کہ طلاق کے کلمات کے بجائے تلاک، تلاک، تلاک تین بار کہا، یعنی یہ کہا کہ لو میں اپنی بی بی کو ”تلاک دیتا ہوں، تلاک دیتا ہوں، تلاک دیتا ہوں“ یہ کلمات کہہ کر کسی طرح سے اپنی جان بچائی؛ لیکن دل میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کی ذرا سی بھی نیت نہ تھی؛ بلکہ جان بچانے کے لئے کسی بھی طرح چھٹکارا پا کر وہاں سے گھر آ گیا۔

مذکورہ بالا صورتوں میں بیوی زینت کے اوپر طلاق پڑی یا نہیں؟ اور وہ اب عظیم الدین کے نکاح میں رہی یا ان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی؟ مفصل جواب تحریر فرما کر شکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں عین کرم ہوگا۔

المستفتی: محمد عظیم الدین قاسمی، بھاگل پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بحالت جبر محض جان بچانے کی غرض سے بلا نیت طلاق کے الفاظ ادا کرنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح لفظ تلاک سے بھی شرعاً طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مستفاد فتاویٰ دارالعلوم ۸۰/۹

عن ابن عمرؓ قال: طلاق الکرة جائز. (مصنف عبدالرزاق، کتاب الطلاق،

باب طلاق الکرة، المجلس العلمي بیروت ۶/۴۱۰، رقم: ۱۱۴۲۱)

ولو أکره علی طلاق أو عتاق، فاعتق أو طلق وقع العتق والطلاق.

(عالمگیری، کتاب الاکراه، الباب الثانی فیما یحل للمکره أن یفعل وما لا یحل، زکریا ۵۲/۵، جدید ۵۱/۵، ہکذا فی الدر المختار مع الشامی، کراچی ۳/۲۳۵، زکریا ۴۳۸/۴)

ویقع بها أي بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصریح، فیدخل نحو

طلاغ، وطلاک، وتلاغ، وتلاک. (الدر المختار مع رد المختار، کراچی

۳/۲۴۹، زکریا ۴/۵۹، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۵۲، زکریا ۳/۴۳۹، الأشباه

والنظائر قدیم ۴۵، حموی ۴۶)

لہذا مذکورہ صورت میں بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو کر مغلظہ ہوگئی، اب دوبارہ بلا حلالہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (ہندیہ کتاب الطلاق الباب السادس فصل فيما تحل به المطلقة الخ زکریا جدید ۱/۵۳۵، قدیم زکریا ۱/۴۷۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹/ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۳/۶۹۲)

لفظ طراق طراق سے طلاق کا حکم

سوال [۶۱۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سبھی لوگوں کی طرح بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، اچانک ہم دونوں میاں بیوی میں کسی بات پر بحث و تکرار ہوگئی، میں نے اپنی بیوی کو ڈرانے کی غرض سے دوسرے لفظ طلاق نہ کہہ کر دوسرے لفظ طراق طراق کہہ دیا، اتنا سن کر میری بیوی یہ سمجھ کر کہ مجھے طلاق دیدی ہے، وہ فوراً برقعہ اوڑھ کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی جس وقت میں نے یہ عمل کیا تھا، اس وقت ہم دونوں میاں بیوی کے علاوہ ایک میری چودہ مہینہ کی بیٹی تھی، اس وقت میری بیوی حاملہ ہے، ان حالات میں شریعت کی روشنی میں میرے لئے کیا حکم ہے؟ کیونکہ میں اپنی بیوی کو پہلے کی طرح اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، صاف صاف لفظوں میں جواب دینے کی زحمت فرمائیں۔

المستفتی: عبدالرزاق، مولانا آغا ڈگر ہلدوانی، نینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سائل اپنے بیان میں سچا ہے، اور لفظ طراق طراق

سے طلاق کی نیت نہیں کی ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی؛ اس لئے کہ یہ الفاظ طلاق کے لئے استعمال نہیں ہوتے اور اگر شوہر کی زبان سے طلاق کے بجائے طلاق ہی نکلتا ہے، تو وہ طلاق رجعی واقع ہوگئیں، بیوی کے وضع حمل سے پہلے پہلے عدت کے اندر رجعت کر کے پہلے کی طرح میاں بیوی والی زندگی گزارنے کی گنجائش ہوتی ہے۔

وقعتار جمعیتین لو مدخولابہا کقولہ أنت طالق، أنت طالق. (شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۲/۳۵۲)

وفي الولوالجیة: رجل قال لامرأته بعد الدخول بها "أنت طالق، طالق" تقع ثنتان. (الفتاویٰ التاتاریخانیة، زکریا ۴/۶۲۹، رقم: ۶۵۹۵)

وَأَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. [الطلاق: ۴]

وفي الحامل عدتها ان تضع حملها، الحرة والأمة والمطلقة والمتوفى عنها زوجها. (تاتاریخانیة، زکریا ۵/۲۲۸، رقم: ۷۷۲۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸/صفر/۱۴۳۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۳۰۰)

لفظ طلاق سے کوئی طلاق نہیں

سوال [۶۱۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی زوجہ کو فون پر دو مرتبہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، اور تیسری مرتبہ جان بوجھ کر تجھے طابق ہے (لفظ محرف) استعمال کیا، بیوی کا کہنا ہے کہ جب اس نے فون پر طلاق کو سنا تو ہوش کھو بیٹھی؛ البتہ اتنا دھیان ہے کہ تین بار کہا ہے، دو مرتبہ طلاق تیسری کا معلوم نہیں۔ اب شریعت کی روشنی میں مدلل جواب تحریر فرما کر ممنون و مشکور ہوں اور ہمیں کیا کرنا ہے، حکم فرمادیجئے۔

المستفتی: محمد اسلم سلمان، قاسم پور گڑھی، بجنور (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب زید نے پہلے دو مرتبہ لفظ طلاق کہہ دیا ہے، تو اس سے دو طلاق رجعی واقع ہوگئی اور تیسری مرتبہ جو اس نے لفظ طلاق استعمال کیا ہے، اس سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی؛ اس لئے کہ لفظ طابق نہ تو صراحۃً اور نہ ہی کنایۃً طلاق کے لئے استعمال ہوتا ہے؛ لہذا دو طلاق کی وجہ سے عدت کے اندر اندر رجعت کی گنجائش ہے۔

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أولم ترض. (هداية، كتاب الطلاق، الباب السادس في

الرجعة، زكريا ۱/ ۴۷۰، هداية، اشرفي ديوبند ۲/ ۳۹۴)

وركنه لفظ مخصوص هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية، وبه ظهر من تشاجر مع زوجته ولم يذكر لفظاً لا صريحاً وكنايةً لا يقع عليه. (در مختار مع الشامی، كتاب الطلاق، مطلب في طلاق الدور، زكريا ۴/ ۴۳۱، كراچی ۳/ ۲۳۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۵ شعبان المعظم ۱۴۳۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۴۱/۱۱۶۲۴)

لفظ "تڑاق" سے طلاق کا حکم

سوال [۲۲۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اسلم کا اپنی بیوی تبسم سے نزاع ہوا، اور اسلم آپے سے باہر ہو گیا، اور شدید غصہ کی حالت میں اسلم کی زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی، اپنی بیوی تبسم سے تین مرتبہ طلاق کہا، بعد میں اسلم کی بھابھی اور بھابھی کی بہن نے جو اس وقت اسلم کے یہاں آئی ہوئیں تھیں، کہا کہ اسلم نے لفظ طلاق نہیں کہا تھا؛ بلکہ تڑاق کہا تھا، پھر دوبارہ گھر والوں نے جب اسلم سے وہ الفاظ

دوہرانے کو کہا تو گھر والوں نے کہا کہ تم اب بھی تڑاق ہی کہہ رہے ہو، اسلم کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ میں نے غصہ میں کیا کہہ دیا یا تڑاق میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور اسلم کی بیوی تبسم تین ماہ کے حمل سے ہے، اسلم کی بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد اسلم، چھوٹی منڈی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: بگڑے ہوئے لفظ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس نے طلاق ہی دی ہے، سننے والوں نے خواہ تڑاق سنا ہو یا کچھ بھی، لہذا جب اسلم نے اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق کہہ دیا، تو اس پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو گئیں۔ اب بلا حلالہ کئے اس سے رشتہ زوجیت قائم کرنا حرام ہے۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (ہندیہ کتاب الطلاق الباب السادس فصل فيما تحل به المطلقة الخ زکریا جدید ۱/۵۳۵، زکریا قدیم ۱/۴۷۳)

ويقع بها أي بهذه الألفاظ و ما بمعناها من الصريح و يدخل نحو طلاغ، وتلاغ، و طلاك، وتلاك..... بلا فرق بين عالم و جاهل. وفي الشاميه: و منه الألفاظ المصحفة. (الدر المختار مع الشاميه، زکریا ۴/۴۵۹، کراچی ۳/۴۹۲، بحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۵۲، زکریا ۳/۴۳۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵/صفر/۱۴۳۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۳۹۷۹)

وسوسہ کو دور کرنے کے لئے تجھے کر لاق دیتا ہوں کہنے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ ایک شخص کو دوسوہ آیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں، اس نے بہت ٹالا، مگر دوسوہ زیادہ ہوتا گیا، تو اس شخص نے اپنے دل کو دھوکہ دینے کیلئے طلاق کی نیت کے بغیر اپنی زبان سے یوں کہا کہ ”میں تجھ کو کرا لاق دیتا ہوں“ جبکہ بیوی اس وقت مخاطب نہیں تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ دل کو دھوکہ دے کر دوسوہ بھی ختم کر دوں اور طلاق سے بھی بچ جاؤں اور یہ صورت کئی مرتبہ پیش آئی، ہر مرتبہ اسی طرح دل کو سمجھایا۔ اب دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا اس صورت میں طلاق تو نہیں ہوئی؟

المستفتی: محمرفقان، دھام پور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مذکورہ میں ”تجھ کو کرا لاق دیتا ہوں“ سے شخص مذکور کی بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی، بلکہ اپنے شوہر کے لئے بدستور حلال رہے گی، کیونکہ مذکورہ لفظ طلاق کے معنی میں غیر مستعمل ہے اور اس کو بولنے سے ذہن طلاق کی طرف بھی منتقل نہیں ہوتا ہے، لہذا طلاق کے وقوع کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، تاہم ایسے شکی اور وہمی آدمی کو اپنے شک اور وہم کا علاج کسی صاحب شریعت ہوشیار قسم کے عالم کے پاس جا کر کروالینا چاہئے۔

لو قال: امرأته طارق، وأدغم الراء، وأخفاها حتى لا يفهم ذلك من يسمع خلفه لا يلزمه بذلك شيء، فلا تطلق امرأته؛ لأن طارِقاً ليس بطارق.
(حاشیة، الأشباه للحموي، زكريا ص ۹۱)

لو قال: أنت طالاً لا يقع شيء وإن نوى لو أن أعجمياً قال ذلك بالفارسية، وحذف الحرف الأخير لا يقع وإن نوى، لأنه غير معتاد عن العجم. (تاتارخانية، زكريا ۴/۱۳، رقم المسئلة: ۶۲-۶۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۰/۱۲/۱۴۳۵ھ

۱۴۳۵/۱۱/۱۰

(فتویٰ نمبر: الف/۴۱/۰۵/۱۱۷)

(۱۰) باب عدم وقوع الطلاق

قبل النکاح خیالی طلاق دینا

سوال [۶۲۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد اسجد کی شادی نجمہ سے ہونی طے ہے، لیکن ابھی صرف بات چیت ہوئی ہے، نکاح وغیرہ نہیں ہوا، اب اسجد نے یہ تصور کیا کہ گویا ہم دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد اسی تصور میں اس نے اپنی ہونے والی بیوی کو طلاق دیدی اور خیال میں یہ کہا کہ میں نے اسے طلاق دی، دی دی زبان سے کچھ نہیں کہا، تو اب نکاح ہو جانے کے بعد کیا پہلی تصوری اور خیالی طلاق کا شرعاً اعتبار ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد سلیم بیٹا پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نکاح کے بعد اس خیالی طلاق کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ طلاق کے لئے ملک نکاح کا قیام اور بیوی کی جانب صراحۃً یا دلالتاً اضافت و نسبت شرط اور ضروری ہے اور مسئلہ صورت میں ملک نکاح ہی حاصل نہیں ہے، لہذا اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

ومحلہ المنکوحۃ. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی طلاق الدور،

کراچی ۲/۲۳۰، زکریا ۴/۴۳۱)

ومنها الإضافة إلى المرأة. (بدائع الصنائع، زکریا ۳/۲۲۲، الأشباہ،

قدیم ۵/۴۵، شامی، کراچی ۳/۲۷۲، زکریا ۴/۴۹۳، تاتارخانیہ قدیم ۳/۲۷۹،

جدید زکریا ۴/۴۱۹، رقم: ۶۵۷۵، بزازیہ علی الہندیہ، زکریا ۴/۱۷۱، جدید
زکریا ۱/۱۱۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۷۶۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۶/۸ھ

دل میں طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۲۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کے بارے میں دل ہی میں یوں کہا کہ تم کو تینوں طلاق، مگر زبان سے کچھ نہیں کہا؛ بلکہ خاموش رہا، تو کیا اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ نیز اگر زبان سے لفظ طلاق بولا، مگر اتنا آہستہ بولا کہ ان الفاظ کو خود بھی سن نہ سکا، تو کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: عبدالودود، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورت مسئلہ میں بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی، کیونکہ یہ سب

وساوس اور خیالات وہمیہ ہیں اور شریعت میں ایسے خیالات و وساوس کا کچھ اعتبار نہیں۔

نیز زبان سے لفظ طلاق ادا کرنا اور اتنا آہستہ بولنا کہ خود متکلم بھی نہ سن سکے یہ بھی لغو ہے، وقوع

طلاق کے لئے الفاظ طلاق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کم از کم اس کا خود سننا بھی شرط ہے، لہذا

مذکورہ صورتوں میں طلاق واقع نہ ہوگی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۰۹/۸، جدید ڈائجسٹ ۱۲/۲۳۹،

فتاویٰ دارالعلوم ۴۱/۹، ۱۰۶/۷)

عن أبي هريرةؓ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله

عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تكلم به.

(صحیح مسلم، کتاب الإيمان، باب بیان تجاوز اللہ عن حدیث النفس، النسخة الهندية ۷۸/۱، بیت الأفكار رقم: ۱۲۷)

لو أجرى الطلاق على قلبه وحرك لسانه من غير تلفظ يسمع لا يقع وإن صحح الحروف. (مراقبي الفلاح، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، امدادية ملتان ۱۹، دارالكتاب ديوبند ۲۱۹)

وأدني الجهر إسماع غيره، وأدني المخافتة إسماع نفسه و من يقربه..... ويجرى ذلك المذكور في كل ما يتعلق بنطق، كتسمية على ذبيحة ووجوب سجدة تلاوة، وعتاق، وطلاق، واستثناء وغيرها، فلو طلق أو استثنى ولم يسمع نفسه لم يصح في الأصح. (در مختار مع الشامى، زكريا ۲/۲۵۳، كراچي ۱/۵۳۴، ۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲/۷/۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ رجب المرجب ۱۴۲۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۵/۶۳۰۷)

دل ہی دل میں طلاق دینا

سوال [۲۲۰۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کے ساتھ کوئی بڑا معاملہ پیش آتا ہے، تو حقیقتاً پاگل ہو جاتا ہے، یہ مرض تقریباً آٹھ سال سے مختلف موقعوں پر پیش آتا رہتا ہے، غالباً یہ کیفیت ذکر کی وجہ سے پیدا ہوئی، بندہ فقیہ الامت نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہونے سے قبل ہی ذکر جہری بہت زیادہ کیا کرتا تھا، جب ہی سے یہ کیفیت شروع ہو گئی، اس طرح تین مرتبہ وہ پاگل ہو چکا ہے اور جب جب زید پاگل ہوتا ہے، تب تب اس کے ساتھ مستقل یہ کیفیت رہتی ہے کہ کوئی اس کے دل میں اس سے بات کرتا رہتا ہے اور وہ بات کرنے والا کہتا ہے کہ میں اللہ تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن

یہ کیفیت ختم ہونے کے بعد پھر دل میں بات کرنے والے نے کہا کہ اپنی بیوی کو تین طلاق دیدو، تو زید نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیں، پھر دل میں بات کرنے والے نے کہا کہ قسم کلی کھاؤ یعنی جتنی شادیاں میں کروں سب کو تین طلاق، تو زید نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں جتنی شادیاں کروں سب کو تین طلاق، لیکن زید کو یہ تمیز نہیں کہ بات شیطان کی طرف سے دل میں آئی یا اللہ کی طرف سے، اب زید پریشان ہے اور غالب گمان ہے کہ اگر شادی نہیں کریگا، تو گناہوں میں ملوث ہو جائے گا، یا پاگل ہو جائے گا، اب زید کیا کرے بیوی کو رکھے یا دوسری شادی کرنے کی کوئی شکل ہو، تو اس سے مطلع کیا جائے اور زید کی زندگی کو گناہوں اور جنون سے بچایا جائے۔

المستفتی: عبدالودود، سیتا مرضی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر دل میں بات کرنے والے کے کہنے کی وجہ سے دل ہی دل میں طلاق دی ہے اور اسی طرح دل ہی دل میں یہ بھی کہا ہے، کہ جتنی شادیاں کریں گے، سب کو تین طلاق تو صرف دل ہی دل میں کہنے کی وجہ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق کے واقع ہونے کے لئے زبان سے کہنا لازم ہے اور اگر زبان سے کہا ہے، تو بیوی پر طلاق مغالطہ واقع ہو چکی ہے، جبکہ یہ سب کچھ یاد ہو۔

فلو طلق غافلاً أو ساهياً أو مخطأً وقع (إلى قوله) إن الصريح لا يحتاج

إلى النية الخ. (الأشباہ قديم مطلع ديوبند ۴۵، جديد زكريا ۱/۹۰)

وأما الطلاق والعناق فلا يقعان بالنية، بل لا بد من التلطف. (الأشباہ

جديد زكريا ۱/۱۶۵، قديم ص ۸۹)

لو طلق أو استثنى ولم يسمع نفسه لم يصح في الأصح. (درمختار مع

الشامي، زكريا ۲/۲۵۳، كراچي ۱/۵۳۴، ۵۳۵)

لو أجرى الطلاق على قلبه وحرک لسانه من غير تلفظ يسمع لا يقع

وإن صحح الحروف. (مراقی الفلاح، کتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، امدادیة ملتان ص: ۱۹۰، دارالکتاب دیوبند ص: ۲۱۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۵ محرم الحرام ۱۴۱۸ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۳۳/۵۱۰۹)

طلاق دینے میں شک ہو تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۲۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد امیر الاعظم نے اپنی بیوی عشرت جہاں کو گھر یلو جھگڑے میں بحالت غصہ مارا اور پیٹا اور یہ بھی طالق کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کیا کہا اور دیگر جو مستورات اس وقت گھر میں موجود تھیں وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم نے محمد امیر الاعظم کی زبان سے بکواس تو سنی، لیکن ہمیں بھی طلاق سنائی نہیں دی، جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد امیر الاعظم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر طلاق دینا یقین سے ثابت نہیں ہے، تو شرعاً طلاق کا حکم نہ ہوگا۔

منہا: شک هل طلق أم لا لم يقع. (الأشباہ قديم مطبع دارالعلوم دیوبند ص

۱۰۸، جدید زکریا ۱/۱۹۶)

عدم الشک من الزوج في الطلاق وهو شرط الحكم بوقوع الطلاق حتى لو شك فيه لا يحكم بوقوعه. (بدائع الصنائع، کتاب الطلاق، فصل في

الرسالة قديم ۳/۲۶، زکریا جدید ۳/۱۹۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۸/۴/۱۴۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۹/۳۳۴۱)

شوہر کا طلاق کو اپنی طرف منسوب کرنا

سوال [۶۲۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے کہا مجھ سے قسم طلاق ہے، اگر میں تجھ سے بولوں بیوی سے جھگڑے کے دوران کہا تھا، کیا طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟

المسفتی: مبارک حسین، پتی خالصہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب شوہر نے طلاق کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی طلاق شرعی طور پر واقع نہ ہوگی؛ اس لئے کہ شوہر محل طلاق نہیں ہے اور غیر محل کی طرف نسبت کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوا کرتی ہے۔

أنا منک طالق أوبريء لیس بشیء، ولو نوى به الطلاق. وتحتہ فی الشامیة: لأن محلیة الطلاق قائمة بها لابه فالإضافة إليه إضافة إلى غیر محلہ فیلغو. (در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۹۹۳، کراچی ۳/۲۷۲)

لو أضاف الزوج صریح الطلاق إلى نفسه بأن قال: أنا منک طالق لایقع الطلاق وإن نوى. (بدائع الصنائع، زکریا ۳/۲۲۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳ھ/۶/۲۴

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۴ جمادی الثانیہ ۱۴۱۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲۳۱/۲۹)

رفع مساویں کے لئے بھاگ، یا چل بھاگ کہنے پر بیوی کا خیل آنے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ میں ایک مرتبہ غسل خانہ میں کپڑے دھل رہا تھا، میرا ذہن منتشر ہو رہا تھا، مختلف قسم کے وساوس اور شہوات ذہن میں آرہے تھے، ان وساوس سے پریشان ہو کر جھنجھلا کر میں نے یہ لفظ کہا ”بھاگ“ یا ”چل بھاگ“، یعنی صحیح یاد نہیں کہ بھاگ کہا یا چل بھاگ کہا، اس جملہ کو کہتے وقت خطاب نفس و شیطان کی طرف تھا کہ نفس و شیطان ہی خواہ مخواہ ادھر ادھر کے وساوس اور شکوک ذہن میں پیدا کر رہے ہیں اور اپنی طرف بھی کہ جلدی سے فارغ ہو کر بھاگ جاؤں یعنی غسل خانہ سے باہر نکل جاؤں، بہر کیف اس جملہ کو استعمال کرنے کے ساتھ ہی فوراً ذہن اپنی بیوی کی طرف چلا گیا، اور دل و دماغ میں یہ بات گھومنے لگی کہ ہو سکتا ہے بھاگ یا چل بھاگ کا جملہ میں نے اپنی بیوی کے لئے استعمال کر لیا ہو اور اس جملہ کو کہتے وقت دھیان بیوی کی طرف چلا گیا ہو، اب اسی وقت سے ذہن میں زبردست انتشار ہو رہا ہے کہ اس طرح کے حالات میں جو اوپر مذکور ہوئے، اس قسم کے جملے استعمال کرنے سے کہیں طلاق واقع نہیں ہوگی؟ بیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ مذکورہ صورت حال کی وجہ سے ذہن کافی منتشر ہے اور بار بار یہ خیال آتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس جملہ بھاگ یا چل بھاگ کے استعمال کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی کمی پیدا ہوگی ہو، تو دوبارہ نکاح کر لوں اور اگر دوبارہ نکاح پڑھوایا، تو پہلے نکاح پر کوئی اثر تو نہیں پڑا؟

المستفتی: رئیس الدین، اندراگر، رام نگر، مغربی چپارن (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: خطاب نفس اور شیطان کے لئے چل بھاگ کہنے کے ساتھ بیوی کا دھیان آنے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ نیز یہ جملہ براہ راست بیوی کو مخاطب کر کے کہنے سے بھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی؛ جبکہ طلاق دینے کا ارادہ اور نیت نہ ہو اور نہ ہی اس کا مذاکرہ ہو، نیز دوبارہ سہ بارہ نکاح کی بات کرنا بھی دماغی فتور ہے۔

أخرجي اذهبي تلزم النية الخ. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنايات،

أما النوع الأول، فهو كل لفظ يستعمل في الطلاق، ويستعمل في غيره نحو قوله أنت بائن..... أنت حرة، قومي، اخرجي، اغربي، انطلقني..... وإذا احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغير الطلاق، فقد استتر المراد منها عند السامع، فافتقرت إلى النية لتعيين المراد. (بدائع الصنائع، زكريا ۳/۱۶۷-۱۶۹)

وحاصل ما في الخانية: أن من الكنايات ثلاث عشرة لا يعتبر فيها دلالة الحال ولا تقع إلا بالنية: حبلك على غاربك..... اخرجي، اذهبي، انتقلي، انطلقني. (البحر الرائق، زكريا ۳/۵۲۶، كونه ۳/۳۰۲-۳۰۳ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰ ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۴۴)

عورت کا جھوٹی طلاق کا دعویٰ کرنا

سوال [۲۲۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور سلمیٰ دونوں شوہر بیوی تھے، پھر آپس میں لڑائی ہو گئی، تو سلمیٰ نے اپنے گھر جا کر کہا کہ زید نے مجھے طلاق دیدی ہے، لیکن زید کا کہنا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، پھر سلمیٰ نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، تو کیا یہ نکاح صحیح ہوگا۔ نیز سلمیٰ کی اس حرکت کے بعد اس سے کلام اور اس کے یہاں کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد طیب عظیم مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب شوہر خود اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اس نے طلاق نہیں دی اور عورت نے خواہ مخواہ گھر جا کر طلاق کی افواہ پھیلا دی اور عورت کے پاس اپنے دعویٰ پر شرعی گواہ بھی نہیں ہیں، تو عورت کے اس دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ بدستور شوہر کے نکاح

میں باقی ہے، ایسی صورت میں جو دوسرا نکاح عورت نے کیا ہے، وہ منعقد ہی نہیں ہوا اور دوسرے شخص کے پاس رہنا حرام کاری زنا کاری اور بدکاری ہوگی، اس کو فوراً علیحدہ ہو کر اپنے شوہر کے پاس چلے آنا چاہئے، اور اس عمل بد سے توبہ واستغفار کر لینی چاہئے، جب تک یہ توبہ و استغفار نہ کرے، تو اس سے اصلاح اعمال کی خاطر تعلقات کو منقطع کرنا اور اس کے یہاں کا کھانا وغیرہ نہ کھانا درست ہے۔

قال الله تعالى: 'وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ'. [البقرہ: ۲۸۲]

و ماسویٰ ذلک من الحقوق یقبل فیها شہادۃ رجلین، اور رجل و امرأتین سواء کان الحق مالاً، أو غیر مال مثل النکاح، والطلاق. (ہدایہ، کتاب الشہادۃ اشرفی دیوبند ۳/۱۵۴، در مختار، کراچی ۵/۶۵، زکریا ۸/۱۷۸، عالمگیری، زکریا ۳/۴۵۱، جدید زکریا ۳/۳۸۸)

و بغیرہا رجلان، اور رجل و امرأتان للآیۃ، أطلقہ فشمّل المال و غیرہا کالنکاح، والطلاق. (البحر الرائق، کوئٹہ ۷/۶۲، زکریا ۷/۱۰۴) و أما نکاح منکوحۃ الغیر، لأنه لم یقل أحد بجوازہ، فلم ینعقد أصلاً. (شامی، کراچی ۳/۱۳۲، زکریا ۴/۲۷۴، تاتارخانیہ، زکریا ۴/۶۶، رقم: ۵۵۴، خانیہ علی الہندیہ، زکریا ۱/۳۶۶، قاضی خاں جدید زکریا ۱/۲۲۱، عالمگیری، زکریا ۱/۲۸۰، جدید زکریا ۱/۳۶۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۰/۷/۱۴۲۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۰/رجب المرجب ۱۴۲۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۶۸۵)

کیا لڑکی کے اقرار سے طلاق واقع ہو جائے گی؟

سوال [۶۲۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ ایک عورت اپنی سسرال سے میکی چلی گئی اور کہتی ہے کہ مجھے طلاق ہوگئی ہے، اور شوہر انکار کر رہا ہے، تو آپ تحریر فرمائیں کیا لڑکی پر طلاق واقع ہوگئی ہے یا نہیں؟ اور لڑکی کے نانا یہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی طلاق کے بعد دس قدم چل دے، تو عدت گذر جاتی ہے کیا یہ صحیح ہے؟

المستفتی: عبداللطیف، محلہ اصالت پورہ، بڑی مسجد، مراد آباد (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: محض لڑکی کے کہنے کی وجہ سے شرعاً طلاق کا ثبوت نہیں ہوگا، جب تک دو گواہوں سے ثابت نہ کر دے یا شوہر اقرار نہ کر لے۔ اور لڑکی کے نانا کا یہ کہنا کہ دس قدم چلنے سے عدت گذر جاتی ہے، محض لغو اور بے اصل بات ہے؛ بلکہ عدت گذرنے کے لئے تین ماہ واری شرط ہے۔

قال الله تعالى: **وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ**. [البقرہ: ۲۸۲]

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل، وامرأتين سواء كان الحق مالا، أو غير مال مثل النكاح، والطلاق. (هداية، كتاب الشهادة، اشرفي ديوبند ۳/۱۵۴، در مختار مع الشامی، کراچی ۵/۶۶۵، زکریا ۸/۱۷۸، ہندیہ، زکریا ۳/۴۵۱، جدید زکریا ۳/۳۸۸، البحر الرائق، کوئٹہ ۷/۶۲، زکریا ۷/۱۰۴)

قال الله تعالى: **وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ**.

[سورة البقرہ: ۲۲۸]

عن عائشة قالت: أمرت بريدة أن تعد بثلاث حيض. (سنن ابن ماجہ،

كتاب الطلاق، باب خيار لامة إذا اعتقت، النسخة الهندية ۱۵۰، دارالسلام رقم: ۲۰۷۷)

وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء. (هداية، باب العدة، اشرفي

دیوبند ۲/۴۲۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳/۷/۱۴۱۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳/رجب المرجب ۱۴۱۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۶/۲۲۸)

بیوی کے جھوٹ بولنے سے کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟

سوال [۶۲۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا سالہ میری بیوی کو لینے آیا، میں نے اپنی بعض پریشانیوں کی بنا پر منع کر دیا، تو میری ساس آئی اور میری بیوی کو لے گئی اور گھر کا جہیز وغیرہ کا سامان بھی لے گئی، اور اب کہتی ہے کہ میرے شوہر نے طلاق دیدی، حالانکہ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے کوئی طلاق نہیں دی، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، تو کیا بیوی کے کہنے سے طلاق ہوئی یا نہیں؟ میں نے طلاق کا کبھی ذکر بھی نہیں کیا؟ شرعی حکم تحریر فرمادیں۔

المستفتی: محمد عرفان، کاشی پور، نئی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر آپ نے طلاق نہیں دی ہے، تو محض بیوی کے کہنے کی وجہ سے طلاق شمار نہ ہوگی اور وہ بیوی آپ کے نکاح سے خارج نہ ہوگی، نکاح بدستور باقی ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: **وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ**

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. [البقرہ: ۲۸۲]

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل

وامرأتين سواء كان الحق مالا، أو غير مال مثل النكاح، والطلاق. (هداية،

ونصابها لغيرها من الحقوق سواء كان الحق مالا أو غيره كنكاح وطلاق..... رجلان..... اور جل و امرأتان. (در مختار مع الشامی، کراچی ۶۵/۵، زکریا ۱۷۸/۸، ہندیہ، زکریا ۳/۵۱، جدید زکریا دیوبند ۳۸۸/۳، البحر الرائق، کوئٹہ ۶۲/۷، زکریا ۱۰۴/۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ ذی الحجہ ۱۴۱۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۵۰۳۶، ۳۲)

محض بیوی کے طلاق کا دعویٰ کرنے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندہ کی شادی تقریباً دو سال ہوئے بکر سے ہوئی تھی اور وہ دونوں خوش و خرم رہ رہے تھے، ہندہ سے ایک لڑکی بھی ہے، اچانک ہندہ کا چھوٹا بھائی ہندہ کو بلانے کے لئے آیا، تو ہندہ نے اپنے شوہر یعنی بکر سے میکے جانے کے لئے بھائی کے ساتھ کہا، تو بکر نے منع کیا، اس پر دونوں میاں بیوی میں کچھ تکرار ہوئی، ہندہ کا بھائی ہندہ کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، پھر میکے والے دوبارہ لینے آئے، تو والد وغیرہ کے ساتھ میکے کو بھیج دیا، میکے جا کر ہندہ نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دیدی اور مجھ سے چھ دفعہ کہا 'تجھے طلاق ہے، طلاق ہے' اس معاملہ کا کوئی گواہ نہیں ہے، جب ہندہ کے شوہر کو بلا کر پوچھا گیا، دو چار آدمیوں کے سامنے تو وہ منع کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے نہیں کہا، نہ ہی میں نے طلاق دی ہے اس صورت میں ہندہ کو طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: ضیاء الدین، محلہ: پنجابیان، چندوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سوال صحیح ہے اور شوہر طلاق کا منکر ہے، تو بغیر شہادت شرعیہ کے محض بیوی کے طلاق کا دعویٰ کرنے سے شرعاً طلاق کا حکم جاری نہ ہوگا۔

قال الله تعالى: **وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ**. [البقرہ: ۲۸۲]

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا، أو غير مال مثل النكاح، والطلاق. (هداية، كتاب الشهادة، اشرفي ديوبند ۳/۱۵۴)

ومنها الشهادة بغير الحدود، والقصاص، وما يطلع عليه الرجال، وشرط فيها شهادة رجلين، أو رجل، وامرأتين سواء كان الحق مالا، أو غير مال كالنكاح، والطلاق. (هندية، زكريا ۳/۴۵۱، جديد زكريا ديوبند ۳/۳۸۸) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰ محرم الحرام ۱۴۱۴ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۹/۳۲۷)

بیوی طلاق کا دعویٰ کرے اور شوہر انکار کرے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۶۲۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی کہتی ہے مجھے طلاق دی ہے، لیکن زید کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، چاہے جیسی قسم لے لیں، میں نے طلاق نہیں دی ہے، حضرت کیا عورت کو طلاق ہوگئی یا نہیں؟

المستفتی: دلشاد حسین، ملک گواہر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید کی بیوی مطلقاً طلاق کا دعویٰ کرتی ہے اور کتنی طلاق دی ہیں، اس کی بھی صراحت نہیں کرتی ہے، اور زید کی بیوی کے پاس اس دعویٰ کے ثبوت میں کوئی گواہ بھی نہیں ہے اور زید سرے سے طلاق کا انکار کر رہا ہے اور وہ اس بات پر قسم کھانے کو تیار ہے کہ اس نے طلاق نہیں دی ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت کا دعویٰ معتبر

نہ ہوگا اور شوہر کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، لہذا مذکورہ صورت میں شرعی طور پر طلاق کا حکم لاگو نہ ہوگا، اس لئے بیوی کو شوہر کے پاس رہ کر ازدواجی زندگی گزارنی چاہئے۔

قال الله تعالى: **وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ**. [البقرہ: ۲۸۲]

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل، وامرأتين سواء كان الحق مالا، أو غير مال مثل النكاح، والطلاق. (هداية، كتاب الشهادة، اشرفي ديو بند ۱۵۴/۳)

ونصابها لغيرها من الحقوق سواء كان الحق مالا، أو غيره كنكاح وطلاق - إلى ما قال - رجلا، أو رجل وامرأتان. (شامی، کراچی ۵/۴۶۵، زکریا ۸/۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۴/۷/۱۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۸/رجب المرجب ۱۴۲۴ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۷/۸۱۲)

سسرال والوں کا یہ کہنا کہ لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے

سوال [۶۲۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی ڈیڑھ مہینہ کی حاملہ تھی، اب ڈیڑھ مہینہ کے بعد اپنے میکہ چلی گئی اور پورے سات مہینہ اپنے میکہ میں رہی، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اب اس کی سسرال کے لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کو طلاق ہو گئی، حالانکہ لڑکی کے شوہر نے طلاق کا لفظ تک نہیں بولا ہے، تو کیا ایسی حالت میں لڑکی کو طلاق واقع ہو گئی ہے؟

المستفتی: محمد کھلیل مقرب پور، گلی نمبر ۵، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شوہر نے زبانی یا تحریری کسی قسم کی طلاق نہیں دی

ہے، تو محض سسرال والوں کے کہنے کی وجہ سے طلاق واقع نہ ہوگی، بلکہ خود شوہر کا طلاق دینا ضروری ہے۔

عن ابن عباسؓ قال:.....فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال:.....إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الحديث (سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد، النسخة الهندية ۱۵۱، دارالسلام رقم: ۲۰۸۱)
 إن الذى يملك الطلاق إنما هو الزوج. (الفقه الإسلامى وأدلته هدى انٹرنیشنل دیوبند ۷/۳۵۵۰)

وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ. (درمختار، کراچی ۳/۲۳۰، زکریا ۴/۴۳۱، سبک الانہر دارالکتاب العلمیہ بیروت ۲/۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴/۱۲/۲۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۹/رجز الحج ۱۴۱۵ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۳۲/۸۷۳۲)

سسرال والوں کے طلاق کے مطالبہ پر زور دینے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۱۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سائل کا لڑکا محمد علی اپنی سسرال گیا، وہاں پر اس کی اپنی سسرال والوں سے کچھ گرمی ہوگئی اور سسرال والوں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر مارا، گھر سے کافی دور آنے کے بعد اس نے بدحواسی کے عالم میں لوگوں سے کہا کہ میرے سسرال والے مجھ سے طلاق کو کہہ رہے تھے، یہی بات اس نے گھر آ کر کہی، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ سائل کے لڑکے کی بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد حمید عبد اللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر آپ کے لڑکے نے زبانی یا تحریری کسی طرح طلاق

نہیں دی ہے، تو محض سسرال والوں یا دوسرے لوگوں کے طلاق کہنے سے یا طلاق کے مطالبہ پر زور دینے سے طلاق نہیں ہوتی، لہذا مذکورہ صورت میں کوئی طلاق نہیں ہوئی۔

عن ابن عباسؓ قال:..... فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال:..... إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وتحتته في الحاشية: كناية عن الجماع أي إنما يملك الطلاق من يملك الجماع. (سنن ابن ماجه مع حاشية، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد، النسخة الهندية ۱۵۱، دارالسلام رقم: ۲۰۸۱)

إن الذی یملک الطلاق إنما هو الزوج متى كان بالغاً عاقلاً.
(الفقه الإسلامی وأدلته، ہدی انٹرنیشنل دیوبند ۷/۳۵۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ رذی قعدہ ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۶/۸۴۴)

کیا آنسہ پر طلاق واقع ہو جاتی ہے

سوال [۶۲۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ کو جو کہ سن ایاس کو پہنچ چکی ہے، عمر ۵۴ سال ہے، آپسی نزاع کی بنا پر طلاق مغلظہ دیدی ہے، زید خود اقرار کر رہا ہے، اور اس کے دو بچے بھی گواہ ہیں، تو اس صورت میں ہندہ پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

(۲) اب بعد طلاق زید چاہتا ہے کہ پھر اسی ہندہ سے نکاح کرے اور اس کی واپسی کی راہ تلاش کر رہا ہے کہ کس طرح ہندہ کو واپس پھر اپنی زوجیت میں لائے شرعی حکم تحریر فرمائیں۔

المستفتی: شیخ ممتاز، محلہ سانگو، کنگ (اڑیسہ)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب زید نے اپنی بیوی ہندہ کو طلاق مغلظہ دیدی ہے اور

زید خود اقرار بھی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہندہ پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر وہ قطعی طور پر حرام ہو گئی ہے، اگر دوبارہ ساتھ رہنا چاہیں، تو حلالہ شرعیہ کے بغیر دوبارہ نکاح بھی جائز نہ ہوگا اور جس عورت کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، اس کی عدت مہینوں کے حساب سے ہوتی ہے؛ لہذا تین مہینہ میں اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے، اس لئے شرعی حلالہ کی شکل یہ ہوگی کہ شوہر کی طلاق کے بعد جب تین مہینہ گزر جائیں، تو کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے، مہستر ہو جائے، اس کے بعد وہ طلاق دیدے، تو دوبارہ تین مہینہ عدت میں گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح درست ہو جائے گا۔

قال الله تعالى: 'فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ'. [البقرہ: ۲۳۰]

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (ہندیہ، زکریا دیوبند ۱/۴۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵، تاتارخانیہ ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳)

والعدة لمن لم تحض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض ثلاثة أشهر. (ہندیہ، زکریا ۱/۵۲۶، جدید زکریا ۱/۵۸۰)

وإن كانت لا تحيض لكبر، أو لصغر، أو بلغت بالسن ولم تحض، فعدتها ثلاثة أشهر بالأيام. (مجمع الأنهر مع الدر المنقہ، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۱۴۳)

والعدة في حق من لم تحض لصغر بأن لم تبلغ تسعاً، أو كبر بأن بلغت سن الأياس، أو بلغت بالسن ولم تحض ثلاثة أشهر. (درمختار، زکریا ۵/۱۸۴-۱۸۷، کراچی ۳/۵۰۷)

إذا تحقق اليأس تحقق حكمه، وإذا تحقق الحيض تحقق حكمه.

(شامی، زکریا ۵/۱۹۵، کراچی ۳/۵۱۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳ھ/۲۲/۲۲

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ صفر المظفر ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۹/۱۰۶۷۷)

حق زوجیت ادا نہ کرنے کی بنا پر طلاق کا حکم

سوال [۶۲۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص محمد ادریس ہلدوانی میں کام کرتا ہے اور مہینے دو مہینے میں مراد آباد آتا ہے، لیکن بیوی سے باقاعدہ ملاقات نہیں کرتا ہے، نہ ہی حقوق زوجیت ادا کرتا ہے اور محلہ کے لوگ یا بیوی لے جانے کے لئے کہتی ہے تو کہتا ہے ابھی لیجانے کے لئے حالت نہیں ہے، بہت جلد لے جاؤں گا، تو اس سے طلاق تو نہیں ہوگی؟

المستفتی: شان عالم، محلہ بحیرہ کٹ گھر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر شوہر حق زوجیت ادا نہیں کرتا اور دو تین مہینے میں آکر وعدہ کر کے چلا جاتا ہے، کہ جلد ہی میں لیجاؤں گا، مگر بیوی کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، اس سے دونوں کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، دونوں کا نکاح بدستور باقی رہے گا۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۶۸۸/۱۱۲، جدید زکریا ۱۱۲/۱۱۲، جدید زکریا مطول ۷۷/۵۷، فتاویٰ دارالعلوم ۷۷/۷۷)

ورکنہ (الطلاق) لفظ مخصوص، ہو ماجعل دلالة علی معنی الطلاق

من صریح، أو کنایة. (شامی، کتاب الطلاق، کراچی ۳/۲۳۰، زکریا ۴/۴۳۱)

لأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع، وبملثه لا يثبت

حکم الطلاق فيه. (هدایة، اشرفی دیوبند ۲/۴۰۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۵ھ/۶/۲۰

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ جمادی الثانیہ ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۷/۸۳۱۱)

جب بھی کوئی ناراضگی کی بات ہوتی ہے تو تم یہی کہتی ہو، طلاق، طلاق، طلاق

سوال [۶۲۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی اپنی بیوی سے کچھ نا اتفاقی تھی، اسی بیچ بیوی ناراضگی میں گھر سے اپنی والدہ کے گھر چلی گئی، اس کے پیچھے سے زید بھی وہاں پہنچ گیا، زید نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر چلئے، تو بیوی کی والدہ نے جواب دیا کہ اب میں اس کو نہیں بھیجوں گی، اب تو صبح کو اس کی طلاق لوں گی، تو زید نے بطور اعتراض کہا، کیا میں اس کو طلاق دینے آیا ہوں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ناراضگی کی تو تم یہی کہتی ہو کہ ”طلاق، طلاق، طلاق“ اس کے فوراً بعد زید گھر آ گیا، تو کیا ان الفاظ سے اور اس طریقہ سے لفظ طلاق ادا کرنے سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟

نوٹ: مخالفت کی بنا پر میکے والوں نے اس خبر کو عام کر دیا کہ زید نے تین طلاقیں دے دیں اور بیوی واپس زید کے گھر آ گئی ہے۔

المستفتی: افسر علی، کنور، ٹانکار، رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اس طرح طلاق کا لفظ استعمال کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی زید کو حق ہے کہ اس کو اپنے گھر لے آئے۔

کرر مسائل الطلاق بحضرة زوجته ويقول أنت طالق، ولا ينوي لا تطلق. (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب طلاق الصريح، كونه ۳/۲۵۸، زكريا ۳/۴۵۱)

لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها، أو كتب ناقلاً من كتاب: امرأتي طالق مع التلفظ، أو حكى يمين غيرها، فإنه لا يقع أصلاً ما لم يقصد زوجته.

(شامی، كراچی ۳/۲۵۰، زكريا ۴/۴۶۱) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹/زی الحجۃ ۱۴۱۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۲/۴۵)

تجھے میں رکھیل بنا کر رکھوں گا کہنے کا حکم

سوال [۶۲۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کوئی شخص عادتاً بد زبان ہے، اپنی اس بدزبانی سے وہ خود بھی پریشان ہے، اسی بدزبانی کی وجہ سے اکثر اس کا اس کی اہلیہ سے جھگڑا رہتا ہے، اور اگر وہ اپنی اہلیہ کو جھگڑاتے وقت یہ کہہ دیتا ہے کہ تجھے تو میں رکھیل بنا کر رکھوں گا، لیکن اس میں اس کا دل سے کوئی مطلب نہیں، عام اوقات اپنی بیوی کے ساتھ نہایت ہی شریفانہ انداز میں رہتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس طرح کے جملے نکاح پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو کیا مسئلہ ذیل میں کسی طرح کا کوئی کفارہ لازم ہوگا؟

المستفتی: اقبال احمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بیوی سے کہنا کہ ”تجھے میں رکھیل بنا کر رکھوں گا“ اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی اور نہ کفارہ لازم آتا ہے۔

کل لفظ لا یحتمل الطلاق لا یقع بہ الطلاق. (عالمگیری، کتاب

الطلاق، الفصل الخامس، فی الکنایات، زکریا ۱/۳۷۶، جدید زکریا ۱/۴۴۴)

و کذا کل لفظ لا یحتمل الطلاق لا یقع بہ الطلاق وإن نوی. (بدائع

الصنائع قدیم ۳/۱۰۸، زکریا ۳/۱۷۲) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۸ شعبان المعظم ۱۴۲۳ھ

۱۴۲۳/۸/۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۷۸۰۴۳۶)

”تجھ سے صحبت کروں تو ماں سے صحبت کروں“ کہنے کا حکم

سوال [۶۲۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ اگر خاوند اپنی زوجہ سے کہے کہ اگر میں تجھ کو رکھوں، تو اپنی ماں کو رکھوں، اگر تجھ سے صحبت کروں تو گویا اپنی ماں سے کروں، تو آیا اس صورت میں بیوی شوہر کے لئے حرام ہو جائے گی؟

المستفتی: محمد نیر سیٹا پوری، دارالعلوم جامع الہدیٰ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ الفاظ محض دھونس اور مہمل اور بیہودہ کلام ہیں، ان سے نہ طلاق ہوتی ہے اور نہ ہی ظہار؛ بلکہ لغو ہیں، بیوی شوہر پر حرام نہ ہوگی۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۲۱۶/۶، جدید زکریا مطول ۶۸/۸، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۳/۱۸، جدید ڈابھیل ۱۳/۳۲۶)

ولو قال إن وطئتک و طئت أمی، فلا شیء علیہ۔ (ہندیۃ، کتاب الطلاق،

باب الظہار، زکریا ۱/۵۰۷، جدید زکریا ۱/۵۶۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۵ جمادی الثانیہ ۱۴۱۶ھ

۱۴۱۶/۶/۲۶

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲/۳۵۱۴)

مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عرصہ دو سال قبل راج بی بی بنت بشیر احمد کا عقد نکاح مطابق سنت نبی کریم کریم لطیف احمد بن محمد حسین (ساکن نروال جموں) کے ساتھ ہوا، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد لطیف احمد نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، لطیف احمد اکثر شراب نوشی کا عادی ہے اور نشہ کی حالت میں اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا ہے، عرصہ ایک سال بعد لطیف کی بیوی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور کچھ دن بعد لطیف نے بیوی کو بچے کو ہمراہ لا کر میکے میں چھوڑ دیا اس کے بعد اور دوسرے تیسرے دن لطیف اپنی بیوی کے میکے جاتا ہے اور بچے کو چھین کر لے جاتا ہے

اور بہت سے لوگوں کے سامنے یہ کہہ جاتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو مجھے نہیں رکھنا ہے، مجھے اپنے بچے کی ضرورت ہے، اسے میں لے جا رہا ہوں۔ لیکن برادری نے کوشش کی کہ کسی صورت سے یہ گھر بس جائے اور راج بیوی کو ایک بار پھر سسرال لے جا کر چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد بھی راج بی بی پر ظلم و ستم جاری رہا، بلکہ اس میں اور بھی اضافہ ہوا، جب وہ حد سے زیادہ مجبور ہو گئی، تو لطیف احمد نے اس کو پھر لاکر میکے چھوڑ دیا اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لطیف احمد آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، تو اس کی بیوی نے جواباً کہا کہ میرا آپ کے ساتھ گزر بسر نہیں ہو سکتا، برائے مہربانی آپ مجھے طلاق دے دیں اور میں کسی طرح سے گزر بسر کر لوں گی، بعد از لطیف احمد نے کہا کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں، چاہے جہاں جا کر اپنا منہ کالا کرو، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جا کر چاہے اپنے ماموں کے ساتھ رہو، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور نہ ہی میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا، تجھے کاٹ کر یہاں ہی ڈال دوں گا اور اپنے بچے کو لے جاؤں گا۔

نوٹ: دریافت طلب مسائل میں عورت مذکورہ الفاظ کا اقرار کرتی ہے، عورت اور مرد کی اس گفتگو پر مندرجہ ذیل گواہ موجود ہیں، جبکہ شوہر منکر ہے، وضاحت فرمائیں کہ بات کس کی معتبر ہوگی اور اس واقعہ کے بعد عورت کو اپنے شوہر سے الگ رہتے ہوئے تقریباً چار مہینے کا عرصہ ہوا مسئلہ دریافت طلب یہ ہے کہ ان الفاظ کے کہنے سے طلاق واقع ہوئی کہ نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔

گواہ: ارغلام نبی ابن میر حسین، سنہجل چوراہا-۲/محمد قاسم ابن میر حسین، سنہجل چوراہا-۳/اللہ رکھی بنت رحم علی، پاگاہ-۴/شیر محمد، سنہجل چوراہا۔

المستفتیہ: راج بی بی بنت بشیر احمد، پاگاہ، تحصیل ریاسی، ضلع ادھم پور (جموں و کشمیر)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں آپس میں جھگڑے اور تکرار کی جو شکل لکھی

ہے، تو اس میں ایک ایک لفظ قابل توجہ ہے کہ شوہر طلاق کے مطالبے پر یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لفظ کئی مرتبہ کہا ہے اور ضرورت نہیں کا لفظ، نہ الفاظ صریح میں سے ہے اور نہ الفاظ کنایہ میں سے۔ حضرات فقہاء نے اس طرح کے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہی لکھا ہے کہ نیت کے باوجود اس طرح کے الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، لہذا اس لفظ سے بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اور شوہر کا یہ کہنا کہ مجھے آپ کو نہیں رکھنا ہے، اس لفظ سے بھی طلاق واقع نہیں ہوئی؛ کیونکہ یہ لفظ بھی الفاظ کنایہ یا الفاظ صریح میں شامل نہیں ہے، اسی طرح اپنے گھر نہیں لیجاؤں گا، تجھے کاٹ کر وہیں ڈال دوں گا، یہ سارے الفاظ آپس کی لڑائی جھگڑے کے الفاظ ہیں، اس طرح کے الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے؛ لہذا سوالنامہ میں درج کئے گئے کسی بھی لفظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی؛ اس لئے دونوں کے درمیان نکاح بدستور باقی ہے۔

قد اتفقوا جميعاً أنه لو قال: واللہ ما أنت لي بامرأة، أو لست واللہ لي بامرأة فإنه لا يقع شيء وإن نوى، ولو قال: لا حاجة لي فيك ينوي الطلاق فليس بطلاق (ہندیہ، کتاب الطلاق، الفصل الخامس في الكنايات، زکریا ۱/۳۷۵، جدید زکریا ۱/۴۴۳)

ولو قال: لا حاجة لي فيك لا يقع الطلاق وإن نوى؛ لأن عدم الحاجة لا يدل على عدم الزوجية. (بدائع الصنائع، زکریا ۳/۱۷۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ رجب المرجب ۱۴۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۷۹۴/۸۴۹۴)

کیا لعنت بھیجنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟

سوال [۶۲۴۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر بحث و مباحثہ کے دوران لعنت بھیجے اور کہے کہ تجھ پر لعنت ہو، تو کیا اس کے لعنت بھیجنے سے ان کے رشتہ نکاح میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ اور اس کا حکم کیا ہے؟

المستفتی: الطاف علی، ناگپور (مہاراشٹر)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: لعنت اور غضب کے جملے استعمال کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی؛ اس لئے کہ یہ محض گالی گلوچ کے الفاظ ہوتے ہیں اور طلاق کے واقع ہونے کے لئے طلاق صریح یا طلاق کنائی کے الفاظ کا ہونا لازم ہے اور لعنت کے الفاظ نہ الفاظ صریح میں داخل ہیں اور نہ ہی الفاظ کنائی میں، اس لئے طلاق واقع نہ ہوگی۔

رکن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة، وهو التخليه والارسال و رفع القيد في الصريح، وقطع الوصلة ونحوه في الكناية. (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل بيان ركن الطلاق، زكريا ۱۵۷/۳، کوئٹہ ۹۸/۳)

وركنه لفظ مخصوص هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح، أو كناية. (شامی، زکریا ۴۳۱/۴، کراچی ۲۳۰/۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۶/۱/۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۸۶۷۲۳۷)

شوہر کا اپنے کوشیطان کہنے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جو شخص اپنے کوشیطان کہتا ہے، اس کی بیوی کی طلاق کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: ہارون رشید

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شوہر کا اپنے کوشیطان کہنے سے بیوی پر کوئی طلاق نہ ہوگی، اس سے بیوی کو دھونس دکھانا یا کسر نفسی مراد ہے۔

و کذا کل لفظ لا یحتمل الطلاق لا یقع بہ الطلاق. (ہندیہ، کتاب الطلاق،

الفصل الخامس فی الکنایات، زکریا ۱/۳۷۶، جدید زکریا ۱/۴۴۴، بدائع الصنائع قدیم ۱۰۸/۳، زکریا ۳/۱۷۲)

ورکنہ (الطلاق) لفظ مخصوص، ہو ماجعل دلالة علی معنی

الطلاق من صریح، أو کنایة. (شامی، کتاب الطلاق، کراچی ۳/۲۳۰، زکریا ۴/۴۳۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۲۶/۶/۱۶

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۲۶۲۱)

معاف کر دو کے جواب میں دیدی، کہنے کا حکم

سوال [۶۲۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو کسی بات پر مارا اور بہت مارا، ایک دن پہلے بھی ہم دونوں میں جھگڑا ہوا تھا، تو اس نے مجھ سے آزاد کرنے کو کہا تھا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی میرے دل میں یہ بات تھی، دوسرے دن پھر ہم دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا، تو وہاں پر دو تین آدمی بیٹھے تھے، میں نے ان کے سامنے پھر مارنے کا ارادہ کیا، لیکن ان لوگوں نے کہا، اس کو آزاد مت کرنا اور نہ ہی میرے دل میں یہ بات تھی، میں نے یہ بات مسجد میں بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں، لیکن لوگوں نے سمجھا کہ اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے، جیسے ہی میں نے اس کو مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا، تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور تین بار کہا کہ مجھ کو معافی دیدو، اب مت مارو

میرے منہ سے یہ بات نکلی کہ میں نے دی، یعنی معافی دی، لیکن لفظ معافی میرے منہ سے نہیں نکلا اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو تین بار یہ کہا تھا کہ میں نے دی، لیکن معافی کا ارادہ تھا اور لفظ زبان سے یہی نکلا۔

المستفتی: محمد مناظر حسین، ساکن موڈھا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی صورت میں جبکہ بیوی نے ان الفاظ سے معافی کا مطالبہ کیا کہ ”مجھے معاف کر دو“ اور شوہر نے اس کے جواب میں ”دیدئی“ کہا تو لفظ ”دیدئی“ کا تعلق معافی سے ہے، طلاق سے نہیں؛ اس لئے کہ آپسی جھگڑے میں طلاق کا تذکرہ نہیں معافی کا تذکرہ ہے، ایسی صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی اور نکاح بدستور باقی رہے گا، لیکن اس کا بات خیال رکھنا چاہئے کہ شوہر کے لئے اس ماردھاڑ کے ذریعہ بیوی پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔

عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره.
(مصنف عبد الرزاق، باب ضرب النساء والخدام، المحسن العلمي بيروت ۹/۴۴۲، رقم: ۱۷۹۴۴، روح المعاني، سورة النساء، تحت تفسير الآية: ۳۴، مطبوعه، زكريا ۴/۳۸)
كل لفظ لا يحتمل الطلاق لا يقع به الطلاق وإن نوى. (هندية، كتاب الطلاق،

الفصل الخامس في الكنايات، زكريا ۱/۳۷۶، جديد زكريا ۱/۴۴۴، بدائع الصنائع قديم

۱۰۸/۳، جديد زكريا ۳/۱۷۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۶/۵/۲۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۷۸۱۳)

زبان سے سلام کی جگہ طلاق نکل جائے تو کیا حکم؟

سوال [۶۲۲۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اپنی بیوی سے ”تجھے سلام، سلام، سلام“ کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے منہ سے ”تجھے طلاق، طلاق، طلاق“ نکل گیا، اس نے فقہ کی کتاب میں دیکھا، تو اس میں فقط قضاء واقع ہو رہی ہے، تو کیا اس کے لئے جائز ہے کہ وہ عدالت میں نہ جائے اور دیانۃً مطمئن ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کو رکھ لے، تو کیا عند اللہ قابل مواخذہ نہیں ہوگا؟

المسفتی: محمد عمران، لکھنؤ پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید کی زبان سے اپنی بیوی کو ”سلام، سلام، سلام“ کہتے ہوئے ”طلاق، طلاق، طلاق“ کا لفظ نکل گیا، تو دیانۃً طلاق نہ ہوگی، وہ اپنی بیوی کو دوبارہ بلا نکاح کے رکھ سکتا ہے، اس لئے کہ اس نے طلاق کا ارادہ نہیں کیا ہے اور طلاق صریح میں دیانۃً وقوع طلاق کے لئے نیت کا وجود ضروری ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۵/۱۶۹)

إن طلاق المخطی واقع قضاء لا دیانۃً، فظہر، لہذا أن الصریح لا یحتاج إليها قضاءً ویحتاج إليها دیانۃً. (الأشباه والنظائر قديم مطبوعه دیوبند ۱/۴۶،

جدید زکریا ۱/۹۲)

من أراد أن یقول: زینب طالق فجرى علی لسانہ عمرۃ ففی القضاء تطلق التي سمی وفيما بینہ وبين الله تعالى لا تطلق واحدة منهما.
(ہندیۃ، زکریا ۱/۳۵۳، جدید زکریا ۱/۴۲۰)

نیز دیانۃً عدم وقوع کا مطلب ہی یہی ہے کہ بیوی نکاح میں باقی ہے، اس کے رکھنے میں عند اللہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔

وفي التعريفات الفقهية: الديانة هي اسم لجميع ما يتعبد به لله تعالى

وعند الفقهاء هي والتنزه وما بينه وبين الله مترادفة. (التعريفات الفقهية مع قواعد الفقه، اشرفي ديوبند ص ۲۹۵)

وفي الشامية: تحت قوله المفتي يفتي بالديانة مثلاً إذا قال رجل قلت لزوجتي أنت طالق قاصد بذلك الإخبار كاذباً فإن بعدم الوقوع.

(شامی، کراچی ۵/۳۶۵، زکریا ۸۱/۳۹)

اور زید کو اس بات کی آگاہی دی جاتی ہے کہ مفتی سے اس طرح اگرچہ سوال کر کے فتویٰ لے لیا ہے، لیکن اگر واقعہ میں زید نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، تو زندگی بھر حرام کاری ہوگی اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱ھ/۶/۲۵

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۶۷۹۳۳۷)

”تجھے تو طلاق ہو جائے گی“ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے داماد نے میری بیٹی سے غصہ کی حالت میں یہ کہا کہ تجھے تو طلاق ہو جائے گی اور یہ کہہ کر لفظ طلاق تین سے زیادہ بار کہا، تو کیا اس طرح سے طلاق ہوگی؟ اس کے علاوہ بھی جب بھی وہ غصہ میں ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ تجھے تو طلاق ہو جائے گی یا طلاق ہوگی، وہ ہمیشہ ہوگی یا ہو جائے گی لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں کہا کہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، اسلام میں طلاق دینے کا جو طریقہ ہے، اس طرح کبھی نہیں کہا ہے، ان سب باتوں سے میری بیٹی کا دماغ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، وہ ڈرتی ہے کہ کہیں وہ اس گھر میں رہ کر گناہ تو نہیں کر رہی ہے؟

المستفتی: محمد جنید

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سائل سے زبانی بھی یہ معلوم ہوا کہ شوہر ہمیشہ یہ کہتا

رہتا ہے کہ تجھے طلاق ہو جائے گی یا تجھے طلاق ہوگی اور مذکورہ واقعہ کے بعد بھی اس نے بیوی سے یہی کہا کہ تجھے طلاق ہو جائے گی اور کبھی کوستا بھی رہتا ہے کہ یا اللہ اسے طلاق ہو جائے، تو اس طرح گفتگو کے درمیان جو اس نے کہا ہے کہ ”تجھے طلاق ہوگی ہی طلاق، طلاق، طلاق“

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق کے لفظوں کے بعد حکم استقبال کا لگے گا یا ماضی کا، چونکہ اس کی عادت استقبال کا حکم لگانے کی ہے اور اس واقعہ کے بعد بھی اس نے استقبال کا صیغہ استعمال کیا، اس لئے ان الفاظ کے بعد بھی حکم استقبال ہی کا ثابت ہوگا، جس میں اس کی نیت وقوع طلاق کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وعدہ طلاق کی ہوتی ہے، لہذا مذکورہ جملہ سے بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی۔

بخلاف کم لأنہا استقبال فلم یکن تحقیقاً بالتشکیک. وفي المحيط:
لو قال بالعربیة: أطلق لایكون طلاقاً. (ہندیہ، کتاب الطلاق، الفصل السابع في الطلاق، بالألفاظ الفارسیة، زکریا ۱/۳۸۴، جدید زکریا ۱/۴۵۲)
أو أنا أطلق نفسي لم يقع، لأنه وعد. (در مختار، زکریا ۴/۵۵۹، کراچی ۳/۳۱۹)

ولو قال: أطلقک لم يقع. (مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۱۴)
فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف-۶۶۶۳۵)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۶/۱۸ھ

بس اب تم ختم سمجھو، رشتہ ختم ہو جائے گا وغیر کہنے کا حکم

سوال [۶۲۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ (۱) پہلی بار مجھ سے ۱۶ جولائی کو فون پر میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ جس طرح سے چار آدمیوں کے سامنے رشتہ ہوا تھا، بالکل اسی طرح ختم بھی ہو سکتا ہے۔

(۲) اس نے دوسری بار ۳۰ جولائی کو مجھ سے اوکھلا ہڈ پر کہا ”بس اب تم ختم سمجھو“ اور سمجھ لینا کہ کوئی خواب دیکھا تھا، پھر اس نے کہا کہ اب تم ایک شرط پر میرے ساتھ رہ سکتی ہو کہ اب تم اپنی ماں کے گھر نہیں جاؤ گی۔

(۳) پھر اس نے مجھ سے گلینہ میں ۲۹ دسمبر کو کہا کہ ”اب اگر تم اس بار اپنی ماں کے گھر گئی تو ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا“ اور کہا تھا کہ بس اب بہت ہو چکا ہے، اب اگر اس رشتہ کو برقرار رکھنا چاہتی ہو، تو تم اب کبھی وہاں نہیں جاؤ گی۔

(۴) ۶ نومبر کو فون پر کہا تھا کہ ”اب تم اپنے کو علیحدہ سمجھو“ کیوں کہ میں بغیر اجازت اپنے میکہ آگئی تھی، جب میں نے ان سے پوچھا کہ میرا زیور کھو گیا ہے، تو جواب میں کہا کہ مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، مذکورہ بالا عبارات اور جملوں سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: حنا دختر صلاح الدین، دہلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں جتنے الفاظ نقل کئے گئے ہیں اور تاریخ وار جو واقعات پیش کئے ہیں وہ سب دھمکی کے لئے ہیں، ان سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اور ختم سمجھو اور علیحدہ سمجھو کے الفاظ کے بعد یہ کہنا کہ اب تم اس شرط کے ساتھ میرے ساتھ رہ سکتی ہو کہ ماں کے گھر نہیں جاؤ گی طلاق کی نیت نہ ہونے کی دلیل ہے، لہذا ان الفاظ سے کوئی طلاق ابھی تک

واقع نہیں ہوئی۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم جدید ۹/۳۵۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۸ ر شوال المکرم ۱۴۱۹ھ

۲۸/۱۰/۱۴۱۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۴/۵۹۰۸)

”طلاق دیدو“ کے جواب میں ہاں کہنے کا حکم

سوال [۶۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بیوی اور شوہر کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، اور بیوی شوہر کے گھر سے اپنے میکہ چلی گئی اور اس کے بعد اس کے شوہر نے اس کو لینے بھی بھیجا لیکن وہ نہیں آئی اور منع کر دیا اور اسی موقع پر کسی کہنے والے نے اس سے کہا کہ تو اپنے سسرال جائے گی یا نہیں؟ تو وہ بولی تھی کہ میں نہیں جاؤں گی، پھر اس کے بعد لڑکی کے باپ اور چچا اچانک لڑکے والے کے گھر آتے ہیں اور لڑکے سے کہتے ہیں کہ تم میری لڑکی کو چھوڑ دو، جب لڑکی والے گھر سے چھڑوانے یعنی طلاق لینے آئے تھے، تو لڑکی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ میری جدائی کرانے گئے ہیں اور جس وقت لڑکی کے گھر والے طلاق لینے آئے تھے، تو ان کے ساتھ گاؤں کے اور کئی لوگ مجلس میں موجود تھے، ان سب کے سامنے لڑکی کے گھر والوں نے کہا کہ تم میری لڑکی کو چھوڑ دو، اس پر لڑکا خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں کہا لیکن دوسرے لوگوں نے لڑکے سے کہا کہ ہاں کہہ دو، تو لڑکے نے ہاں کہہ دیا اور لڑکی والوں نے تین جگہ تین بار اس لڑکے سے کہا کہ تم میری لڑکی کو چھوڑ دو اور لڑکا اس بات پر خاموش رہا، تو دوسرے لوگوں نے اس سے ہاں کہلوا دیا، جس پر اس نے تین مرتبہ ہاں کہا ہے، تو کیا اس صورت میں لڑکی پر طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟

المستفتی: عین الدین، بڑا منورہ، متردیناچ پور (بنگال)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ بغور پڑھا گیا لڑکے سے ”طلاق دیدو“ اور چھوڑ دو کہنے کے جواب میں اس نے صرف ”ہاں“ کہہ دیا، اسی طرح دوسرے لوگوں کے ہاں کہنے کے حکم کرنے سے بھی اس نے صرف ”ہاں“ ہی کہا ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں

ہوئی، اس لئے کہ اس کو جو طلاق دینے کا حکم کیا گیا ہے، وہ صیغہٴ استقبال ہے، اس کے جواب میں لفظ ”ہاں“ بھی زیادہ سے زیادہ استقبال میں طلاق کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے اور ہاں کا دوسرا مطلب انکار بھی ہو سکتا ہے، اس لئے لفظ ہاں سے کوئی طلاق نہیں ہوئی، لہذا دونوں کے درمیان نکاح بدستور باقی ہے۔

ولو قالت: أنا طالق، فقال: نعم! طلقت ولو قاله في جواب طلقتي

لا تطلق، وإن نوى. (ہندیہ، کتاب الطلاق، الفصل الاول في طلاق الصريح، زکریا ۱/۳۵۶، جدید زکریا ۱/۲۴۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶ ربیع الاول ۱۴۲۹ھ

۱۴۲۹/۳/۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۵۱۳)

امی تم چاہتی ہو، تو میں طلاق دے دیتا ہوں سے طلاق

سوال [۶۲۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورتوں عورتوں میں لڑائیوں کی وجہ سے میری ماں نے مجھ سے شکایت کی کہ تمہاری بیوی کی وجہ سے میری ہر جگہ بے عزتی ہوتی ہے، تم اسے سمجھاتے نہیں ہو، تو میں نے کہا کہ میں اسے سمجھاتا ہوں، بہوؤں کے درمیان سمجھانا آپ کا کام ہے، اس پر میری ماں نے پھر کہا کہ اس کی وجہ سے میری ہر جگہ بے عزتی ہوتی ہے، اس پر میں نے کہا کہ اگر اس کی وجہ سے آپ کی بے عزتی ہوتی ہے، تو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اگر آپ چاہیں، پھر میں نے کہا کہ اگر ہر جگہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں اسے طلاق دیدیتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ اگر ہر جگہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں اسے طلاق دیدیتا ہوں، اس پر میری ماں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اسے سمجھاتے رہو۔ آپ سے درخواست ہے کہ شرعی حکم سے نوازیں۔

المستفتی: محمد اشفاق رحمت نگر کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں دوران گفتگو طلاق دینے کے جو الفاظ نقل کئے گئے ہیں، یہ سوال و جواب استقبالیہ نشان کے ساتھ ہے، تو اس نے ماں کے سامنے سوالیہ طور پر ماں کی چاہت پر معلق کر کے ”طلاق دیتا ہوں“ کہا اور ماں نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں چاہتی، تو یہ بات صاف واضح ہے کہ اگر ماں چاہے تو طلاق دینا ہے اور ماں کا نہ چاہنا اسی مجلس میں واضح ہو گیا ہے، اس لئے طلاق دے دیتا ہوں کے الفاظ صرف استقبال پر محمول اور ماں کی چاہت پر معلق ہیں، اس لئے مذکورہ شکل میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔

ولو قال: أطلقک لم يقع. (مجمع الأنهر قدیم ۳۸۷/۱، جدید دارالکتب

العلمیہ بیروت ۱۴/۲، ہندیہ، زکریا ۳۸۴/۱، جدید زکریا ۴۵۲/۱)

قال امرأته: أنت طالق إن شئت فذاک إليها مادامت فی مجلسها.

(ناتارخانہ، زکریا ۵۱۲/۴، رقم: ۶۷۹۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

ار جب المرجب ۱۴۲۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۸۸۷۹۳۸)

منظوری طلاق سے عدم طلاق کا ثبوت

سوال [۶۲۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ طلاق کے سلسلہ میں ایک شرعی مسئلہ قابل دریافت ہے، جس کی نوعیت حسب ذیل تحریر ہے، برائے کرم اس سلسلہ میں غور فرما کر جواب تحریر فرمائیں مشکور ہوں گا۔

فرض کیجئے زید کی خدیجہ سے شادی ہوئی، کچھ عرصہ خدیجہ اپنے شوہر زید کے گھر رہی، نا قابل برداشت حالات کے پیش نظر خدیجہ نے فیصلہ کیا کہ میرا نبھاؤ شوہر کے ساتھ نہ ہو سکے گا اور وہ اپنی ماں کے گھر چلی آئی اور خلع کے لئے شوہر سے کوشش کرتی رہی، اس میں کامیاب نہ

ہونے پر سرکاری عدالت سے رجوع کرنا پڑا اور شوہر کی عدم حاضری کی بنا پر سرکاری عدالت نے عورت کے حق میں ایک طرفہ ڈگری دیدی، اس درمیان شوہر نے ایک معزز ہستی کی معرفت یہ خواہش ظاہر کی کہ ایک بار اس کی اپنی بیوی سے علیحدگی میں بات کرادی جائے، اگر وہ، میرے ساتھ رہنے پر مطمئن نہ ہوئی تو میں بات چیت کے بعد طلاق دے کر آزاد کردوں گا، چنانچہ جو صاحب درمیان میں پڑے تھے، انہوں نے خدیجہ کے والد کے ذریعہ زید کو اپنی بیوی سے علیحدگی میں بات کرنے کا انتظام کر دیا اور بات چیت کرادی، شوہر بیوی کو مطمئن اور راضی نہیں کر سکا اور شوہر یعنی مذکورہ زید نے ان ثالث صاحب کے سامنے اقرار کیا کہ بیوی مجھ سے مطمئن نہیں ہوئی اور میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے، پھر شوہر سے سوال کیا گیا کہ جیسا کہ آپ نے اس ملاقات سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں ان کو مطمئن نہ کر سکا تو میں ملاقات کے بعد طلاق دیدوں گا، تو اب آپ کو علیحدگی یعنی طلاق منظور ہے؟

جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ہاں مجھ کو منظور ہے اور بیوی کے والد سے پوچھا کہ آپ کو بھی منظور ہے؟ والد نے بھی کہا کہ جی ہاں مجھ کو منظور ہے اور مزید لڑکی سے بھی معلوم کر لیتا ہوں، چنانچہ لڑکی سے بھی والد نے معلوم کیا اور لڑکی نے بھی کہا کہ مجھے بھی منظور ہے، اس کے بعد مذکورہ ثالث صاحب کے ذریعہ یہ بھی طے ہو گیا کہ سامان کی واپسی کس طرح ہوگی؟ اور یہ بھی طے ہو گیا کہ دونوں کی جو ایک شیرخوار بچی ہے، وہ ماں کے پاس رہے گی، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ ایک تحریری درخواست لکھ کر اگلے دن سرکاری عدالت میں دونوں کے دستخط ہو کر داخل کرادی جائے گی کہ ہم دونوں کے معاملات طے ہو گئے اور علیحدگی ہو گئی ہے تاکہ قانونی چھٹکارا بھی ہو سکے، یہاں تک اگلے دن صبح کو لڑکی کے والد کے مکان پر زید آئے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں آپ کے وکیل صاحب کے پاس پہنچ رہا ہوں، آپ بھی وہاں آجائیں اور درخواست لکھوا کر دونوں کے دستخط ہو کر عدالت میں داخل کرادی جائیں یہ کہہ کر وہ گئے۔ مسودہ وکیل صاحب سے لکھوایا اور یہ کہہ کر کہ اپنے وکیل کو بھی ذرا دکھا دوں، ابھی

واپس آ کر دستخط کر دوں گا، پھر واپس نہیں آئے اور کچھ دنوں کے بعد پھر قانونی کارروائی چالو کر دی، اس ساری تفصیل کی روشنی میں جناب سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ایسی صورت میں جبکہ انہوں نے طلاق منظور کر لی تھی، دو معزز گواہوں کی موجودگی میں بعد میں چاہے وہ منحرف ہوئے ہوں اپنے اقرار سے یا اپنے وکیل کے مشورہ پر قانون سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو۔ (۱) بہر حال ایسی صورت میں جب زبانی طلاق انہوں نے دو گواہوں کے سامنے منظور کر لی تھی، صرف دستخط نہیں ہو سکے تھے، شرعی طور پر طلاق ہوگئی یا نہیں؟

(۲) شرعی حیثیت سے زبانی اقرار کے بعد دستخط کی تکمیل ضروری اور اقرار کا جز ہے یا نہیں؟ جیسا کہ نکاح کے وقت دو گواہوں کے سامنے زبانی اقرار یا منظوری ضروری ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جناب اس مسئلہ پر غور فرما کر شرعی فتویٰ تحریر فرما کر مشکور کریں گے۔

المستفتی: احقر وصی اللہ، محلہ قدوائی نگر، ہلدوانی، نینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) شوہر بیوی، بیوی کے والد کا طلاق کی منظوری کا اظہار انشاء طلاق کو مثبت نہیں ہے، بلکہ تینوں کا طلاق پر رضامندی کا اظہار ہے، اور محض رضا سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اس لئے مذکورہ الفاظ سے شرعاً طلاق واقع نہیں ہوئی ہے اور وکیل سے جو مسودہ لکھوایا ہے، اس وقت اگر شوہر نے اپنی زبان سے طلاق کا تلفظ نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس پر پڑھ کر یا سن کر دستخط کیا ہے، تو اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔

(۲) مذکورہ صورت میں طلاق دے چکنے کا اقرار نہیں ہے، بلکہ دینے کا وعدہ ہے اور محض وعدہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔

أنا أطلق نفسي لم يقع، لأنه وعد. (در مختار، کتاب الطلاق، باب تفيوض

لوقال: أطلقک لم يقع. (مجمع الأنهر، دارالکتاب العلمیة بیروت ۲/ ۱۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ شوال المکرم ۱۴۰۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۵/۱۴۳۲)

حکایت طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوتی

سوال [۶۲۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر زید اپنی بیوی ہندہ سے یوں کہے عورت چاہے جتنا بھی کہتی رہے کہ میں نے تم کو طلاق دی، تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر بکرنے یہ کہہ دیا کہ تجھے طلاق اور یہ الفاظ تین مرتبہ کہے، تو بکری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، تو اب معلوم یہ کرنا ہے کہ زید کے ان الفاظ کے کہنے سے ہندہ کو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ مدلل بیان فرمائیں۔

المستفتی: معشوق علی خاں، موضع کہنیا، شاہجاہاں پور (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس حکایت سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

کما فی الہندیۃ: حکمی یمین رجل فلما بلغ إلی ذکر الطلاق خطر ببالہ لامرأته (إلی قولہ) وإن لم ینو شیاً لا یقع، لأنہ محمول علی الحکایۃ.

(کتاب الطلاق، فصل فیمن یقع طلاقہ، وفیمن لا یقع طلاقہ، زکریا ۱/ ۳۵۳، جدید زکریا ۱/ ۴۲۰)

أو کتب ناقلاً من کتاب: امرأتی طالق مع التلفظ، أو حکمی یمین

غیرہ، فإنہ لا یقع أصلاً ما لم یقصد زوجته. (شامی، کراچی ۳/ ۲۵۰،

زکریا ۴/ ۶۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ شعبان المعظم ۱۴۰۷ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۲۱۵)

مسئلہ بتانے کی غرض سے لفظ طلاق کہنے کا حکم

سوال [۶۲۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی نے کسی بات پر کہا مجھے چھوڑ دو (مزا قاً) زید خاموش رہا اور کچھ جواب نہ دیا، زید کی بیوی کے دل میں یہ نہیں تھا، کہ وہ مجھے طلاق دیں گے، پھر زید نے ایک قلم اٹھایا جو نہیں چلتا تھا، روشنائی نہیں تھی، اس قلم سے اس نے ایسے ہی کاغذ پر گھس کر کہا یہ لو، تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ منہ سے کہو، تو طلاق، ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق، تو زید نے محض بتانے کی غرض سے کہا طلاق ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق؟ طلاق ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق لاکھوں مرتبہ صرف کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی، اگر مجھے طلاق دینی ہوتی، تو میں کہتا کہ تم کو یا تجھے لگا کر کہتا اور اس کی بیوی بھی کہتی ہے، مجھے یہ لفظ طلاق محض بتانے کی غرض سے کہا ہے، تو کیا اس لفظ طلاق سے طلاق واقع ہو جائے گی؟

المستفتی: عمر احمد، کالاجھار، کٹھی کوٹہ، دمکا (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بیوی کے مزا قاً طلاق کا مطالبہ کرنے کے وقت شوہر نے مسئلہ بتانے کی غرض سے طلاق ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے اس کا مقصد بیوی کو طلاق دینا نہیں ہے، تو اس کی بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی، اگر تو وزن منی یک طلاق، دو طلاق، سہ طلاق۔

قومی و اخراجی من عندی و هو یزعم أنه لم یرد به الطلاق فالقول لقولہ ، قال : قال شیخ الإمام ابو اللیث لانه لم یصف الطلاق إلى المرأة ولم یذكر الإیفاع . (فتاویٰ تاتارخانیہ، زکریا ۴/۹۱، رقم: ۶۵۷۵)

وفي الشامية: أن الصريح لا يحتاج إلى النية؛ ولكن لا بد في وقوعه

قضاءً وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالماً بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله. (شامی، کراچی ۳/۲۵۰، زکریا ۴/۴۶۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳/رجب المرجب ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۶۸۱۰)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۷/۲۴ھ

دوران درس استاد کا اعتدی، استبرئی، کے تذکرہ کے وقت دل میں طلاق کا تصور کرنا

سوال [۶۲۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے غائبانہ اعتدی، استبرئی وغیرہ وغیرہ لفظ کہا اور یہ محض تلفظ تھا، مگر ان الفاظ کیساتھ ساتھ اپنی غائب بیوی کا تصور کیا، تو کیا اس تصور سے نسبت کا تحقق ہو سکے گا؟

(۲) زید مدرس نے بچوں کو کنائی کے انواع ثلاثہ کو بتلاتے ہوئے کہا کہ اول یہ ہے کہ جو محتمل الرد والسبب ہو اور وہ اعتدی، واستبرئی وغیرہ وغیرہ ہے اور ان کے احصاء کے وقت اپنی بیوی غائبہ کی جانب نسبت کا تصور کرے، تو نسبت کا تصور ہوگا، اگر ہوگا تو ارادہ کے وقت کتنی طلاق واقع ہوں گی؟

المستفتی: التقات احمد اعظمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۲/۱) استاد کے اعتدی، استبرئی کے تذکرہ کے وقت طلاق کے محض دل میں تصور کر لینے سے بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی، جیسا کہ خود سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد نے بیوی پر طلاق دینے کی نیت سے اس کو نہیں کہا، بلکہ طلباء کو سمجھانے کے لئے کہا ہے۔

لا بد من القصد بالخطاب بلفظ الطلاق عالماً بمعناه، أو النسبة إلى الغائبة كما يفيد فروع؛ هو أنه لو كرر مسائل الطلاق بحضور زوجته،

ویقول: أنت طالق ولا ینوی طلاقاً لا تطلق. (فتح القدير، کتاب الطلاق، باب في إيقاع الطلاق، کوئٹہ ۳/۳۵۱، زکریا ۴/۴، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۵۸، ۲۵۹، زکریا ۳/۴۵۱)

أما الكناهي فلا يقع به الطلاق إلا مع النية. (الموسوعة الفقهية ۲۹/۲۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۱/۲۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۳۶/۹۰۶)

کیا طلاق کے مسائل کے تکرار سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟

سوال [۲۲۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کو تین طلاق دیتا ہوں، کیا طلاق پڑ جائے گی، پھر میں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو تین طلاق دیتا ہوں، اس کے بعد ایک دو دفعہ یہ لفظ استعمال کیا ہو کہ کیا طلاق پڑ جاوے گی؟ اور دل میں یہ بھی کہا کہ طلاق نہیں پڑے گی، پھر میں نے دل میں یہ سوچا کہ اگر آدمی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو کہیں یہ طلاق بھی واقع تو نہیں ہوگی اتنا جملہ میں نے سوچا ہے۔

اور یہ ساری باتیں بلا نیت ثواب وغیر اختیاری طور پر حالت سفر و تنہائی ٹرین میں پیش آئی تو حالات مذکورہ کی وجہ سے ذہن میں تشویش بڑھنے کے سبب بندہ نے حضرات مفتیان کرام کی جانب رجوع کیا، لہذا استفتاء کا جواب واضح اور صاف مطلوب ہے۔

المستفتی: محمد رفیق اڑیسہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہ محض خیالات ہیں اگر اس طرح کی باتیں تنہائی کی حالت

میں زبان سے بھی نکل جائیں تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لئے کہ یہ مسائل طلاق کے سمجھے سمجھانے اور تکرار کے درجہ میں ہیں، اس کی وجہ سے شبہات میں نہ پڑیں۔

لو کور مسائل الطلاق بحضرتہا، ویقول: فی کل مرة أنت طالق لم يقع.

(الأشباہ والنظائر قدیم مطبع دیوبند ص ۴۵، جدید زکریا ۱/۱۹۱)

لو کور مسائل الطلاق بحضرة زوجته، ویقول أنت طالق، ولا ینوی

لا تطلق. (البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۵۸، زکریا ۳/۴۵۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۶ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

۱۶/۴/۱۴۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۳/۵۲۴)

انشاء اللہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی کہنے کا حکم

سوال [۶۲۳۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو اس طرح سے طلاق دی ہے، طلاق کے الفاظ ہیں انشاء اللہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، چار بار یہ الفاظ کہے ہیں، اور ایک ہی سانس میں کہے ہیں۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ میری بیوی پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اور اگر ہوئی تو کونسی؟

المستفتی: اکبر حسین، سرجن نگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سائل اپنے بیان میں سچا ہے اور انشاء اللہ متصل کہنا

ہے، تو سوال نامہ میں درج شدہ صورت میں مفتی بہ قول میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، زن و شوہر کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۶/۲۶، جدید زکریا ۶/۸۶، جدید

زکریا مطول ۸/۳۳۵)

عن ابن عباسؓ قال: من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه: أنت حر إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطلاق، باب الاستثناء في الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت ۲۷۲/۱۱، رقم: ۱۵۰۹)

لو قال: إن شاء الله أنت طالق لا تطلق في قول أبي يوسف و تطلق في قول محمد و الفتوى على قول أبي يوسف الخ. (البحر الرائق، كتاب الطلاق، بلب التعليق، كوثنه ۳۹/۴، زكريا ۶۵/۴، مجمع الأنهر قديم ۱/۲۶، ۴، جليد دارالكتب العلمية بيروت ۷۰/۲-۷۱)

و في الهداية: وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاً لم يقع الطلاق. (هداية، اشرفي ديوبند ۳۸۹/۲، هكذا في العالمگیریة، زكريا ۱/۴۵۴، جديد زكريا ۱/۵۲۰) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ جمادی الثانیہ ۱۴۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۶/۲۳)

”طلاق، طلاق، طلاق ان شاء اللہ“ کہنے کا حکم

سوال [۶۲۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں شاہد حسین نے اپنی بیوی سے جھگڑے کے دوران یہ کہا ”طلاق، طلاق، طلاق انشاء اللہ“ تین بار یہ الفاظ کہے، کیا ان الفاظ سے بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ شرعی حکم سے مطلع فرمائیں۔

المستفتی: شاہد حسین، سہوارہ، بجنور (پوٹی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب طلاق کے ساتھ انشاء اللہ کہا جاتا ہے، تو طلاق واقع

نہیں ہوتی ہے؛ اس لئے مذکورہ صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔

عن ابن عباسؓ قال: من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه: أنت حر إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله، فلا شيء عليه. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطلاق، باب الاستثناء في الطلاق، دارالفکر بیروت ۲۷۲/۱۱، رقم: ۱۵۰۹)

إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاً به لم يقع الطلاق. (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الرابع في الاستثناء، زکریا ۱/۴۵۴، جلدید زکریا ۱/۵۲۰، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۸۹)

لو قال: إن شاء الله أنت طالق لا تطلق في قول أبي يوسف و تطلق في قول محمد، والفتوى على قول أبي يوسف. (البحر الرائق، کوئٹہ ۴/۳۹، زکریا ۴/۶۵) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴/۱۲/۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۶۵۱/۲۷)

طلاق کی نسبت بیوی کی طرف نہ ہو تو؟

سوال [۶۲۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بچی کا عقیدہ کیا، اس تقریب سے فراغت کے بعد لڑکے کی ماں نے اپنے بیٹے سے خرچ کے بارے میں تنازع کیا، پس لڑکا غصہ میں آکر گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، تو لڑکے کے احباب نے اس کو روک لیا، اس پر لڑکے نے ”طلاق، طلاق، طلاق“ بول دیا؛ جبکہ لڑکے کی بیوی موقع پر موجود نہ تھی؛ بلکہ دوسرے کمرے میں تھی اور نہ ہی لڑکے کا بیوی سے کسی قسم کا اختلاف ہو اور نہ کوئی ناراضگی اور نہ ہی بیوی کو ماں بیٹے کی لڑائی کا علم ہے، آیا

صورت مذکورہ میں بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ جبکہ لڑکا معلوم کرنے پر یہ بھی کہتا ہے کہ بیوی کا تو میرے ذہن میں خیال تک نہیں تھا۔

المستفتی: محمد حماد عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مذکورہ میں اگر شوہر قسم کھا کر کہے کہ مذکورہ الفاظ بولتے ہوئے میں نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ نہ کیا تھا، تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی، کیونکہ یہاں طلاق کی نسبت بیوی کی طرف نہیں ہے، جو وقوع طلاق کے لئے شرط ہے۔ (مستفاد: کفایت المفتی، زکریا ۵۴/۶، جدید زکریا مطول ۱۹۰/۸ محمودیہ ڈاؤن لوڈ ۲۷/۱۲، فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۱۰۱/۱۸)

لو قال: إن خرجت يقع الطلاق أو لا تخرجني إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق، فخرجت لم يقع لتركه الإضافة إليها—فإنها الشرط والخطاب من الإضافة المعنوية، وكذا الإشارة نحو هذه طالق، وكذا نحو امرأتي طالق و زينب طالق. (شامي، كتاب الطلاق، باب الصريح، زكريا ۴/۴۵۸، كراچي ۳/۲۴۸)

ويؤيده ما في البحر لو قال: امرأة طالق، أو قال: طلقت امرأة ثلاثاً، وقال: لم أعن امرأتى يصدق. (شامي، زكريا ۴/۴۵۸، كراچي ۳/۲۴۸)

رجل قال: امرأة طالق، أو قال: طلقت امرأة ثلاثاً، وقال: لم أعن به امرأتى يصدق. (فتاویٰ قاضی خاں علی ہامش الہندیۃ، زکریا ۱/۶۵، قاضی خاں جدید زکریا ۱/۲۸۲، کذا فی الفتاویٰ التاتاریخانیۃ، زکریا ۴/۴۲۱، رقم: ۶۵۷۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲/ جمادی الاالیٰ ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۵۲۵)

بیوی کی طرف نسبت کئے بغیر لفظ طلاق کہنا

سوال [۶۲۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے لکھی عبارت طلاق یا زبانی بغیر نسبت کے تلفظ کیا اور ڈر گیا کہ اب تو واقع ہوگئی، جس کے نتیجے میں خود سے کہا کہ میں نے واقع طلاق سے رجوع کیا، تو کیا اس قول سے طلاق واقع ہوگئی؟

المستفتی: الثقات احمد اعظمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب زید نے لفظ طلاق لکھا یا زبان سے تلفظ کیا اور اس وقت اس کی کوئی نیت نہیں تھی، جیسا کہ سوال سے معلوم ہوتا ہے، تو اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی اور بعد کے الفاظ محض وسوسہ ہیں، کیونکہ اس نے طلاق کی نیت نہیں کی اور مزید ایسا لگتا ہے کہ زید شکی آدمی ہے، اسے ہر طرح کے شک کے مرض کو دور کرنے کی کوشش اور مشق کرنی چاہئے۔

لو کرر مسائل الطلاق بحضرتہا، أو کتب ناقلاً من کتاب: امرأتی طالق مع التلفظ، أو حکمی یمین غیرہ، فإنہ لا یقع أصلاً ما لم یقصد زوجته. (شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/ ۶۱، کراچی ۳/ ۲۵۰)

فإن وجدت قرینة تدل علی عدم قصدہ الطلاق صدق قضاء، ولم یقع بہ علیہ طلاق. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۹/ ۲۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۱۲/۳۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۶/ ۹۰۰۷)

بیوی کو طلاق لکھ کر دینے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک پرچہ میں طلاق کے الفاظ بگاڑ کر لکھے، بیوی کو ڈرانے دھمکانے کے لئے طلاق دینے کا ارادہ بالکل نہیں تھا، جو پرچہ میں نے لکھا تھا، وہ بھی منسلک ہے، شرعی حکم سے مطلع فرمائیں کہ طلاق ہوئی یا نہیں؟ الفاظ اس طرح لکھے تھے ”طریق، طلع..... یہ الفاظ کاغذ میں بیوی کی عدم موجودگی میں لکھے، پھر بیوی کو دیا اور فوراً اس سے لے لیا تھا۔

المستفتی: الطاف الرحمن، بھٹی محلہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب طلاق کا پرچہ لکھ کر کسی دوسرے کے ہاتھ سے بیوی کو نہیں دیا، بلکہ خود لکھ کر خود ہی اپنے ہاتھ سے بیوی کو دے کر واپس لے لیا، اور زبان سے کوئی جملہ اس بارے میں نہیں کہا، حالانکہ زبان سے طلاق کا تلفظ نکالنے میں کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہیں تھی، تو ایسی صورت میں صرف لکھ کر بیوی کو دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی؛ لہذا مذکورہ صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۳/۲۷۰، جدید ڈابھیل ۱۲/۳۹۶)

إن المعنون من الناطق الحاضر غیر معتبر۔ (شامی، کتاب النخنی، کراچی

۶/۷۳۷، زکریا، ۱/۶۱۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲/۲۰۲۰ھ

۱۱/۱۲/۲۰۲۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۳۲۷۶۳)

بیوی کی طرف اضافت کئے بغیر طلاق دینا

سوال [۶۲۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ ہم اپنے سر کے بھانجے حبیب بھائی کے گھر موجود تھے، ہمارے سر ساس او رحیب بھائی کے ایک دوست جاوید بھی تھے، جاوید نے مجھ سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، ورنہ بند کرا دیں گے، اس وقت بیوی بھی وہاں آگئی، تو میں نے جاوید بھائی کو مخاطب کر کے کہا آپ کو آزاد کیا، تین مرتبہ کہا، اور بیوی کو طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ اب تک ہے، تو کیا اس سے طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: مسعود گلشید، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: وقوع طلاق کے لئے صراحتاً یا دلالتاً بیوی کی طرف اضافت ضروری ہے اور سوال نامہ سے ظاہر ہے کہ آپ نے بیوی کا نام نہیں لیا ہے اور اپنے لفظ ”آپ کو آزاد کیا“ سے آپ نے بیوی کو مخاطب بھی نہیں بنایا ہے؛ اس لئے مذکورہ الفاظ سے کسی بھی اعتبار سے بیوی کی طرف اضافت نہیں ہے، بلکہ دباؤ ڈالنے والے کو مخاطب کر کے اپنے کو بچا لیا ہے، اس سے کسی قسم کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، لہذا انکاح بدستور باقی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۹۹۹ء، کفایت المفتی قدیم ۶/۴۲، جدید، ذکر یا ۶/۵۸، جدید زکریا مطول ۶۳۸)

والمفہوم من تعلیل الشارح تبعاً للبحر عدم الوقوع أصلاً لفقد شرط الإضافة- إلى قوله - لو قال: امرأة طالق، أو قال: طلقت امرأة ثلاثاً، وقال لم أعن امرأتي يصدق. (شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۳/۲۴۸، زکریا ۴/۵۸، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۵۳، زکریا ۳/۲۴۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۶/۲۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۹/۳۶)

بیوی کی طرف اضافت کے بغیر زبان سے طلاق، طلاق، کہنے کا حکم

سوال [۶۲۴۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید محض خیالی طور پر اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے اور سوچتے سوچتے اس کی زبان سے فقط لفظ ”طلاق، طلاق، طلاق“ نکل گیا، حالانکہ نہ اس کی بیوی موجود ہے اور نہ ہی کوئی طلاق کا ارادہ و نیت، اور لفظ طلاق تجھے یا میری بیوی کو یا ان جیسے تمام الفاظ سے خالی ہے اور بیوی سے معاملات بھی خوشگوار ہیں، اس صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

المسئتی: محمد عمران، لکھنؤ پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: محض خیالی اور بلا قصد و ارادہ کے الفاظ طلاق نکل جائیں خصوصاً جبکہ بیوی کی جانب اضافت و نسبت بھی نہ ہو، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ نیز طلاق کے اندر بیوی کی جانب صراحت یا دلالت اضافت و نسبت شرط اور ضروری ہے؛ لہذا مسئلہ صورت میں زید کی زبان سے خیالی طور پر بلا اضافت الفاظ طلاق نکلنے سے کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۲۱/۶، جدید زکریا ۳۲/۶، جدید زکریا مطول ۱۶۰/۸ فتاویٰ محمودیہ قدیم ۶۲/۸، جدید میرٹھ ۴۰۷/۱۸، فتاویٰ دارالعلوم ۱۹۸۷-۱۹۹)۔

ولکن لا بد أن يقصدها باللفظ. (الأشباه قدیم ۴۵، جدید زکریا ۹۱/۱)
لا يقع من غير إضافة إليها. (شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح،
کراچی ۲۷۳/۳، زکریا ۴۹۳/۴)

ومنها الإضافة إلى المرأة في صريح الطلاق حتى لو أضاف الزوج
صريح الطلاق إلى نفسه بأن قال: أنا منك طالق لا يقع. (بدائع الصنائع،

زکریا ۳/۲۲، ہکذا فی البحر، زکریا ۳/۴۴۲، کوئٹہ ۳/۵۳، بزازیہ علی الہندیہ،
زکریا ۴/۱۷۱، مکتبہ زکریا جدید ۱/۱۲، تاتارخانیہ، قدیم ۳/۲۷۹، جدید
زکریا ۴/۱۹، رقم: ۶۵۷۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۶/۱۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۵۹۶۷)

محض جدارہنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا اور سوکن کا الگ مکان کا مطالبہ کرنا

سوال [۶۲۴۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے شوہر کے نکاح میں دو بیویاں ہیں، پہلی بیوی خالہ زاد بہن تھی، وہ کچھ دنوں ساتھ رہی، پھر بعض الزامات لگا کر میکہ چلی گئی تھی، تقریباً تیرہ سال میکہ میں رہی، اس درمیان میرے شوہر نے مجھ سے نکاح کیا، میں دس سال سے ساتھ رہ رہی تھی، اب میرے شوہر کی والدہ یعنی میری ساس پہلی بیوی کو لے آئیں، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا میری مرضی اور اجازت کے بغیر پہلی بیوی کو میرے شوہر رکھ سکتے ہیں؟ میں ان کی پہلی بیوی کے ساتھ ہرگز رہنا نہیں چاہتی، کیا ان کا نکاح پہلی بیوی سے باقی ہے؟ جبکہ تیرہ سال شوہر سے الگ رہی ہے؟

(۲) کیا میں اپنے شوہر سے الگ رہائش اور مکان کا مطالبہ کر سکتی ہوں؟ جبکہ میرے شوہر صاحب حیثیت ہیں الگ رہائش کا انتظام کر سکتے ہیں؟ شرعی حکم تحریر فرمادیں۔

المستفتیہ: نعیمہ زوجہ محمد عظمت، اصالت پورہ، مراد آباد (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) اگر آپ کے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے، تو اس کے ۱۳ سال کی لمبی مدت تک میکہ میں رہنے کے باوجود نکاح ختم نہیں ہوا؛ بلکہ

اس کا نکاح بدستور باقی ہے؛ لہذا اگر آپ کے شوہر اس کو رکھنا چاہیں، تو شرعاً آپ کی اجازت ضروری نہیں ہے، آپ کی مرضی کے بغیر بھی وہ اپنی پہلی بیوی کو ساتھ میں رکھ سکتے ہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۱/۱۷۸، ۱۲/۲۵۱، جدید ڈائجسٹ ۱۱/۶۸، ۱۳/۱۹۱)

فَانِكْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. [النساء: ۳]
 وصح نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحر لا أكثر. (در مختار مع الشامی، کتاب النکاح، کراچی ۳/۷۴۸، زکریا ۴/۱۳۸)
 وركنه لفظ مخصوص خال عن الاستثناء وتحتة في الشامية: هو
 ماجعل دلالة على معنى الطلاق من صريح، أو كناية. (در مختار مع الشامی، کراچی ۳/۲۳۰، زکریا ۴/۴۳۱)

لأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع وبملثه لا يثبت حكم الطلاق فيه. (هداية، اشرفي ديوبند ۲/۴۰۲)

(۲) جب آپ اپنی سوکن کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہیں اور آپ کے شوہر صاحب حیثیت بھی ہیں، تو آپ کو شرعاً اپنے شوہر سے الگ مکان اور رہائش کے مطالبہ کرنے کا حق ہے، شوہر پر لازم ہے کہ وہ آپ کے لئے پہلی بیوی سے الگ مکان کا انتظام کریں یا پہلی بیوی کے لئے آپ سے الگ انتظام کریں اور اگر سرمایہ دار نہیں ہیں، ایک ہی مکان ہے، تو آپ کے شوہر پر لازم ہے کہ اسی مکان کو دو حصہ کر کے آپ کا کمرہ رہائش اور چولہا بالکل الگ کر دیں اور آپ کی سوکن کا کمرہ رہائش اور چولہا بالکل جداگانہ کر دیں اور پھر دونوں کو خرچہ بلا تفریق برابر کر کے دیا کریں، کھانے کی اشیاء کپڑا لے ضرورت کی چیزیں سب دونوں کو برابر دیا کریں، اگر وہ اس طریقہ سے برابری کا معاملہ کرتے ہیں، تو نہ آپ کو کوئی اعتراض کرنے کا حق ہوگا اور نہ ہی آپ کی سوکن کو۔

يشترط أن لا يكون في الدار أحد من أحماء الزوج يؤذيها، نقل المصنف عن الملتقط، كفايته مع الأحماء لا مع الضرائر، فلعل من زوجته

مطالبته بیت من دار علی حدة وتحتہ فی الشامیة: و فرق فی الملتقط
لصدر الإسلام بین ما إذا جمع بین امرأتین فی دار وأسکن کلا فی بیت له
غلق علی حدة لكل منهما أن تطالب ببیت فی دار علی حدة؛ لأنه لا یوفر
علی کل منهما حقها إلا إذا کان لها دار علی حدة بخلاف المرأة مع
الأحماء، فإن المنافرة فی الضرائر أوفر. (در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق،
باب النفقة، کراچی ۳/۶۰۰، ۶۰۱، زکریا ۵/۳۲۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۹/۶/۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ جمادی الثانیہ ۱۴۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۶۳۶۲۳۸)

کیا شوہر کے گھر نہ جا کر میکہ میں رہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟

سوال [۶۲۴۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ میری بہن کی شادی مارچ ۱۹۸۱ء میں ہوئی تھی، مگر جون ۱۹۸۲ء سے وہ اپنے
والدین کے پاس ہی رہ رہی ہے؛ کیونکہ شوہر نے گھر سے نکال دیا تھا، تب سے دونوں فریق
نے حالات سنبھالنے کی کوشش کی، مگر بہن کے شوہر کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے معاملہ سلجھ نہ سکا،
تب سے وہ اپنے والدین کے گھر پر ہی ہے، اس دوران نہ تو اس کی اپنے شوہر سے ملاقات
ہوئی، نہ ہی کوئی جسمانی تعلق ہوا ابھی بھی وہ اپنے والدین کے گھر پر ہی ہے، اس وقفہ میں
بہن کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، تو کیا ان حالات میں میری بہن کو طلاق ہو چکی یا نہیں؟

المسئتی: کھیل انور کسرول، دیوان خانہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، تو پوری عمر بھی یوں ہی
بیٹھی رہے گی، تو بھی طلاق نہ ہوگی۔

ورکنہ (أي الطلاق) لفظ مخصوص، هو ما جعل دلالة علی معنی

الطلاق من صریح، أو كناية. (شامی، كتاب الطلاق، مطلب في طلاق الدور، كراچی ۳/۲۳۰، زکریا/۴۳۱)

لأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع وبملته لا يثبت حكم الطلاق فيه. (هدایة، اشرفی دیوبند ۲/۲۰۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴/۲۸/۲۰۱۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ شعبان المعظم ۱۴۱۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۹۲۶۲۳)

زیادہ عرصہ تک الگ رہنے کی بناء پر طلاق کا حکم

سوال [۶۲۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ۷ سال پہلے میرے اور میری بیوی کے بیچ کچھ غلط فہمی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، اور میری بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی، دو بچے ایک لڑکا اور ایک لڑکی میرے پاس رہے، اس دوران کبھی کبھی میں اپنے بچوں سے ملنے مراد آباد جاتا رہتا تھا، تب بیوی سے بات چیت ہو جاتی تھی، میں نے ناراضگی کے بعد اپنے بچاؤ میں عدالتی نوٹس بھی دیئے دوران مقدمہ بیوی کے بھائیوں نے فیصلہ کے طور پر مجھ سے ۷۰۰ روپے لے لئے، یہ سب کام کچھری میں ہوا، مگر میں نے کبھی بھی اپنی زبان سے طلاق کے تین بول نہیں بولے۔

اب ہمارے بچے ماشاء اللہ جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو کیا دوبارہ ایک ساتھ گھر بسا کر رہ سکتے ہیں؟

المستفتی: نعیم شمس، بلاس پور، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر زبان سے کوئی طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا اور نہ ہی نوٹس میں طلاق کے الفاظ لکھے ہیں، تو ایسی صورت میں بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اور محض زیادہ عرصہ تک الگ رہنے کی وجہ سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا؛ لہذا مسائل کے بیان کے

مطابق دونوں کا نکاح بدستور باقی ہے؛ اس لئے دونوں کا ساتھ رہنا بلا تردید جائز ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۴۸۱/۷)

فإذا نوى التلغظ بالطلاق، ثم لم يتلفظ به لم يقع بالاتفاق لانعدام اللفظ أصلاً. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۳/۲۹)

لأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع وبملمثه لا يثبت حكم الطلاق فيه. (هداية، اشرفي ديوبند ۴۰۲/۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۹ رجب المرجب ۱۴۲۳ھ

۱۴۲۳/۷/۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۸۱۲۵/۳۷)

مسلسل پانچ سال تک شوہر سے علیحدگی کی بناء پر طلاق کا حکم

سوال [۶۲۳۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے ۵ سال قبل شادی کی تھی، میری بیوی دو تین دفعہ آئی، ایک ہفتہ ساتھ رہی، پھر اس کے والدین نے اسے روک لیا، اب میرے پاس آنے نہیں دیتے، میں نے اس درمیان اس کا نفقہ نہیں دیا اور نہ ابھی تک مہر دیا ہے، اور طلاق بھی نہیں دی ہے، پانچ سال بیوی کو علیحدہ رہتے ہوئے ہو گئے، تو کیا بغیر طلاق دیئے طلاق ہوگئی یا نہیں؟ اور ایسے حالات میں جبکہ میری بیوی میرے پاس نہیں آتی میری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا مہر نان و نفقہ نہ دینے کی وجہ سے مجھ سے آخرت میں باز پرس ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: نسیم احمد، چاند پوری، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسلسل پانچ سال تک شوہر سے الگ رہنے کی وجہ سے بیوی پر طلاق نہیں ہوتی۔ نیز اگر پوری زندگی شوہر سے الگ رہے گی، تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، بدستور وہ عورت اپنے شوہر کے نکاح میں باقی رہے گی، اور جب تک خود طلاق نہ

دے، اس وقت تک شریعت میں طلاق واقع نہیں ہوتی اور لوگوں کا اس بات کو شہرت دینا کہ طلاق ہوگئی ہے ناجائز اور گناہ کا ارتکاب ہے، اس طرح شہرت دینے والے لوگوں کو اپنے گناہ سے توبہ کرنا چاہئے اور شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا اپنے میکہ میں پڑے رہنا نافرمانی ہے، ایسی عورت گنہگار ہوگی اور ایسے حالات میں جبکہ شوہر کی مرضی کے بغیر میکہ میں پڑی رہے نان نفقہ دینا شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہے، جب شوہر کے گھر میں آکر رہنے لگے تب نان نفقہ دینا اور اس کے حقوق ادا کرنا شوہر پر لازم ہو جائے گا اور مہر ایک شرعی ذمہ داری ہے، وہ شوہر پر بہر حال لازم ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۷/۴۸۱)

عن ابن عباسؓ قال:..... فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال:..... إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وتحتة في الحاشية: كناية عن الجماع أي إنما يملك الطلاق من يملك الجماع. (سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد، النسخة الهندية ۱۵۱، دارالسلام رقم: ۲۰۸۱)

لأن الطلاق لا يقع من النساء. (شامي، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر، كراچی ۳/۱۹۰، زکریا ۴/۳۶۱)

عن ثوبانؓ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرم الله عليها أن تريح الجنة. (مستدرک حاکم، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز بیروت ۲/۲۱۸، رقم: ۲۸۰۹، السنن الکبریٰ للبیہقی، قدیم ۳۱۶/۷، جدید، دارالفکر بیروت ۱۸۴/۱۱، رقم: ۱۵۲۳۰)

لا نفقة لخارجة من بيته بغير حق وهي الناشئة حتى تعود. (در مختار مع الشامی، کراچی ۳/۵۷۹، زکریا ۵/۲۸۶)

ويتأكد (المهر) عند وطء، أو خلوة صحت من الزوج، أو موت أحدهما. (در مختار مع شامی، کراچی ۳/۱۰۲، زکریا ۴/۲۳۳) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲ھ/۶/۱۵

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۸۰۹۰۳۷)

کیا بیوی سے پانچ سال تک دور رہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟

سوال [۶۲۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی ۱۹۸۴ء میں ہوئی اور ایک سال تک اس کے پاس رہی، ایک سال بعد اس کو یعنی ہندہ کو میکہ میں پہنچا کر آگیا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں پانچ ماہ بعد اس سے ایک لڑکی بھی ہو گئی ہے اور زید نہ ہندہ کو خرچ دیتا ہے اور نہ لے کر جاتا ہے، پانچ سال ہو گئے، اس صورت میں طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں

المستفتی: محمد صدیق، موضع بہتی کلاں، تحصیل حسن پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شوہر سے پانچ سال تک الگ رہنے کی وجہ سے بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی طلاق واقع ہونے کے لئے شوہر کا الفاظ طلاق استعمال کرنا یا شرعی تفریق لازم ہے؛ اس لئے مذکورہ صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔

الطلاق لغة رفع القيد..... وشرعاً رفع قيد النكاح في الحال
بالبائن، أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص، وهو ما اشتمل على الطلاق.

(الدر المختار، كتاب الطلاق، كراچی ۳/۲۲۶، ۲۲۷، زکریا ۴/۴۲۳، ۴۲۴)

أما تفسيره شرعاً فهو رفع قيد النكاح حالاً أو مآلاً بلفظ مخصوص.

(ہندیہ، زکریا ۱/۳۴۸، جدید زکریا ۱/۵۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۱ھ

۱۴۱۱/۵/۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۶۲۱۱)

گیارہ سال تک بیوی سے قطع تعلق کی بناء پر طلاق کا حکم

سوال [۶۲۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص اور اس کی زوجہ کے درمیان نا اتفاقی ہوئی اور نوبت طلاق ہو جانے تک آگئی، مگر طلاق دی نہیں گئی، مگر اس شخص نے اپنی زوجہ سے تعلق منقطع کر لیا، اور کسی بھی طرح کا کوئی تعلق اپنی زوجہ سے نہیں رکھا، یہاں اس امر کا اظہار بھی ضروری ہے کہ زوجہ اپنے شوہر ہی کے گھر میں ہے، مگر شوہر اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں ہے اور اسی طرح عرصہ گیارہ سال کا گذر گیا اور اس درمیان شوہر کئی مرتبہ طلاق دینے کا ارادہ بھی کر چکا ہے۔ مندرجہ بالا حالات کی صورت میں کیا نکاح قائم ہے؟

المستفتی: افضل حسین، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپس کے جھگڑے اور ناراضگی کی وجہ سے گیارہ سال تک بیوی سے بول چال نہ ہونے اور ہمسرت نہ ہونے سے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں کا نکاح اپنی جگہ بدستور باقی ہے؛ لہذا اگر دونوں ایک ساتھ رہنا چاہیں تو ساتھ رہنا بلا تردد جائز ہے اور بیوی کے لئے دوسری جگہ نکاح کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔

لأن الامتناع عن قربانہا فی اکثر المدۃ بلا مانع وبملثہ لا یشیت حکم الطلاق فیہ. (ہدایۃ، کتاب الطلاق، باب الایلاء، اشرفی دیوبند ۲/۴۰۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ شوال المکرم ۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۷۴۷۸۵)

نامردگی کی بناء پر علیحدگی سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ میں نے اپنی لڑکی کا عقد کاشی پور کے ایک نوجوان لڑکے کے ہمراہ ۷ جنوری ۲۰۱۰ء بروز جمعرات کیا تھا اور یہ دونوں خوشی بہ خوشی چند دن رہے، مگر بعد میں دونوں کے درمیان ان بن ہو گئی اور دونوں علیحدہ ہونے کے لئے بھند ہو گئے، سبب اس کا یہ پتہ چلا کہ لڑکا مردانگی کے حساب سے بالکل فیل ہے، اور وہ سہاگ رات کو بھی ہمبستری نہ کر سکا، بقول لڑکی، لڑکی سے کسی طرح کا سیکس کا سلسلہ نہ کر سکا۔ آپ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لڑکی پر عدت واجب ہوتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: منور علی خاں، مغل پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں ذکر کردہ شکل میں شوہر کی مراد نہ کنزوری کی بنا پر خود بخود علاحدگی نہیں ہوتی؛ بلکہ شوہر جب تک باضابطہ طور پر طلاق نہیں دے گا، اس وقت تک شرعاً ان کے درمیان علیحدگی نہیں ہوگی اور شوہر کے طلاق دینے کے بعد عورت کو دوسری جگہ نکاح کرنے کے لئے عدت گزارنا بھی لازم ہے۔ بغیر عدت گزارے عورت کا دوسری جگہ نکاح کرنا درست نہ ہوگا۔

ورکنہ (أي الطلاق) لفظ مخصوص، هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح، أو كناية. (شامي، كتاب الطلاق، باب طلاق الدور، کراچی ۳/۲۳۰، زکریا ۴/۴۳۱)

ولها كمال المهر إن خلابها، فإن خلوة العينين صحيحة، ويجب العدة. (فتح القدير، کوئٹہ ۴/۱۳۰، زکریا ۴/۲۷۰)

وبنفس الانقطاع في الحيضة الثالثة يبطل الرجعة (إلى قوله) ويجوز لها، أن تتزوج بآخر إن كان قد طلقها. (هندية، زکریا ۱/۵۲۸، جدید زکریا ۱/۵۸۱)

لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة سواء كانت

العدة عن طلاق. (ہندیہ زکریا ۱/۲۸۰، جدید زکریا ۱/۳۴۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۳/۱۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف: ۹۹۲۸/۳۸)

”آئندہ بھانجی کے رشتہ سے ملے گا، ہم جملوں کا استعمال کریں گے“ کہنا

سوال [۶۲۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ کو میکہ جاتے وقت غصہ میں اپنی ماں سے ہندہ کے متعلق یہ کہا کہ ”آئندہ بھانجی کے رشتہ سے ملے گا“ اور ہندہ رشتہ میں زید کی ماں کی بھانجی لگتی ہے، اسی طرح زید نے ہندہ سے کہا کہ اگر تم نے کسی کو بھی فون کیا، تو ”ہم جملوں کا استعمال کریں گے“ تو مندرجہ جملوں سے کوئی طلاق واقع ہوئی؟ مدلل جواب مرحمت فرمادیں۔
نوٹ: یہ تفصیلی استفتاء کا ما حاصل ہے۔

المستفتی: محمد ظفر عالم، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ”آئندہ بھانجی کے رشتہ سے ملے گا“ کے الفاظ اسی طرح اگر تم نے کسی کو بھی فون کیا، تو ”ہم جملوں کا استعمال کریں گے“ کے الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی دونوں کے درمیان نکاح بدستور باقی ہے؛ اس لئے کہ یہ دونوں قسم کے الفاظ نہ کنائی میں سے ہیں نہ صریح میں سے۔

رکنہ أى الطلاق لفظ مخصوص، هو ما جعل دلالة على معنى

الطلاق من صريح، أو كناية. (شامی مع الدر المختار، کراچی ۳/۲۳۰، ہندیہ،

زکریا ۴/۳۴۸، جدید زکریا ۱/۴۱۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۶/۲/۱۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ صفر المظفر ۱۴۲۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف: ۱۱۸۹۹/۳۱)

”تیری طلاق سے راضی ہوں“ کہنے کا حکم

سوال [۶۲۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میاں بیوی کے درمیان ٹوک جھونک اور تکرار کے دوران شوہر نے یہ کہہ دیا کہ تیری طلاق سے راضی ہوں، تو اس لفظ سے شرعاً کوئی طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ واضح فرمادیں۔

المستفتی: محمد مہتاب

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپس میں ٹوک جھونک اور تکرار کے دوران شوہر نے جو یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ میں ”تیری طلاق سے راضی ہوں“ اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، یہ صرف دھونس اور ڈرانے پر محمول ہے؛ اس لئے نکاح بدستور باقی ہے۔

ولو قال: هویت طلاقک، رضیت طلاقک، أحببت طلاقک، لا تطلق، وإن نوى. (الفتاویٰ الثنا تارخانیة، کتاب الطلاق، الفصل الرابع فیما یرجع الی صریح الطلاق ۴/۴۰۹، رقم: ۶۵۴۹)

ولو قال: أحببت طلاقک، أو رضیت طلاقک، أو أردت طلاقک لا تطلق وإن نوى. (الفتاویٰ الہندیة، زکریا جدید ۱/۴۲۶، قدیم ۳۵۹/۱ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۶ھ/۵/۱۷

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۴۰۳۹/۴۱)



(۱۱) باب وعد الطلاق

صیغہ استقبال سے طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۲۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نوید اختر بیوی سے لڑائی اور تکرار کے دوران دھمکی کے طور پر کئی بار ”طلاق دیدوں گا“ کے الفاظ ادا کئے، میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، صرف دھمکی کے طور پر کہا تھا۔ اب بیوی تقریباً ساڑھے تین ماہ سے میکہ میں ہے اور فتویٰ طلب کرتی ہے۔ حضرت والا تحریر فرمائیں کیا بیوی کو ان الفاظ سے طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: نوید اختر، پیراماؤنٹ کالونی، لودھی پور، کنواں، دہلی روڈ، مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق دوں گا اور طلاق دے دوں گا کے الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور مذکورہ صورت میں شوہر اور بیوی دونوں کے بیان میں طلاق دیدوں گا کے الفاظ ہیں: اس لئے طلاق واقع نہیں ہوئی، نکاح بدستور باقی ہے۔

ولو قال: أطلقك لم يقع. (الدر الممتقی، کتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق،

قدیم ۱/۳۸۷، دارالکتب العملیۃ بیروت جدید ۲/۱۴)

لو قال بالعربیة: أطلق لا یكون طلاقاً. (ہندیۃ، زکریا

۱/۳۸۴، کتاب الطلاق، الفصل السابع فی الطلاق بالألفاظ الفارسیۃ، جدید زکریا

۱/۵۲۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ صفحہ المظفر ۱۳۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۸۲۶۱۳۷)

صیغہ حال سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی اپنے شوہر کی غلط حرکتوں اور نان نفقہ کی عدم ادائیگی اور دین و اسلام سے قطعی طور پر نا آشنا ہونے اور ناحق مطالبات کرنے کی وجہ سے طلاق لینا چاہتی ہے، اور لڑکی تقریباً چھ سال سے اپنے ماں باپ کے ساتھ میکہ میں رہ رہی ہے اور اس سلسلہ میں مقدمہ بھی چل رہا ہے اور لڑکا اپنی زبان سے کچھری میں اور دیگر جگہوں پر لڑکی سے بارہا ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔

(۱) میں ابھی طلاق دیتا ہوں، بس ابھی طلاق دیتا ہوں۔

(۲) مجھ کو تو بس تین بول بولنے ہیں، بس ابھی طلاق دیتا ہوں۔

(۳) میں ابھی منہ کالا کرتا ہوں اور ان الفاظ کا استعمال بیسیوں دفعہ کر چکا ہے، تو کیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد یوسف، علی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں طلاق سے متعلق جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ سب استقبال کے لئے ہیں اور صیغہ مستقبل سے طلاق واقع نہیں ہوتی؛ اس لئے ان الفاظ سے مذکورہ واقعہ میں طلاق واقع نہیں ہوئی؛ لہذا نکاح بدستور باقی ہے۔

ولو قال: أطلقك لم يقع إلا إذا غلب. (الدر المنقحی، كتاب الطلاق،

باب إيقاع الطلاق قديم ۱/۳۸۷، جدید دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۱۴)

بخلاف کنم؛ لأنه استقبال فلم یکن تحقیقاً بالتشکیک..... لو قال

بالربیة: أطلق لا یكون طلاقاً. (هندیہ، زکریا ۱/۳۸۴، کتاب الطلاق، الفصل السابع

في الطلاق بالألفاظ الفارسية، جدید زکریا ۱/۵۲ (۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ شعبان المعظم ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۷/۸۱۴۸)

طلاق دے دوں گا سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی نے اپنی بیوی کی طلاق کے متعلق اپنی مادری زبان میں ایسا لفظ استعمال کیا، جو کہ آئندہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے، یعنی اگر ایسا ہوا، تو تجھے طلاق دیدوں گا۔ نیز کسی نے اپنی بیوی سے ایسی شرط کیسا تھ یوں کہا کہ ابھی تجھے مارنا ہے، اگر کسی نے تجھے چھڑایا تو طلاق ہے، مگر اس وقت اس نے بیوی کو مارا ہی نہیں کچھ دنوں کے بعد مارا جب کسی نے چھڑایا، کیا ان دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہوگی؟

المستفتی: محمد عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق دیدوں گا کے لفظ سے طلاق نہ ہوگی، اگرچہ شرط بھی پائی جائے؛ کیونکہ یہ ایقاع طلاق نہیں؛ بلکہ وعدہ طلاق ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۰/۴۳۱-۵۱)

أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنه وعد. (شامي، كتاب الطلاق، باب تهويض الطلاق،

کراچی ۳/۳۱۹، زکریا ۴/۵۰۹)

بخلاف كنم؛ لأنه استقبال فلم يكن تحقيقاً بالتشكيك..... لو قال

بالعربية: أطلق لا يكون طلاقاً. (هندية، زکریا ۱/۳۸۴، كتاب الطلاق، الفصل السابع

في الطلاق بالألفاظ الفارسية، جدید زکریا ۱/۵۲ (۴)

اسی طرح تجھے ابھی مارنا ہے سے طلاق نہیں ہوتی؛ کیونکہ ابھی مارنے کی شرط لگائی تھی اور شرط نہیں پائی گئی۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم، ۳۹/۱۰)

إذا وجد الشرط يقع الطلاق وإلا فلا. (بدائع الصنائع، زکریا ۳/۲۰۰)
ولو قال: أطلقك لم يقع. (سکب الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۴/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۹/۱۱/۲۰۲۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹ محرم الحرام ۱۴۴۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۲/۶۲۵)

تجھے طلاق دیدوں گا کے الفاظ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے طلاق دیدوں گا، اس صورت میں طلاق ہوگی یا نہیں؟ یہ الفاظ بولنے سے وہ اس کی بیوی رہی یا نہیں؟

المستفتی: دلشاد حسین، ملک گوہر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید کا اپنی بیوی سے تجھے طلاق دیدوں گا کہنے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی؛ اس لئے کہ ”تجھے طلاق دیدوں گا“ کہہ کر ہمارے عرف میں مستقبل ہی مراد لیا جاتا ہے نہ کہ حال؛ اس لئے مذکورہ صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی، بیوی بدستور شوہر کے نکاح میں باقی ہے۔

بخلاف کنم؛ لأنه استقبال فلم یکن تحقیقاً بالتشکیک. وفي المحيط لو قال بالعربية: أطلقك لا یكون طلاقاً إلا إذا غلب استعماله للحال، فيكون طلاقاً. (عالمگیری، کتاب الطلاق، الفصل السابع في الطلاق

بالألفاظ الفارسیة، زکریا ۱/۳۸۴، جدید زکریا ۱/۴۵۲)

أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنه وعد. (در مختار، کراچی ۳/۱۹، ۳۱۹)

زکریا/۴/۵۵۹)

لو قال: أطلقك لم يقع. (سکب الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۴، ۱)

فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸/رجب المرجب ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۷۸۱۲۳)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۷/۱۹ھ

طلاق دیدوں گا کے الفاظ سے طلاق کا حکم

سوال [۲۲۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں محمد پرویز عالم اپنی بیوی کو سات آٹھ مرتبہ غصے سے یہ کہہ چکا ہوں کہ میں تجھے طلاق دیدوں گا، شک و شبہ کی بناء پر، مگر میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے طلاق دیدی اس بارے میں مفتیان کیا فرماتے ہیں کہ میں اب اپنی بیوی کو گھر رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اور میرے پانچ بچے ہیں، ان میں بڑی لڑکی ۴۱ سال کی دوسری لڑکی ۱۲ سال کی، تیسری لڑکی ۹ سال کی اور ایک لڑکا سات سال کا، دوسرا لڑکا چھ مہینے کا، یہ سب باتیں مد نظر رکھتے ہوئے، اس کا فتویٰ چاہتے ہیں۔

نوٹ: میں شبانم پروین میرے شوہر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، یہی کہا کہ میں دے دوں گا۔

المستفتی: محمد پرویز دستخط شبانم پروین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق دے دوں گا کے لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اور جب میاں بیوی دونوں اس بیان میں متفق ہیں کہ شوہر نے صرف یہ کہا تھا کہ طلاق

دے دوں گا اور دیدی کا لفظ نہیں کہا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی؛ لہذا دونوں بدستور میاں بیوی والی زندگی گزار سکتے ہیں۔

بخلاف قولہ ”کنم؛ لأنه استقبال فلم یکن تحقیقاً بالتشکیک .
وفي المحيط: لو قال بالعربية أطلق لایكون طلاقاً . (ہندیہ، کتاب الطلاق،

الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية، زکریا ۱/۳۸۴، جدید زکریا ۴۵۲۱)
لو قال: أطلقک لم يقع. (سکب الأنهر، دارالکتب العلمیہ
بیروت ۱۴/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳۰ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۷۳/۸۳۳۳)

بیوی سے محض تجھ کو طلاق دیدوں گا کہنا

سوال [۲۲۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ انیس احمد کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوتا دیکھ کر محلہ کے کئی لوگ وہاں آہونچے، بات بڑھ کر یہاں تک آہونچی کہ انیس احمد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے باپ کے گھر چلی جا ورنہ میں تجھے طلاق دیدوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ کہا کہ اپنے باپ کے گھر چلی جا ورنہ میں تجھے طلاق دیدوں گا، تیسری بار ۱۵ منٹ کے بعد کہا، اس موقع پر چار آدمی موجود تھے، جن کا نام درج ذیل ہے۔

۱. مناخاں ۲. مشرف حسین ۳. ذاکر حسین ۴. محمد گلغام۔ ان چار آدمیوں کی موجودگی میں سارا واقعہ پیش آیا ہے، اس مسئلہ کے بارے میں علماء کرام سے درخواست ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

نوٹ: یہی بیان لڑکی کا بھی ہے، لڑکی کے بھی مذکورہ چار گواہ ہیں۔

المستفتی: محمد انیس

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: انیس احمد کا اپنی بیوی سے صرف یہ کہنا کہ تجھ کو طلاق دیدوں گا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے؛ لہذا انیس احمد کی بیوی پر ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوئی۔

بخلاف قولہ کنم؛ لأنه استقبال فلم یکن تحقیقاً بالتشکیک .
وفي المحيط: لو قال بالعربية: أطلق لایكون طلاقاً إلا إذا غلب استعماله
للحال، فيكون طلاقاً. (عالمگیری، کتاب الطلاق، الفصل السابع في الطلاق
بالألفاظ الفارسیة، زکریا ۱/۳۸۴، جدید زکریا ۴۵۲۱)

وَأنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنه وعد. (الدر المختار مع الشامی،
کراچی ۳/۳۱۹، زکریا ۴/۵۵۹)

لو قال: أطلقک لم يقع. (سکب الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۱۴)
فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸/ربیع الثانی ۱۳۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۷/۸۳۱۹)

طلاق دیدوں گا کے الفاظ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سلیم احمد اپنی بیوی شہناز کو ساتھ لے کر شادی میں شرکت کے لئے سسرال گئے ہوئے تھے، وہاں سلیم احمد کے سارے کلو سے کسی بات پر ناراضگی ہوگئی، سلیم احمد نے اپنی بیوی سے کہا اپنے گھر چلو شہناز جانے سے انکار کر رہی تھی، اس پر سلیم احمد نے کہا کہ تو اگر نہیں جائے گی، تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، یہ کہہ کر سلیم احمد اپنے گھر آ گئے، شہناز کے میکے میں یہ

بات پھیل گئی کہ سلیم نے طلاق دے دی ہے۔ دوسرے دن صبح میں سلیم احمد کے بڑے بھائی نے دس آدمیوں کو ساتھ لے کر سلیم احمد کو سسرال بھیجا، وہاں معلوم کیا تو سلیم کی بیوی شہناز اور ایک گواہ نے بھی کہا کہ طلاق دے دی ہے؛ جبکہ سلیم احمد خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، صرف میں نے یہ کہا تھا کہ اگر تو نہیں جائے گی تو میں طلاق دیدوں گا، شہناز اپنے میکے میں ہے، اس کے میکے والے شہناز کو نہیں بھیج رہے ہیں؛ لہذا درخواست ہے کہ اس مسئلہ کو واضح کریں کہ طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: سلیم احمد، مقام بھنسیا، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر واقعی یہی بات ہے کہ شوہر نے صرف یہی کہا تھا کہ میں تجھے طلاق دیدوں گا، تو یہ وعدہ طلاق ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، ایسی صورت میں نکاح بدستور باقی رہے گا۔

لو قال: أطلقك لم يقع. (سکب الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۱/۴۲)
 بخلاف كنم؛ لأنه استقبال فلم یکن تحقیقاً بالتشکیك..... لو قال
 بالعریة: أطلق لا یكون طلاقاً. (هندیة، زکریا ۱/۳۸۴، کتاب الطلاق، الفصل السابع
 فی الطلاق بالألفاظ الفارسیة، جدید زکریا ۱/۴۵۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۲۶/۵/۲۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۶ھ
 (فتویٰ نمبر: الف: ۸۸۱۴/۳۷)

انور میاں کو بلاؤ، ہم طلاق دیں گے کہنے کا حکم

سوال [۶۲۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد جمال کی شادی بیوی بدر النساء سے ہوئی ہے۔

(۱) محمد جمال نے لڑائی جھگڑے کے درمیان میں اپنی بیوی بدر النساء کو کہا کہ اپنے باپ انور میاں کو بلاؤ ہم طلاق دیں گے۔

(۲) جب انور میاں نے گاؤں کے بچوں کو بلایا اور دریافت کیا، تو لڑکے جمال نے بتایا کہ انور میاں کو بلاؤ ہم طلاق دیں گے کہا ہے۔ لڑکی کا بیان گاؤں اور بچوں کے سامنے یہ ہے کہ لڑکی بدر النساء نے پوچھنے پر یہ بتایا کہ انور کی بیٹی کو تینوں طلاق انور کی بیٹی کو تینوں طلاق۔

(۳) جب گواہ رو بینہ بیوی سے پوچھا، جو اس کی مامی ہے، تو اس نے بتایا انور کی بیٹی کو تینوں طلاق۔

(۴) گواہ ابراہیم نے بتایا کہ انور کی بیٹی کو تینوں طلاق، ایک بار یہ گواہ ابراہیم جب کہ دو سو گز کی دوری پر نروا کا چاک لگا رہا تھا، اتنی دوری سے اس نے سنا۔

(۵) گواہ راجید نے بتایا کہ انور کو بلاؤ ہم تینوں طلاق دے دینگے، یہ گواہ غیر مسلم ہے۔ اب اس میں کیا ہوا طلاق ہوئی یا نہیں؟ آپ جواب صاف صاف کر کے جلد سے جلد دیں۔

المستفتی: حافظ محمد منیر الدین، پوسٹ: کھٹائی، وایا: پنگاوارا، بھگل پور (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: غیر مسلم راجید کی شہادت مردود اور غیر مقبول ہے، رو بینہ اور ابراہیم سے نصاب شہادت پورا نہیں ہوا ہے اور نصاب شہادت دو عادل مرد ہوں یا ایک عادل مرد اور دو عورتیں ہوں؛ اس لئے ان کی شہادت بھی مقبول نہیں، شوہر مستقبل کا صیغہ بتلا رہا ہے اور عورت ماضی کا صیغہ۔ اور صیغہ استقبال سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور عورت کے پاس دو شرعی گواہ نہیں ہیں؛ اس لئے مذکورہ صورت میں قضاء طلاق واقع نہیں ہوئی۔

لو قال: أطلقك لم يقع. (ملتنقی الأبحر، کتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق،

قدیم ۳۸۷/۱، جدید دار الکتب العلمیہ بیروت ۱/۲۴)

قال الله تعالى: **وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ**

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. [البقرہ: ۲۸۲]

وماسویٰ ذلک من الحقوق یقبل فیها شہادۃ رجلین، اور جل،
وامرأتین سواء کان الحق مالاً، أو غیر مال مثل النکاح، والطلاق. (ہدایۃ،
کتاب الشہادۃ، اشرفی دیوبند ۳/۱۵۴)

ونصابها لغيرها من الحقوق سواء کان الحق مالاً، أو غیرہ،
رجلان، اور جل وامرأتان. (درمختار، کراچی ۵/۴۶۵، زکریا ۸/۱۷۸)
فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳/ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۴/۷۲۵)

تیرا معاملہ صاف کر دوں گا سے عدم وقوع طلاق

سوال [۲۲۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ میں نے اپنے ہوش وحواس میں اپنی بیوی کو پہلے یہ کہا کہ میں تیرا معاملہ صاف
کر دوں گا، پھر دو مرتبہ طلاق دیدی، اس کے فوراً بعد میں باہر چلا گیا، ایک بچہ دودھ پی رہا ہے
دس مہینے کا، اور روہینہ کا کچھ اور ارادہ ہے۔

المستفتی: سرتاج حسین، مغلپورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تیرا معاملہ صاف کر دوں گا کے لفظ سے کوئی طلاق واقع
نہیں ہوئی اور بعد میں جب دو مرتبہ طلاق دیدی ہے، تو اس سے دو طلاق رجعی واقع ہو چکی
ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے رکھنے کی گنجائش ہے۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا. لقولہ أنت طالق، أنت طالق. (درمختار،

کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۳/۲۵۲)

رجل قال: لامرأته بعد الدخول بها، أنت طالق طالق تقع ثنتان.
(الفتاوى التاتارخانية، زكريا ۴/ ۲۹، رقم: ۶۵۹۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۴ ربیع الاول ۱۴۱۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۲/۳۵۷)

”میں تجھے طلاق دے دوں گا“ سے طلاق

سوال [۲۲۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی خانہ آبادی دسمبر ۸۵ء کو ہوئی تھی، نکاح کے تین یا چار ماہ بعد ہی میں اپنی زوجہ صابرہ خاتون کے آبائی مکان میں رہنے لگا، ازدواجی زندگی کی پندرہ سالہ زندگی میں معمولی نوک جھونک کے علاوہ کشیدگی نہیں ہوئی، میری بڑی سالی عارفہ خاتون جو دو مرتبہ کی طلاق شدہ ہے اور اب کسی کے نکاح میں نہیں ہے، اپنی زندگی اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ گزار رہی ہے، عورتوں والی فطرت کی بنیاد پر جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اس مرتبہ بھی عارفہ بیگم کئی مرتبہ کئی ماہ سے مقیم ہے، اور کئی مرتبہ ہم دونوں کے درمیان جھگڑا اور ناچاکی کی باعینتی رہی، اسی درمیان ۱۸ دسمبر ۲۰۰۰ء کو دوپہر میں جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ نہایت غصہ میں جھلا کر اور یہ کہہ کر کہ ”میں تجھ سے عاجز اور پریشان ہو گیا، میں تجھے طلاق دیدوں گا اور میں نے کاغذ قلم کا پرس دیکر کہا کہ تجھے جو لکھنا ہے لکھ میں دستخط کروں گا، اسی کے ساتھ میں اپنے چند کپڑے و ضروری سامان لے کر مراد آباد چلا آیا۔ اب میرے ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے فتویٰ جاری کریں۔

المستفتی: آصف علی، محلہ سرائے، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صرف طلاق دیدوں گا کہنے سے کوئی طلاق واقع نہیں

ہوئی اور بیوی کو کاغذ قلم کا پرس دیکر یہ کہنا کہ جو لکھنا ہو لکھ لے، اگر اس پر بیوی نے کچھ نہیں لکھا ہے، تو اس سے کوئی طلاق ثابت نہ ہوگی؛ لہذا مذکورہ صورت میں نکاح میں کوئی فرق نہیں آیا، دونوں بدستور میاں بیوی ہیں۔

لو قال: أطلقک لم يقع. (الدر المستفی، کتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق

قدیم ۳۸۷/۱، جدید دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴/۲)

بخلاف کنم؛ لأنه استقبال فلم یکن تحقیقاً بالتشکیک..... لو قال

بالعربیة: أطلق لا یكون طلاقاً. (هندیہ، زکریا ۳۸۴/۱، کتاب الطلاق، الفصل السابع

فی الطلاق بالألفاظ الفارسیة، جدید زکریا ۴۵۲/۱)

أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنه وعد. (در مختار مع الشامی، کراچی ۳۱۹/۳،

زکریا ۵۵۹/۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۱/۱۰/۲۴

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۴ ریشوال المکرم ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۵/۷۹۱)

”میں تجھے طلاق دیدوں گا“ کہنا

سوال [۶۲۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ محمد عرفان کا اپنی بیوی شائستہ پروین سے کسی بات پر جھگڑا ہوا، عرفان نے اپنی بیوی

سے کہا کہ ”میں تجھے طلاق دیدوں گا“ پھر لڑکی کا بھائی آیا اور اپنی بہن کو لے گیا، پھر لڑکی نے

گھر جا کر یہ کہا کہ شوہر نے مجھے طلاق دیدی ہے، جھگڑے کے دوران محمد احسان موجود

تھے، ان کا بیان بھی یہی ہے کہ ”طلاق دیدوں گا“ کہا تھا۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ مذکورہ لفظ

سے طلاق ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: شہزادے، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جھگڑے کے دوران ہو یا کسی دوسری حالت میں بیوی کو صرف اتنا کہنا کہ ”میں طلاق دیدوں گا“ تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی اور سوال نامہ میں جو بات واضح کی گئی ہے کہ شوہر نے صرف طلاق دیدوں گا کہا اور وہاں موجود محمد احسان کا بیان بھی یہی ہے کہ شوہر نے صرف طلاق دیدوں گا کہا ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کا میکہ جا کر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ شوہر نے مجھے طلاق دیدی؛ بلکہ وہ بدستور شوہر کے نکاح میں باقی ہے۔

ولو قال: أطلقك لم يقع. (سکب الأنهر، قدیم ۱/۳۸۷، جدید

دارالکتب العلمیۃ بیروت ۲/۱۴)

بخلاف کمن؛ لأنه استقبال فلم یکن تحقیقاً بالتشکیک..... لو قال

بالعربیۃ: أطلق لایکون طلاقاً. (ہندیۃ، کتاب الطلاق، الفصل السابع فی الطلاق بالالفاظ الفارسیۃ، زکریا قدیم ۱/۳۸۴، زکریا جدید ۱/۴۵۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ جمادی الثانیہ ۱۴۲۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸۹۰۳۹)

طلاق دیدوں گا کہنے کا حکم

سوال [۶۲۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دلشاد احمد ولد سردار احمد کان کی اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا اور دلشاد احمد نے غصہ میں اپنی بیوی سے کچھ کچھ الفاظ کہ دیئے، گھر میں دلشادان کی بیوی دلشاد کے والد اور محمد عمر تھے، شوہر دلشاد کا کہتا ہے کہ دو مرتبہ یہ الفاظ کہے کہ ”طلاق دیدوں گا، طلاق دیدوں گا“ سردار احمد (شوہر کے والد) کا بھی یہی بیان ہے، محمد عمر کہتے ہیں کہ دلشاد نے دوبارہ یہ الفاظ کہے ”طلاق

دی، طلاق دی، بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر (دلشاد) نے اول یہ کہا کہ تجھے آزاد کر دوں گا اور پھر کئی بار کہا ”طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“ اب اس صورت میں سوال یہ ہے کہ اب ان میں سے کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اور شرعاً کیا حکم ہوگا؟ آیا عورت کو طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کون سی طلاق ہوگی؟

المستفتی: ماسٹر رئیس الدین، محلہ سرانے پختہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر شوہر اور اس کے والد کا بیان صحیح ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی؛ کیونکہ مستقبل کے الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

ولو قال: أطلقك لم يقع. (الدر المنتقى في شرح ملتقى الأبحر،

كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق قديم ۳۸۷/۱، جدید دارالکتب العلمیة بیروت ۱۴/۲، ہندیہ، زکریا ۳۸۴/۱، جدید زکریا ۴۵۲/۱)

عورت کا بیان ثابت کرنے کے لئے دو عادل گواہوں کا ہونا لازم ہے، صرف محمد عمر ایک آدمی کی شہادت سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا؛ لہذا عورت کے پاس دو عادل شاہد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔

قال الله تعالى: **وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ**

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. [البقرہ: ۲۸۲]

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها رجلان (إلى قوله) مثل

النكاح والعتاق والطلاق. (الجواهر النيرة، كتاب الشهادة، امدايه ملتان

۳۲۶/۲، دارالکتب دیوبند ۳۰۹/۲، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۱۵۴/۳، البحر الرائق،

کوئٹہ ۶۲/۷، زکریا ۱۰۴/۷، درمختار مع الشامی، کراچی ۴۶۵/۵،

زکریا ۱۷۸/۸، ہندیہ، زکریا ۴۵۱/۳، جدید زکریا ۳۸۸/۳)

البتہ اگر عورت نے یقینی طور پر طلاق دی کا لفظ تین دفع سنا ہے، تو عورت کے لئے اس شوہر

کے پاس جانا جائز نہیں؛ بلکہ کچھ مال دے کر خلع کے ذریعہ سے اپنے کو اس شوہر سے علیحدہ کر لینا لازم ہے۔

المرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه.
والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها؛ بل تفدي نفسها بمال، أو تهرب.
(شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۳/۲۵۱، کوئٹہ ۳/۶۸، ۴
البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۵۷، زکریا ۳/۴۳۹، تبیین الحائق، امدادیہ ملتان ۲/۲۱۸، زکریا
۳/۸۲، ہندیہ، زکریا ۱/۳۵۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴۰۸ھ
صرف المظفر
(فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۲۸۹)

طلاق دیدوں گا کے الفاظ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ۲۹/جون بروز بدھ کو میری بیوی فیروز جہاں ایک پڑوسی لڑکے سے بات کر رہی تھی، اس کو بات کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے شک ہوا، تو میں نے اپنی بیوی کو تھپڑ ماریا، پھر میرے پھوپھی زاد بھائی آگئے، میں نے ان سے کہا کہ اس عورت کو جو میری بیوی ہے، یہاں سے ہٹادو یہاں سے لیجاؤ، ورنہ میں طلاق دیدوں گا، پھر میں بے ہوش ہو گیا، ہوش آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا، میری بیوی اپنے والد کے گھر چلی گئی، میرے چھ بچے ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ رہنے کے لئے تیار ہیں۔ کیا شرعاً ہم دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟

المستفتی: محمد یاسین محلہ قانون گویان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر واقعہ بات یہی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی سے یہی کہا

تھا کہ میں طلاق دیدوں گا، تو یہ وعدہ طلاق ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی، ایسی صورت میں آپ کا نکاح بدستور باقی رہے گا۔

وفي المحيط: لو قال بالعربية: أطلق لا يكون طلاقاً. (هندیہ، کتاب الطلاق، الفصل السابع في الطلاق، بالألفاظ الفارسية، زکریا ۱/۳۸۴، جدید زکریا ۱/۴۵۲)
ولو قال: أطلقك لم يقع. (سکب الأنهر، قدیم ۱/۳۸۷، جدید دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴/۲)

أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنه وعد. (در مختار مع الشامی، کراچی ۳/۳۱۹، زکریا ۴/۵۵۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۶/۶/۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳/ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۸۸۴/۳۸)

طلاق دیدوں گا کہنے سے طلاق نہیں ہوتی

سوال [۲۶۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، جھگڑا ہونے کے بعد میں اپنی سسرال گیا، اور میں نے اپنی ساس سے یہ کہا کہ تم اپنی لڑکی کو بلا لو، اتنی بات کہہ کر میں اپنے گھر آ گیا، اس کے بعد پھر ہم دونوں میں جھگڑا ہوا، وہ مجھ سے لڑنے کے بعد ہمارے چچا کے گھر چلی گئی، پھر میں نے چچا کے گھر جا کر چچا کے گھر والوں کے سامنے یہ کہا کہ اگر تو زیادہ بولے گی، تو میں تجھے طلاق دیدوں گا، اس کے بعد یہ چچا کے گھر سے آ گئی اور مجھ سے لڑنے لگی، تو میں نے اس بات پر یہ کہا کہ میں نے تم سے پچاس بار کہا ہوگا کہ ”اس وقت تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ“، جھگڑے کے دوران ان کی بھابھی آ گئی، اور وہ ہمارے گھر بیٹھی، تو میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی نند کو بلا کر لے جاؤ، پھر ایک گھنٹہ بعد اس کی ماں (ہماری ساس) آئی اور بولی

کہ تو اپنے شوہر (مجھ سے) پردہ کر، پردہ کرنے والی بات میرے سامنے نہیں ہوئی اور یہ بات میری دوسری بیوی نے بتلائی تو میں نے کہا کہ جب میں نے طلاق ہی نہیں دی تو پردہ کا کیا حکم پھر اس (بیوی) کا بھائی نسیم احمد اس کو بلا کر لیجانے لگا، تو اس کی سوکن (میری دوسری بیوی) نے اس کو بہت روکا، مگر میں نے نہیں روکا؛ اس لئے کہ میں اس وقت غصہ میں تھا، تو اس کا بھائی بولا کہ اس وقت لیجانے دو، پھر بعد میں دیکھا جائے گا، اس کے بعد یہ نئی بات لڑکی کے محلہ والوں نے بتائی کہ تجھے چھوڑ دی؛ جبکہ میں نے چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا، اتنا ضرور کہا تھا، طلاق دیدوں گا، مگر طلاق کا ارادہ نہیں تھا؛ کیونکہ میں غصہ کی حالت میں تھا، طلاق کا ارادہ پھر بھی نہیں تھا۔ شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے طلاق ہوئی یا نہیں۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

المستفتی: عبدالواحد، کھیڑاناٹھہ، رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سوال نامہ کی تحریر واقعہ کے مطابق بالکل صحیح ہے، تو مذکورہ صورت میں بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی اور شوہر کا یہ کہنا کہ طلاق دیدوں گا، یہ آئندہ کے لئے تو وعدہ ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

لو قال: أطلقك لم يقع. (الدر المنتقى في شرح ملتقى الأبحر، كتاب

الطلاق، باب إيقاع الطلاق، قديم ۳۸۷/۱، جديد دارالكتب العلمية بيروت ۱۴/۲، ۱
هندية، زكريا ۳۸۴/۱)

أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنه وعد. (در مختار مع الشامی،

کراچی ۳/۳۱۹، زکریا ۴/۴۰۹)

اور شوہر کا یہ کہنا کہ تم اپنے گھر چل جاؤ، اس سے اگر شوہر نے طلاق کا ارادہ نہیں کیا ہے، تو اس سے کوئی طلاق نہیں ہوئی اور قرآن و بیان سے نیت نہ کرنا واضح ہے؛ اس لئے کسی طرح کوئی طلاق صورت مذکورہ میں واقع نہیں ہوئی۔

اخر جی اذہبی تلزم النیة. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، کراچی ۳/۲۰۲، زکریا ۴/۵۳۴، کذا فی البدائع، زکریا ۳/۱۶۷، ۱۶۹، و کذا فی البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۳۰۲، ۳۰۳، زکریا ۳/۵۲۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ رمضان المبارک ۱۴۱۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۷۰۳/۲۷)

بوقت نزاع ”طلاق دیدوں گا“ کہنا

سوال [۲۲۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی سے لڑائی اور تکرار کے دوران یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دیدوں گا، تو اس جملہ سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ یہ جملہ دودفعہ کہا تھا۔

المستفتی: سلیم احمد، ڈمکوڈھ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: طلاق دیدوں گا کہنے سے کوئی طلاق نہیں ہوئی، یہ لفظ ایک دفعہ کہا ہو یا دودفعہ یا تین دفعہ، ہر حال میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی؛ لہذا دونوں کے درمیان نکاح بدستور باقی ہے۔

ولو قال: أطلقک لم يقع. (سکب الأنہرفی شرح ملتقی الأبحر،

کتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق قدیم ۱/۳۸۷، جدید دارالکتب العلمیۃ بیروت ۲/۱۴)

بخلاف کمن؛ لأنه استقبال فلم یکن تحقیقاً بالتشکیک..... لو قال

بالربیۃ: أطلق لا یكون طلاقاً. (ہندیۃ، زکریا ۱/۳۸۴، کتاب الطلاق، الفصل السابع

فی الطلاق بالألفاظ الفارسیۃ، جدید زکریا ۱/۵۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۰/۱۴۲۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ شوال المکرم ۱۴۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۷۰۳۸/۹۷)

”طلاق دیدوں“ کہنے کا حکم

سوال [۶۲۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ لڑکا مراداً بآباد کارہنے والا ہے، اور دہئی میں نوکری کرتا ہے، لڑکے کی شادی کو لگ بھگ ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے، شادی کے قریب چھ ماہ بعد سے لڑکی کے بیانات پر ایسا لگتا ہے کہ نوک جھونک لڑکے نے شروع کر دی، اسی دوران شوہر نے بیوی سے کہا کہ ایسا حال بنا دوں گا کہ تم مجھے از خود طلاق دیدو گی کہ ابھی یہ نیا واقعہ پیش آیا، تقریباً عید سے ہفتہ دس دن پہلے کی بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ٹیلیفون پر یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں طلاق دیدوں گا، میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، ایسے حالات میں علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ کیا کریں؟

المستفتی: حاجی عبدالسلام، مقبرہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق دیدوں گا کے الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، یہ الفاظ وعدہ طلاق پر دلالت کرتے ہیں، اس نے صرف طلاق کی دھمکی دی ہے؛ لہذا دونوں کے درمیان نکاح بدستور باقی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۱۲/۲۳۶، میرٹھ ۱۹/۹۲)

فقال الزوج: ”طلاق میکنم طلاق مینکم“ بالتشکیک و کرر ثلاثاً طلقت ثلاثاً بخلاف کنم؛ لأنه استقبال فلم یکن تحقیقاً بالتشکیک. (ہندیہ، کتاب الطلاق، الفصل السابع فی الطلاق بالالفاظ الفارسیہ، زکریا ۱/۳۸۴، جدید زکریا ۱/۴۵۲)

أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنه وعد. (در مختار مع الشامی،

کراچی ۳/۳۱۹، زکریا ۴/۵۵۹)

لو قال: أطلقک لم يقع. (سکب الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر قدیم ۱/۳۸۷،

دارالکتاب العلمیۃ بیروت ۱۴/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳/۱۰/۱۴۳۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳/شوال المکرم ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۱/۱۱۶۴۲)

”تختہ طلاق دوں“ کے الفاظ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ لڑکی نے سب لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ لڑکے نے چھ سات دفعہ اس طرح کہا ہے کہ ”میں تختہ طلاق دوں“ گواہوں نے سنا کہ ہم نے دو مرتبہ سنا، لڑکے کی والدہ کہتی ہے دو مرتبہ لڑکے کی بھانجی کہتی ہے چار مرتبہ سنا۔ واللہ اعلم شوہر کہتا ہے کہ میں نے نشہ اور غصہ کی حالت میں دو مرتبہ طلاق کہا، لڑکی نہ حمل سے ہے اور نہ ہی ایام حیض ہیں۔ شرعی حکم سے آگاہ فرمائیں۔

المستفتی: شمس الدین، کٹ گھر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں شوہر کے نشہ کی حالت میں دو مرتبہ طلاق کہنے سے اس کی بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں، عدت کے اندر اندر رجعت کی گنجائش ہے؛ لیکن اس کے بعد اگر کبھی بھی ایک طلاق دیدے گا، تو اس کی بیوی مغلطہ بائنہ ہو جائے گی۔ بغیر حلالہ شرعیہ کے اس سے نکاح درست نہ ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۸۷/۹، حسن الفتاویٰ ۱۸۲/۵)

ویقع طلاق کل زوج بالغ عاقل ولو تقدیراً. بدائع؛ لیدخل
السكران (در مختار) وفي الشامية: فإنه في حكم العاقل زجراً له.
(در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق،

کراچی ۳/۲۳۵، زکریا ۴/۴۳۸)

وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ. وهو مذهب أصحابنا. (الفتاویٰ التاتاریخانیة، زکریا ۴/۳۹۴، رقم: ۶۵۰۹، عالمگیری، زکریا ۱/۳۵۳، جدید زکریا ۱/۴۲۰، شامی، زکریا ۴/۴۴۸، کراچی ۳/۲۴۱، محیط برہانی، المجلس العلمي بیروت ۴/۳۹۱، رقم: ۴۶۳۴)

اگر شوہر کونشہ کی وجہ سے صحیح یاد نہ ہو اور وہاں جو لوگ موجود تھے، ان کو صحیح یاد ہو اور سب یہی کہتے ہوں کہ طلاق دیدوں کہا ہے، تو ایسی صورت میں چاہے طلاق کتنی مرتبہ کہا ہو اس سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۰۶۹)

أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنه وعد. (در مختار، زکریا ۴/۵۵۹، کراچی ۳/۳۱۹)
بخلاف كنم؛ لأنه استقبال فلم يكن تحقيقاً بالتشكيك..... لو قال بالعربية: أطلق لا يكون طلاقاً. (هندية، زکریا ۱/۳۸۴، كتاب الطلاق، الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية، جدید زکریا ۱/۴۵۲)

لو قال: أطلقك لم يقع. (سكب الأنهر، دارالكتب العلمية بیروت ۲/۱۴)
فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۷/۱۹

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ رجب المرجب ۱۴۳۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۶۸۴۱۳۵)

تو گھر چلی جاو رنہ میں تجھے طلاق دے دوں گا

سوال [۶۲۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شاہ نور نے اپنی بیوی سے لڑائی کے دوران یہ کہا کہ تو گھر کو چلی جا، ورنہ میں تجھے طلاق دیدوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ شاہ نور کی بیوی پر اس جملہ سے کوئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ حکم شرعی تحریر فرمائیں۔

المسئتی: شاہ نور، محلہ جامع مسجد گلی-۱، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر واقعہ شوہر نے یہی جملہ کہا ہے کہ میں تجھے طلاق دوں گا، تو اس کی وجہ سے اس کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔

بخلاف قولہ کنم؛ لأنہ استقبال فلم یکن تحقیقاً بالتشکیک. وفي المحيط لو قال بالعربیة: أطلق لایكون طلاقاً إلا إذا غلب استعماله للحال، فیکون طلاقاً. (عالمگیری، کتاب الطلاق، الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسیة، زکریا ۱/۳۸۴، جدید زکریا ۱/۴۵۲)

لو قال: أطلقک لم یقع. (سکب الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر قدیم ۱/۳۸۷، دارالکتب العلمیة بیروت ۱/۴۷۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۸ھ/۵/۱۹

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۸۳۰۳)

اگر تم جاؤ گی تو میں تمہیں نہیں رکھوں گا کہنے کا حکم

سوال [۲۲۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی نے کہیں جانے کے لئے اجازت مانگی، زید نے اجازت نہیں دی، بیوی نے زیادہ اصرار کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم اگر جاؤ گی تو میں تمہیں نہیں رکھوں گا، اسے بیوی نے منظور کر لیا، اب نہ یہ بلاتا ہے اور نہ وہی آتی ہے، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرما کر مشکور فرمائیں۔

المستفتی: اقبال احمد، امام بڑی مسجد، جالوپورہ، جے پور (راجستھان)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شوہر کا یہ کہنا کہ اگر تم جاؤ گی تو میں نہیں رکھوں گا، اس سے وقوع طلاق معلق نہیں ہوتا؛ بلکہ وعدہ طلاق معلق ہے شرط پر، اس سے طلاق واقع نہیں

ہوئی؛ بلکہ ازسرنو طلاق دینے سے طلاق واقع ہو سکتی ہے؛ لہذا صورت مذکورہ میں شرعاً کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔

لو قال: أطلقك لم يقع. (الدر المنتقى، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق،

قديم ۳۷۲/۱، جدید دارالکتاب العلمیہ بیروت ۱۴/۲)

بخلاف کنم؛ لأنه استقبال فلم يكن تحقيقاً بالتشكيك..... لو قال

بالربية: أطلق لا يكون طلاقاً. (هندية، زكريا ۳۸۴/۱، كتاب الطلاق، الفصل السابع

في الطلاق بالألفاظ الفارسية، جدید زكريا ۴۵۲/۱)

أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنه وعد. (در مختار مع الشامی، کراچی ۳۱۹/۳،

زكريا ۵۰۹/۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ شوال المکرم ۱۴۱۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۷۷/۲۷۷)

طلاق دیدنی چاہئے طلاق دیدوں گا، طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہنا

سوال [۶۲۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ میری کسی بات پر اپنی بیوی سے تکرار ہوگئی، میں نے پہلی دفعہ کہا ”ایسی

عورت کو طلاق دیدنی چاہئے“ دوسری مرتبہ کہا ”میں تجھے طلاق دیدوں گا“ تیسرا لفظ یہ

کہا کہ ”اب ہمارے بیچ طلاق کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔“

دریافت یہ کرنا ہے کہ ان الفاظ سے طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: انور حسین، مینا نگر، گلی نمبر ۳، کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامہ میں جتنے الفاظ شوہر نے استعمال کئے ہیں، وہ

سارے الفاظ لڑائی جھگڑے کے درمیان دھمکی پر محمول ہیں، ان الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی؛ اس

لئے کہ پہلا لفظ ”طلاق دیدینی چاہئے“ اور دوسرا لفظ ”میں تجھے طلاق دیدوں گا“ یہ دونوں لفظ استقبال کے لئے ہیں، جو صرف وعدہ طلاق ہیں وقوع طلاق نہیں ہیں اور تیسرا لفظ کہ ”اب ہمارے لئے طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ بھی مستقبل میں طلاق دینے کی دھمکی ہے، اس مذکورہ واقعہ میں کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔ (مستفاد: محمودیہ ڈبھیل ۱۲/۲۴، فتاویٰ دارالعلوم ۹/۲۳۵)

ولو قال بالعربية: أطلق لایكون طلاقاً. (ہندیہ کتاب الطلاق، الفصل

السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية، زکریا ۱/۳۸۴، جدید زکریا ۱/۴۵۲)

لو قال: أطلقک لم يقع. (الدر المنقی شرح ملتقى الأبحر، قدیم ۱/۳۸۷،

جدید دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۱۴)

لو قال: أردت طلاقک لا يقع. (حانیة علی لہندیة ۱/۴۵۲، زکریا جدید ۱/۲۷۲)

بخلاف قوله كنم؛ لأنه استقبال، فلم يكن تحقيقاً بالتشكيك.

(ہندیہ، کتاب الطلاق، الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية، زکریا قدیم ۱/۳۸۴،

جدید زکریا دیوبند ۱/۶۵۲)

قوله طلقتي نفسك، فقالت: أنا طالق وأنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنه

وعد. (در مختار، کراچی ۳/۳۱۹، زکریا ۴/۵۵۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ شعبان المعظم ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف-۱۱۶۲۵/۳۱)

میکہ گئی تو طلاق دیدوں گا سے طلاق

سوال [۶۲۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی میکہ جانے کی ضد کر رہی تھی میں نے کہہ دیا کہ اگر تم اپنے میکہ گئیں تو میں

تمہیں طلاق دیدوں گا، یہ کہہ کر میں باہر چلا گیا، میرے پیچھے اس کی ماں اور اس کا بھائی اس کو اپنے ساتھ میکہ لے کر چلے گئے، اس واقعہ کو تقریباً ایک سال ہو گیا، وہ اب تک میکہ ہی میں ہے طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر اس کو ساتھ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: قمر علی، دولت باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق دیدوں گا کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، ان الفاظ میں آئندہ طلاق دینے کا وعدہ ہے اور طلاق اب تک دی نہیں؛ اس لئے بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اور میکہ جانے کے بعد بھی چاہے سالہا سال بھی گزر جائے بدستور اسی شوہر کی بیوی رہے گی؛ لہذا جب چاہیں دونوں آپس میں ساتھ رہ سکتے ہیں۔ (مستفاد: محمودیہ میرٹھ ۱۸/۹۳، ڈیجیٹل ۱۲/۶/۲۳۶۰۲۵)

بخلاف قوله كنتم؛ لأنه استقبال فلم يكن تحقيقاً بالتشكيك.

(عالمگیری، کتاب الطلاق، الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية، زکریا ۱/۳۸۴، جلدید زکریا ۱/۴۵۲)

قوله طلقتي نفسك، فقالت: أنا طالق، أو أطلق نفسي لا يقع.

(الدرمع الرد، کراچی ۳/۳۱۹، زکریا ۴/۵۵۹، البحر الرائق، ۳/۳۱۴، کوئٹہ ۳/۵۴۵، مطبع زکریا دیوبند) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲/۱۱/۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳/۱۱/۱۴۳۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۱۳۱۲/۴۰)

چوبیس گھنٹہ کے اندر اندر میرے گھر سے چلی جاؤ ورنہ طلاق دیدوں گا

سوال [۶۲۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تم میرے گھر سے چوبیس گھنٹہ کے اندر اندر چلی جاؤ ورنہ میں تم کو طلاق دیدوں گا، تو عورت چوبیس گھنٹہ کے اندر اندر گھر سے چلی گئی، کسی دوسرے کے یہاں، تو کیا ایسی صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: محمدا سرائیل، سپولوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں صرف وعدہ طلاق ہے؛ اسلئے اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ولو قال: أطلقك لم يقع. (الدر المتقی، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق

قدیم ۳۸۷/۱، جدید دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴/۲)

قال: طلقي نفسك، فقالت: أنا أطلق لا يقع. (البحر الرائق،

کوئٹہ ۳۱۴/۳، زکریا ۴۵/۳)

بخلاف قوله كنم؛ لأنه استقبال فلم يكن تحقيقاً بالتشكيك..... ولو

قال بالعربية: أطلق لا يكون طلاقاً. (هندية، زکریا ۳۸۴/۱، كتاب الطلاق الفصل

السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية جدید زکریا ۴۵۲/۱)

أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنه وعد. (در مختار مع الشامی، کراچی ۳۱۹/۳،

زکریا ۵۰۹/۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴/۲/۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ ربیع الثانی ۱۴۱۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۹/۳۳۱)

تجھے چھوڑ دوں گا سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ بیوی نے اپنے شوہر کو غصہ میں بیٹا اور بھیا کہہ دیا، تو جواب میں شوہر نے کہا تو نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو اس سے نکاح میں کوئی اثر پڑا یا نہیں؟

المستفتی: محمد عرفان، پاکپڑا ٹھاکر دوارہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اللہ تعالیٰ نے شوہر کے قول اور لفظ میں عقد نکاح میں خرابی کا اثر رکھا ہے، بیوی کے کسی قول و لفظ میں خرابی کا اثر نہیں رکھا ہے؛ اس لئے بیوی کے مذکورہ الفاظ کی وجہ سے عقد نکاح میں کوئی اثر نہیں پڑے گا اور شوہر کا جملہ تجھے چھوڑ دوں گا یہ استقبال کا صیغہ ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔

ولو قال: أطلقك لم يقع. (الدر المستقی، کتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق

قدیم ۳۸۷/۱، جدید دارالکتب العلمیہ بیروت ۱/۲۴۱)

قال: طلقي نفسك، فقالت: أنا أطلق لا يقع. (البحر الرائق،

کوئٹہ ۳/۴۳، زکریا ۳/۴۵/۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ ربیع الاول ۱۴۱۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۶۲۹/۳۳۷)

تجھے نہیں رکھوں گا سے طلاق

سوال [۲۲۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بیوی اور شوہر کے درمیان جھگڑے کے دوران شوہر نے اپنی بیوی سے غصہ کی حالت میں کہا کہ میں اب تجھے نہیں رکھوں گا، تجھے طلاق دیدوں گا تو چاہے تو اپنا فیصلہ کر لے، تو کیا ان الفاظ سے طلاق ہو جائے گی؟

المستفتی: محمد عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق دے دوں گا یا نہیں رکھوں گا کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں نکاح بدستور باقی ہے۔

ولو قال: أطلقك لم يقع. (سکب الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر، کتاب الطلاق،

باب إيقاع الطلاق قديم ۱/۳۸۷، جدید دارالکتب العلمیۃ بیروت ۲/۱۴)

بخلاف كنم؛ لأنه استقبال فلم يكن تحقیقاً بالتشكیک..... ولو قال

بالربية: أطلق لا يكون طلاقاً. (هندیۃ، زکریا ۱/۳۸۴، کتاب الطلاق الفصل السابع

فی الطلاق بالألفاظ الفارسیۃ جدید زکریا ۱/۴۵۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۵ محرم الحرام ۱۴۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۳/۵۱۵)

اگر تو پانی پت چلی گئی تو تجھے طلاق دیدوں گا

سوال [۶۲۷۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ لڑکے نے اپنی بیوی کو موبائل فون پر یہ کہا، اگر تو پانی پت چلی گئی، تو تجھے طلاق

دیدوں گا، لڑکی ٹرین سے پانی پت جا رہی تھی، لڑکی بغیر بتائے اپنے بھائی کے ساتھ میرے

گھر سے میری غیر موجودگی میں چلی گئی، مذکورہ الفاظ کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں کہا، صرف بغیر

اجازت سفر کرنے سے روکنے کے لئے طلاق دیدینے کی دھمکی دی تھی۔

لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تو پانی پت جائے گی، تو تجھے طلاق دی، یہ بات موبائل فو

ن پر ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ہوئی اور لڑکی کو باپ کے گھر گئے ہوئے قریب ڈیڑھ سال

ہو گیا، لڑکی نے کبھی طلاق کا ذکر تک نہیں کیا، جب کبھی بات ہوتی تھی تو یہ کہتی تھی کہ آپ اپنی

زندگی بدل دو، میں آجاؤں گی، طلاق کی بات صرف ایک ماہ سے لڑکی کے باپ نے کہنی شروع کی لڑکی نے کبھی ہمارے سامنے طلاق کو نہیں کہا۔

المسفتی: شمس الدین، برتھی گنج، کانٹھ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: لڑکے نے یہ جو کہا کہ اگر تو پانی پت گئی، تو تجھے طلاق دیدوں گا، تو اس طرح طلاق دیدوں گا، کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اور لڑکی کا یہ کہنا کہ شوہر نے یہ کہا تھا کہ پانی پت جائے گی تو تجھے طلاق دی، تو تجھے طلاق دی کے لفظ سے صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، عدت کے اندر اندر شوہر کو رجعت کا حق حاصل ہوتا ہے اور عدت کے بعد بغیر حلالہ کے نکاح کرنا شوہر کے لئے جائز ہے؛ لیکن یہ لڑکی کا صرف دعویٰ ہے اور لڑکا اس کا انکار کر رہا ہے، ایسی صورت میں لڑکی کے اوپر لازم ہے کہ شرعی گواہوں کے ذریعہ سے ”تجھے طلاق دی“ کے الفاظ ثابت کر دے اور اگر لڑکی کے پاس گواہ نہیں ہیں، تو اس کے دعویٰ کا اعتبار نہیں اور شوہر سے قسم لے کر شوہر ہی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اور بیوی شوہر کے نکاح میں بدستور باقی سمجھی جائے گی۔

بخلاف قولها أطلق نفسي لا يمكن جعله إخباراً عن طلاق قائم؛ لأنه إنما يقوم باللسان، فلو جاز لقيام به الأمران في زمن واحد وهو محال.

(شامی، کتاب الطلاق، باب تفييض الطلاق، زکریا ۴/۵۵۸، کراچی ۳/۳۱۹)

فإن اختلفا في وجود الشرط، فالقول له مع اليمين لإنكاره الطلاق

الإذا برهنت. (شامی، کراچی ۳/۳۵۶، زکریا ۴/۶۰۹-۶۱۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ محرم الحرام ۱۴۳۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۰۹۲۰)

”لے تجھے دے ہی دی“ کہنا

سوال [۶۲۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی، پہلی رات میں جب اپنی بیوی سے بات چیت کی تو اچانک اسے ایک ہیجان سا پیدا ہو گیا اور دل کرتا تھا کہ کمرہ چھوڑ کر چلا جائے؛ لیکن عزت کی وجہ سے باہر نہیں گیا؛ بلکہ لاجور اور دور کت نفل پڑھی، پھر بھی گھبراہٹ رہی، یہی ہیجان اکثر نفرت میں بدل جاتا تھا اور عجیب طرح کی نفرت رہتی تھی؛ لیکن اللہ سے دعا کر کے زید اپنی زوجہ سے دل لگانے لگا۔ اس دوران ایک بچہ بھی ہوا، بچہ ہونے کے بعد زید اپنے آپ کو بدل لینا چاہتا تھا اور ہر وقت خدا سے بہتری کی دعا کرتا رہتا تھا، زید کو یہ شک تھا کہ اس پر کوئی جادو یا سحر کیا گیا ہے۔

ایک مرتبہ زید اپنی اہلیہ کو لے کر اس کے والد سے ملانے کے لئے گیا، وہاں پر زید کی اپنی زوجہ سے کسی بات پر کہا سنی ہو گئی، زید ایک دم غصہ میں ہیجان میں آ گیا اور یہ کہہ دیا کہ ”لے تجھے دے ہی دی، یا پھر لے تجھے دے ہی دوں گا“ کہہ کر کمرے سے باہر صحن میں آ کر بھی کچھ کہہ دیتا ہے، زید کو تو کچھ یاد نہیں پھر وہاں پر ایک پڑوس کی لڑکی بیٹھی تھی، وہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ لفظ کہے تھے، شگفتہ تم گواہ رہنا میں تین طلاق دے رہا ہوں، شگفتہ وہاں موجود نہیں تھی؛ بلکہ دوسری لڑکی بیٹھی تھی، یہ اسی دوسری لڑکی کا بیان ہے اور زوجہ کہتی ہے کہ میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں؛ کیونکہ وہ اندر کمرہ میں بیٹھی تھی، زید کافی پریشان ہے؛ کیونکہ اس سے پہلے بھی اکثر اس سے زیادہ جھگڑا ہو جاتا تھا؛ لیکن یہ لفظ کبھی زبان پر نہیں آئے، زید کے گھر والے اور زوجہ کے گھر والے اسے طلاق مان رہے ہیں؛ لیکن زید اور اس کی زوجہ نہیں مانتیں اور ایک ساتھ رہنے پر مصر ہیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر لے تجھے دے ہی دی کہا ہے، تو ایک طلاق پڑ گئی ہے اور اگر لے تجھے دے ہی دوں گا کہا ہے، تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی باہر صحن میں آ کر اس نے کیا کہا تھا، اس کو متعین کر کے لکھیں تب ہی پورا حکم لکھا جاسکتا ہے اور صرف ایک لڑکی کے بیان سے تین طلاق ثابت نہ ہوں گی؛ جبکہ زید اور اس کی بیوی اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اس کے ثبوت کے لئے دو مرد یا ایک مرد و عورت کی شہادت لازم ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: 'وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ'. [البقرہ: ۲۸۲]

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال مثل النكاح والطلاق. (هداية، كتاب الشهادة، اشرفي ديوبند ۱۵۴/۳، البحر الرائق، كوئٹہ ۶۲/۷، زكريا ۱۰۴/۷، درمختار مع الشامسي، كراچي ۴۶۵/۵، زكريا ۱۷۸/۸، ہندیہ، زكريا ۴۵۱/۳، الجوهرۃ النيرة ملتان ۳۲۶/۲، دارالكتاب ديوبند ۳۰۹/۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۸/۱۱/۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳۳ رذی قعدہ ۱۴۱۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۵۵۰۲۳۳)

تو خاموش ہو جا، میں تیرے مہر کے پیسے بھی دیدوں گا سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے شوہر نے میرے سامنے ایک مرتبہ یوں کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، دوسری مرتبہ یوں کہا کہ اگر میں تجھ سے صحبت کروں، تو اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی لڑکی سے زنا کروں، تیسری مرتبہ یوں کہا کہ تو اپنا مہر لے لے، شوہر کی والدہ نے کہا کہ میرے

لڑکے نے تجھے آزاد کر دیا ہے اب تو رو دھولے یہ لڑکی اپنی گواہی میں ایک عورت کو بتاتی ہے، اس کا بیان ہے کہ یہ لڑکی مجھے گھر سے بلا کر لائی، اس کا شوہر کپڑوں میں آگ لگا رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ ظہور ایسا نہ کرو، ظہور نے کہا کہ میرا گھر ہے، میں چاہوں تو سب میں آگ لگا دوں اور یہ بھی کہا کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے، میں نے اس کا معاملہ صاف کر دیا ہے اور میں اس کا مہر دوں گا، اور میں اس سے صحبت کروں تو اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی لڑکی سے زنا کروں۔ اس کا میرا رشتہ ختم ہو گیا، میں اس کا مہر دوں گا، ایک تیسری عورت کا بیان ہے کہ ظہور دو دن کے بعد مجھے گھر سے بلا کر لایا، میرے سامنے ظہور نے یہ کہا کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے، میں نے ظہور سے کہا ایسا نہ کر، ظہور نے کہا کہ میں نے اس کا معاملہ صاف کر دیا، میں اس کا مہر دوں گا۔

شوہر کا حلفیہ بیان

میری والدہ اور بیوی آپس میں لڑ رہی تھیں، اس رنجش میں ان کو دو دن ہو گئے، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو خاموش ہو جا، اس پر میری بیوی نے جواب دیا کہ اپنی ماں کو تو ایک مرتبہ بھی چپ نہ کیا، میرے اوپر بندش لگا تا ہے، میرا تیرا نباہ نہیں ہوگا، تو میرے مہر کے پیسے دیدے، اس پر میں نے قسم کھائی اور یہ کہا کہ تو خاموش ہو جا، میں تیرے مہر کے پیسے بھی دیدوں گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا۔

اب دریافت طلب بات یہ ہے کہ مذکورہ بیانات سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل جواب سے نوازیں۔

المستفتی: محمد قاسم جلال آباد ضلع بجنور پوہی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: چونکہ شوہر کے بیان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے، جس سے وقوع طلاق لازم آتا ہو، اس لئے شوہر کے بیان کے مطابق شرعاً کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اور

بیوی کے بیان میں اگرچہ ایسے الفاظ موجود ہیں، جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن شوہر نے حلفیہ بیان سے اس کا انکار کیا ہے۔ اور بیوی کے پاس شرعی شہادت کے لئے دو عادل مرد یا ایک عادل مرد اور دو عادل عورتوں کی متفقہ شہادت نہیں ہے؛ اس لئے شرعاً بیوی پر طلاق واقع ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے؛ لہذا طلاق کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

قال الله تعالى: 'وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ'. [البقرہ: ۲۸۲]

و ما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا، أو غير مال مثل النكاح والعتاق والطلاق.

(الجوهره، كتاب الشهادات، امداديه ملتان ۲/۳۲۶، دارالكتاب ديوبند ۲/۹/۳۰، هداية، اشرفي ديوبند ۳/۱۵۴، البحر الرائق، كوئٹہ ۷/۶۲، زكريا ۷/۴/۱۰، در مختار مع الشامی،

کراچی ۵/۴۶۵، زكريا ۸/۱۷۸، ہندیہ، زكريا ۳/۴۵۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳ محرم الحرام ۱۴۱۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۵/۱۶۰۹)



(۱۲) باب الطلاق الصریح

طلاق صریح اور بائن میں فرق

سوال [۶۲۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ طلاق صریح و طلاق بائن میں کیا فرق ہے؟

المستفتی: محمد سلیم الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق صریح و رجعی اس کو کہا جاتا ہے، جو ایسے الفاظ کے ساتھ بولی جائے، جو طلاق ہی کے لئے مستعمل و معروف ہیں؛ لہذا لفظ طلاق لفظ چھوڑ دیا، آزاد کر دیا فارغ خطی وغیرہ سے طلاق صریح و رجعی واقع ہو جائے گی۔

إن الصریح مالم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت. (شامی،

کتاب الطلاق، باب الکنایات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹)

اور طلاق بائن کے لئے ایسے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں، جو صرف طلاق کے لئے مستعمل و معروف نہیں ہیں؛ بلکہ دوسرے مقاصد کے لئے بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔

وکنایتہ عند الفقہاء مالم یوضع له أي الطلاق واحتمله وغیرہ.

(در مختار مع الشامی، کراچی ۳/۲۹۶، زکریا ۴/۵۲۶)

لہذا لفظ چلی جاتی امیر اکوئی واسطہ نہیں وغیرہ سے نیت کے ساتھ طلاق واقع ہو سکتی ہے۔

وأما الکنایة فنوعان: نوع هو کنایة بنفسه وضعاً، ونوع هو ملحق

بها شرعاً في حق النية، أما النوع الأول فهو كل لفظ يستعمل في الطلاق،

ويستعمل في غيره نحو قوله..... اخرجی، اغربی، انطلقی، انتقلی..... وإذا

احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغير الطلاق، فقد استتر المراد منها عند السامع، فافتقرت إلى النية لتعيين المراد. (بدائع الصنائع، زكريا ۱۶۷/۳-۱۶۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ رمضان المبارک ۱۴۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۸۱۹/۲۸)

طلاق صریح میں نیت کا حکم

سوال [۲۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہر نے ٹیلی فون کان سے ہٹا کر رکھنا چاہا کہ اتنے میں شوہر نے ٹیلی فون پر بیوی سے ناراضگی کا اظہار کیا، بیوی نے ٹیلی فون کان سے ہٹا کر رکھنا چاہا کہ اتنے میں اس نے ”طلاق، طلاق، طلاق“ کہا عورت کا دعویٰ ہے کہ میں نے نہیں سنا تھا، اب دو امر قابل غور ہیں:

- (۱) شوہر کا کہنا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی۔
- (۲) کچھ گھریلو عورتوں کے کہنے کی وجہ سے کہ جلدی سے ہمبستری کر لو طلاق ختم ہو جائے گی، تیسرے ہی دن اس نے ہمبستری کر لی۔ اب اس طلاق کا کیا حکم ہوگا اور آسان سے آسان شکل کیا ہوگی؟

المستفتی: عبداللہ قاسمی، دیوبند

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شوہر نے جب بیوی سے ٹیلی فون پر طلاق کا لفظ تین مرتبہ کہہ دیا ہے، اور تین مرتبہ کہنے کا شوہر اقرار کر رہا ہے تو تینوں طلاقیں معتبر ہوں گی اور طلاق واقع ہونے کے لئے نیت شرط نہیں ہے؛ لہذا مذکورہ واقعہ میں بیوی پر طلاق مغلطہ واقع ہو کر بیوی شوہر پر حرام ہوگئی۔ اب آئندہ بغیر حلالہ کے اس سے نکاح درست نہیں ہوگا اور طلاق واقع

ہونے کے بعد دونوں کے درمیان میں جو ہمبستری واقع ہوئی ہے، وہ وطی بالشہ ہے، اس سے رجعت نہیں ہوگی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز طلاق واقع ہونے کے لئے بیوی کا سننا لازم نہیں ہے صرف شوہر کا اقرار کافی ہے۔

ولو أقر بالطلاق كاذباً أو هازلاً وقع قضاءً لا دياناً. (شامی، کتاب

الطلاق، مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق، كراچی ۳/۲۳۶، زکریا ۴/۴۴۰)

لو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء. (البحر الرائق، زکریا ۳/۴۲۸،

کوئٹہ ۳/۲۴۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳۲۵ھ/۷/۱۸

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸/ربیع المرجب ۱۳۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۳۵۰/۲۷)

الفاظ صریح میں بلانیت و ارادہ طلاق کا حکم

سوال [۶۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر لکھ رہی ہوں کہ ایک سال قبل آپ نے میرے والد صاحب کے سوال پر طلاق مغلظہ کا فتویٰ دیا؛ لیکن والد صاحب کا سوال واقعہ سے بالکل مختلف تھا، واقعہ اس طرح تھا کہ میرے شوہر میرے والد سے یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے بات کیجئے میں ہوں اس کا شوہر، تو اس پر میرے والد نے کہا تھا کہ تو اس کا شوہر نہیں ہے، اس سے بات مت کر، یہ تیری بیوی نہیں ہے، اس پر انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، بولے اس کو طلاق دیدے آزاد کر دے، اس پر وہ کئی بار طلاق کہہ کر چلے گئے، والد صاحب نے ایسا کیوں کہا، اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اللہ بہتر جانتا ہے، اب میری حقیقی ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور والد صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، میرے نہ کوئی بھائی ہے اور نہ بہن میرا شوہر سے نہ کوئی جھگڑا تھا اور نہ کوئی رنجش صرف اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے آئی تھی۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر میرا شوہر قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ میرا کبھی اس عمل کا ارادہ یا نیت نہیں تھی اور میں بھی خود قسم کھاتی ہوں کہ میرا کبھی اس قسم کا ارادہ نہیں تھا، تو کیا طلاق مغلظہ کا حکم نہیں ہوگا اور میں دوبارہ نکاح کر کے رجوع کر سکتی ہوں؟

المستفتیہ: شاہ بانو، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ کی اس تحریر کے مطابق بھی طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے؛ اس لئے کہ طلاق میں نیت اور ارادہ کا دخل نہیں ہوتا؛ بلکہ زبان کے تلفظ کا اعتبار ہوتا ہے اور زبان سے تین مرتبہ طلاق دیدی گئی ہے؛ لہذا اب بلا حلالہ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔

عن سماک قال: سمعت عکرمۃ یقول: الطلاق مرتان: فإمساک بمعروف، أو تسریح بإحسان، قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نکحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نکحها، فإذا طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره. (المصنف لابن أبی شیبہ، ما قالوا فی الطلاق مرتان مؤسسة علوم القرآن بیروت ۱۰/۱۹۷، رقم: ۱۹۵۶۴)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (هندية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، زکریا ۱/۴۷۳ جدید زکریا ۱/۵۳۵ مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۸۸، تاتارخانیة، زکریا ۵/۴۷، رقم: ۷۵۰۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵/رجب المرجب ۱۴۱۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲/۳۱۱)

کیا طلاق صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہے؟

سوال [۶۲۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ماں بیٹے میں کچھ جھگڑا ہو رہا تھا، اس کے جھگڑے کے باوجود دونوں میاں بیوی تیار ہو کر شادی میں جا رہے تھے، ان دونوں میاں بیوی میں کوئی کسی قسم کی رنجش نہیں تھی، دونوں میاں بیوی کمرے کے ایک روم سے باہر نکلے جیسے بیٹا آنگن میں پھونچا تو ماں نے بیٹے سے کوئی ایسا گندہ جملہ کہا کہ اس جملہ کو سن کر بیٹے کو بہت تیز غصہ آیا، اس غصہ میں بیٹے نے بیوی کو طلاق دیدی، تین بار اور میاں بیوی میں کسی قسم کی ناراضگی نہیں تھی، ماں کی لڑائی کے چکر میں بیوی کو طلاق دیدی، لڑکی والان کی بیڑی پر کھڑی تھی، اس کے کان میں ایک بار طلاق کی آواز آئی۔ دوسری آواز اس کے کان میں گنگنانے کی آئی، اس کے بعد اس کو ہوش نہیں رہا، شبانہ پروین کا کہنا ہے کہ میں نے دو بار سنا اور رخسانہ پروین کا کہنا ہے کہ میں نے تین بار سنا، لڑکی تین مہینہ کے حمل سے ہے، لڑکے کا کہنا ہے میں نے شمیمہ کو دل سے طلاق نہیں دی ہے۔

المسفتی: محمد عمر سنبھلی گیٹ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق واقع ہونے کے لئے دل سے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی؛ بلکہ صرف زبان سے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس میں بیوی کا سننا بھی لازم نہیں ہے۔

ولو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباہ

والنظائر قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

اب اگر میاں بیوی دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو حلالہ کے بغیر ساتھ رہنا جائز نہ ہوگا اور حمل کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور حلالہ کی صورت یوں ہے کہ عدت گزرنے کے بعد

دوسرے مرد سے شرعی طور پر نکاح کر کے اس کے ساتھ ہمبستر ہو جائے، اس کے بعد دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دیدے، پھر عدت گزرنے کے بعد شوہر اول کے ساتھ نکاح کیا جاسکتا ہے۔

عن سماک قال: سمعت عكرمة يقول: الطلاق مرتان: فإمساک بمعروف، أو تسريح بإحسان، قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (المصنف لابن أبي شيبة، ما قالوا في الطلاق مرتان مؤسسة علوم القرآن بيروت ۱۰/۱۹۷، رقم: ۱۹۵۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، زکریا ۱/۷۳ جدید زکریا ۱/۵۳۵ ہدایہ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، قدوری امدادیہ دیوبند ۱۷۸، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۱۱/۱۴۱۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵/۱/۱۴۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۸۶۲۸)

بغیر نیت طلاق تین مرتبہ صریح طلاق دینا

سوال [۶۲۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کے اپنی بیوی سے بہتر تعلقات ہیں کسی قسم کی ناخوشگواری نہیں ہے، زید کی والدہ اور بہنیں اکثر زید کی زوجہ سے لڑتی رہتی ہیں، ایک دن جب بہت زیادہ لڑائی ہوئی، تو زید کی بیوی کی ساس اور بہنوں نے اس کی بیوی کو مارا پیٹا، تو زید اپنی بہنوں کو تو کچھ نہ کہہ سکا، البتہ یہ

کہہ گیا کہ سارا جھگڑا میری بیوی ہی کی وجہ سے ہے؛ اس لئے میں نے اسے ’طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی‘ صورت مذکورہ میں زید کی بیوی پر طلاق پڑی یا نہیں، اگر پڑ گئی تو کون سی بانٹہ یا رجعی یا مغلظہ زید یہ کہتا ہے کہ میری طلاق دینے کی قطعاً نیت نہیں تھی، مگر الفاظ صریح ہیں، زید اپنی بیوی کے ہمراہ اب بھی زن و شوہر کی طرح رہ رہا ہے حکم شرعی سے مطلع فرمائیں۔

المستفتی: اسرار الحق، بہس پور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب تین دفعہ صاف الفاظ سے طلاق دیدی ہے، تو اس پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے۔ بغیر حلالہ دوبارہ نکاح بھی درست نہ ہوگا اور ان دونوں کا ایک ساتھ رہ کر میاں بیوی کی طرح رہنا حرام کاری اور زنا کاری ہے فوراً الگ ہو جانا لازم ہے۔

عن سماک قال: سمعت عکرمۃ یرسل یقول: الطلاق مرتان: فإمساک بمعروف، أو تسریح یا حسان، قال: فإذا طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره. (المصنف لابن أبی شیبہ، جدید مؤسسۃ علوم القرآن بیروت، ۱۰/۱۹۷، رقم: ۱۹۵۶۴)

وان كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنکح زوجاً غیره نکاحاً صحیحاً، ویدخل بها، ثم یطلقها أو یموت عنها. (هندیہ، کتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، زکریا ۱/۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، قلوبی امدادیہ دیوبند ۱۷۸، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۸/۱/۱۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ محرم الحرام ۱۴۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۳/۵۱۴)

بلانیت طلاق ”طلاق، طلاق، طلاق“ کہنا

سوال [۲۲۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے بکر سے کہا کہ ہم نے تمہاری بیوی کو فلاں شخص کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا، تو بکر نے اپنی بیوی کو ایک ہی سانس میں یہ کہا کہ ”طلاق، طلاق، طلاق“، لیکن اس کی نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، تو کیا بکر کی بیوی پر طلاق واقع ہوگئی؟ اگر طلاق ہوگئی تو بغیر حلالہ کے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟

المسئتی: محمد خورشید احمد، محلہ چودھری سرائے، سنبھل مراد آباد (یو پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب بکر نے اپنی بیوی کو ایک ہی سانس میں تین طلاق دیدیں، تو تینوں طلاقیں واقع ہو کر بیوی مغضوبہ ہوگئی چاہے بکر کی ان الفاظ سے طلاق دینے کی نیت ہو یا نہ ہو۔

ولا یتحتاج إلی نية؛ لأن الصریح موضوع للطلاق شرعاً، فكان حقيقة فيه فاستغنى عن النية. (مجمع الأنهر، کتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق قديم ۳۸۶/۱، جدید دارالکتب العلمیة بیروت ۱/۲)

ولا یفتقر إلی النية؛ لأنه صریح فيه لغلبة الاستعمال. (هدایة، اشرفی

دیوبند ۲/۳۵۹)

لہذا اب بیوی شوہر پر بالکل حرام ہوگئی، اگر شوہر آئندہ اسے رکھنا چاہے، تو حلالہ کے بعد ہی رکھ سکتا ہے۔

وان كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگیری، کتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة،

زکریا ۱/۴۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، قدوری امدادیہ دیوبند ۱۷۸، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸، تاتارخانیہ، زکریا ۱۴۷/۱، رقم: ۷۵۰۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۷/رجب المرجب ۱۴۳۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۴۶۷۲۴)

بغیر نیت کے ”جا چھوٹ گئی“ کہنے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں اور میری بیوی اکیلے لیٹے ہوئے تھے، کسی بات پر میری بیوی نے کہا میں چلی جاؤنگی، مجھے چھوڑ دو، میں نے کہا ”جا چھوٹ گئی“ اس پر بیوی نے پھر کوئی بات کہی، میں نے دوبارہ کہا ”جا چھوٹ گئی“، اسی طرح تیسری مرتبہ ہوا گویا کہ وقفہ وقفہ سے تین مرتبہ ”جا چھوٹ گئی“ کا لفظ ادا ہوا، پھر اس کے کچھ کہنے پر میں نے کہا کہہ تو دیا، تین بار جا چھوٹ گئی، اس پر بیوی نے کہا اس طرح تو طلاق ہوگئی ہوگی، میں نے کہا میں نے کوئی دل سے تھوڑے ہی کہہ رہا ہوں، اس صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: فضل الرحمن، نجیب آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: پہلی بار بیوی کے جواب میں یہ جو کہا ہے ”جا چھوٹ گئی“ اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، چھوٹ گئی کے ساتھ لفظ جا جو آیا ہے، اس سے الگ سے اگر طلاق کی نیت نہ کی ہو، تو اس سے الگ سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد چھوٹ گئی جو کہا ہے، اگر وہ پہلی بات کی خبر ہے، اسی طرح تیسری بار جو ”جا چھوٹ گئی“ کہا ہے، اگر وہ پہلی بات کی خبر ہے، تو آخر دو سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی؛ لہذا سوال

نامہ میں درج شدہ صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کی اجازت ہے؛ لیکن اگر شوہر نے بعد کی دونوں بار میں الگ الگ دوبارہ طلاق کی نیت کی ہو یا کچھ نیت نہ کی ہو، تو پھر تین طلاق پڑ جائیں گی، اس کے بارے میں شوہر سے معلوم کر لیا جائے، اسی کے قول پر حکم شرعی کا اعتبار ہوگا۔

ولو قال: ”رہا کردم“: أي سرحتك يقع به الرجعي. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، کراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۴/۳/۵۳۰)
الصريح يلحق الصريح. (درمختار مع الشامی، زکریا ۴/۵۴۰، کراچی ۳۰۶/۳)

لو قال: أنت طالق، أنت طالق..... تقع ثنتان إذا كانت المرأة مدخولا بها، ولو قال: عنيت بالثاني الإخبار عن الأول..... يصدق فيما بينه وبين الله تعالى! (ہندیہ، کتاب الطلاق، الباب الثانی فی إيقاع الطلاق، الفصل الاول فی إيقاع الطلاق الصريح، زکریا ۱/۳۵۵، جدید زکریا ۱/۲۳/۴) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۲/۷/۱۴۳۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۲/رجب المرجب ۱۴۳۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۹/۱۰۱۴۵)

بیوی طلاق صریح کی عدت کے بعد بائنتہ ہو جاتی ہے

سوال [۶۲۸۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں بدرالدین ولد حاجی رئیس الدین ساکن امر وہہ مراد آباد کا حسین فاطمہ دختر مولانا نسیم الدین صاحب کے ساتھ شرعی طور پر عقد نکاح ہوا، اس نکاح پر میرے گھر والے دباؤ کے ساتھ راضی ہوئے اور بعد میں گھر والوں کی ناراضگی باقاعدہ ظاہر ہوئی

اور ہم دونوں کو والد صاحب نے کچھری لے جا کر سادہ اسٹامپ پر دستخط کرائے، اس کے بعد میرے والد صاحب نے بیوی کے والد سے کہا کہ تمہاری لڑکی نے میرے لڑکے سے طلاق لے لی ہے؛ لہذا تم اپنی لڑکی کو لے جاؤ اس کے بعد آپس میں ایک پنچایتی میٹنگ ہوئی، اس میں دوران گفتگو بعض حاضرین نے مجھ سے کہا کہ تم نے لڑکی کو طلاق دیدی، تو میری زبان سے صرف ایک مرتبہ یہ جملہ نکلا کہ اگر لڑکی طلاق چاہتی ہے، تو میں نے طلاق دیدی اور اس واقعہ کو تقریباً چار سال ہونے جا رہا ہے، پھر دوبارہ اپنی بیوی کو نکاح میں رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لئے شرعی حل بتلائیے۔

المستفتی: بدرالدین، امر وہ، محلہ گذری، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سائل اپنے بیان میں سچا ہے اور واقعی سادہ اسٹامپ پر ہی دستخط کرایا گیا ہے اور نہ بدرالدین لکھا ہے اور نہ ہی لکھوایا ہے، اور نہ ہی کسی کی تحریر پر سن کر اپنی مرضی سے دستخط کیا ہے، تو اس سے کوئی طلاق شرعاً واقع نہیں ہوئی ہے۔

کل کتاب لم یکتبه بخطه ولم یملہ بنفسه لا یقع الطلاق، ما لم یقر

أنه کتابه. (شامی، کتاب الطلاق، قبیل باب الصریح، زکریا ۴/۶۵۶، کراچی ۲۴۷/۳)

کل کتاب لم یکتبه بخطه ولم یملہ بنفسه لا یقع به الطلاق إذا لم یقر أنه

کتابه. (ہندیہ، کتاب الطلاق، قبیل الفصل السابع با لفاظ الفارسیہ، زکریا قدیم

۳۷۹/۱، زکریا جدید دیوبند ۴۴۶/۱)

اور حاضرین مجلس کے سامنے بدرالدین کا جملہ کہ اگر لڑکی طلاق چاہتی ہے، تو میں نے طلاق دیدی ہے، تو اس سے شرعاً ایک طلاق رجعی واقعی ہو چکی ہے، اور اس میں جو تعلق ہے وہ خالی ہے، اس پر معلق نہیں ہوا کرتا ہے۔ نیز اب عدت بھی گزر چکی ہے؛ اس لئے مذکورہ طلاق بائنہ ہو چکی ہے؛ لہذا اب اگر وہ دوبارہ رکھنا چاہے تو تجدید نکاح کے بعد ہی رکھ سکتا ہے۔

لأن التعليق بكائن تنجيز . (شامی، زکریا ۴/ ۵۸۱، کراچی
۳/ ۳۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۶/ ۲۷ قعدہ ۱۴۱۰ھ

۱۱/ ۱۱/ ۱۴۱۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/ ۲۶/ ۲۰۲۹)

کیا لفظ سے صریح دی گئی طلاق عدت کے بعد بائن ہو جاتی ہے؟

سوال [۶۲۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق لکھ کر بھیج دی، صرف ایک جگہ جس کو تقریباً ساڑھے تین ماہ ہو گئے، ایسی صورت میں مجھ کو کیا کرنا چاہئے۔

المستفتی: منت اللہ، تلوا کھر کا سہرسہ (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں ایک طلاق کے بعد عدت گزر جانے کی وجہ سے طلاق بائن ہو چکی ہے؛ لہذا اب آپ بیوی سے دوبارہ نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔

عن الحسن فلا تعضلوہن، قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال زوجت أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك، وفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن، فقلت: الآن أفعل يارسول الله! قال: فزوجها إياه. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي، النسخة الهندية ۲/ ۷۷۰، رقم: ۹۳۷، ۴، ف: ۱۳۰، سنن الترمذي، التفسير

سورة البقره النسخة الهندية ۲/ ۱۲۷، دارالسلام رقم: ۳۶۱۵)

إذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها .
(عالمگیری، کتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة،
زکریا ۱/۴۷۲ جدید زکریا ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، الفتاویٰ التاتاریخانیہ،
زکریا ۵/۴۸، رقم: ۷۵۰، ۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف: ۳۵/۶۵۳۸)

کہا کہ ”طلاق دے رہا ہوں“ طلاق کا حکم

سوال [۶۲۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں، اس حال میں کہ بیوی اس کے سامنے موجود تھی اور اس شخص نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا ہے کہ ایک طلاق دے رہا ہوں یا دو طلاق دے رہا ہوں، صرف طلاق دے رہا ہوں یہ کہا ہے، تو طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟ اگر واقع ہوگئی، تو کتنی طلاق واقع ہوں گی؟ قرآن وحدیث کے مطابق فیصلہ فرمائیں آپ کا عین کرم ہوگا۔

المسفتی: عبدالماجد ۲۴-پرگنہ، مسجد میاں والی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس جملہ حالیہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور تعداد ذلک نہ کرنے کی صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے، عدت کے اندر رجعت کر سکتا ہے۔

عن عبد اللہ وعن ناسٍ من أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان: قال هو الميقات الذي يكون عليها

فیه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو اثنتين فإما أن يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الرجعة، دارالفکر بیروت ۱۱/۲۸۱-۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

ولو قال: أطلقك لم يقع إلا إذا غلب استعماله في الحال. (الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق قديم ۱/۳۸۷، جديد دارالكتب العلمية بيروت ۲/۱۴)

ولو قال: أطلقك إن نوى به الطلاق يقع والإفلا. (تاتارخانية، زكريا ۴/۴۰۱، رقم: ۶۵۲۳)

لو قال بالعربية: أطلق لا يكون طلاقاً إلا إذا غلب استعماله للحال، فيكون طلاقاً. (هندية، زكريا ۱/۳۸۴ كتاب الطلاق الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية جديد زكريا ۱/۴۵۲)

أنت طالق ومطلقة وقد طلقتك؛ فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة. (الجوهرة، كتاب الطلاق، امدادية ملتان ۲/۱۰۲، دارالكتاب ديوبند ۲/۹۹) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۰ رمضان المبارک ۱۴۱۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۱۹۵۲۲۶)

”میں تم کو طلاق دے رہا ہوں،، سے طلاق

سوال [۲۲۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ موبائل فون پر ہورہی گفتگو میں استعمال ہوئے مندرجہ ذیل جملے:

(۱) ٹھیک ہے تو پھر میں تم کو طلاق دے رہا ہوں، اپنے می پاپا کو بول دینا دو بڑے لوگوں کو لے کر آجائیں اور سامان اٹھالیں اس پر میری منکوحہ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے

وضاحت کرتے ہوئے پھر کہا۔

(۲) اپنے می پاپا کو بولنا دو گواہوں کو لے کر آئیں ”میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں“ یہ جملہ پہلے والے جملہ کو سمجھانے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا کہ جب وہ لوگ آجائیں گے، تو دو گواہوں کے سامنے تخریر میں طلاق ہو جائے گی۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ ازراہ کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ صادر فرما کر ممنون و مشکور کریں جزاک اللہ۔

المستفتی: سید ایتام الرحمن شبلی ولد فرزند جناب سید اکرام الرحمن، شاہ فہم علی روڈ مہرا آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق سے متعلق جو جملہ استعمال کئے گئے ہیں، وہ جملہ دو معنوں کو مشترک ہیں۔

(۱) حال کے معنی میں ہیں کہ طلاق دیتا ہوں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں اسی وقت طلاق دے رہا ہوں، تو ایسی صورت میں پہلے جملے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے اور بعد کے سارے جملے اسی کی خبر ہیں؛ اس لئے بعد کے جملوں سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔

(۲) اس کا دوسرا معنی مستقبل کا ہے کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں یعنی آئندہ میں تم کو طلاق دیدوں گا، تو ایسی صورت میں اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اور یہ وعدہ طلاق ہوگا اور بیوی کے پوچھنے پر شوہر نے جو جوابی جملے استعمال کئے ہیں، وہ سب اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آئندہ میں تمہیں طلاق دیدوں گا کہ بڑے لوگوں اور گواہوں کو لے کر آجائیں، ان کے سامنے باضابطہ طلاق دیدی جائے گی، اس دوسرے معنی کے اعتبار سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اور پہلے معنی کے اعتبار سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی۔ اور عدت کے اندر رجعت کر کے میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔

لوقال أطلق بالعربية: لا يكون طلاقاً. (ھندیۃ، کتب الطلاق، الفصل السابع

فی الطلاق بالألفاظ الفارسیۃ، زکریا قلدیم ۱/۳۸۴، زکریا جدید دیوبند ۱/۴۵۲)

ولو قال: أطلقك إن نوى به الطلاق يقع وإلا فلا. (الفتاویٰ

التاتارخانیة ۴/ ۴۰۱، رقم: ۶۵۲۳)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين، فله أن يراجعها في

عدتها. (ہندیة، کتاب الطلاق، الباب السادس فی الرجعة، زکریا قدیم ۱/ ۴۷۰، زکریا

جدید دیوبند ۱/ ۵۳۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳/ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۶۸)

بنگہ زبان میں طلاق کے لئے مستعمل الفاظ استعمال کرنا

سوال [۶۲۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ صوبہ بنگال کارہنے والا ایک شخص اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے میں

اپنی ہی زبان میں کچھ ایسے الفاظ کہے کہ جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میں نے تم کو

چھوڑ دیا اور یہ الفاظ اس نے ایک ہی مجلس میں تین بار کہا، تو کیا یہ طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟

اگر ہوگئی تو کون سی طلاق ہوئی؟

المستفتی: محمد مظہر الحق، مرشد آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: میں نے تم کو چھوڑ دیا” اردو بولنے والوں کے حق میں

صریح طلاق کے درجہ میں ہے، اسی طرح بنگال میں جو لفظ بیوی کو طلاق دینے کے لئے بولا

جاتا ہے، وہاں والوں کے حق میں طلاق صریح ہے؛ لہذا جب ایسے لفظ سے تین مرتبہ طلاق

دی، تو اس سے طلاق مغلظہ واقع ہوگئی۔

سرحتک وهو ”رہا کر دم“ لآ نہ صار صریحاً فی العرف علی

ماصرح به الزاهدي- فإذا قال رها کردم أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضاً، وقدم أن الصريح مالم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت. (شامی، کتاب الطلاق، باب الكنایات، كراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۴/۵۳۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸/رجب المرجب ۱۴۲۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۳۲/۶۲۴۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۷/۱۸ھ

لفظ ”لا“ نہ صریح ہے اور نہ ہی کنایہ

سوال [۶۲۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ۱۲ جولائی ساڑھے گیارہ بجے میرا اور میری بیگم کا آپس میں تکرار ہو گیا، بات کافی طول پکڑ گئی، میں نے غصہ کی حالت میں اپنی بیوی کو دو طلاق دیدی فوراً میری بیوی میرے پاس قرآن شریف لے آئی اور مجھ کو قرآن کا دوسطر دیا کہ آگے کچھ نہ کہنا۔ بات اس وقت یہیں پر ختم ہو گئی، قریب دو بجے پھر ہم دونوں میاں بیوی میں تکرار ہوا، میں نے بیوی کو ڈرانے کی غرض سے اور قرآن شریف کی قسم کو دھیان میں رکھتے ہوئے صرف بیوی کو ڈرانے کے لئے لا لفظ کئی بار کہا، میری بیوی میرے سے قریب ۲۰ فرٹ کی دوری پر تھی، اس نے طلاق سمجھا، میں نے طلاق دینے کی غرض سے لائیں کہا تھا، صرف ڈرانے کے لئے کہا تھا، حضرت میرے اس معاملہ کو قرآن کی روشنی میں بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ ہم دونوں کی ایک دوسرے سے جدائی نہیں ہونی چاہئے۔

المستفتی: مسعود اختر، سیوہارہ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر صرف دو ہی طلاق دیں ہیں تو اس سے دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا، کقولہ أنت طالق أنت طالق .

(الدر المختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۲/۳، ۲۵۲، زکریا ۴/۶۳) آئندہ جب بھی ایک طلاق دے گا تو مغلطہ ہو جائے گی، لفظ لا طلاق کے الفاظ میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی الفاظ کنایات میں سے ہے؛ اس لئے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷/زی قعدہ ۱۴۰۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۳۵۵)

”میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی“ کہنا

سوال [۶۲۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ غلام بنی و محمود ایک جگہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، دوران گفتگو دونوں میں بحث ہو گئی کہ یار گھر والیاں پریشان کرتی ہیں، دوسرا بولا ہاں میری بیوی بھی پریشان کرتی رہتی ہے، دوسرے نے کہا طلاق دیدو، اس نے کہا کہ پہلے تو دیدے، محمود نے کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کے کہنے پر غلام نبی نے بھی کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ایسی صورت میں کیا دونوں کی بیویوں کو طلاق ہو گئی یا نہیں، اس موقع پر تین اور آدمی بھی موجود تھے، دونوں کی بیویاں اپنے اپنے گھر میں تھیں۔

المسفتی: غلام نبی، مقیم پورا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر طلاق کا لفظ صرف ایک ایک دفعہ کہا جیسا کہ سوال نامہ میں ہے، تو دونوں کی بیویوں پر ایک ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی ہے، رجعت کر کے میاں بیوی جیسی زندگی گزار سکتے ہیں۔

عن عبد الله وعن أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان: قال هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة، أو اثنتين، فإما أن يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها. (سنن كبرى لبيهقي، كتاب الرجعة، دارالفكر بيروت ۲۸۱/۱۱-۲۸۲، رقم: ۱۰۵۳۹، مكتبه دارالحديث القاهره ۶۴۶/۷، رقم: ۱۰۱۵۰)

فالصريح قوله أنت طالق، ومطلقة وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجعي. (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق، اشرفي ديوبند ۳۵۹/۲) ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه. (شامی، کراچی ۲/۴۸، زکریا ۴/۴۵۸)

وفي أنت الطلاق، وأنت طالق (إلى قوله) يقع واحدة رجعية. (تنوير مع الدر المختار، کراچی ۳/۲۵۱، زکریا ۴/۴۶۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۲ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۵/۱۷)

”ایک مرتبہ میں نے تجھے طلاق دی“ کہنا

سوال [۶۲۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہر نے اپنی بیوی سے ایک بار یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی اور بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ ایک بار یہ الفاظ کہے ہیں، اس کے بعد شوہر نے رجعت کر لی یعنی بیوی اس کے بعد دو مہینہ شوہر کے گھر میں رہی اور حقوق زوجیت ادا کرتی رہی، پھر وہ اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور اس نے اپنے گھر والوں سے بتایا کہ مجھے میرے شوہر نے یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ اب اس لڑکی کے خاندان والے یہ کہتے ہیں کہ نکاح

ٹوٹ گیا، دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ اس طلاق کا شرعاً حکم قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان فرما کر ممنون فرمائیں۔

المستفتی: رمضان علی، ساکن بٹاری، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر شوہر نے ”میں نے تجھے طلاق دی کا لفظ صرف ایک مرتبہ کہا ہے، تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے اور سوال نامہ سے واضح ہوتا ہے کہ شرعی طور پر رجعت بھی ہو چکی ہے؛ اس لئے سوال نامہ کی درج شدہ صورت میں میاں بیوی کا ازدواجی رشتہ بدستور قائم ہے اور دونوں آپس میں میاں بیوی والی زندگی گزار سکتے ہیں۔

قال الله تعالى: 'فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ'. [الطلاق: ۲]
عن عبد الله وعن أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان: قال: هو الميقات الذي يكون عليها
فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو اثنتين فإما أن يمسك ويراجع بمعروف،
وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها. (سنن كبرى
للبهقي، كتاب الرجعة، دار الفكر بيروت ۱۱/ ۲۸۱-۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقه رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في
عدتها رضيت بذلك، أو لم ترض. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة اشرفي
ديوبند ۲/ ۳۹۴، هندية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، زكريا قديم ۱/ ۴۷۰،
زكريا جديد ديوبند ۱/ ۵۳۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۲/۱۲/۲۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹/ ذی الحجۃ ۱۴۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۸۶۲۹)

”جامیں نے تجھیآ زادکیا“ سے طلاق

سوال [۶۲۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو ان الفاظ میں طلاق دی ”جامیں نے تجھے آزاد کیا“ اور میں نے یہ جملہ صرف ایک بار کہا، تو مسئلہ صورت میں کونسی طلاق واقع ہوئی۔ اب اگر رکھنا چاہیں، تو اس کے لئے کیا صورت ہوگی؟

المستفتی: محمد مہراج، کالا پیادہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: آزاد کر دیا کا لفظ ہمارے عرف میں طلاق ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے؛ لہذا مسئلہ صورت میں بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنے کی گنجائش ہے۔

فإذا قال رها كردم أي سرحتك تقع به الرجعي. (شامی، کتاب

الطلاق، باب الکنايات، کراچی ۳/۲۹۹، زکریا ۴/۵۳۰)

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في العدة

رضیت بذلک أو لم ترض. (ہدایہ، کتاب الطلاق، باب الرجعة أشرفی دیوبند ۲/۳۹۴،

ہندیہ ۱/۴۷۰، جدید زکریا ۱/۵۳۳، قلوبی امدایہ دیوبند ۱۷۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۱۱/۱۶ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶/۱۱/۱۴۳۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۲۱۲)

لفظ طلاق کے بعد متعدد بار دیدیکہنے کا حکم

سوال [۶۲۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ زید اور اس کی بیوی ہندہ کے درمیان آپسی جھگڑے میں بات بڑھ گئی اور گفتگو کے درمیان زید نے اپنی بیوی ہندہ کو برا بھلا کہا، اس پر ہندہ نے کہا کہ طلاق دیدے، لہذا زید نے کہا کہ ”جا طلاق دیدی، دیدی“ دو بار کہا۔

جواب طلب امر یہ ہے کہ ہندہ پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اور طلاق واقع ہوئی تو کونسی واقع ہوئی اور اس کا کیا حکم ہے؟ صورت حال اب یہ ہے کہ زید اور اس کی بیوی ہندہ پھر میاں بیوی کی طرح رہنا چاہتے ہیں، موقع کے گواہوں نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ زید نے ۲ بار طلاق دی ہے؛ جبکہ ہندہ کا بیان ہے کہ لفظ طلاق تو ایک ہی بار کہا اور دیدی دیدی بیشمار بار کہا؛ لہذا حکم شریعت سے باخبر فرمائیں اللہ اچھے گواہ ہے۔

المستفتی: محمد افضال، ساکن شکرپہ، بے پی ٹی ٹر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: لفظ طلاق استعمال کرنے کے بعد جب دیدی کا لفظ استعمال کرے گا، تو ہر مرتبہ طلاق واقع ہو جائے گی، تین مرتبہ دیدی کہے، تو اس سے تین طلاق مغالظہ واقع ہو جائیں گی اور اگر دو یا ایک مرتبہ کہے تو اس سے دو یا ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

عورت اس بات کی مدعی ہے کہ شوہر نے لفظ دیدی تین سے زیادہ مرتبہ کہا اور اس پر بیوی کے پاس دو شرعی گواہ موجود نہیں ہیں اور مرد اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ دو مرتبہ کہا ہے اور اس کے قول کے دو گواہ بھی ہیں، تو اس صورت میں شرعاً بیوی کے قول کا اعتبار نہیں ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں دو طلاق رجعی واقع ہوں گی اور عدت کے اندر اندر رجعت کر کے بیوی کو رکھ سکتا ہے؛ لیکن شوہر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر دو ہی مرتبہ کہا ہے، تو بیوی اس کے لئے حلال ہے اور اگر ہمارے سامنے غلط بیان کے ذریعہ دو مرتبہ کہنے کو ثابت کیا ہے اور واقع میں تین مرتبہ کہا ہے تو بیوی اس کے لئے حلال نہیں ہوگی۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۴۳۰)

قال الله تعالى: **وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ**. [البقرہ: ۲۸۲]

و ما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا، أو غير مال مثل النكاح والطلاق. (هداية، كتاب لشهادة، اشرفي ديوبند ۱۵۴/۳، درمختار، زكريا ۱۷۸/۸، كراچي ۴۶۵/۵، هندية، زكريا ۴۵۱/۳، الجوهرة، ملتان ۳۲۶/۲، دارالكتاب ديوبند ۳۰۹/۲، البحر الرائق ۶۲/۷، زكريا ۱۰۴/۷)

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقتراجمية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة اشرفي ديوبند ۳۹۴/۲، هندية، زكريا قديم ۴۷۰/۱، زكريا جديد ديوبند ۵۳۳/۱، قدوري امدادية ديوبند ۱۷۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۶/۲۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۶۷۸۶/۳۵)

”لفظ طلاق دی، دی، دی“ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۹۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے بھائی نے غصہ کی حالت میں اپنی بیوی کو یہ جملہ کہہ دیا کہ ”طلاق دی، دی، دی“ اس جملہ کو سن کر پڑوس کے حافظ صاحب آگئے اور دونوں کو الگ ہونے کو کہا، یہ طلاق ہوگئی یا نہیں؟

المستفتی: محیونس

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق کے ساتھ دی، دی، دی تین مرتبہ کہنے کی وجہ سے بیوی پر تین طلاق واقع ہوگئی ہیں۔ اب بلا حلالہ دوبارہ نکاح بھی جائز نہیں ہوگا۔ (مستفاد:

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جدید ۲۱۶/۹)

عن سماک قال: سمعت عکرمۃ یقول: الطلاق مرتان: فإمساک بمعروف، أو تسریح بإحسان، قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نکحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نکحها، فإذا طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره. (المصنف لابن أبي شیبة، ما قالوا فی الطلاق مرتان جدید مؤسسة علوم القرآن بیروت ۱۰/۹۷، رقم: ۱۹۵۶۴)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ شوال ۱۴۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۸۵۵۹۳)

دو مرتبہ میں نے تجھے طلاق دی سے طلاق کا حکم

سوال [۶۲۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، اسی دوران میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو چلی جا میں نے تجھے طلاق دی، تو چلی جا میں نے تجھے طلاق دی، دو مرتبہ کہا ہے۔ مذکورہ صورت میں میری بیوی پر کتنی طلاق واقع ہوگئی ہیں؟ اب میری بیوی میرے گھر آگئی ہے، میں اس کو رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟

المستفتی: محمد جنید ساکن، محمود پور، مینا ٹھیر، مراد آباد

منجانب: دارالافتاء جامعہ نعیمیہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر بیوی سے پہلے ہم بستری ہو چکی ہو۔ نیز اس سے پہلے آپ نے کبھی ایک طلاق دے کر لوٹا نہ لیا ہو تو آپ کی بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہوئیں،

عدت کے اندر اگر آپ چاہیں تو اس کو لوٹا سکتے ہیں، جس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پابند شرع گواہوں کے سامنے کہیں کہ میں نے اپنی اس بیوی کو لوٹایا۔

قال عز اسمه: الطلاق مرتان: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآية
فتاویٰ خیریہ میں ہے:

سئل في رجل قال لزوجته: زوجي طالق؛ هل تطلق طلاقاً رجعياً، أم بائناً؟ وإذا قلتم تطلق رجعياً فما الفرق بينه وبين ما إذا قتلصر على قوله زوجي ناويابه الطلاق، حيث أفهتيم بأنه بائن زوجي أجاب بأنه في قوله زوجي طالق بصفة الطلاق، فوقع بالصریح. فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: محمد ایوب نعیمی غفرلہ
۲۱ جمادی الثانیہ ۱۴۰۹ھ

منجانب: دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: لفظ چلی جا ان کنایات میں سے ہے کہ جن میں طلاق واقع ہونے کے لئے ہر حال میں نیت شرط ہے، اگر اس سے طلاق کی نیت نہیں کی تھی، تو لفظ تجھے طلاق دی، دومرتبہ کہنے پر ۲ طلاق رجعی واقع ہوگئی ہیں؛ لیکن سائل سے زبانی معلوم ہوا کہ یہ ۹ ماہ پہلے کا واقعہ ہے؛ اس لئے اب عدت گزر جانے کی وجہ سے دونوں طلاقیں بائنہ ہوگئی ہیں؛ اس لئے بغیر نکاح کے شوہر کے پاس نہیں رہ سکتی ہے اور شوہر بلا حلالہ دوبارہ نکاح کر کے رکھ سکتا ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۴۳۶، فتاویٰ دارالعلوم ۹/۲۷۳)

رجل قال: لامرأته بعد الدخول بها أنت طالق طالق تقع ثنتان.

(الفتاویٰ التاتارخانیة، زکریا ۴/۲۹، رقم: ۶۵۹۵)

عن سماک قال: سمعت عکرمۃ یقول: الطلاق مرتان:

فإمساک بمعروف أو تسریح یا حسان، قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نکحها، وإذا طلقها نکتین فإن شاء نکحها، فإذا طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنکح زوجاً غیره. (المصنف لابن أبي شیبة، ما قالوا فی الطلاق مرتان مؤسسة علوم القرآن بیروت ۱۰/۱۹۷، رقم: ۱۹۵۶)

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بها، کقولہ أنت طالق أنت طالق. (الدر المختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۳/۲۵۲، زکریا ۴/۴۶۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۱ جمادی الاخریٰ ۱۴۰۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۴/۱۲۸۳)

”ہاں میں نے طلاق دی اسے“ نکالو اسے یہاں سے“ کہنے کا حکم

سوال [۶۲۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی بات پر شوہر بیوی اور ساس میں جھگڑا ہوا، اسی دوران ساس نے یعنی لڑکے کی ماں نے اپنے لڑکے سے کہا کہ بیوی کو طلاق دے، ماں کے کہنے پر اور کچھ غصہ کی حالت میں لڑکے نے کہا کہ ”ہاں میں نے طلاق دی اسے، اور نکالو اسے یہاں سے“ بالکل یہی الفاظ لڑکے کی زبان سے ادا ہوئے اور ایک ہی بار ادا ہوئے ہیں۔

اس واقعہ کے بعد لڑکی کے میکے والے آگئے اور وہ لڑکی کو اور سامان کو لیجانے پر آمادہ ہوئے، تو پھر لڑکے نے مزید یہ کہا کہ سامان ایسے نہیں دوں گا، اسٹامپ لے کر آؤ اور لکھ کر دو کہ سامان وصول پایا، تو ان حالات میں یہ بتانے کی زحمت فرمائیں کہ آیا مسلک حنفیہ کے مطابق طلاق ہوئی یا نہیں؟ یا کونسی ہوئی؟ اور اس کا تدارک کیا ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ”میں نے طلاق دی اسے“ اس جملہ سے بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے۔ دوسرا جملہ ”نکالو اسے یہاں سے“ اس جملہ سے شوہر نے اگر طلاق کی نیت کی ہے، تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور پہلی طلاق بھی بائن ہو جائے گی، تو دو طلاق بائنہ واقع ہو جائیں گی، بلا حلالہ دوبارہ نکاح کر کے زوجیت میں رکھ سکتا ہے اور اگر دوسرے جملہ سے طلاق کی نیت نہیں ہے، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، صرف پہلے جملہ سے ایک طلاق رجعی ہوگئی ہے۔

كما استفادہ من الہندیة: امرأة قالت لزوجها: طلقني، طلقني، طلقني فقال الزوج: قد طلقتك ثلاثا. (عالمگیری، کتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، زکریا ۱/۳۵۶، جدید زکریا ۲/۴۲۳)

اخر جي، اذہبی، تلزم النية في تذكرة الطلاق الخ. (شامی، باب الكنايات، زکریا ۴/۵۳۴، کراچی ۳/۳۰۲، کوئٹہ ۲/۵۰۵)

كل لفظ يستعمل في الطلاق ويستعمل في غيره قوله نحو أنت بائن..... قومي، اخرجي..... وإذا احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغير الطلاق، فقد استتر المراد منها عند السامع فافتقرت إلى النية لتعيين المراد. (بدائع الصنائع، زکریا ۳/۱۶۷، ۱۶۹)

أن من الكنايات ثلاث عشرة لا يعتبر فيها دلالة الحال، ولا تقع إلا بالنية جلك على غاربك..... اخرجي، اذہبی. (البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۳۰۲، ۳۰۳، زکریا ۳/۵۲۶) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۶ شعبان المعظم ۱۴۰۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۴۲/۸۶۲)

جب مجھے رکھنا نہیں تو ان باتوں سے کیا فائدہ میں نے تو طلاق دیدی

سوال [۶۲۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تقریباً ۱۲ سال قبل فاطمہ کا نکاح زید کے ساتھ ہوا تھا، جس کے تین سال بعد فاطمہ کی ساس نے فاطمہ پر الزام تراشی شروع کر دی، یہاں تک کہ گزری کہ تیرے سر نے تیرے لئے ایک مستقل کمرہ بنا لیا ہے، جس میں تیرے ساتھ ناجائز کام کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئے گی اور میں نے تمہیں خفیہ بات چیت کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کو اس طرح مٹھائی دیتے ہوئے دیکھا، جیسے شوہر بیوی کو دیتا ہے، اور یہ کہا کہ تم دونوں کو تنہا ایک کمرے میں بھی دیکھا ہے۔

مختصر یہ کہ ساس اپنی یہ باتیں کہہ کر زنا کا الزام لگانا چاہ رہی ہے اور جب یہ بات شوہر کے پاس پہنچی تو شوہر نے یہ کہا کہ جب مجھے تجھے رکھنا ہی نہیں، تو ان باتوں سے کیا فائدہ، میں نے تو طلاق دیدی، پھر فوراً ساس بولی کہ مجھے تو رکھنا ہے، طلاق نہیں دلوا سکتے حالانکہ شوہر کہہ چکا ہے، اس دوران جتنے لوگوں نے یہ باتیں سنیں وہ سب طلاق اور ساس کی جانب سے لگائے گئے زنا کے الزام کی گواہی دینے سے مکر رہے ہیں، یہاں تک کی شوہر بھی مکر رہا ہے۔ اور اس کے بعد سے اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ طلاق دیں گے اور نہ ہی رکھیں گے؛ بلکہ اسی طرح زندگی بھر سڑا دیں گے اور فاطمہ کسی بھی شکل میں شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ بیوی شوہر کے پاس رہنا نہیں چاہتی اور شوہر رکھنا نہیں چاہتا ہے اور نہ ہی اب طلاق دے رہا ہے، نہ خلع کی بھی کسی شکل پر راضی ہے؛ حالانکہ آٹھ سال قبل بھری مجلس میں شوہر نے یہ کہا تھا ”جب مجھے رکھنا ہی نہیں، تو ان باتوں سے کیا فائدہ میں نے تو طلاق دیدی“ اگر گواہوں اور خود شوہر کے انکار کی بنیاد پر طلاق واقع نہیں ہوئی، تو عورت

کے لئے شوہر سے خلاصی کے لئے کوئی صورت ہو، تو تحریر فرمائیں۔

المسفتی: عبدالرزاق ملتانی، کھرگون (ایم پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: خسر اور بہو ایک دوسرے کے لئے محرم شرعی ہیں، ان میں آپس میں ایسا ہی نکاح کبھی جائز نہیں ہوتا، جیسا کہ باپ بیٹی کے درمیان میں نہیں ہوتا، اگر دونوں کو ایک کمرہ میں دیکھا گیا ہے یا دونوں کو محض بات کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے یا مٹھائی کھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے دونوں کے بارے میں اتنا بڑا غلط الزام قائم کرنا شرعاً بہتان عظیم ہے، اس سے توبہ کرنا لازم ہے۔

نیز گفتگو کے دوران شوہر کا یہ کہنا کہ ”جب مجھے تجھے رکھنا ہی نہیں تو کیا فائدہ میں نے طلاق دیدی“ اگر یہ بات اپنی جگہ فی الواقع صحیح ہے، تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے، اگر اس واقعہ کے بعد میاں بیوی آپس میں ساتھ میں نہیں رہے ہیں، تو تین ماہ واری گزرنے کے بعد یہی طلاق رجعی بائنہ ہو جائے گی، مگر سوال نامہ میں رجعت کرنے یا نہ کرنے کی کوئی صراحت نہیں اور اگر اس واقعہ کے بعد تین ماہ واری گزرنے سے پہلے دونوں ساتھ میں رہ چکے ہیں، تو اس طلاق کے بارے میں خود بخود رجعت بھی ہوگئی ہے اور رجعت کے بعد شوہر کا بیوی کو اپنے پاس رکھنا شرعی طور پر جائز اور درست ہے، کچھلی باتوں کا انکار کرے، تب بھی جائز ہے اور انکار نہ کرے تب بھی جائز ہے۔ اور جھوٹ بولنا پھر اس سے انکار کرنا گناہ کبیرہ ہوگا اس سے توبہ کرنا لازم ہوگا۔

المحرم من حرم نکاحه علی التأبید بنسب، أو مصاهرة، أو رضاع،

أوبوطء حرام. (قواعد الفقه، اشرفی دیوبند ۴۷۰)

صريحه مالم يستعمل إلا فيه كطقتك و أنت طالق..... يقع بها

أي بهذه الألفاظ واحدة رجعية. (در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الصريح،

کراچی ۳/۴۷، ۲، ۲۴۹، زکریا ۴/۴۵۷، ۴۶۰)

الرجعة هي مادامت في العدة وتصح بالفعل مع الكراهية بكل ما يوجب حرمة المصاهرة كمس. وفي الشامية: ودخل الوطأ والتقبيل بشهوة على أي موضع كان. (در مختار مع الشامی، زکریا ۲۳/۵-۲۵، کراچی ۳/۳۹۷-۳۹۹)

إذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها. (هندية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، زكريا قديم ۱/۴۷۲، زكريا جديد ديوبند ۱/۵۳۵، هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۹۹)

اتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة..... سواء كانت المعصية صغيرة، أو كبيرة. (شرح المسلم للنووي، كتاب التوبة، ۲/۳۵۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ جمادی الثانیہ ۱۴۳۳ھ
فتویٰ نمبر: الف/۱۳۹/۲۷۱۰

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۸/۶/۱۴۳۳ھ

”طلاق تو پہلے دے چکا ہوں“ کہنے سے طلاق کا حکم

سوال [۲۲۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ۶/ مارچ ۲۰۰۳ء کا واقعہ ہے کہ ایک مقدمہ کے سلسلہ میں میرے شوہر نعیم احمد اور اس کے متعلقین اور میں اور میرے متعلقین کچھری مراد آباد میں فیملی کورٹ کے باہر جمع تھے، وہاں پر نعیم احمد نے سبھی متعلقین کے سامنے زور زور سے کہا کہ میں اپنی بیوی پر ویز النساء کو طلاق تو بہت پہلے دے چکا ہوں، صرف ڈاکٹر صاحب (میرے والد گرامی) کو پریشان کرنے کے لئے سب کچھ کر رہا ہوں اور نعیم احمد نے یہ بھی کہا کہ میرے لکھے کو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا ہے، یہ بات نعیم احمد نے کئی بار کہا، نعیم احمد کے اس بیان کو خود میں نے سنا اور میرے والد نے سنا اور اسکے علاوہ چھ حضرات ہیں جنہوں نے نعیم احمد کے ان الفاظ کو سنا، جن کے تحریری بیانات موجود ہیں؛ لہذا مندرجہ ذیل سوالات عرض ہیں جو اب تحریر فرمادیں۔

(۱) مندرجہ بالا تحریر کی روشنی میں میرے اوپر طلاق شرعی واقع ہوئی یا نہیں؟ اور کتنی واقع ہوئیں؟

(۲) نعیم احمد کے اس بیان سے پہلے سے اب تک تقریباً ڈیڑھ سال سے تاہنوز میں نعیم احمد سے جدا ہوں، تو کیا طلاق واقع ہونے کی صورت میں مجھ پر عدت واجب ہے یا نہیں؟ یا عدت مکمل ہوگئی؟

(۳) نعیم احمد اپنے سابقہ فکرو عمل یہاں تک کہ کفریہ الفاظ کی وجہ سے جھوٹا اور غیر متشرع ثابت ہو چکا ہے، تو کیا ان گواہان کے بیان کی موجودگی میں نعیم احمد کا منکر طلاق ہونا شرعی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں؟

(۴) نعیم احمد کے اس کفریہ جملہ (میرے لکھے کو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا ہے) کی وجہ سے میرے اور نعیم احمد کے زن و شو کے تعلقات پر کیا اثر مرتب ہو سکتا ہے؟

(۵) مذکورہ بالا تحریرات و بیانات کی روشنی میں اب میں نعیم احمد کے ساتھ کس طرح کا شرعی تعلق قائم رکھ سکتی ہوں؟

المستفتیہ: پرویز النساء بنت ڈاکٹر محمد رضا صاحب، بی ۱۹۷۱ لاجپت نگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: نعیم احمد کا یہ کہنا کہ میں پرویز النساء کو طلاق تو بہت پہلے دے چکا ہوں، محض اس کہنے کی وجہ سے اقرار طلاق کا ثبوت ہو جاتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے طلاق دی تھی یا نہیں، اگر اس سے پہلے طلاق نہیں دی تھی، تو محض اس اقرار کی وجہ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی اور اگر اس سے پہلے طلاق دے چکا تھا، تو یہ سابقہ طلاق کا اقرار کرتا ہے اور سابق میں کتنی طلاق دی تھیں، وہ نعیم احمد سے پوچھ لیا جائے، وہ جتنی طلاق کا اقرار کرتا ہے، اتنی ہی طلاق واقع ہوں گی، اگر ایک طلاق کا اقرار کرتا ہے، تو ایک طلاق رجعی اور اگر دو طلاق کا اقرار کرتا ہے، تو دو طلاق رجعی اور اگر تین طلاق کا اقرار کرتا ہے، تو پھر طلاق مغلظہ واقع ہوگئی اور ایک طلاق اور دو طلاق کی صورت میں عدت کے اندر اندر رجعت کا حق

تھا اور نعیم احمد نے ۶ مارچ ۲۰۰۳ء کو طلاق دینے کا اقرار کیا اور اس وقت سے آج تک پانچ مہینہ مکمل ہو گئے۔ اب اس سے معلوم کیا جائے کہ بہت پہلے کن دنوں میں طلاق دی، جن دنوں کا وہ اقرار کرے گا، ان ہی دنوں سے عدت شروع ہوگئی اور اگر پہلے کے ایام نہیں بتاتا ہے، تو پھر بھی ۶ مارچ سے آج تک پانچ مہینہ ہو گئے، اگر اس وقت سے تین ماہواری گزر چکی ہے، تو عدت بھی گذر گئی۔ اب پرویز النساء کو اختیار ہے جہاں چاہے نکاح کر کے باعصمت زندگی گزارے۔

ولو أقر بالطلاق كاذباً أو هازلاً وقع قضاءً لا ديانةً. (شامی، کتاب الطلاق،

کراچی ۳/۲۳۶، زکریا ۴۰/۴۴۰)

وإذا طلق الرجل امرأته تطلقه رجعية، أو تطليقتين فله أن يراجعها

في عدتها رضيت بذلك، أو لم ترض. (هدایہ، کتاب الطلاق، باب الرجعة اشرفی

دیوبند ۲/۳۹۴)

اور نعیم احمد کا یہ کہنا کہ میرے لکھے ہوئے کو العیاذ باللہ اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا، تو یہ نہایت خطر ناک اور کفریہ لفظ ہے؛ اس لئے نعیم احمد پر توبہ اور تجدید ایمان لازم ہے اور پرویز النساء کو اگر اپنی زوجیت میں رکھے تو تجدید نکاح بہر حال کرنا پڑے گا؛ اس لئے کہ پرویز النساء اس کے نکاح میں باقی نہیں رہی۔

سئل عن من قال بأن الله عالم بذاته ولا يقول له العلم قادر بذاته، ولا يقول له

القدرة وهم المعتزلة والجهمية؛ هل يحكم بكفره أم لا، قال يحكم بكفره

لأنهم ينفون الصفات، ومن نفى الصفات فهو كافر، (تاتارخانیہ، زکریا ۷/۲۸۷،

رقم: ۱۰۵۰۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۴/۶/۲۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴/جمادی الثانیہ ۱۴۲۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۷۹۶۳)

طلاق دینے کے بعد دوبارہ ”جادی“ کے الفاظ کہنا

سوال [۶۲۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مشکور احمد نے اپنی بیوی کو گھریلو جھگڑے میں آج سے تقریباً ایک ماہ قبل غصہ میں آ کر ایک طلاق دی، بیوی کے زیادہ بولنے پر مشکور احمد نے پھر دوبارہ یہ الفاظ کہے کہ جادی کہ جادی۔ اب طلاق دینے کے بعد مشکور احمد نام اور پشیمان ہے اور اپنی زوجیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اس مدت میں مشکور احمد کی بیوی چار پانچ مہینہ کے حمل سے ہے؛ لہذا اگر شریعت میں رشتہ برقرار رکھنے کی گنجائش ہو، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے فتویٰ سے نوازیں عین کرم ہوگا۔

المستفتی: مشکور احمد، نگلیاں، قصبہ امر وہہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایک طلاق دینے کے بعد پھر دوبارہ جو ”جادی“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جو طلاق دی تھی، اس کی خبر دینا اور اس کی تاکید کرنا مقصود ہے، اگر شوہر کا ارادہ واقعہً یہی ہے، تو مذکورہ واقعہ میں بیوی پر صرف ایک طلاق واقع ہوگئی اور اگر ان الفاظ سے بھی طلاق ہی مقصود ہے، تو طلاق مغلطہ واقع ہو جائے گی۔ اس کا فیصلہ شوہر ہی کر سکتا ہے۔

کرر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التأكيد دين. (در مختار، کتاب

الطلاق، باب طلاق غیر المدخول بہا، کراچی ۲۹۳/۳، زکریا ۵۲۱/۴، خانیا علی

الہندیہ، زکریا ۵۴/۱، ہندیہ، زکریا ۳۵۶/۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۲ رزی الحجہ ۱۴۱۵ھ

۱۴۱۵/۱۲/۲۲

(فتویٰ نمبر: الف/۲۲۶۱۲۲)

طلاق، طلاق کہہ دیا

سوال [۶۳۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ جھگڑا ہوا مجھے کچھ دیر میں معلوم ہوا، میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ تمہاری بات غلط ہے، یہ جھگڑا بچوں بچوں میں ہوا تھا، میں مزید اپنی بیوی کو سمجھانے لگا، تو اس پر وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے رکھتے یا نہیں؟ اپنے بچوں کو رکھتے یا نہیں، مجھے طلاق دیدو، پھر بھی میں اس کی بات کو سنتا ہوا چلا گیا یہ سب شام کی بات ہے پھر میں قریب ساڑھے دس بجے گھر کو آیا، میں نے گھر میں اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، معلوم یہ ہوا کہ وہ تو یہاں سے چلی گئی، بغیر کچھ کہے ہوئے، ہم لوگوں نے اسے روکا بھی، مگر نہیں رکی، وہ چھ دن تک رکی رہی، چھٹے دن اس کی چچیری بہن آئی، میرے گھر والوں سے کہا کہ میں بیگم کو لے کر کے کل آؤں گی، میرے گھر والوں نے منع کیا، نہیں اپنے ابا وغیرہ کو بھیجو، وہ نہیں مانی اور دوسرے دن بیگم کو لے کر کے آگئی، میں نے کہا آپ اسے لے کر کے کیوں آئیں؟ وہ کہنے لگی کہ یہ اس کا گھر ہے، میں نے کہا کہ نہیں آپ اسے لے کر کے جائیں، پھر میری والدہ بھی بولنے لگی اور کہا کہ میں اسے نہیں رکھوں گی، اور مجھ سے کہا کہ اس کو رکھو، اس گھر میں یا نہیں، تم اپنی بیوی کو رکھو، مجھے اور گھر والوں کو یہ بات بہت بری لگ رہی ہے۔

چوتھے دن واقعہ کہ اتنی بات کہہ کر میں کارخانہ میں چلا گیا، اس کے بعد میرے بڑے بھائی گھر میں آئے اور ان سے بدتمیزی کرنے لگی تھی، تو میرے بڑے بھائی نے ان کو گھر سے باہر کر دیا، کارخانہ میں آئے اور مجھ سے کہا کہ بدتمیزی کر رہی تھی، اس کے بعد میں غصہ میں آیا اور ماں کے پاس کھڑا ہوا کہ طلاق کہہ کر میں چلا گیا دوبار کہا۔ اب میں اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہوں؛ چونکہ میرے تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بچہ ہونے کی بھی امید ہے، قریب چار ماہ ہو گئے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سائل اگر اپنے سوال میں سچا ہے، تو ایسی حالت میں طلاق رجعی واقع ہوگی اور شوہر دوران عدت بلا نکاح رجوع کر سکتا ہے۔

وقعتا رجعتین لو مدخولا بھا، کقولہ أنت طالق أنت طالق.

(در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۲/۳، ۲۰۵۲، ذکر یا ۴/۶۳)

فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲/۳/۱۴۰۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف-۲۵/۱۵۶۴)

بیوی کو دو مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۳۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو دو طلاق دیں اور تیسری بار کہنے والا ہی تھا کہ ایک اجنبی لڑکی نے مجھے دھکا دیدیا اور طلاق کا لفظ زبان سے نہ نکلا، اور یہ واقعہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کے سامنے پیش آیا ہے، تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ میری بیوی اب میرے لئے حلال رہی یا نہیں؟

المستفتی: محمد اسلام، پکوالان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر سائل اپنے بیان میں سچا ہے اور صرف دو مرتبہ کہا ہے، تو دو طلاق رجعی واقع ہوگی ہیں، آئندہ جب بھی ایک طلاق دیگا، تو طلاق مغلظہ واقع ہو جائیگی اور اب چونکہ دو طلاق ہیں؛ اس لئے رجعت کر کے رکھنا جائز ہوگا۔

عن عبد الله وعن أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان: قال: هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو اثنتين فإما أن يمسك ويراجع بمعروف،

وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها. (سنن کبریٰ للبيهقي، کتاب الرجعة، دارالفکر بیروت ۱۱/۲۸۱-۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)
 وقعتار جمعیتین لو مدخولاً بها، كقوله أنت طلاق أنت طالق (در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۳/۲۵۲، زکریا ۴۶۳/۴) فقط
 واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۳ رجب المرجب ۱۴۱۲ھ
 (فتویٰ نمبر: الف: ۲۷۶۷/۲۷)

طلاق ثلاثہ کے بعد اس کا انکار کرنا

سوال [۶۳۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری لڑکی ریحانہ کو اس کے شوہر معظم علی نے اپنے حقیقی برادر شہتی محمد سرفراز اور اپنے اہل خانہ کی موجودگی میں تین طلاق دیں، بعدہ دوسرے روز جب لڑکی کے والدین اور ان کے ہمراہ گاؤں کے بہت سارے افراد تھے، ذیل میں اسماء درج کئے جاتے ہیں، حاجی محمد افسر علی، مولانا محمد اظہر، محمد ادیس، حاجی بابو، محمد عالم وغیرہ لڑکی کو لینے کے لئے شوہر کے یہاں گئے، تو شوہر نے ان سب کی موجودگی میں طلاق کا اقرار کیا اور لوگ لڑکی کو اپنے آبائی گھر لے آئے۔ اب تقریباً ڈیڑھ سال گزرنے کے بعد شوہر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی اور لڑکی دعویٰ کر رہی ہے کہ طلاق دیدی، ایسی صورت میں شرعی اعتبار سے کس کے قول کو معتبر مانا جائے گا، لڑکے نے دسیوں آدمیوں کے سامنے طلاق کا اقرار کیا ہے، اور اس وقت لڑکی کے گھر والے اور لڑکے کے باپ، دادا، بھائی وغیرہ سب موجود تھے۔

المستفتی: محمد سالم، منڈھا آتمہ امر وہہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اہل خانہ کے سامنے تین طلاق دینے کے بعد پھر لڑکی

والے اور لڑکے والے دونوں قسم کے لوگوں کے سامنے اس نے تین طلاق کا اقرار بھی کر لیا ہے، اور اس کے گواہان موجود ہیں، تو ایسی صورت میں لڑکی پر تین طلاق مغلظہ واقع ہوگئی ہیں۔ اب لڑکی شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے، اب ڈیڑھ سال کے بعد طلاق نہ دینے کا دعویٰ معتبر نہیں ہے اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں اور لڑکی اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ۵. (عالمگیری، کتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، زکریا ۱/۶۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، قنوری امدادیہ دیوبند ۱۷۸)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قديم ۹، ۲۱، جدید زکریا ۳۷۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۲۳ھ
 ۱۴۲۳/۷/۱
 اررجب المرجب ۱۴۲۳ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۷۳۶/۷۷۷)

والد کے سامنے ایک ہی مرتبہ میں بیوی کو تین طلاق دینا

سوال [۶۳۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں محمد وسیم خان نے گھر کے معمولی تکرار کی بنا پر گھر میں اپنے والد صاحب سے یہ کہا کہ میں روز روز کے جھگڑوں سے عاجز آ گیا ہوں؛ لہذا آپ میرا فیصلہ کرا دو، کیا کہتے ہیں ”اس کو طلاق، طلاق، طلاق“ والد صاحب سے یہ سوالیہ جملہ کہتے وقت طلاق وغیرہ کا نہ ارادہ تھا اور نہ تصور، اس کے بعد والد صاحب کے پاس سے میں چلا گیا؛ لہذا قرآن وحدیث کی روشنی میں مجھے جواب دیجئے۔

المستفتی: محمد وسیم خاں، ناگپور (مہاراشٹر)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سائل نے اردو اور ہندی میں الگ الگ دو تحریریں بھیجیں، ہندی میں اصل تحریر ہے، اس کی اردو بنائی گئی، مگر اردو میں عبارت کی نوعیت بالکل الگ ہے اور سوالیہ انداز اختیار کر کے سوال پر حکم بھی طلب کیا گیا ہے۔ اور اصل عبارت جو ہندی میں ہے، اس میں نہ سوالیہ الفاظ ہیں اور نہ سوال سے متعلق کچھ پوچھا گیا؛ اور ہندی میں سوالیہ انداز نہیں ہے؛ بلکہ صاف طور پر یہ الفاظ ہیں کہ ایک ہی وقت میں تین مرتبہ طلاق طلاق طلاق کہہ کر والد صاحب کے پاس سے چلا گیا اور اس وقت بیوی دس فٹ کے فاصلہ پر تھی، اگر صورت واقعہ میں یہی بات پیش آئی جو ہندی تحریر میں ہے تو بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اب بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگیری، کتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، زکریا ۱/۴۷۳، جدید زکریا ۱/۶۳۰، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸، الفتاویٰ التاتاریخانیہ، زکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳، قلوری امدادیہ دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ شوال المکرم ۱۴۲۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۷۳/۸۱۷)

لاکھ کر دیتا ہوں ”طلاق، طلاق، طلاق“ سے طلاق کا حکم

سوال [۲۳۰۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ زید کا اپنی والدہ سے جھگڑا ہو رہا تھا، اس وقت بیوی جھگڑے سے الگ تھی، دریں اثناء زید وہاں سے اٹھ کر چلا اور بیوی کے پاس جا کر اسے مخاطب کر کے کہا میں جا رہا ہوں، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں رہے گا، لاکھ کر دئے دیتا ہوں ”طلاق، طلاق، طلاق“ زید کی بیوی پر کوئی طلاق واقع ہوئی؟ اگر زید اب اپنی بیوی کو رکھنا چاہے تو کیا شکل ہوگی؟

المسفتی: فاضل رضا شاہ آباد، رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: لاکھ کر دئے دیتا ہوں ”طلاق، طلاق، طلاق“ یہ جملہ اثناء برائے حال ہے، اس سے فی الفور طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا زید کی بیوی پر طلاق مغلطہ واقع ہوگئی ہے۔ اب بلا حلالہ دوبارہ نکاح کی بھی گنجائش نہیں ہے۔

ولا يقع بأطلاقك إلا إذا غلب في الحال. (فتح القدیر، کتاب الطلاق، باب

إيقاع الطلاق، دار الفکر بیروت ۷/۴، کوئٹہ ۳/۳۵۴، زکریا ۴/۷)

لوقال بالعربية: أطلق لا يكون طلاقاً إلا إذا غلب استعماله للحال،

فيكون طلاقاً. (ہندیہ، زکریا ۱/۳۸۴، جدید زکریا ۱/۴۵۲)

ولو قال: أطلقك لم يقع إلا إذا غلب استعماله في الحال .

(سبک الأنہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۱۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲/ذی قعدہ ۱۴۱۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳/۵۹۹۶)

”تجھے طلاق دی، تجھے آزاد کیا، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں،

تجھے فارغ خطی دی“ کہنے کا حکم

سوال [۶۳۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ میرے شوہر نے ایک بار یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، دوبار یہ کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، اب میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں نے تجھے فارغ خطی دی، تو ان الفاظ سے کوئی طلاق ہوئی؟ اب ساتھ رہنا چاہیں تو کیا شکل ہوگی؟

المستفتیة: شبستان پروین، محلہ شمش و ہار کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: ہمارے عرف میں لفظ آزاد کیا بیوی کے حق میں طلاق کے لئے بولا جاتا ہے، اسی طرح فارغ خطی دی کا لفظ بھی طلاق ہی کے لئے بولا جاتا ہے؛ اس لئے ان تمام الفاظ سے طلاق صریح پڑگئی؛ لہذا تجھے طلاق دی ایک مرتبہ اور تجھے آزاد کیا، دو مرتبہ اور میں نے تجھے فارغ خطی دی، ایک مرتبہ یہ کل چار مرتبہ ہو گئے؛ لہذا بیوی پر اس سے طلاق مغلطہ واقع ہو چکی ہے۔ اب دونوں کا بلا حلالہ ساتھ رہنا قطعاً جائز نہیں ہے۔

سرحک و هو ”رہا کر دم“ لأنه صار صریحاً في العرف، وقوله وقد مر أن الصريح مالم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹)

وان كان الطلاق ثلاثاً في الحررة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (ہندیہ، کتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، زکریا ۱/۴۷۳ جدید زکریا ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، قدوری امدادیہ دیوبند ۱۷۸، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸، التفاوض التاتارخانیہ، زکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳/۵۹۴۲)

ایک دو اگر خاموش نہ رہی، تو تین کر دیں گے کہنا

سوال [۶۳۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی کسی سے جھگڑ رہی تھی، جب زید گھر میں آیا تو اپنی بیوی کو ڈرانے کے لئے کہا، ایک دو اگر خاموش نہ رہی، تو تین کر دیں گے، اور شوہر کی مراد ایک دو سے طلاق ہے، اس صورت حال میں شرعی رو سے کیا صورت پیش آئی اور کتنی طلاق واقع ہوئیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد یونس بہاری، سنبھلی گیٹ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: بہاری زبان و محاورے میں ایک دو سے دو ہی مراد ہوتا ہے، اور یہ عدد ہے اور شوہر کا قول اگر خاموش نہ رہی، تو تین کر دیں گے، خطاب ہے تو متصف بالطلاق ہو کر معدود کا طلاق ہونا واضح ہو گیا، اس سے دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں۔

وقعتا رجعتین لو مدخولا بھا، كقوله أنت طالق أنت طالق.

(در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۲۰۲/۳، زکریا ۴/۶۶۳)

رجل قال لامرأته بعد الدخول بھا: أنت طالق طالق تقع ثنتان.

(تاتارخانیہ، زکریا ۴/۴۲۹، رقم: ۶۵۹۵)

اور شوہر کا قول تین کر دیں گے وعدہ ہے اس سے طلاق کا حکم نہیں لگ سکتا۔

أنا أطلق نفسي لم يقع لأنه وعد. (در مختار مع الشامی، کراچی ۳/۳۱۹،

زکریا ۴/۵۵۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴/۱۲/۱۴۰۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲/۳۴۷)

”لے طلاق“ کا حکم

سوال [۶۳۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رئیس نے اپنی بیوی کو لڑائی کے دوران یہ کہہ دیا کہ ”لے طلاق، لے طلاق، لے طلاق“ تین بار کہا، بیوی شگفتہ کا کہنا ہے کہ میں نے صرف ایک بار مذکورہ لفظ سنا ہے، شوہر کا بیان ہے تین دفعہ کہا، بیوی کا بھائی کہتا ہے تین دفعہ سنا، بیوی شگفتہ کی ماں یہ کہتی ہے کہ میں نے دو دفعہ سنا ہے، شریعت کی روشنی میں بتائیں کہ اب شوہر کے ساتھ رہنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ طلاق ہوگئی یا نہیں؟

المستفتیة: شگفتہ پروین، ڈیریا، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر شوہر نے یہ الفاظ استعمال کئے ہیں، لے طلاق، لے طلاق، لے طلاق، تین مرتبہ، تو راجح قول کے مطابق بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں، اگرچہ بیوی نے طلاق لے لی کہہ کر قبول نہ کیا ہو، تب بھی طلاق مغلظہ واقع ہوگئی۔ اب بغیر حلالہ کے آپس میں نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔

ومنہ خذي طلاقك فقالت: أخذت فقد صحح الوقوع به بلا اشتراط نية، كما في الفتح، وكذا لا يشترط قولها أخذت. (شامی، كتاب الطلاق، باب الصريح، كراچی ۲۴۸/۳، زکریا ۴۵۹/۴)

وفي التاتارخانية: إذا قال خذي طلاقك لا يقع مالم تقل: أخذت وفي الكبرى: يقع من غير قولها أخذت. (تاتارخانية، زکریا ۴۰۹/۴، رقم: ۶۵۴۷، وهكذا في البحر، زکریا ۴۳۹/۳، كوئٹہ ۲۵۱/۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۹/۱/۱۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ محرم الحرام ۱۴۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۴۱۹)

”طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“ کا حکم

سوال [۶۳۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ریاض نے اپنی بیوی کو بعض نازیبا حرکتوں کی وجہ سے طلاق دیدی ہے، اور اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کئے کہ ”طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“ جاؤ اب تو دیدی، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا طلاق ہوگئی یا نہیں اور اگر اسے ساتھ رکھنا چاہیں تو شریعت کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: ریاض، پیرزادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مذکورہ صورت میں ریاض کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اب بیوی شوہر پر قطعی طور پر حرام ہوگئی ہے، اب اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔

وإذا قال لامرأته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباہ

والنظائر قدیم ۱/۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (هندية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، زکریا ۱/۴۷۳، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۵، هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۹۹، قدوري امدادية ديوبند ۱۷۸، الفتاوى التاتارخانية، زکریا ۵/۴۷، ۱، رقم: ۷۵۰۳، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۸۸) فقط والله سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۱۱/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵/۱ ذی قعدہ ۱۴۳۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۲۰۸)

دیور کا بھابھی کے ساتھ زنا کرنا اور شوہر کا اس کو طلاق دینا

سوال [۶۳۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور سلمیٰ دونوں شوہر بیوی ہیں، اس کے ساتھ زید کا بھائی الطاف بھی رہتا ہے، الطاف جو کہ سلمیٰ کا دیور ہے موقعہ اور تنہائی پا کر الطاف نے سلمیٰ کے ساتھ مہینہ بدسلوکی اور عصمت دری کی، جیسا کہ سلمیٰ کا بیان ہے۔

اگلے روز یہ بدترین واقعہ سلمیٰ نے اپنے شوہر زید سے بیان کیا، تو زید نے سلمیٰ کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے سلمیٰ پر ہی الزام لگایا کہ تو میرے بھائی پر بہتان لگا رہی ہے اور برادری کے سامنے قرآن اٹھا کر سلمیٰ کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ الطاف نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا ”جبکہ الطاف نے سلمیٰ کی سو فیصد عصمت دری کی“ ستم بالائے ستم یہ کہ اس سنگ دل زید نے سلمیٰ کو طلاق بھی دیدی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سلمیٰ کے والدین کا زید اور الطاف کے گھر آنا جانا اور پہلے کی طرح ان سے تعلقات بنائے رکھنا از روئے شرع جائز ہے؟

المستفتی: امام الدین جوئے، سابق صدر ضلع وقف کمیٹی کھر گون (ایم پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر یہ بات واقعہ میں صحیح ہے، تو ایسی صورت میں گناہ عظیم کا ارتکاب ہوا ہے، اس سے توبہ کرنا واجب ہے، ورنہ عذاب عظیم کا خطرہ ہے اور جب شوہر نے سلمیٰ کو طلاق دیدی ہے تو شرعی طور پر طلاق واقع ہوگئی، اگر ایک یا دو طلاق دی، تو طلاق رجعی واقع ہوئی، عدت کے اندر اندر رجعت کی گنجائش ہے، اگر تین طلاق دی ہیں، تو سلمیٰ اپنے شوہر پر قطعی طور پر حرام ہوگئی ہے، آئندہ اس کے ساتھ بغیر حلالہ کے نکاح درست نہیں ہوگا اور جن حالات میں سلمیٰ کو طلاق دی ہے، اگر واقعہ صحیح ہے، تو شوہر کی طرف سے سلمیٰ کے اوپر بے جا ظلم و زیادتی ہے جس کا عند اللہ حساب و کتاب ہو سکتا ہے اب رہی یہ بات

کہ سلمیٰ کے والدین کا سلمیٰ کے شوہر کے ساتھ پہلے کی طرح رواداری باقی رکھنا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔

اتفقوا علی أن التوبة من جميع المعاصي واجبة.....سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. (شرح نووي، کتاب التوبة ۲/۳۵۴)
التوبة فرض على المؤمنین. (تفسیر قرطبی، سورة النساء: ۱۷، قدیم ۵/۹۰، جدید دارالکتب العلمیة بیروت ۵/۶۰)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أوجعتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض. (هندية، زكريا ۱/۴۷۰، جدید زكريا ديوبند ۱/۵۳۳)
وقعتار جعيتين لو مدخولاً بها، كقوله أنت طالق أنت طالق.
(الدر المختار مع الشامي، كتب الطلاق، بلب الصريح، كراچي ۳/۲۵۲، زكريا ۴/۴۶۳)
وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها.
(هندية، زكريا ۱/۴۷۳، الفتاوى التاتارخلية، زكريا ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳، زكريا جدید ديوبند ۱/۵۳۵)
أما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر إلا لعرض يبيحه، والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلاً لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص؛ بل يكون حمقاً.....فليست الحاجة مختصة بالكبر والربية.
(شامي، كراچي ۳/۲۲۸، زكريا ۴/۴۲۸)

عن سليمان عن عمرو بن الأحوص، حدثني أبي شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: استوصوا بالنساء خيراً الحديث (ابن ماجه شريف، أبواب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، النسخة الهندية ۱۳۳، دارالسلام رقم: ۱۸۵۱) فقط واللهم سبحانك وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۵۹۷)

خیالی طلاق کے بعد یہ کہنا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے

سوال [۶۳۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو خیال میں طلاق دی اور یہ سمجھا کہ حقیقتاً طلاق ہوگئی ہے، اور یہ مسئلہ نہیں جانتا تھا کہ طلاق دینے میں شرط تکلم ہے؛ چنانچہ وہ اس فعل کی وجہ سے بہت رنجیدہ تھا، بکر نے خیریت پوچھتے ہوئے کہا کہ اتنے غمزہ کیوں ہو؟ تو زید نے مذکورہ مسئلہ کی حکایت کرتے ہوئے کہا کہ ”میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے“ اس لئے رنجیدہ ہوں، تو اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اس جملہ کی وجہ سے زید کی بیوی پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ نیز بیوی کو رکھنے کی کیا صورت ہے؟

المسئف: محمد سلیم بیٹا پوری، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زید نے جب خیال میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو وہ شرعاً معتبر نہیں ہوئی؛ لیکن جب بکر کے دریافت کرنے پر زید نے کہا کہ ”میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے“ تو اس سے اس کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی۔ اب عدت کے اندر اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھ لینے کی گنجائش ہے۔

عن عبد الله وعن أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التفسير إلی قوله الطلاق مرتان، قال: هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو اثنتين فإما أن يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها. (السنن الكبرى

للسيوطي، كتاب الرجعة، دار الفكر بيروت ۱۱/۲۸۱-۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

لو أقر بالطلاق..... وقع قضاء. (در مختار على الشامي، كتاب الطلاق،

مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق، كراچی ۳/۲۳۶، زکریا ۴/۴۴۰)

لو أقر بالطلاق.....وقع في القضاء. (البحر الرائق، كوثه ۳/۴۶، ۲،
زکریا ۳/۲۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۵/۲۶۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۶/۸ھ

ایک مرتبہ طلاق کہنے کا حکم

سوال [۶۳۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی ہوئے تین سال ہو گئے، میری بیوی مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہے، اور میری غیر موجودگی میں مجھے بنا بتائے اپنے میسج چلی جاتی ہے، ایک مرتبہ تو کمرے میں تالا لگا کر اپنے میکہ چابی ساتھ لے کر چلی گئی، واپس آنے پر میں نے سمجھا یا، تو مجھے گالی گلوچ کرنے لگی؛ لہذا مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کو ایک مرتبہ طلاق کہہ دیا، اسی وقت میرے گھر کے لوگ موجود تھے، جن لوگوں نے یہ طلاق سنی، اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی اور آج تک وہ اپنے میسج میں ہے، اور اس واقعہ کو سال بھر سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس صورت میں طلاق ہوگئی یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دینے کی زحمت فرمائیں مہربانی ہوگی۔

المستفتی: شاہ ویز، محلہ دولت باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب آپ نے غصہ میں ایک مرتبہ طلاق کہہ دیا تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے اور اس کے بعد آپ نے رجعت نہیں کی ہے، اسی حالت میں سال گزر گیا ہے، تو اس درمیان میں اس کی عدت بھی پوری ہوگئی ہے اور عدت پوری ہونے کے بعد وہ طلاق رجعی بائنہ ہوگئی ہے اور اگر دوبارہ رکھنا چاہیں، تو بغیر حلالہ کے نکاح کر کے رکھ سکتے ہیں۔

أما حكمه ففوق الفرقة بانقضاء العدة في الرجعي وبدونه في البائن .

(ہندیہ، کتاب الطلاق، الباب الاول في تفسيره، زكريا ۱/۳۴۸، جديد زكريا ديوبند ۱/۱۰۵)

وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة وبعد

انقضائها؛ لأن حل المحلّية باقٍ؛ لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله .

(هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة اشرفي ديوبند ۲/۳۹۹،

ہندیہ، زكريا ۱/۴۷۲، تاتارخانيہ، زكريا ۵/۱۴۸، رقم: ۷۵۰۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۹/۱۳۳۳ھ

۱۳۳۳/۱۱/۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۱۱۲۸۳)

شوہر کا دو آدمی کی موجودگی میں یہ کہنا کہ اس کو تو طلاق ہو چکی ہے

سوال [۶۳۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ زید کا نکاح سلمیٰ سے تین سال قبل ہوا تھا، ان کی ایک بیٹی بھی ہے؛ لیکن زید اس سلمیٰ

کو رکھنا نہیں چاہتا ہے اور نہ ہی سلمیٰ زید کے یہاں رہنے کو تیار ہے، قانونی طور سے سلمیٰ کے

گھر والوں نے کارروائی بھی کی ہے جس کی وجہ سے زید بہت نالاں ہے، اور زید کے گھر

والوں نے سلمیٰ کا جہیز بھی واپس کر دیا ہے؛ لیکن طلاق نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میں اس کو لکھا کر

رکھوں گا، اور جس طرح انہوں نے مجھے پریشان کیا ہے میں بھی ان کو پریشان کروں گا اور زید

نے دو آدمیوں کی موجودگی میں یہ بھی کہا کہ اس کو طلاق تو ہو چکی ہے، سلمیٰ کے گھر والے

چاہتے ہیں کہ سلمیٰ کا نکاح دوسری جگہ کر دیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہئے؟

المستفتی: احمد سعید، دہلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید کا یہ کہنا ہے کہ اس کو تو طلاق ہو چکی ہے اقرار طلاق

ہے، لہذا اس لفظ سے اس کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی، اس کے اس کہنے کے وقت سے تین ماہواری کے ساتھ عدت گزار جانے کے بعد مسلمی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔

عن عبد الله وعن أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التفسير إلی قوله: الطلاق مرتان، قال: هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة، أو اثنتين، فإما أن يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الرجعة، دارالفكر بيروت ۱۱/۲۸۱-۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

لو أقر بالطلاق كاذباً أو هالاً وقع قضاءً. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی الإكراه على التوكيل بالطلاق، كراچی ۳/۲۳۶، زکریا ۴/۴۴۰، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۴۶، زکریا ۳/۲۸۴)

قیل لرجل: ألتست طلقت امرأتک، فقال: بلی تطلق. (عالمگیری، زکریا ۱/۳۵۶ جدید زکریا دیوبند ۱/۴۲۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹/رجب المرجب ۱۴۲۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف-۷۳۷۱۲۶)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۷/۹ھ

وارنگ کے طور پر ایک مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۳۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری آٹھ اولاد ہیں جن میں سے بچوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا اور وہ آپس میں لڑکر گھر سے باہر محلہ میں ہی کہیں چلے گئے ہیں میں (یعنی بچوں کے والد) گھر پر موجود نہیں تھا، جب میں واقعہ کے دو گھنٹہ بعد گھر پر واپس آیا تو میں نے بچوں کے بارے میں جانکاری چاہی تھی، تو میری بیوی پھول جہاں نے اس لڑائی کی بابت مجھ سے سب کچھ چھپانا چاہا، تو میں

نے کچھ جاننے کی زیادہ خواہش ظاہر کی، مگر میرے سابقہ تجربہ کے مطابق میری بیوی ضدی قسم کی عورت ہے، جس کی وجہ سے معاملہ زیادہ طول پا گیا، میں نے اس سے کہا کہ تم نے (بیوی) ہمیشہ ہی مجھ سے ہر بات چھپائی ہے، مگر وہ مجھے کسی نہ کسی طرح پتہ چل ہی جاتی ہے اور تم اپنی ان باتوں سے باز نہیں آتیں، میں آپ کو کئی مرتبہ تنبیہ کر چکا ہوں، مگر آج تک کوئی جواب میں بدلاؤ نہیں آیا، تب میں نے غصہ میں اپنے اوپر قابو رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں صرف وارنگ کے طور پر سوچتے ہوئے ایک مرتبہ یہ الفاظ کہے کہ میں تجھے ایک بار طلاق دیتا ہوں، میرے والد صاحب والدہ صاحبہ دو بھائی، جو اس وقت موقع پر موجود تھے، سب گواہ ہیں، کیا ان حالات میں طلاق واقع ہوگی

المستفتی: شاہد حسین، رفعت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب آپ نے اپنی بیوی سے یہ کہا میں تجھے ایک بار طلاق دیتا ہوں، تو اس سے آپ کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی، اب اگر عدت کے اندر اندر رجعت کرنا چاہیں تو رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کی گنجائش ہے، پھر آئندہ جب بھی دو طلاق دیں گے، تو آپ کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور آپ کی بیوی آپ پر بالکل حرام ہو جائے گی۔

عن عبد اللہ وعن أناسٍ من أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فذكر التفسير إلی قوله: الطلاق مرتان، قال: هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة، أو اثنتين، فإما أن يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها.

(سنن کبریٰ للبیہقی، کتاب الرجعة، دار الفکر بیروت ۱/۱۱-۲۸۱-۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك، أو لم ترض، كذا في الهداية. (فتاویٰ عالمگیری،

کتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، زكريا ۱/ ۴۷۰، هداية، اشرفي ديوبند ۲/ ۳۹،
 قدوري امداديه ديوبند ۱۷۷ زكريا جديد ديوبند ۱/ ۳۳ (۵ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 اجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۲۳/۱۱/۷
 ۶/ رزی تعدہ ۱۴۲۴ھ
 (فتویٰ نمبر: الف: ۱۸۶۳۷)

”بیوی کو طلاق دے آیا ہوں“ سے طلاق

سوال [۲۳۱۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید بر مکان زوجہ گیا اور وہاں سے بیوی کو لانے کا پروگرام تھا، بیوی نے بوجہ بیماری جانے سے منع کر دیا، شوہر کہتا ہے اگر تو میرے ساتھ نہیں چلتی ہے، تو طلاق دیدوں گا، یہ واپس گھر کو آیا، وہاں متعلقین نے دریافت کیا کہ زوجہ کو نہیں لائے، تو شوہر نے فوراً کہا کہ میں تو اسے طلاق دے آیا ہوں، اس صورت میں مسئلہ کی وضاحت فرمائیں، گا ہے گا ہے خبر انشاء کے معنی میں آتی ہے، یہاں یہ صورت تو صادر نہیں آئی ہے؟ جواب سے مطلع فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق دوں گا کے لفظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، مگر واپسی پر لوگوں کے پوچھنے پر ”طلاق دے آیا ہوں“ کہنے کی وجہ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے، عدت کے اندر رجعت کی گنجائش ہے۔

ولو قال: أطلقک لم يقع. (سکب الأنهر، کتاب الطلاق، باب ایقاع

الطلاق، دارالکتاب العلمیة بیروت ۲/ ۱۴)

إذا أضاف الطلاق إليها، وكذا لو أتى بالضمير الغائب أو اسم الإشارة

العائد إليها. (شامي، زكريا ديوبند ۴/ ۶۹، کراچی ۳/ ۲۰۶)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة..... فله أن يراجع في عدتها.

(هدایۃ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴، ہندیۃ، زکریا ۱/۴۷۰، جدید زکریا دیوبند

۱/۵۳۳، قلوبی امدادیہ دیوبند ۱۷۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۷ شوال المکرم ۱۴۱۸ھ

۱۴۱۸/۱۰/۲۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۳/۵۴۷)

لفظ ”میں تجھے طلاق دیتا ہوں“ سے طلاق

سوال [۶۳۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی اپنے میکے میں ڈھائی سال سے رہ رہی ہے، میں اسے بلانے گیا تھا، بہت سمجھانے کے باوجود میرے پاس آنے کے لئے تیار نہیں ہوئی؛ اس لئے میں نے اس سے کہا ”میں تجھے طلاق دیتا ہوں“ طلاق ہوئی یا نہیں؟ صرف ایک مرتبہ مذکورہ لفظ کہا ہے۔

المسفتی: عبداللطیف عرف جمال، اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں آپ کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے، عدت کے اندر رجعت کر کے میاں بیوی کی طرح رہنے کی گنجائش ہے۔

عن عبد اللہ وعن أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التفسير إلی قوله الطلاق مرتان، قال: هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو اثنتين فإما أن يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها. (سنن کبریٰ

للبیهقی، کتاب الرجعة، دارالفکر بیروت ۱۱/۲۸۱-۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

طلقتک وأنت طالق، ومطلقة.....يقع بها أي بهذه الألفاظ وما

بمعناها من الصريح واحدة رجعية. (شامی، کتاب الطلاق، باب الصريح،
کراچی ۳/۲۴۷-۲۴۹، زکریا ۴/۴۵۷-۴۶۰)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها
رضيت بذلك أو لم ترض. (هداية، باب الرجعة، اشرفي ديوبند ۲/۳۹۴، ہندیہ، زکریا
۱/۴۷۰، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۳، قدوري امدادیہ دیوبند ۱۷۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳/۱۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۲۲۵)

”جب دیدی تو توجاتی کیوں نہیں“ انشاء طلاق ہے یا تاکید

سوال [۶۳۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ خورشید نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ زیادہ مت بولے، تیرا منہ پیٹ دوں گا،
بدتمیزی مت بولے جا اور جا میں نے تجھے طلاق دی، دوسری بار میں کہا ”جب دیدی تو جاتی
کیوں نہیں“ ان کی ساس نے کہا لاپسیے دے، پھر لے کے جاؤں گی، ان کی ساس چھوڑ کے
چلی گئی، تو انہوں نے کہا بہو سے جب تجھے طلاق دیدی، تو جاتی کیوں نہیں،؟ بلا اپنی ماں کو
اور یہاں سے فوراً چلی جا، جو بات ہم نے سنی وہ لکھی ہے۔

المستفتی: محمد خورشید، مظہرہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر سوال واقعہ کے مطابق ہے، تو صرف ایک طلاق
رجعی واقع ہوگئی ہے اور دوسری بار یہ جو کہا ہے کہ جب دیدی تو جاتی کیوں نہیں؟ یہ پہلی
طلاق کی خبر ہے، اس سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی؛ لہذا عدت کے اندر اندر رجعت کر کے
بیوی بنا کر رکھنے کی گنجائش ہے۔

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها
رضيت بذلك أو لم ترض. (هداية، باب الرجعة، اشرفي ديوبند ۲/۳۹۴، ہندیہ،
زکریا ۱/۴۷۰، قدوری امدادیہ، دیوبند ۱۷۷ زکریا دیوبند ۱/۵۳۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴/۱۲/۱۴۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ رذی الحجہ ۱۴۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۳۹۵۵۳)

میں نے تیری طلاق دیدی کہنے کا حق

سوال [۶۳۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا میں تیری طلاق دیدوں گا اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ
میں نے تیری طلاق دیدی، دوبارہ پھر کہنے کو تھا کہ ایک عورت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر
کہا کہ تمہیں قرآن پاک کی قسم ہے کہ جو تم طلاق دو، پھر اس کی بیوی نے محلہ والوں سے کہا کہ
میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دیدی ہے، وہاں پر دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان آدمیوں نے بھی
محلہ والوں کے معلوم کرنے پر حلف کی رو سے یہ کہا کہ ہمارے سامنے اس شخص نے ایک مرتبہ
کہا کہ میں تیری طلاق دیدوں گا اور ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں نے تیری طلاق دیدی اور جب وہ
دوبارہ کہنے کو تھا تو ایک عورت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اس واقعہ کو آٹھ ماہ ہو گئے ہیں،
وہ عورت اپنے شوہر کے یہاں رہتی ہے، تو لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تم نے اس عورت کو
طلاق کیوں دیدی ہے، تو اس شخص نے کہا کہ اب تو میں نے دے ہی دی ہے۔ عبارت بالا کا
جواب لکھیں، عین کرم ہوگا۔

المستفتی: خدا حسین سرکڑہ پکرا جمل، سرکڑا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں جب اس شخص نے اپنی بیوی سے یہ
کہا کہ میں تیری طلاق دیدوں گا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔

و في المحيط: لوقال بالعربية: أطلق لا يكون طلاقاً. (عالمگیری، کتاب الطلاق، الباب السابع في الطلاق بالالفاظ الفارسية، زکریا ۳۸۴/۱، زکریا جدید دیوبند ۴۵۲/۱)

اور پھر جب اس نے یہ کہا کہ میں نے تیری طلاق دے دی، تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوئی۔

فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجعي. (هداية، اشرفي دیوبند ۳۵۹/۲)

اور اس واقعہ کے بعد اگر وطی یا بوس وکنار کر لیا ہو، تو وہ عورت دوبارہ اس کی بیوی ہو جائے گی اور دونوں میاں بیوی کے حکم میں ہوں گے۔

والرجعة أن يقول: راجعتك، أو راجعت امرأتي، أو يطأها، أو يقبلها، أو يلمسها بشهوة، أو ينظر إلي فرجها بشهوة. (هداية، اشرفي دیوبند ۳۹۵/۲)

اس کے بعد پھر جب لوگوں کے دریافت کرنے پر اس نے یہ کہا کہ اب تو میں نے دے ہی دی ہے، تو اس سے کوئی طلاق نہیں پڑے گی؛ بلکہ یہ پہلے کی خبر ہوگی۔

رجل قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقال عنيت بالأولى الطلاق، وبالثانية، والثالثة إفهامها صدق ديانة، وفي القضاء طلقت ثلاثاً. (عالمگیری، زکریا ۳۵۶/۱، زکریا جدید ۴۲۳/۱)

اور اگر اس کی نیت دوسری طلاق دینے کی تھی تو اس لفظ سے دوسری طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، اب اس لفظ کو کہنے کے بعد سے عورت کے تین حیض پورے ہونے سے قبل اگر وہ مرد عورت سے رجوع کر لے یا اس سے وطی کر لے یا بوس وکنار کر لے تو پھر وہ اس کی بیوی ہو جائے گی اور رجوع کرنے کے بعد اب اگر وہ ایک بار بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا، تو وہ عورت مغلطہ ہو جائے گی اور بغیر حلالہ کے اس مرد کے لئے حلال نہ ہوگی۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى

تنکح زوجاً غیرہ نکاحاً صحیحاً ویدخل بہا، ثم يطلقها أو يموت عنها.

(ہدایۃ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، ہندیۃ، زکریا ۱/۴۷۳ جلدیلزکریا دیوبند ۱/۵۳۵، قدوری

امدادیۃ دیوبند ۱۷۸، مجمع الأنهر، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۲/۸۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۴ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ

۱۴۲۰/۱/۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۴/۶۰۰۱)

”میں نے تجھے طلاق دی“ سے کونسی طلاق واقع ہوگی؟

سوال [۶۳۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین وفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ محمد حنیف اور اس کی بیوی نسیمہ خاتون میں کچھ ٹکرار ہوا، تو بیوی نے کہا کہ

میں تیری صورت نہیں دیکھنا چاہتی، اسی وقت محمد حنیف نے اپنی بیوی سے کہا کہ ”میں نے

تجھے طلاق دی“ ایک بار کہا پھر بدتمیزی ہوئی، تو محمد حنیف نے بڑی سالی سے کہا کہ باجی

اس کو سمجھا لو میں اسے طلاق دیدوں گا، پھر صبح کو لڑکی کے ماں باپ نسیمہ کو اپنے گھر لے

گئے، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ شرعاً کونسی طلاق ہوئی؟ کیا میاں بیوی اب ایک ساتھ رہ

سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعی حکم تحریر فرمائیں۔

المسفتی: محمد حنیف، کرولہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر صرف ایک بار تجھے طلاق دی کا لفظ استعمال کیا

ہے، تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے، عدت کے اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر

رکھنا جائز ہے۔

عن عبد اللہ وعن أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فذكر التفسير إلی قوله الطلاق مرتان، قال: هو الميقات الذي يكون عليه

فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو اثنتين فإما أن يمسك ويراجع بمعروف،

وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها. (سنن کبریٰ

للیہقی، کتاب الرجعة، دارالفکر بیروت ۱۱/۲۸۱-۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية..... فله أن يراجعها في عدتها

رضيت بذلك أو لم ترض. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة، اشرفي ديوبند

۲/۳۹۴، ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۰، جلید زکریا دیوبند ۱/۵۳۳، قلدوری امدادیہ

دیوبند ۱۷۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳ ربیع الاول ۱۴۱۹ھ

۱۴۱۹/۳/۲۳

(فتویٰ نمبر: الف ۵۶۹۵/۳۳)

طلاق دیدی سے کونسی طلاق واقع ہوگئی؟

سوال [۳۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ شمیم نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں طلاق دیدوں گا، بیوی کہتی ہے کہ طلاق دیدی

کہا تھا، پھر اس ایک طلاق کے بعد میاں بیوی ایک ساتھ پندرہ دن تک رہے، تو دریافت یہ

کرنا ہے کہ مذکورہ جملہ سے کونسی طلاق ہوئی؟ اب میاں بیوی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: سلیم گاہل سیلا، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر واقعی صرف ایک دفعہ کہا ہے تو بیوی کی بات تسلیم

کرنے کی صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہوئی اور سوال نامہ میں ہے کہ طلاق کے واقعہ

کے بعد دونوں ایک ساتھ پندرہ دن تک رہے ہیں، تو ایسی صورت میں رجعت بھی ہو چکی

ہے؛ لہذا اب جب بھی دوسرے طلاق دے گا تو طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی شوہر کے قول

کے اعتبار سے طلاق ہی واقع نہیں ہوئی، بہر حال دونوں صورتوں میں میاں بیوی کی طرح

ساتھ رہنے کی گنجائش ہے۔

وإذا طلق الرجل امرأته تطلقه رجعية أو تطلقته في عتقها .
 (هدایہ، کتاب الطلاق، باب الرجعة، اشرفی دیوبند ۳۹۴/۲، ہندیہ، زکریا ۱/۷۰، ۴۷۰، جدید
 زکریا دیوبند ۱/۵۳۳، قدوری امدادیہ دیوبند ۱۷۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۶۵۹)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۲۱/۲/۲۲ھ

”جا میں نے تجھے طلاق دی“ سے طلاق

سوال [۶۳۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور اس کی بیوی سسرال سے گھر پہنچے، تو گھر پر والدہ تھیں اور گھر کے کچھ لوگ تھے، گھر آ کر زید کی بیوی نے زید کی والدہ کو سلام نہیں کیا؛ کیونکہ زید کی بیوی اور والدہ میں پہلے کچھ کہا سنی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے زید کی بیوی زید کی والدہ سے ناراض تھی؛ اس لئے سلام نہیں کیا، زید نے بیوی سے بار بار سلام کرنے کو کہا، تو بھی نہیں کیا اس پر زید کو غصہ آیا، تو زید نے کہا کہ جب تو میری ماں کو سلام نہیں کر سکتی تو تیرا میرے گھر میں کوئی کام نہیں اور جاہم میں نے تجھ کو طلاق دی، اس پر زید کی بیوی نے زید کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ آپ ایسا نہ کریں زید نے کہا کہ اب تو مجھ کو مت پکڑ اور نہ چھو؛ کیونکہ میں نے تجھ کو طلاق دیدی ہے اور اب تو میری بیوی نہیں ہے، اس پر زید اور زید کی بیوی میں کافی نوک جھوک تک ہوئی اور اب زید کی بیوی کو کافی سمجھانے کے بعد زید کی بیوی نے معافی تلافی کر لی ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ زید کی بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ زید اور اس کی بیوی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: محبوب الرحمن، دھام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید نے یہ جولوفظ کہا کہ جا میں نے تجھے طلاق دی، اس

سے ایک طلاق رجعی واقعی ہوگئی اور اس سے پہلے لفظ ”جا،“ جو کہا ہے، اس سے اگر الگ سے طلاق کی نیت نہیں کی ہے، تو اس سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور بعد میں جتنے بھی الفاظ کہے ہیں، وہ سب پہلی والی طلاق کی خبر ہے؛ البتہ اس نے جو یہ کہا ہے کہ مجھ کو نہ پکڑ اور نہ چھو، تو میری بیوی نہیں ہے، ان الفاظ سے اگر پہلی طلاق کو بائن کرنا مقصود ہو تو پہلی والی طلاق جو رجعی ہوئی تھی وہ بائن ہو جائے گی، اب ایک طلاق بائن ہونے کی وجہ سے رجعت نہیں کر سکتے مگر آپس کی رضامندی سے دوبارہ دونوں کے درمیان میں نکاح درست ہو جائے گا اور بہر صورت صرف ایک ہی طلاق واقع ہوئی اور اگر بعد کے الفاظ کے ذریعہ سے پہلی طلاق کو بائن کرنا مقصود نہیں تھا؛ بلکہ صرف ڈانٹ ڈپٹ کرنا مقصود تھا تو صرف ایک طلاق رجعی ہوئی ہے؛ لیکن سوال نامہ کی عبارت سے اس بات کا رجحان غالب ہے کہ بعد کے الفاظ پہلی طلاق کو بائن کرنے کے لئے استعمال کئے ہیں؛ اس لئے تجدید نکاح کر لیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ مطبوعہ ڈابھیل ۱۲/۳۴۴، مطبوعہ میرٹھ ۲۹/۱۸)

عن سماک قال: سمعت عكرمة يقول: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (المصنف لابن أبي شيبة، ما قالوا في الطلاق مرتان مؤسسة علوم القرآن بيروت ۱۰/۱۹۷، رقم: ۱۹۵۶۴)

ولو قال لامرأته: أنت طالق، فقال له رجل: ما قلت، فقال: طلقها أوقال: قلت هي طالق فهي واحدة في القضاء؛ لأن كلامه انصرف إلى الإخبار بقريئة الاستخبار. (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل النية في طلاق الكناية، زكريا ۳/۱۶۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عماد اللہ عنہ
۱۳ شعبان المعظم ۱۴۳۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۹/۱۰۱۷)

”میں نے تمہاری بھانجی کو طلاق دیدی“ کہنے سے طلاق

سوال [۶۳۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں شائقہ پروین ولد محمد شا کر ساکن لاجپت نگر مراد آباد کی رہنے والی ہوں میری شادی فضل الرحمن ولد محمد رہبان ساکن لاجپت نگر مراد آباد سے ۱۹۸۴ء میں ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے میری کوئی اولاد نہیں ہے، جس کی وجہ میرے شوہر میں کمی ہے، اب اپنی جائیداد کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے کہنے کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، میں کسی کام سے اپنی بہن کے گھر گئی تھی، میرے پیچھے تالا ڈال دیا اور میرے ماموں صاحب کے پاس آ کر کہا کہ میں نے تمہاری بھانجی کو طلاق دیدی ہے، طلاق میرے سامنے نہیں دی اور نہ ہی گواہ تھا؛ لہذا صرف میرے ماموں سے کہہ کر مجھے طلاق کو کہہ دیا؛ لہذا میرا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، ایسی صورت میں شریعت کے حساب سے مجھے طلاق ہوگئی یا نہیں؟ آپ مجھے اس کا جواب دینے کی تکلیف کریں، مہربانی ہوگی۔

المسفتیہ: شائقہ پروین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: طلاق واقع ہونے کے لئے اقرار طلاق کافی ہوتا ہے، اس کے لئے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی بیوی کا آمنا سامنا ہونا لازم ہے، اور نہ ہی بیوی کا سننا ضروری ہے؛ لہذا جتنی طلاقیں دیدیں اتنی طلاقیں واقع ہو گئیں؛ لیکن سوالنامہ میں طلاق کی تعداد کا ذکر نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ میں نے تمہاری بھانجی کو طلاق دی ہے اگر صرف اتنا کہا ہے جتنا سوال نامہ میں ذکر ہے، تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے، عدت کے اندر اندر اگر شوہر رجعت کر لے تو اس کے ساتھ رہنا درست ہے۔

لو أقر بالطلاق، كاذباً أو هازلاً وقع قضاءً لا ديانةً. (شامی، كتاب الطلاق،

مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق، زكريا ۴/۴۰، ۴، كراچی ۳/۲۳۶)

من أقر بطلاق سابق يكون ذلك إيقاعاً في الحال. (مبسوط سرخسی،

دارالکتب العلمیہ بیروت ۴/۱۰۹)

لو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء. (البحر الرائق، کوئٹہ

۳/۲۴۶، زکریا ۳/۲۸۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۵/۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵/جمادی الاولیٰ ۱۴۳۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۰۴۶)

”میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں“ کہنے کا حکم

سوال [۶۳۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نکاح شاہانہ پروین بنت جناب حسین صاحب پیرزادہ روضہ والی زیارت کے ساتھ ۶۲ نومبر ۲۰۱۰ء کو ہوا تھا لگ بھگ ۱۵، ۲۰ دن قبل اہلیہ کیساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، جس میں میں نے اہلیہ کے دوپٹھر مار دیئے، جس کے بعد وہ گھر چلی گئی، گھر جانے کے دو دن کے بعد میں نے فون کیا، تو شاہانہ نے کہا کہ تم نے فون کیوں کیا ہے؟ تمہارا یہاں کون رہتا ہے، مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصہ میں یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، دو مرتبہ کہا اور میں نے کہا آئندہ میرے گھر مت آنا، تو کیا میرے اس قول سے مکمل طلاق واقع ہوگئی یا کچھ گنجائش ہے، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میری اہلیہ آٹھ مہینہ کی حاملہ ہے۔

المستفتی: محمد شریف، کٹار شہید، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب آپ خود اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو دو طلاق دیدیں، تو آپ کی بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں۔ اب اگر آپ رجعت کرنا چاہتے ہیں، تو عدت کے اندر اندر آپ کو رجعت کرنے کا حق حاصل ہے اور

عدت گزرنے کے بعد رجعت کا اختیار نہ ہوگا؛ بلکہ ازسرنو نکاح کر کے میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں اور آپ کی بیوی چوں کہ حاملہ ہے اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، بریں بنا آپ کو ولادت سے پہلے پہلے رجوع کرنے کا حق ہوگا اور رجوع کرنے کے بعد آپ دونوں کے لئے میاں بیوی کی طرح ازدواجی تعلق قائم کرنا بلاشبہ جائز اور درست ہوگا؛ لیکن یاد رکھیں کہ آئندہ جب بھی ایک مرتبہ طلاق کا جملہ نکلے گا، تو بیوی آپ کے لئے قطعی طور پر حرام ہو جائے گی۔
 وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا، کقولہ: أنت طالق أنت طالق.

(شامی، باب الصریح زکریا ۴/۶۳، کراچی ۳/۲۰۲، ۲۰۲)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها
 رضیت بذلک أو لم ترض. (ہندیہ، زکریا ۱/۷۰، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۳)
 والحرّة لا یحرم بالطلاق حرمة غلیظة. (تبیین الحقائق، کتاب الطلاق
 زکریا ۳/۶۶، امدادیہ ملتان ۲/۲۱۹)

وَأَوْلَاثِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. [سورة الطلاق: ۴]
 (والعدة) في حق الحامل مطلقاً..... وضع جميع حملها. (در مختار مع
 الشامی، کراچی ۳/۵۱۱، زکریا ۵/۱۹۸، ۱۹۰)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرّة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح
 زوجاً غيره. (ہندیہ، زکریا ۱/۷۳، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۳۲/۱۱/۱۱
 الرزی قعدہ ۱۴۳۲ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۵۱)

شرعی وقانونی طلاق دے کر اپنی زوجیت سے آزاد کر دیا

سوال [۶۳۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ فرقان نے ایک تحریری طلاق نامہ پر دستخط کر دیئے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ”رو برو گواہان فریق دوم کو شرعی و قانونی طلاق دے کر اپنی زوجیت سے آزاد کر دیا ہے“ طلاق نامہ میں صرف طلاق سے متعلق یہی جملہ لکھا ہوا ہے، تو اس جملہ سے کوئی طلاق واقع ہوگی؟ اب دوبارہ رکھنا چاہتا ہے، شرعاً کیا حکم ہے؟

المسفتی: حاجی شاہد حسین، پیرغیب، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ مذکورہ میں طلاق نامہ پر جو جملہ ”شرعی و قانونی طلاق دے کر اپنی زوجیت سے آزاد کر دیا ہے“ مذکور ہے، اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ہے؛ لہذا بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے۔ اب اگر شوہر بیوی کو دوبارہ رکھنا چاہتا ہے، تو عدت کے اندر اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کی گنجائش ہے۔

وفي أنت الطلاق، أو طلاق، أو أنت طالق، أو أنت طالق، أو أنت طالق
طلاقاً يقع واحدة رجعية. (در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الصریح،
کراچی ۳/۲۰۱، زکریا ۴/۴۶۳)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية..... فله أن يراجعها في عدتها.
(هدایة، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴، ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۰، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۳،
قلوری امدادیہ دیوبند ۱۷۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۹/۶/۱۱

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ جمادی الثانیہ ۱۴۱۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۳/۵۸۱۰)

وکیل کے دریافت کرنے پر طلاق کا اقرار کرنا

سوال [۶۳۲۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ زید وزینب جو کہ میاں بیوی ہیں اختلاف ہونے کی بناء پر زینب اپنی ماں کے گھر چلی گئی اور اسی حالت میں چار ماہ گذر گئے، شوہر سے کہا گیا کہ تم اپنی بیوی کو بلا لاؤ، تو اس پر اس نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ بلا لائیں، میں بلانے کے لئے اس کے گھر پر نہیں جاؤں گا، اسی درمیان حاجی عبدالصمد صاحب نے زید سے رابطہ قائم کیا اور اختلاف کے انجام سے ڈراتے ہوئے سمجھایا کہ تم میرے ساتھ زینب کو بلانے کے لئے چلو، زید نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، پھر حاجی عبدالصمد صاحب نے کہا کہ اگر تم نہیں چلتے ہو، تو میں بلا کر لے آتا ہوں، اس پر کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی ہر صورت میں زید زینب کو بلانے پر انکار کرتا رہا، اسی درمیان زینب کے والد نے زید اور اس کے اعزہ پر مقدمہ دائر کر دیا اسی درمیان زید سے زینب کے بلانے پر رابطہ قائم کیا جاتا رہا؛ لیکن ہر مرتبہ زید نے سکوت اختیار کیا، ایک رات زید حاجی عبدالصمد صاحب کے گھر پہنچا اور کہا کہ میرا فیصلہ کر دو اور فیصلہ سے زید کی نیت جدائی تھی، اس کے بعد حاجی عبدالصمد صاحب کے لڑکے اور بیوی نے زید سے دریافت کیا کہ تو پہلے دل میں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر چکا ہے؟ تو زید نے کہا کہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں بلا کر نہیں لاؤں گا، اس کے بعد زید اپنے گھر آیا، زید کے گھر والوں نے سمجھایا کہ اب نہیں تو پھر زینب کو اسی گھر میں آنا ہے، اس وجہ سے تم وقت دیدو کہ زینب کو بلانے کے لئے کب چل رہے ہیں؟ زید نے کہا تم لوگوں کو اختیار ہے کہ تم بلا کر لے آؤ، میں بلانے کے لئے اس در پر نہیں جاؤں گا، ہاں اگر حاجی عبدالصمد صاحب کہہ دیں، تو چلنے کے لئے تیار ہوں، زید کی نیت اس پر ٹالنے سے یہ تھی کہ زینب کو بلانے کے لئے مجھے جانا نہ پڑے، اس سے قبل زید عدالت میں مقدمہ کو دیکھنے کے لئے گیا، تو، وکیل کے دریافت کرنے پر کیا تم بیوی کو طلاق دے چکے ہو، زید نے جواب میں کہا کہ ”ہاں“ وکیل نے پوچھا ”کیا تم مہرا د کر دو گے، زید نے کہا کہ ہاں“؛ جبکہ اب زید زینب کو اپنے گھر میں رکھنے کے لئے تیار ہے۔

نوٹ: صرف وکیل کے کہنے سے میں نے ایک مرتبہ کہا ہے کہ میں نے طلاق دیدی ہے، جو اس میں لکھا ہے، ورنہ زبان سے کبھی بھی یہ الفاظ ادا نہیں کئے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: چوں کہ زید نے وکیل کے دریافت کرنے پر طلاق کا اقرار کر لیا ہے؛ اس لئے زید کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے۔ اب اگر زید اس کو رکھنا چاہتا ہے تو عدت کے اندر اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھ لینے کی گنجائش ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۹۸/۹)

ولو قيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، أو بلى بالهجاء طلقت واحدة رجعية. (شامی، کتاب الطلاق، باب الصريح، كراچي ۲/۴۹، زكريا ۴/۶۰ جدید زكريا دیوبند ۱/۴۲۴)

قيل لرجل: ألسنت طلقت امرأتك، فقال: بلى تطلق. (هندية، زكريا قديم ۱/۳۵۶، زكريا جديد ۱/۴۲۴)

عن عبد الله وعن أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -إلى قوله- فإذا طلق واحدة أو اثنتين فإما أن يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الرجعة، دار الفكر بيروت ۱۱/۲۸۱-۲۸۲، رقم: ۱۰۵۳۹) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۶ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۵۳۷۲۶)

کسی شخص کے کہنے سے بیوی کو ایک طلاق دینا

سوال [۶۳۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قادر علی کو سسرال والوں نے دباؤ ڈال کر ایک تحریر پر دستخط کرنے پر مجبور کر دیا اور تحریر میں کیا لکھا ہوا ہے، نہ قادر علی کو پڑھ کر سنایا اور نہ وضاحت سے اس کو معلوم ہے، ڈاکٹر نور الحسن

نے قادر علی سے اپنی زبان سے کہہ کر یہ جملہ بلوایا ہے کہ میں نے اپنی بیوی عذراء وارث کو چھوڑ دیا، ڈاکٹر نور الحسن کے کہنے کے ساتھ ساتھ ایک ہی دفعہ قادر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، تو ایسی صورت میں قادر علی کی بیوی عذراء وارث پر طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر طلاق واقع ہوئی، تو کونسی طلاق ہوئی اور جس تحریر پر دستخط کر لیا ہے اس کو لگ بھگ دو مہینہ ہو گیا ہے، اور اس تحریر میں کیا لکھا ہوا ہے اب تک قادر علی کو معلوم نہیں ہو سکا ہے؛ لہذا مفتی صاحب اس مسئلہ میں شرعی حکم سے مطلع فرمائیں۔

المستفتی: قادر علی، کھنی گلی، پیرغیب، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب قادر علی نے مذکورہ تحریر نہ خود پڑھی ہے اور نہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر دباؤ ڈال کر دستخط لے لیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح دستخط کر لینے کی وجہ سے قادر علی کی طرف سے اس کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی؛ لہذا شرعاً طلاق کے سلسلہ میں وہ تحریر ہی لغو ثابت ہوگی؛ البتہ ڈاکٹر نور الحسن کے کہنے سے قادر علی نے جو ایک مرتبہ یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی عذراء وارث کو چھوڑ دیا ہے تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی؛ لہذا قادر علی کو عدت کے اندر اندر بیوی کو رجعت کر کے اپنے نکاح میں رکھ لینا جائز اور درست ہوگا اور اگر عدت گذر جاتی ہے تو دوبارہ نکاح کر کے بیوی بنا کر رکھنا جائز ہے، حلالہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔

وفي البحر: إن المراد الإكراه على التلطف بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق؛ لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا. (شامي، كتاب الطلاق، كراچی ۳/۲۳۱، زکریا ۴/۴۴۰، ہندیہ، زکریا ۱/۳۷۹-حدید زکریا دیوبند ۴۶۱)

ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبداً أو مكرهاً فإن طلاقه صحيح

أي طلاق المكره. (شامي، زکریا ۴/۴۳۸، كراچی ۳/۲۳۰، ہندیہ، زکریا ۱/۳۵۳)

سرحک کنایہ؛ لکنہ فی عرف الفرس غلب استعمالہ فی الصریح،
 فإذا قال رها کردم أي سرحک يقع به الرجعي . (شامی، کراچی ۲۹۹/۳،
 زکریا ۴/۵۳۰، ہندیہ، کتاب الطلاق، الفصل الخامس فی الکنايات زکریا ۱/۳۷۵،
 جدید زکریا دیوبند ۱/۴۴۳) (

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، فله أن يراجعها في عدتها .
 (ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴، ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۳، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۳)

إذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد
 انقضائها . (ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۲، زکریا جدید ۱/۵۳۵، الفتاویٰ تانار خانیہ، جدید
 زکریا دیوبند ۱/۵۳۵، کتاب الطلاق فصل فيما تحل به المطلقة الخ زکریا ۵/۴۸،

رقم: ۷۵۰۴، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۳۵/۲/۱۱

۳۰ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۱۱۳۱۹۰۳۰)

”طلاق دی اور طلاق دیدوں گا“ سے وقوع طلاق کا مسئلہ

سوال [۶۳۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
 میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو کہا کہ تجھے طلاق دی، پھر دوبارہ لڑائی کے دوران کہا کہ تجھے طلا
 ق دیدوں گا، صورت مسئلہ میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کے بعد لوگ معلوم کرتے ہیں کہ
 تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔

المستفتی: سلیم احمد، باجوڑ، نیقی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق دی کے لفظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے
 اور طلاق دیدوں گا کے لفظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اور بعد میں لوگوں کے معلوم کرنے

پر یہ کہہ دینا کہ ہاں میں نے اس کو چھوڑ دیا یہ صرف پہلی طلاق کی خبر ہے، اس سے کسی قسم کی طلاق نہیں ہوئی؛ لہذا صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوئی ہے، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے ساتھ رکھا جاسکتا ہے۔

إذا طلق الرجل امرأته تطلقاً رجعية..... فله أن يراجعها في عدتها
رضیت بذلک أو لم ترض. (ہدایۃ، کتاب الطلاق، باب لرجعة اشرفی دیوبند ۴/۲، ۳۹،
ہندیۃ، زکریا ۱/۴۷۰، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۳، قدوری، امدادیۃ دیوبند ۱۷۷)

بخلاف کنم؛ لأنه استقبل فلم یکن تحقیقاً بالتشکیک..... لو قال
بالعریبة: أطلق لایکون طلاقاً. (ہندیۃ، زکریا ۱/۳۸۴، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۲،
سکب الأنهر، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۲/۱۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ محرم الحرام ۱۴۱۷ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۲/۲۶۱۳)

طلاق دیدوں گا، اور ”طلاق دی، سے طلاق کا حکم

سوال [۶۳۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے ۲۰۰۰/۰۶/۰۶ کو اپنی ساس سے کہا کہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ، میں اس کو طلاق دیدوں گا، ایسا زید نے ساس سے دوسرے کہا، اس کے بعد زید نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، ایسا دوسرے کہا، اس پر زید کے گھر والوں نے زید کی بیوی کو اس کے گھر والوں کے ساتھ بھیج دیا۔ اب زید اپنی بیوی کو رجوع کرنا چاہتا ہے اور لڑکی کے والدین بھی راضی ہیں؛ لیکن کیا اوپر لکھی بات اسلام کی روشنی میں درست ہے اور کیا زید کی بیوی کو واپس بھیجنا شرعاً درست ہے؟

المستفتی: عبدالرشید ولد عبدالواحد، آزادگر، میاں کالونی، سرسید نگر کولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق دیدوں گا کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوئی؛ اس لئے

پہلے دو مرتبہ جو طلاق دے دوں گا کے الفاظ استعمال کئے ہیں، ان سے طلاق واقع نہیں ہوئی، اور طلاق دی کے لفظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ اس لئے بعد میں جو دو مرتبہ طلاق دی کے الفاظ استعمال کئے ہیں، ان سے دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے میاں بیوی کی زندگی گزارنے کی گنجائش ہے، آئندہ کبھی بھی ایک دفعہ طلاق دیدے گا، تو بیوی بالکل حرام ہو جائے گی۔

وبالطلاق أخرى وقعتا رجعتین لا مدخولاً بها، كقولہ أنت طالق، أنت طالق. (در مختار، كتاب الطلاق، باب الصريح، زكريا ۴/۶۳، كراچی ۲۵۲/۳)
 إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في علتها. (هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۹۴، ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۰، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۳، قدوري امدادیہ دیوبند ۱۷۷)

بخلاف کنم؛ لأن استقبال فلم یکن تحقیقاً بالتشکیک..... لو قال بالعربية: أطلق لا یكون طلاقاً. (ہندیہ، زکریا ۱/۳۸۴، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۵۲، سبب الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۱۴)
 لو قال: أطلقک لم یقع. (سبب الأنهر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۱۴)
 فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 اررمضان المبارک ۱۴۳۱ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۳۵/۶۹۰۱)

”دیدگی“ کے لفظ سے طلاق

سوال [۶۳۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا اگر کہنا نہیں مانے گی، تو میں تجھ کو صبح کو طلاق دے دوں

گا، اس کے کچھ دیر بعد عورتوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہتے ہیں، تو اس لڑکے نے کہا دیدی، سمجھو دیدی، اس بات کے بعد وہ کئی روز تک ایک جگہ ہی رہے، اب لڑکے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دو لہن حاملہ ہے اور اس لڑکی کے والد صاحب نے زور دیا ہے کہ یا تو اس لڑکی کو لے جاؤ، ورنہ ہم بچہ ضائع کرادیں گے۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئلہ کا حل فرمائیں۔

المستفتی: رحمت علی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: دیدی سمجھو دیدی کے الفاظ سے صرف ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، لفظ دیدی سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور سمجھو دیدی کا لفظ خبر ہے، اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳۱۶/۹)

عن عبد الله وعن أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -إلى- فإذا طلق واحدة أو اثنتين، فإما أن يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الرجعة، دارالفکر بیروت ۱۱/۲۸۱-۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية..... فله أن يراجعها في عدتها.

(هدایة، باب الرجعة، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴، ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۰، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۳، قدوری امدادیہ دیوبند ۱۷۷)

حمل کا اس طرح ضائع کرنا جائز نہیں ہے، ضائع کرانے والے گنہگار ہوں گے۔ نیز جان پڑ جانے کے بعد ضائع کرنے میں قتل کا گناہ ہوگا۔

وإن أسقطت ميتا ففي السقط غرة. (در مختار، کتاب الحظر والإباحة،

فصل في البيع، کراچی ۶/۴۲۹، زکریا ۵/۶۱۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۶ رمضان المبارک ۱۴۱۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۱۳۶۳۶)

شوہر کا طلاق سے انکار اور لڑکی والوں کا اقرار کرنا

سوال [۶۳۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: شوہر کا کسی بات پر اپنی اہلیہ سے تکرار ہو گیا، بات بڑھنے پر بیوی اپنے میکے چلی گئی، شوہر اپنی بیوی کو لینے سسرال گیا، تکرار بہت زیادہ بڑھنے پر طلاق کہتا ہوا دروازہ کے باہر چلا گیا، شوہر نے صرف ایک بار طلاق کہا، اس بات کے گواہ لڑکی کے والدین، اہلیہ بذات خود ایک نابالغ بھائی اور دو نابالغ بہنیں ہیں، لڑکے کا والد بذات خود وہاں موجود تھا، لفظ طلاق کہنے کی ایک بار آواز آئی، بیوی کو ڈیڑھ ماہ کا حمل ہے اور ایک لڑکا محمد موسیٰ جس کی عمر ڈیڑھ سال ہے۔

شوہر کہتا ہے کہ میں نے ایک بار بھی نہیں کہا ہے، یہ بیشک کہا طلاق دیدوں گا؛ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ یہ فتویٰ دیجئے کہ طلاق ہوئی یا نہیں؟ تاکہ لڑکی کو گھر لایا جاسکے، گھر لانے پر کوئی کفارہ دینا ہے یا نہیں؟

المستفتی: شاہد عمر خاں، باغ گلاب رائے، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب لڑکے کے باپ وہاں موجود تھے، اور ان کا خود کہنا ہے کہ میں نے ایک بار طلاق سنا اور لڑکی کے گھر والے بھی ایک طلاق سننے کو بتا رہے ہیں، ایسی صورت میں ایک طلاق واقع ہوگئی، ابھی رجعت کر کے پہلے کی طرح ساتھ رہنے کی گنجائش ہے اور رجعت کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے یہ کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا، یادوں ایک ساتھ ایک ہی بستر پر رات گزار لیں، اس سے رجعت ہو جاتی ہے پھر کوئی قباحت باقی نہیں رہتی۔

الرجعة هي بنحو "راجعتك ورددتك ومسكتك" وبالفعل بكل

مايوجب حرمة المصاهرة كمس. (شامی، کتاب الطلاق، باب الرجعة،

کراچی ۳/۳۹۷-۳۹۹، زکریا ۲۴/۲۵-۲۵)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها..... والرجعة أن يقول: راجعتك، أو راجعت امرأتي، أو يطأها، أو يقبلها، أو يلمسها بشهوة. (هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۹، ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۰، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۳)

ایک بار ”طلاق دیدوں گا“ کہا ہے، مگر وہاں پر موجود کوئی بھی شخص اس کی اس بات کی موافقت میں شہادت نہیں دیتا؛ لیکن لڑکے کی بات کا اعتبار نہ کرتے ہوئے بھی رجعت کے بعد ساتھ رہنے کی گنجائش ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲ھ/۷/۱۷

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷/۱۱/۱۴۳۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۴۶۱)

دو طلاق رجعی

سوال [۶۳۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندہ کو زید نے تین عورت اور دو مرد کے سامنے طلاق دی، ہندہ بیوی کا کہنا ہے کہ میرے شوہر نیچے سے اوپر منزل میں آئے، اس حال میں کہ میرے پاس تین عورتیں اور دو مرد ایک میرا چچا زاد بھائی اور دوسرا امیر ادا ما، ایک میری بہو، دوسری میری شادی شدہ بیٹی، تیسری میری سمدھن، ان سب کے روبرو میرے شوہر نے دو مرتبہ یہ کہا کہ ”میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی“ دو مرتبہ کہہ کر نیچے اتر گیا، ذمہ دار حضرات نے ان پانچوں مرد و عورتوں سے الگ الگ شہادت لی، تو ان پانچوں مرد و زن کی شہادت ہندہ کے بیان سے ہو بہو ملتی ہے، قطعاً ہندہ کے بیان میں اور گواہوں کے بیان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ہر ایک نے ان میں سے یہی بیان شہادت دی کہ دو مرتبہ زید نے یہ کہا کہ ”میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی“ طلاق دیے ہوئے تاریخ

کے اعتبار سے ۴ مارچ ۱۹۹۳ء مطابق ۱۹ رمضان المبارک ۱۴۱۴ھ بروز جمعہ کو طلاق دی تھی، کل بیانوے دن ہوتے ہیں۔ از روئے شرع کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد مستقیم، ٹھاکر دوآرہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اسی مسئلہ کے متعلق ۲۱ رزی الحجہ کو ۱۴۱۴ھ کو بھی ایک فتویٰ لکھا جا چکا ہے، مگر اس کے سوال میں اور اس کے سوال میں بالکل واضح فرق ہے، اس میں صرف یہ بات ہے کہ شوہر طلاق کا انکار کر رہا ہے اور بیوی طلاق کا دعویٰ کر رہی ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اس کا جواب اسی سوال کے مطابق تھا۔ اب جو سوال نامہ میں واقعہ لکھا ہے اس کے اعتبار سے بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھ لینا جائز اور درست ہوگا اور اگر عدت ختم ہوگئی ہے تو بلا حلالہ نکاح کر کے رکھ سکتا ہے۔

وقعتار جمعیتین لو مدخولاً بہا، کقولہ أنت طالق أنت طالق .

(در مختار، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۲۰۲/۳، زکریا ۴/۶۳)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في

عدتها . (هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۹۴، ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۰، جدید زکریا

ديوبند ۱/۵۳۳، قدوري امدادية ديوبند ۱۷۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴/۱۲/۳۲

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ رزی الحجہ ۱۴۱۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۶۵۷)

دو طلاق رجعی دینا

سوال [۶۳۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ میری اہلیہ نے پھلکیاں پکانی تھیں، پھر میرا بھائی آیا اس نے کھانا مانگا، تو بیوی نے کہا کہ پھلکیاں رکھی ہیں کھالو، پھر میرا بھائی کھانے گیا، تو پھلکیاں خراب ہو چکی تھیں، تو میرے بھائی نے ماں سے شکایت کی، تو میری ماں ناراض ہو گئی، تو میں نے کہا کیا کروں؟ تو ماں نے کہا کہ اس کو طلاق دیدو، یہ لڑکی رکھنے کے لائق نہیں ہے؛ لہذا میں نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مخاطب ہو کر کہا، ”میں نے تجھے طلاق دیدی، میں نے تجھے طلاق دی“ تیسری مرتبہ میں نے کہنا چاہا تو حافظ محمد ہارون جو کہ اس وقت گھر میں موجود تھے، انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس وقت محمد فرقان اور میرا بھائی عبدالوہاب اور میری والدہ اور میری بہن بھی موجود تھی، پھر میرے والد صاحب نے ایک مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کیا، انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی، پھر ہم نے کھانا کھایا، حسب معمول صبح کو غسل کیا، بیوی واقعہ طلاق کے بعد تین ماہ تک میرے یہاں رہی اور آپس میں میاں بیوی کے تعلقات قائم رہے، جب یہاں سے گئی تو تین ماہ کی حاملہ تھی۔ اب لڑکی تقریباً دو ڈھائی سال سے والدین کے گھر ہے، آپ فیصلہ فرمائیں کہ طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: عبدالغفار، رحمت نگر سوسائٹی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سائل کا بیان سچ ہے اور صرف دو ہی طلاق دی ہیں، اور اس کے بعد میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں دو طلاق رجعی واقعی ہو کر رجعت بھی ہو چکی ہے، دونوں کامیاب بیوی کی طرح ساتھ رہنا جائز ہوگا۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا، کقولہ أنت طالق أنت طالق.

(در مختار، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳، ۴، کراچی ۲۵۲/۳)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها

في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض. (هداية، اشرفي دیوبند ۲/۴۳۹،

ہندیہ، زکریا ۱/ ۴۷۰، جدید زکریا دیوبند ۱/ ۵۳۳، مختصر القدوری امدادیہ
دیوبند ۱۷۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱/ جمادی الثانیہ ۱۴۱۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۲/۷۸۷۴)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۶/۱۴۱۶ھ

”جاؤ تم آزاد ہو میں نے تمہیں طلاق دی،، سے طلاق کا حکم

سوال [۶۳۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی دو بیویاں ہیں، ایک حاملہ ایک غیر حاملہ، اس نے شراب کے نشہ کی حالت میں دونوں بیویوں کو مارا پیٹا اور پھر دونوں سے کہا کہ ”جاؤ تم آزاد ہو“ اور ”میں نے تمہیں طلاق دی“ اس کے بعد وہ دونوں بیویاں گھر سے نکل گئیں، اگلے روز پھر ان کو بلا لیا۔ دریافت طلب بات یہ ہے کہ اس حالت میں ان کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر واقع ہوئی تو کونسی طلاق واقع ہوئی اور دونوں کو واقع ہوئی یا ایک کو؟ اور اگر زید اپنی حرکت پر نامد ہو کر رجوع کرنا چاہے، تو کون سا طریقہ اختیار کرے؟

المسفتی: عبدالحفیظ، کالا گڈھ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب زید نے اپنی دونوں بیویوں کو مخاطب کر کے کہا ”جاؤ تم آزاد ہو، میں نے تمہیں طلاق دی“ تو ان کی دونوں بیویوں پر لفظ آزاد ہو سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی۔

فإذا قال رها كردم أي سرحتك يقع به الرجعي. (شامی، کتاب

الطلاق، باب الکنايات، زکریا ۴/ ۵۳۰، کراچی ۳/ ۲۹۹)

اور لفظ طلاق دی سے دوسری طلاق رجعی پڑگئی؛ لہذا دونوں بیویوں پر دو طلاق رجعی واقع

ہو گئیں، عدت کے اندر اندر دونوں سے رجعت کر کے دونوں کو رکھ سکتا ہے؛ لیکن جب زید نے دونوں بیویوں کو اگلے دن بلا لیا، تو رجعت بھی ثابت ہو گئی اور نکاح علیٰ حالہ باقی رہا، اب اگر زید کبھی بھی ایک طلاق دیگا، تو طلاق مغلطہ واقع ہو جائے گی۔

إذا كان للرجل امرأتان، وقد دخل بهما، فقال لهما: أنتما طالقان، طلقت كل واحدة منهما تطليقة رجعية. (ہندیہ، کتاب الطلاق، الباب الثانی فی إيقاع الطلاق، الفصل الأول، زکریا ۱/۳۶۴ جدید زکریا دیوبند ۱/۴۳۱) فتاویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۷ جمادی الاالیٰ ۱۴۱۵ھ

۲۷/۵/۱۴۱۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۰۳۲۳۱)

”طلاق لے کر نمٹ لے“ سے طلاق

سوال [۶۳۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی بار بار یہ کہتی تھی کہ اس گھر میں تم ہی رہو گے یا میں ہی رہوں گی، زید اپنی بیوی سے بولا کہ تو جو بار بار طلاق، طلاق، زبان پر لاتی ہے، تو طلاق لے کر ہی نمٹ، صرف زید نے یہی الفاظ کہے ہیں، کچھ آدمیوں نے یہ بات باہر بھی سن لی، وہ یہ کہتے ہیں کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی، پھر بھی اپنے ہی گھر میں اپنے پاس رکھ رہے ہیں، صرف اتنی بات ہے جو کہ زید نے اس وقت سے ابھی تک اپنی بیوی سے کوئی بات بھی نہیں کی ہے اور نہ ہی صحبت کی ہے۔ بیوا تو جروا۔

المستفتی: اکبر علی، بہس پور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ”طلاق لے کر نمٹ لے“ ”خذ طلاقک“ کے مرادف ہے، اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں بیوی پر ایک طلاق واقع ہو گئی، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کی گنجائش ہے۔

ومنہ خذی طلاقک، فقالت: أخذت فقد صحح الوقوع به بلا
اشترایة كما في الفتح. (شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۳/۴۸، ۲
زکریا/۴۵۹، وھكذا في البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۵۱، زکریا ۳/۴۳۹)

قال خذی طلاقک، أو قال: وهبت لك طلاقک ولم ینو شیئاً یقع
طلاق واحد. (فتاویٰ قاضیخان علی الھندیة، زکریا ۱/۴۵۲ جدید زکریا
دیوبند ۱/۲۷۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ جمادی الثانیہ ۱۴۱۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۳/۵۷۹۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹/۶/۱۵ھ

میں نے اس کو چھوڑ دی

سوال [۶۳۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ زید اپنی بیوی آصفہ کے ساتھ خوشی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا، زید کا رہن
سہن ماں بہن کو نہیں بھایا، اور یہ دونوں (ماں بہن) زید اور زید کی بیوی سے آئے دن ٹکرار
کرتی رہیں اور زید و آصفہ ماں بہن کے طعن و تشنیع برداشت کرتے رہے، کبھی زبان سے
اف تک نہیں کیا، ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ زید اپنے کمرے میں بیٹھا کسی کتاب کے مطالعہ
میں مشغول تھا کہ ماں بہن نے آصفہ سے پھر لڑائی شروع کر دی، اس پوزیشن میں زید اپنے
گھر سے باہر ہونا چاہتا تھا، ابھی گیٹ پر ہی تھا کہ اندر سے اپنی بیوی آصفہ کے رونے کی
زوردار چیخ سنی زید اس چیخ کو سن کر واپس گھر میں آیا دیکھا تو ماں بہن آصفہ کی باورچی خانہ
میں پٹائی کر رہی ہیں، یہ حالت دیکھ کر زید کو غصہ آیا اور ماں بہن کو دھمکانے کی خاطر کہا، اگر
تمہیں اس کا رہنا اچھا نہیں لگتا، تو میں نے اس کو تمہارے اوپر طلاق دیدی اور پھر پڑوس
میں اپنی تائی کو اس طلاق کی خبر دینے کے لئے دیوار پر کھڑے ہو کر باواز بلند تین سے زائد

مرتبہ کہا میں نے اس کو چھوڑ دی اور یہ کہتے وقت زید کی نیت یہ تھی کہ میں طلاق نہیں دے رہا ہوں؛ بلکہ صرف ماں اور بہن کو ڈرانے کے لئے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، موجودہ صورت میں آصفہ سات ماہ کے حمل سے ہے، اس وقت لڑکی کے والدین آصفہ کو اپنے گھر لے گئے ہیں اور وہ وہیں عدت کے ایام پوری کر رہی ہے۔ از روئے شرع قرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل جواب تحریر فرمائیں۔

المستفتی: محمد قاسم بن الحاج محمد اسلم، ڈڑھیال رام پور (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر واقعی زید نے ایک طلاق دینے کے بعد دیوار پر کھڑے ہو کر اسی طلاق کی خبر دینے کے لئے ”میں نے اس کو چھوڑ دی“ کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے، تو یہ خبر کے درجہ میں ہے، اس سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور پہلی طلاق سے ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے، رجعت کر کے رکھنے کی گنجائش ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۴۸/۱۰)

إذا قال أنت طالق، ثم قيل له، ما قلت؟ فقال: قد طلقته أو قلت: هي طالق، فهي طالق واحدة؛ لأنه جواب. (شامی، کتاب الطلاق، باب طلاق غیر المدخول بہا، کراچی ۲۹۳/۳، زکریا ۵۲۱/۴)

ولو قال لامرأته: أنت طالق، فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: طلقته، أو قال: قلت: هي طالق، فهي واحدة في القضاء؛ لأن كلامه انصرف إلى الإخبار بقريئة الاستخبار. (بدائع الصنائع، زکریا ۱۶۳/۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ محرم الحرام ۱۴۱۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۸/۲۹۹۸)

ایک مرتبہ زور سے دوسری مرتبہ آہستہ طلاق دینا

سوال [۶۳۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ شوہر نے اپنی بیوی کو دو مرتبہ طلاق دی، ایک مرتبہ زور سے دوسری مرتبہ آہستہ سے شرعی حکم کیا ہے؟ شوہر کا نام محمد رستم ہے اور بیوی کا نام میر فاطمہ ہے۔

المستفتی: محمد رستم دیوار پورمالاک، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: آہستہ کہے یا زور سے دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے میاں بیوی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔

وقعتار جمعیتین لو مدخولاً بہا، کقولہ أنت طالق، أنت طالق.

(در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، بلب الصریح، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۲۰۲/۳)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها

رضیت بذلک أو لم ترض. (هدایة اشرفی دیوبند ۲/۳۹، ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۰،

جدید زکریا دیوبند ۱/۳۳، قدوری امدادیہ دیوبند ۱۷۷) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۶۳۲/۷۷)

”میں نے اس کو آزاد کیا، آزاد کرتا ہوں،، سے طلاق

سوال [۳۸۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ میں خدا کو حاضر و ناظر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں

اور اپنے گھر والوں کے دباؤ اور میرے ساتھ مار پیٹ ہونے کی وجہ سے یہ الفاظ اپنے منہ سے

کہے تھے کہ ”میں نے اس کو آزاد کیا اور دوسری بار میں یہ کہا تھا کہ میں کوثر پروین کو آزاد کرتا

ہوں،“ میں یہ جانتا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد انعام الحق، ندوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: میں نے اس کو آزاد کیا کا جملہ ہمارے عرف میں طلاق ہی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے؛ لہذا اس کی وجہ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی اور جب دوبارہ اسی لفظ کا استعمال کیا گیا، تو اس سے ایک دوسری طلاق رجعی واقع ہوگئی؛ لہذا سوال نامہ میں درج کردہ صورت میں دو طلاق رجعی واقع ہوگئی ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کی گنجائش ہے، اور آئندہ کبھی بھی زبان سے ایک بار لفظ طلاق استعمال کریگا، تو طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی؛ اس لئے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۰/۷۱۰، جلد بڑا پھیل ۱۲/۳۵۹)

فإذا قال: رها کردم أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضاً، وما ذلك إلا لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاق. (شامی، کتاب الطلاق، باب الكنايات، كراچی ۳/۹۹، زکریا ۴/۵۳۰) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳۰ ر شوال المکرم ۱۴۲۷ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۱۳۸)

شوہر کا ”میں تجھے چھوڑ دوں، تجھے چھوڑوں اور طلاق دی طلاق دی“ کہنا

سوال [۲۳۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تقریباً ڈھائی سال کا عرصہ گزرا محمد عتیق اور اس کی بیوی میں کسی بات پر ان بن ہوگئی، نوبت یہاں تک پہنچی کہ محمد عتیق نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے چھوڑ دوں، تجھے چھوڑ دوں، پھر کہا میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت محمد عتیق کا سالاجن کی عمر تقریباً ۱۳ سال ہے، جو اپنی بہن کو بلانے آیا تھا اور محمد عتیق کی چچی بھی موجود تھی، اس واقعہ کے ۲ گھنٹہ بعد محمد عتیق کا سالاجن اپنی بہن کو بلا کر لے گیا،

پھر آٹھ دس روز کے بعد محمد عتیق اپنی بیوی کو اس کے میکے سے بلا لایا اور ہنسی خوشی رہنے لگے، پھر تقریباً ایک ماہ بعد محمد عتیق سے اجازت لے کر رات اپنے میکے میں رہ کہ آئی، حسن اتفاق سے محمد عتیق کی ساس اپنے سدھی محمد عتیق کے والد کی دعوت پر اپنے بھائی کو لے کر محمد عتیق کے گھر پہنچی اور اپنے سدھن سے کسی اور بات پر لڑ جھگڑ کر چلی گئی، دوسرے روز محمد عتیق کا بڑا سالہ اپنی بیوی کو بلا کر لے گیا، میکے میں پہنچ کر محمد عتیق کی بیوی نے طلاق کا مذکورہ قصہ اب بیان کرنا شروع کر دیا، معلوم کرنے پر محمد عتیق نے بتایا کہ میں نے یہ لفظ استعمال کئے ہیں، ”میں تجھے چھوڑ دوں، تجھے چھوڑ دوں، میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی“ جبکہ محمد عتیق کی بیوی کا کہنا ہے کہ محمد عتیق نے یہ لفظ تین بار کہا ہے اور اس طرح کہا کہ ”میں نے طلاق دی، طلاق دی، میں نے طلاق دی“ محمد عتیق کی چچی جو موقع پر موجود تھی، محمد عتیق کے قول کی حرف بحرف تائید کرتی ہے اور محمد عتیق کا مذکورہ سالہ اپنی بہن کے قول کی صرف تائید کرتا ہے۔ براہ کرم مذکورہ مسئلہ کا حل تفصیل سے تحریر فرمائیں کہ مذکورہ صورت میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو کونسی اور اس کا حکم کیا ہے؟

المستفتی: محمد رفیق ولد جمعہ، ٹانڈہ بادل، رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: چھوڑ دوں یہ لفظ صیغہ مستقبل ہے اور صیغہ مستقبل سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

بخلاف کنم؛ لأنه استقبال فلم یکن تحقیقاً بالتشکیک..... لو قال

بالعبیة: أطلق لایكون طلاقاً. (ہندیہ، زکریا ۱/۳۸۴ جدید زکریا دیوبند ۱/۴۵۲)

اور طلاق دی کا لفظ تین بار استعمال کرنے پر بیوی کے پاس شرعی گواہ نہیں ہے؛ اس لئے بیوی کا دعویٰ معتبر نہ ہوگا اور شوہر کے قول کے مطابق دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں اور سوال نامہ سے واضح ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد میاں بیوی رہ چکے ہیں؛ لہذا اس سے رجعت بھی ثابت ہوگئی ہے؛ اس لئے شوہر سے اپنے قول پر قسم لے کر اسی کے مطابق

فیصلہ عمل میں لایا جاسکتا ہے اور بیوی کے پاس شرعی گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا قول معتبر نہ ہوگا۔

قال الله تعالى: 'وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ'. [البقرہ: ۲۸۲]

وَمَأْسُوئِ ذَٰلِكَ مِنَ الْحَقِّ كَانَ مَالًا، أَوْ غَيْرِ مَالٍ مِثْلِ النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ. (هدایہ، کتاب الشہادۃ، اشرفی دیوبند ۱۵۴/۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۳/ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۸۰۶۳۱۸)

دو مرتبہ طلاق دیدوں گا اور دو مرتبہ طلاق دی کہنا

سوال [۶۳۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نام زاہدہ خاتون ہے، میرے شوہر کا نام محمد ساجد ہے، میرے شوہر کام پر سے بارہ بجے گھر میں آئے مجھ سے کھانا مانگا، میں نے دیدیا پھر چائے بنوائی میں نے بنادی، پھر مجھ سے کہنے لگے بچے کی دوائی دیدی؟ میں نے کہا ہاں ابھی دو چمچے میں میں نے شیشی کے ڈھکن سے دوائی دے کر شیشی پہ ڈھکن رکھ دیا ہے، اس بات پر انہوں نے گالیاں دیں، کہنے لگے چھوٹی دوائی کا ڈھکن تم نے اس پر رکھ دیا، بچے بیمار ہو جائیں گے، اس بات پر انہوں نے مجھ کو ماں بہن کی گالیاں دیں، میں نے کہا اپنی ماں بہن کو گالیاں دینا، اس بات پر انہوں نے ایک دفعہ ایک بار، پھر دو دفعہ کہا ”میں تجھے طلاق دے دوں گا“ رات کے دو بج رہے تھے، میرے گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی جاگ نہیں رہا تھا، میرے سامنے طلاق کا نام سن کر میں گم سم ہو گئی، اور رات بھر روتے روتے کاٹی، صبح ہونے پر میرے شوہر نے مجھ سے ناشتہ بنوایا، ناشتہ کرنے کے بعد کہنے لگے دوپہر کا کھانا بناؤ، میں تجھے تیرے

بچے کے بغیر تیرے ماں باپ کے پاس بھیج دوں گا، میں نے سوچا میری بچی کو روک لیں گے، اس ڈر سے میں نے دوپہر کا کھانا بھی بنا دیا، پھر میرے شوہر کہنے لگے طلاق میں نے دیدی اور تو نے سنی، کوئی تیرے میرے بیچ گواہ نہیں ہے، تجھے طلاق نہیں ہوئی، میرے شوہر نے ایک دفعہ تو کہا ”میں طلاق دیدوں گا“ اور دوبارہ کہا ”میں نے طلاق دی“۔ اب آپ فرمائیں کہ مجھے طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

المسئتیة: زاہدہ خاتون، تمباکو محلہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق دیدوں گا کہ لفظ سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔

لو قال: أطلقک لم يقع. (سکب الأنهر، دارالکتب العلمیة بیروت ۱۴/۲)

اور میں نے طلاق دی کے لفظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور جب شوہر نے یہ لفظ دو مرتبہ کہا، تو اس سے دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں، عدت کے اندر رجعت کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بھا، کقولہ أنت طالق أنت

طالق. (در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳،

کراچی ۲۰۲/۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

محرم الحرام ۱۴۱۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲/۲۸۳)

میں نے طلاق دی دو مرتبہ کہنا

سوال [۶۳۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد حنیف اور ان کی بیوی کے درمیان کسی بنا پر جھگڑا ہو رہا تھا، محمد حنیف نے اپنی بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اتنے میں محمد حنیف کا چھوٹا بھائی، محمد نعیم آ گیا، تو اس

نے اپنے بڑے بھائی محمد حنیف کو ڈانٹا کہ تم ہر وقت اس کو تنگ کرتے رہتے ہو، محمد حنیف نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میں چاہے جو کروں، تو کون ہوتا ہے؟ جھگڑا زیادہ بڑھ گیا، تو محمد حنیف نے اپنی بیوی صافیہ کو کہا ”میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی“ اس طرح کہا اس پر گواہ بھی موجود ہیں اور پھر محمد حنیف جا کر سو گیا، کیا اس صورت میں محمد حنیف اپنی منکوحہ صافیہ کے ساتھ گذشتہ زندگی کی طرح زندگی بسر کر سکتا ہے یا نہیں؟ امید کے جواب سے نوازیں گے۔

المستفتی: محمد حنیف، دلپت پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب محمد حنیف نے اپنی بیوی کو دو مرتبہ کہا کہ میں نے طلاق دی، تو اس سے اس کی بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں، اب اگر محمد حنیف دوبارہ اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو عدت گذرنے سے پہلے پہلے رجعت کر کے اس کے ساتھ گذشتہ زندگی کی طرح زندگی بسر کر سکتا ہے؛ لیکن پھر اس کے بعد کبھی اگر ایک طلاق بھی دیا، تو اس کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور وہ اس پر بالکل حرام ہو جائے گی، پھر بغیر حلالہ شرعیہ کے وہ اس کے لئے حلال نہ ہوگی۔

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض. كذا في الهداية. (عالمگیری، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، زكريا ۱/ ۴۷۰ "جدید زکریا دیوبند ۱/ ۵۳۳)

وقعتار جمعيتين لو مدخولا بها، كقوله أنت طالق، أنت طالق.

(الدر المختار مع الشامی، كتاب الطلاق، باب الصريح، كراچی ۳/ ۲۵۲، زکریا ۴/ ۶۳)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵/۱/۲۹ھ

کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۹ محرم الحرام ۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۷۳۷۷/۸۲۱۴)

دو ماہ قبل دو طلاق دے کر پھر تجھے طلاق دیدوں گا کہنا

سوال [۴۳۴۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محفوظ حسین نے اپنی بیوی کو دو مہینہ قبل دو طلاقیں دی تھیں، پھر دو ماہ کے بعد دوبارہ اس نے اب کہا کہ میں تجھے طلاق دیدوں گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ کی وضاحت فرمائیں۔

المستفتی: محمد عرفان، مانپور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر صرف دو ہی مرتبہ طلاق دی ہے، تو اس سے دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں، عدت کے اندر رجعت کر کے رکھنے کی گنجائش ہے اور بعد میں جو یہ کہا ہے کہ طلاق دیدوں گا، اس سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا، کقولہ أنت طالق، أنت طالق.

(در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۲۰۲/۳)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض. (هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۹۴) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵/۲/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ صفر المظفر ۱۴۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۸۲۴۹/۳۷)

شوہر کا بیوی کو دو طلاق دینا اور اس کے حقوق ادا نہ کرنا

سوال [۶۳۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں:

میں: کہ یہاں نظام آباد صوبہ آندھرا پردیش میں شرعی پنچایت قائم ہے، جس میں تین مفتیان کرام اور دو علمائے کرام اور ایک قانونی وکیل صاحب کی موجودگی میں فریقین کے دعویٰ اور بیانات سن کر شرعی حل نکال کر معاملہ کی یکسوئی کرائی جاتی ہے۔

فی الحال زیر نظر قضیوں میں سے ایک قضیہ میں مدعیہ خاتون اور مدعی علیہ شوہر کے بیان کے بعد فیصلہ میں ہمیں دشواری ہو رہی ہے، خاتون اور مدعی علیہ کے قضیہ کے متعلق مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ معاملہ کا فیصلہ فرمائیں اور ہماری رہبری فرمائیں۔

مسئلہ کی پوری تفصیل لکھی جا رہی ہے تاکہ فیصلہ میں سہولت ہو، طوالت کی زحمت معاف فرمائیں۔

مضمون درخواست مدعیہ اشرف فاطمہ بنت جانا محمد طیب صاحب ساکن بودھن، ضلع نظام

آباد، فون: 9032112440

جناب مولانا صاحب السلام علیکم عرض گزارش یہ ہے کہ میری ازدواجی زندگی کے تعلق سے آپ سے فیصلہ کی درخواست ہے کہ میری شادی اکتیس مارچ ۲۰۰۲ء میں جناب سید ہدایت علی صاحب ولد سید اسد اللہ صاحب مرحوم ساکن نظام آباد سے ہوئی، میری شادی سے ایک سال قبل خسر صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، میری شادی میرے جیٹھ جناب سید یوسف علی صاحب کی سرپرستی میں ہوئی، شادی کے بعد مجھے نظام آباد میں سسرال میں مشترکہ خاندان میں رکھا گیا، میرے شوہر حیدر آباد میں ملازمت کیا کرتے تھے، مہینہ میں ایک دفعہ دو یا تین دن کے لئے آتے تھے مشترکہ خاندان میں میرے سات سال گذر چکے، اس دوران مجھے بہت مشکلات پیش آئیں، میرے دو بچے ایک لڑکا، ایک لڑکی ہے، مجھے زندگی میں ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لئے سسرالی رشتہ داروں سے عاجزی کرنی پڑتی تھی؛ کیونکہ میرے شوہر حیدر آباد میں رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ بچوں کے لئے دودھ لانے کے لئے مجھے سسرالی رشتہ داروں میں سے بچوں پر بھی منحصر ہونا پڑتا تھا، دیورانی اور جٹھانی میں میری نہیں بن رہی تھی، بچوں کے بھی

لڑائی جھگڑے عورتوں کے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، دیور بھی گالی گلوچ کرتے تھے، شادی کے ۶ ماہ بعد مجھے سرکاری ملازمت مل گئی اور میں روزانہ نظام آباد سے بانسڑہ آتی جاتی تھی، شروع میں ملازمت میں میری تنخواہ تھوڑی تھی، وہ آنے جانے میں بس کرائے، زکوٰۃ، بچوں کے اخراجات دو خانہ وغیرہ میں خرچ ہوتی تھی، اور تھوڑی جو بچ جاتی وہ گھر پر خرچ ہوتی تھی، اور میری مزید تعلیم پر بھی کچھ رقم خرچ ہوتی تھی؛ چوں کہ میرے شوہر حیدر آباد میں تھے، روزمرہ کی ضروریات ان سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اب میرے سسرال والے مجھے رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں اور میرے شوہر بھی مجھے الگ رکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں؛ جبکہ میں الگ رہنے پر میری ساس اور مطلقہ نندان کے بچہ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لئے تیار ہوں اور میری تنخواہ جو اب ساڑھے سترہ ہزار ہے، اس میں سے زکوٰۃ و صدقات کے لئے تین ہزار روپیہ اور پھر میرے بچوں کے نام پر دو ہزار روپیہ اپنے پاس رکھ کر باقی ساڑھے بارہ ہزار اپنے شوہر کے ہاتھ میں خوشی سے دینے کے لئے تیار ہوں، بشرطیکہ وہ میرے ساتھ رہیں، وہ اب نظام آباد آچکے ہیں اور دو سال سے نظام آباد میں رہ رہے ہیں سسرال میں، اور مجھے میکہ رہنے کے لئے کہتے ہیں، ہماری نو سالہ زندگی میں کبھی بھی ایک مہینہ کے لئے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکے، میری سسرال والے میرے شوہر سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو اس کے میکہ میں ہی رکھئے اور مجھے سسرال میں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے؛ جبکہ میرے شوہر میری سسرال میں ہیں اور میں اپنی میکہ میں ہوں۔

بودھن میں دو سال سے میں ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں میرے والد کو شوگر اور بی پی ہے، دو سال سے وہ میری اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، میں مزید اپنے ماں باپ کے پاس رہنا اور ان کو تکلیف دینا نہیں چاہ رہی ہوں، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میرے شوہر بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر اپنی ذمہ داری نبھائیں؛ جبکہ میرے شوہر اس بات کو نہیں مان رہے ہیں، سسرال میں سب بھائی بہنوں کی شادی ہو چکی ہے، سب بھائی اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اور

اپنے بیوی بچوں کی تائید میں رہتے ہیں، سسرال کے تین گھر ہیں، دو گھر میری شادی کے وقت موجود تھے اور ایک گھر ایک سال پہلے میرے شوہر نے ملازمت ترک کر کے بنایا تھا پتہ نہیں وہ سارے گھر کس کے ہیں، مجھے تو سسرال کے کسی گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ گھر جو میرے شوہر نے ٹھہر کر بنایا، وہ کرائے پر دیدیا گیا ہے اور پہلے کے دو گھر جو میری شادی کے وقت موجود تھے، اس میں سارے بھائی مشترکہ طور پر رہتے ہیں، میں بھی وہیں رہتی تھی، یہ ساری باتیں مجھے آپ سے اس لئے بیان کرنی پڑی ہیں کہ میرے شوہر اور میرے سسرال والے مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں حتیٰ کہ گھر کا فون نمبر بھی بدل ڈالا اور مجھے گھر پر آنے بھی نہیں دے رہے ہیں، میرے شوہر کا فون نمبر میرے پاس ہے؛ لیکن فون کرنے پر وہ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، مہربانی فرما کر میرا مسئلہ حل کر دیجئے۔

میرے خسر صاحب ترکہ میں بہت سی جائیداد چھوڑ گئے، میری نندیں دیور اور جیٹھ میرے شوہر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیوی کو سرکاری نوکری حاصل ہے اور تم اپنے والد کی زندگی میں باہر جانے کے سلسلہ میں بہت سا پیسہ خرچ کر چکے۔ اب ہم تم کو حصہ نہیں دیں گے یا تو تم بیوی کو چھوڑ دو یا پھر اپنی بیوی کو نوکری چھوڑنے کے لئے کہہ دو، تب ہم تم کو حصہ دیں گے میرے شوہر ترکہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں اور میرے شوہر اس لئے بھی مجھے میرے میکہ میں رہنے کو کہتے ہیں کہ میرے شوہر مجھے چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں؛ کیونکہ دو بچے ہیں؛ لیکن بہن بھائی کی وجہ سے وہ میرے میکے میں رکھ کر خود بہن بھائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور بہن بھائیوں کے سامنے مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تو میری بیوی نہیں ہے، میری ساس کے سوا سب بہن بھائی میرے شوہر پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو، اگر میرے شوہر کسی کو بھی کچھ قرضیلتے ہیں تو میں اس کے لئے تیار ہوں، میرے جیٹھ دیور اور نندیں میرے شوہر کو ہر وقت یہ طعنہ دیتی ہیں کہ تم نے گھر کے لئے کچھ بھی نہیں کیا، میری ساس میری طرفدار ہیں، مجھے نوکری میری شادی کے بعد ملی، نوکری بانسوڑہ پچاس کلو میٹر

دور تھی، میرے شوہر بانسوڑہ میں رہنے پر راضی تھے؛ لیکن سسرال والے اجازت نہیں دیتے، تو میں دو بچوں کو چھوڑ کر مجبوراً بانسوڑہ آتی جاتی رہی، ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ چھ ماہ قبل میرے شوہر میرے پاس آئے تھے، اور میری تنخواہ ان کے ہاتھ میں دینے کے لئے کہا اور کہا کہ بڑے بھائی مجھے آپ کی تنخواہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لئے کہتے ہیں ”اگر تم نے اپنی تنخواہ مجھ کو نہیں دی، تو میں تم کو چھوڑ دوں گا“، کیونکہ میرے گھر والے بھی مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں اور میں تمہاری طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے پاگل ہو رہا ہوں؛ لیکن میں نے ان کو تنخواہ نہیں دی، مجھے میکہ میں رکھ کر ان کا میری تنخواہ لجا کر اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، مجھے پسند نہیں آیا، اور میں نے ان سے کہا کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں گے، تب ہی میں اپنی تنخواہ آپ کے ہاتھ میں دوں گی، اس کے بعد پھر وہ میرے پاس نہیں آئے، اس درخواست کے موصول ہونے کے بعد شرعی پنچایت مدعیہ خاتون اور ان کے شوہر کو ۲۶ مارچ ۲۰۱۱ء کے اجلاس میں بلوایا گیا، وہ دونوں حاضر ہوئے اور شوہر نے مندرجہ ذیل بیان بعد اہلکف دیا۔ مضمون بیان سید ہدایت علی صاحب (مدعی علیہ)

(۱) میری بیوی میرے تابع یعنی میرا کوئی حکم نہیں مانتی، میری بیوی تقریباً ڈھائی سال سے اپنے میکہ میں رہ رہی ہے اور بغیر اجازت اور میری منشاء کے خلاف چلی گئی، اس کے ایک سال کے اندر اندر میرا سسرال آنا جانا رہا۔ اب اس سال رمضان میں میرا آنا جانا بند ہو گیا۔

(۲) میری اہلیہ بغیر مشورہ کے کام کرتی ہے، یہ سب سے اہم شکایت ہے۔

(۳) ہاں میں اپنے بھائی بہنوں کی موجودگی میں یہ بول چکا ہوں کہ ”تو میری بیوی نہیں“ میرے بھائیوں نے میری بیوی کو چھوڑنے کے لئے کبھی بھی دباؤ نہیں ڈالا۔

(۴) بیوی کے بانسوڑہ میں رہنے کے لئے میں راضی نہیں تھا۔

(۵) یہ صحیح ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو تنخواہ میری تحویل میں دینے کے لئے کہا؛ لیکن تنخواہ نہ دینے پر ”چھوڑنے کی بات نہیں کی“ ملازمت کی وجہ سے مکمل ایک مہینہ ہم ساتھ نہیں رہ سکے،

الگ، رہنے کے سلسلے میں میں نے اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کے بعد یہ کہا کہ اس سال گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم اپنے ذاتی مکان میں شفٹ ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد نا اتفاقی ہوگئی اور پروگرام ویسا ہی رہ گیا۔

(۶) پہلے جیسے اپنے بھائی اور والد کے ساتھ میرے گھر آنا چاہتی ہیں، تو اجازت ہے میرا سابقہ فون نمبر وہی ہے بدلانہیں ہے۔

بیوی اور شوہر کے بیانات مذکورہ سن کر شرعی پنچایت نے دونوں سے دفتر میں گفتگو کی اور عبوری فیصلہ دیا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

مذکورہ بالا عبوری فیصلہ ۶ اپریل ۲۰۱۱ء کو ہوا، اور دونوں فریق عبوری فیصلہ پر راضی ہو کر چلے گئے، پھر دوبارہ بتاریخ ۸ جنوری ۲۰۱۲ء کو مدعیہ اشرف فاطمہ نے درخواست دی کہ اپریل ۲۰۱۳ء سے میاں بیوی میں دوری رہی یعنی عبوری فیصلہ سے دو سال تک ساتھ رہے، پھر اپریل سے دوری ہوئی اور مدعیہ نے لکھا کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان دوری ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لئے تیار بھی نہیں ہے اور کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے مابین کوئی فیصلہ کر دیں، جس میں ہماری دونوں جہاں کی بھلائی ہو، اس درخواست کے بعد بتاریخ ۲۶ جنوری کو شرعی پنچایت نے مدعیہ اور مدعی علیہ کو طلب کیا دونوں حاضر اجلاس ہوئے اس اجلاس میں سید ہدایت علی (مدعی علیہ) نے ایک خط پیش کیا جو اشرف فاطمہ نے اپنے جیٹھ سید یوسف صاحب کو لکھا تھا، اس خط کے اہم اجزاء درج ذیل ہیں۔

بھیا آپ کے بھائی مجھے اپنے ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور کوئی فیصلہ بھی نہیں کرتے، نو مہینوں سے ہمارے درمیان دوری ہے ”وہ مجھے دوبار طلاق دے کر رجوع ہو گئے“ اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ”مجھے تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے تجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بھیا کے بولنے سے میں نے شادی کر لی تھی“ یہ الفاظ طلاق بائن میں آتے ہیں اور یہ الفاظ وہ کئی بار کہہ

چکے ہیں اور ان کے رویہ سے یہ بات واضح ہے کہ وہ ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ رہنے میں آپ کی بھتیجی خود ان کی بیٹی کی عصمت کو ان سے خطر ہے؛ کیونکہ انہوں نے سید ساجدہ فوز (ہم دونوں کی بیٹی) کیساتھ نازیبا حرکت کی ہے، میرے منع کرنے پر مکر گئے اور مجھے مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا، اور کہا کہ کیا میری بہنیں نہیں ہیں، بچی کیساتھ اس نے جو نازیبا حرکت کی اس بات کو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، وہ آدمی دین سے بہت دور ہے، محتاجی کفر تک لے جاتی ہے، ان کے لئے حلال روزگاری کوشش کیجئے میں بھی مدد کے لئے تیار ہوں محتاج رہتے ہوئے وہ کمیونزم کی طرف جارہے ہیں، ان کو شراب کی عادت ہے، جس کی آپ سب لوگوں کو خبر ہے، میں بچوں کو شرابی باپ کے حوالہ نہیں کر سکتی اور میں بچوں کا خرچ نہیں لوں گی۔ فقط

شرعی پنچایت نے اس خط کے اہم الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے مدعیہ اشرف فاطمہ سے ایک حلفیہ بیان لیا جو درج ذیل ہے۔

مضمون بیان بعد الحلف اشرف فاطمہ مدعیہ۔

(۱) شوہر نے پچھلے عرصہ میں بھگڑے کے دوران طلاق کا لفظ بولا، پھر شام میں گھر آ کر رجوع کر لیا، پھر دوسری مرتبہ مارچ ۲۰۱۱ء میں ۳ تاریخ کو شرعی پنچایت میں درخواست دینے سے پندرہ بیس دن قبل طلاق کا لفظ بولا اور رجوع کر لیا۔

(۲) جس وقت ۳ مارچ ۲۰۱۱ء کو میں نے شرعی پنچایت میں درخواست دی تھی، اس سے دو سال قبل میں دو سال تک میکہ میں رہی تھی، جس کا میں نے درخواست میں تذکرہ بھی کیا ہے، اس دوران جب بھی فون پر بات ہوتی تو کہتے کہ ”مجھے تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے“

(۳) ساجدہ فوز میری بیٹی ہے، اب نو سال کی ہے؛ جبکہ وہ آٹھ سال کی تھی تو میرے شوہر نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ نازیبا حرکت کی دست درازی کی، بچی نے مجھے یہ بات بتلائی، میں نے بچی کو قریب جانے سے منع کر دیا، وہ بھی کہتے ہے کہ بچی کو دور رکھو۔

(۴) میرے خسر کے انتقال کے بعد سے آج تک ان کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی؛ جبکہ ان کا انتقال میری شادی سے ایک سال قبل ہوا، اور بڑے جیٹھ نے ابھی تک تقسیم نہیں کی۔

(۵) جب ہم مشترکہ خاندان میں تھے اور مجھے جب معلوم ہوا کہ میرے شوہر گھر میں رقم نہیں دیتے ہیں؛ حالانکہ مشترک لوگ رقم مانگتے ہیں، تب میں نے ٹیچر کی ملازمت شروع کر دی اور سات سال تک ہر ماہ میں تنخواہ اپنے شوہر کو دیتی تھی، صرف بس کرائے کے پیسے اور دودھ کے پیسے اپنے پاس رکھتی تھی۔

مدعیہ کے اس بیان کے بعد شرعی پنچایت نے مدعی علیہ سید ہدایت علی ولد سید اسرار اللہ مرحوم سے حلفیہ بیان لیا جو درج ذیل ہے۔

(۱) میری بیوی کے بیان میں جو ہے ’میں نے طلاق کا لفظ کہا اور رجوع کر لیا‘ یہ غلط ہے اور شرعی پنچایت میں درخواست دینے سے پندرہ بیس روز قبل طلاق دینے کی جو بات ہے، وہ بھی غلط ہے۔

(۲) میرے ان جملوں سے کہ ”مجھے تجھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے“ طلاق کا ارادہ نہیں تھا اور میں نے ایسے الفاظ نہیں کہے ہیں۔

(۳) میری بیٹی کے سلسلہ میں جو بات لکھی ”وہ مجھ پر الزام ہے“ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ نازیبا سلوک نہیں کیا اور کوئی بھی سر پرست ایسا نہیں کر سکتا؛ جبکہ میں جانتا ہوں اسی طرح میں نشہ میں بھی نہیں تھا، اور میں شراب نہیں پیتا ہوں۔ فقط

خلاصہ: اس پورے مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک خاتون دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بہت ستائی ہوئی ہے اور پریشانیوں میں ہے۔

(۱) خاتون بیوی کا دعویٰ ہے کہ ۳ مارچ کو شرعی پنچایت میں درخواست دینے سے قبلی کے زمانہ میں شوہر نے اس کو ایک طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر چند روز بعد ایک دوسری طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، اور اس سلسلہ میں شوہر ان دونوں طلاقوں کا انکار کرتا ہے۔

(۲) خاتون کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ۳ مارچ کو درخواست دینے سے قبل میں دو سال میکہ میں تھی اور جب بھی فون پر گفتگو ہوتی تو شوہر اکثر کہتے تھے کہ مجھے تجھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس تعلق سے شوہر نے بیان دیا کہ ان جملوں سے میرا ارادہ طلاق کا نہیں تھا۔

(۳) تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ جو ۳ مارچ ۲۰۱۱ء کی درخواست میں ہے کہ شوہر نے کہا کہ تو میری بیوی نہیں ہے اور شرعی پنچایت کے رو برو شوہر نے اس کا اقرار بھی کر لیا کہ ہاں میں نے ایسا کہا ہے، تو اس جملہ کا کیا حکم ہے؟ بعد میں شرعی پنچایت والوں نے شوہر سے نیت معلوم کی، تو شوہر نے کہا کہ اس جملہ کے کہنے سے طلاق کا ارادہ نہیں تھا۔

(۴) چوتھا دعویٰ یہ ہے کہ شوہر نے خود کی سگی بیٹی کے ساتھ جبکہ وہ آٹھ سال کی تھی نازیبا حرکت کی ہے اور خاتون نے کہا کہ یہ بات بچی نے بتلائی ہے اور میری نظر بھی ایک بار پڑی اور شوہر اس فعل کا انکار کرتا ہے، خاتون نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر وہ یہ بات کہتی ہے اور منع کرنے پر شوہر نے ہاتھ بھی اٹھائے، اب حضرات علماء کرام مفتیان عظام سے درخواست ہے کہ اس مسئلہ کے فیصلہ میں رہبری فرمائیں اور صل تجویز فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں آمین۔

نوٹ: واضح ہو کہ نمبر ۳ میں جو دعویٰ ہے کہ شوہر نے کہا کہ تو میری بیوی نہیں ہے یہ طلاق بائن بننے والا جملہ دعویٰ نمبر ۱ سے پہلے کا ہے یعنی دو طلاق دے کر رجوع کرنے سے پہلے کا ہے۔ اگر جلد جواب مل جائے، تو بڑی نوازش ہوگی۔ مینو تو جروا۔

المستفتی: اراکین شرعی پنچایت، ضلع و شہر نظام آباد (ایم پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بیوی کی طرف سے دو طلاق رجعی کا دعویٰ ہے، جس کا شوہر انکار کر رہا ہے، اگر بیوی کے پاس ان طلاقوں کے ثبوت کے لئے شرعی گواہ نہیں ہیں، تو شوہر کی بات کا اس کی قسم کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا؛ اور چونکہ طلاق رجعی کا دعویٰ ہے؛ اس لئے بیوی کو شوہر کے ساتھ شرعی طور پر رہنے کا حکم ہے۔ اب رہا شوہر کا جملہ کہ تو میری بیوی

نہیں ہے اور مجھے تجھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان الفاظ سے اگر شوہر نے طلاق کی نیت نہیں کی ہے، جیسا کہ مذکورہ تحریری بیان سے واضح ہوتا ہے، تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔

لو قال لامرأته: لست لي بامرأة-إلى-فإن قال: أردت به الكذب يصدق في الرضا والغضب جميعاً، ولا يقع الطلاق، وإن قال نويت الطلاق يقع الطلاق. (ہندیہ، زکریا ۱/۳۷۵ کتاب الطلاق الفصل الخامس فی الکنايات جدید ۴۴۳/۱، بدائع الصنائع، زکریا ۳/۱۷۱)

ولو قال: لا حاجة لي فيك ونوى الطلاق لا يقع. (قاضیخان علی

الہندیہ، ۱/۶۸ کتاب الطلاق فصل فی الکنايات والمدلولات جدید زکریا ۱/۲۸۴)

ويقع بباقيها-البائن إن نواها (الدر المختار) لست لي بامرأة وما أنا

لك بزواج. (شامی، کراچی ۳/۳۰۳، زکریا ۴/۵۳۴)

وتطلق بلي بامرأة، أو لست لك بزواج إن نوى طلاقاً.

(البحر الرائق، زکریا ۳/۵۳۰، کراچی ۳/۳۰۵)

اور بیٹی کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے، عورت کو اس طرح کی باتیں کرنے میں محتاط رہنا چاہئے، اور خدا نخواستہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو بھی تو آٹھ سالہ بچی کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں لگتا، باپ نے اگر پیار و محبت میں ایسا عمل کیا ہے، تو یہ باپ کی طرف سے شفقت ہے، اس کو بد نیتی پر محمول کرنا غلط ہے، شادی کا اصل مقصد میاں بیوی کا ساتھ میں گزار کرنا ہے، مذکورہ جوڑوں کے درمیان کی جو داستان سامنے آئی ہے، اس سے صاف واضح ہے کہ اتنے لمبے عرصے میں میاں بیوی دونوں کا ایک مہینے کے لئے بھی ایک ساتھ رہنا نہیں ہوا ہے، جو بڑے افسوس کی بات ہے، اور دونوں کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے شرعی طور پر بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرنے میں انتہائی لاپرواہی اور کوتاہی ہوئی ہے اور شوہر کے غیر ذمہ دارانہ رول کی وجہ سے بیوی کو نوکری کرنی پڑی، اور مذکورہ تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی بیوی کے حقوق ادا

کرنے میں اپنے بھائیوں اور خاندان والوں کے تابع رہنے کی وجہ سے ناکام ہے اور شوہر کے بیان میں کہیں بھی اس کا اظہار نہیں ہے کہ شوہر نے دور رہنے کے زمانہ میں بھی بیوی کو کوئی خرچ دیا ہو، اس کے برخلاف بیوی کی طرف سے شوہر کو پیسے دینے کا تذکرہ موجود ہے، ان سب باتوں کے پیش نظر شرعی پنچایت پر ضروری ہے کہ شوہر کے اوپر یہ بات لازم کر دے کہ بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرے اور شوہر کے خاندان والوں کی طرف سے اس بات کا دباؤ ڈالنا کہ نوکری چھوڑ دے یا طلاق دیدے، یہ ناجائز دباؤ ہے، اگر شوہر کے پاس بیوی کو رکھنے کے لئے الگ سے رہائشی مکان ہے اور بیوی بچوں کا پورا خرچہ ادا کرنے کا مکمل ذریعہ معاش اس کے پاس موجود ہے، تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ بیوی کی نوکری چھڑوادے اور اپنی کمائی کے بل بوتے پر بچوں کی پرورش کرے؛ جبکہ مذکورہ تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کے پاس ایسا انتظام نہیں ہے، ایسے حالات میں شرعی پنچایت دونوں طرف کی باتوں پر غور کر کے میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو ہموار کر کے ساتھ رہنے کی شکل پیدا کرے اور مذکورہ حالات سے پتہ چلتا ہے کہ خاندانی لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہنے میں دشواری ہے؛ اس لئے شوہر پر لازم کیا جائے کہ بیوی کو الگ رکھ کے حقوق زوجیت ادا کرے اور یہ شوہر کے اور پر شرعی ذمہ داری ہے۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۵/۶/۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲/ جمادی الثانیہ ۱۴۳۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۰/۱۱۵۵)

”طلاق، طلاق، طلاق ان شاء اللہ“ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۳۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اختر علی نے اپنی بیوی کو فون پر لڑائی کے دوران ایک ہی سانس میں یہ الفاظ کہے

”طلاق، طلاق، طلاق ان شاء اللہ“ تو طلاق ہوگئی یا نہیں؟ اور کیا دوبارہ ساتھ رہنے کی کوئی شکل ہے؟ شرعی حکم تحریر فرمائیں۔

المستفتی: اختر علی، ٹانڈہ بادلی، رام پور (پوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شوہر نے بیوی کو فون پر یہ کہا ہے کہ تجھے طلاق، طلاق، طلاق ان شاء اللہ، تو ایسی صورت میں آخری طلاق ان شاء اللہ کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے واقع نہیں ہوئی، پہلی اور دوسری طلاق واقع ہو چکی ہے؛ لہذا اطلاق مغلطہ واقع نہیں ہوئی، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے میاں بیوی کی طرح رہنے کی گنجائش تھی؛ لیکن شوہر سے زبانی معلوم ہوا کہ اس واقعہ کو ایک سال ہو چکا ہے اور میکہ میں رہ رہی ہے، اور اس درمیان میں رجعت نہیں ہوئی ہے؛ اس لئے عدت بھی پوری ہو چکی ہے؛ لہذا اب اگر دونوں ساتھ میں رہنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کر کے ساتھ رہنے کی گنجائش ہے اور حلالہ کی ضرورت نہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈائجیل ۱۱۴/۱۳)

إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاً به لم يقع

الطلاق. (هنديّة كتاب الطلاق الفصل الرابع في الاستثناء جديد زكريا ديو بند

۱/۳۰۷ زكريا ۱/۴۵۴)

لو قال: أنت طالق واحدة وثلاثاً إن شاء الله صح بالإجماع،

وكذلك أنت طالق، وطالق، وطالق إن شاء الله؛ لأنه لم يتخلل بينهما كلام لغو.

(هنديّة، زكريا ۱/۶۰۴ كتاب الطلاق الفصل الرابع في الاستثناء جديد زكريا ديو بند

۱/۲۵۱ زكريا ۱/۴۵۴)، تبين الحقائق، زكريا ۳/۱۳۳)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين، فله أن يراجعها

في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض. (هنديّة، كتاب الطلاق، الباب السادس

فی الرجعة الخ زکریا ۱/ ۴۷۰، جلدید زکریا دیوبند ۱/ ۵۳۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۹/۲۴۴۱۰)

فون پر دو طلاق دینا

سوال [۶۳۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک عورت جس کا شوہر رمضان المبارک میں دہلی میں اقامت پذیر تھا، عورت اپنے شوہر سے اجازت لے کر اپنی ماں کے یہاں گئی ہوئی تھی، چند ایام کے بعد اس کے شوہر نے فون پر اپنے گھر جانے کو کہا؛ لیکن تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے اس شوہر نے فون پر ہی گالی دینا شروع کر دیا اور فون پر ہی دو طلاق دیدی، جس کی وجہ سے وہ عورت اپنی ماں کے یہاں ہی مقیم ہے، یہ واقعہ رمضان کے اخیر عشرہ میں پیش آیا، تو کیا بیوی اپنے شوہر کے پاس رہ سکتی ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: اکبر علی اریاوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: سوال نامہ کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، اگر وہ صحیح ہے، تو بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں؛ لہذا اگر شوہر اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھنا چاہتا ہے، تو عدت کے اندر اندر قول یا فعل کے ذریعہ سے رجعت کر کے پہلے کی طرح بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے؛ البتہ بعد میں شوہر صرف ایک طلاق کا مالک ہوگا۔

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين، فله أن يراجعها في

عدتها رضيت بذلك أو لم ترض. (هداية، اشرفي ديوبند ۲/ ۳۹۹)

وقعتا رجعتين لو مدخولاً بها، كقوله: أنت طالق، أنت طالق.

(شامی، کراچی ۲۰۲/۳، زکریا ۴/۶۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ رزی الحج ۱۴۳۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۹/۱۰۵۴۵)

بیوی کی عدم موجودگی میں دومرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۳۳۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ساجد اور ماجد دونوں بھائیوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا، ساجد کو کسی بات پر غصہ آیا، اس نے دوبار یہ الفاظ کہے کہ ”میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی، میں نے بیوی کو طلاق دیدی“ کیا دومرتبہ کہنے سے طلاق ہوگی؛ جبکہ بیوی وہاں پر موجود بھی نہ تھی، جھگڑا دوسرے مکان میں ہو رہا تھا اور نہ تو جھگڑے میں بیوی کی کوئی بات نہ اس کا کوئی بیچ تھا، نہ تو وہ وہاں پر موجود تھی، اب بیوی کہتی ہے میں یہ طلاق نہیں مانوں گی؛ کیونکہ نہ تو میں نے سنا ہے، نہ ہی میں وہاں موجود تھی، نہ میں یہاں سے جاؤں گی، طلاق کے الفاظ صرف دومرتبہ کہے ہیں؛ لہذا آپ حضرات قرآن وحدیث کی روشنی میں صحیح جواب سے نوازیں مہربانی ہوگی۔

المستفتی: نیاز احمد، بیتا پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: طلاق کے الفاظ جیسا کہ سوال نامہ میں مذکور ہیں، اگر صرف دومرتبہ شوہر نے استعمال کئے ہیں، تو اس سے دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں اور طلاق کے وقت بیوی کا سامنے موجود ہونا یا بیوی کا سننا لازم نہیں ہے، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنے کی گنجائش ہے، رجعت کا مطلب یہ ہے کہ تین ماہواری پوری ہونے سے پہلے پہلے دونوں میں ہمہستری ہو جائے یا شوہر زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجعت کر لی۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا، کقولہ: أنت طالق، أنت طالق. (شامی،

کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۲۰۲/۳ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۴ جمادی الاخریٰ ۱۴۲۵ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۷۳۰/۸۴۴)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۲۵/۶/۲۴ھ

دومرتبہ طلاق دیتا ہوں کے الفاظ سے طلاق

سوال [۶۳۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں دلشاد حسین یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں نے جوش میں آکر ذرا سی تکرار پر اپنی بیوی کو دومرتبہ طلاق دیتا ہوں کہا تھا، وہ اپنے میکہ چلی گئی۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ تحریر پیش کرتا ہوں کہ حدیث کی روشنی میں میرے لئے کیا حل ہے ایسی حالت میں میں مجھے کونسی صورت اختیار کرنی چاہئے کہ میں اپنی بیوی کو گھر لاسکوں؟ مجھے حلالہ کرانا ہوگا یا نہیں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ گنجائش باقی ہے۔

المسفتی: دلشاد حسین، محلہ مقبرہ حصہ دوم، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر آپ نے صرف دومرتبہ طلاق دی ہے اور اپنے اس بیان میں آپ سچے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کی بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں، عدت کے اندر اندر بغیر نکاح کے رجعت کر کے رکھنا جائز ہے اور عدت کے بعد بغیر حلالہ کے نکاح کر کے رکھنے کی اجازت ہے۔

وقعتار جمعیتین لو مدخولاً بہا، کقولہ: أنت طالق أنت طالق.

(درمختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۲۰۲/۳ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم)

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۷۳۰/۸۳۹۵)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۲۵/۵/۲۸ھ

مختلف الفاظ صریح سے طلاق دینا

سوال [۶۳۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی سے آپسی تکرار کے دوران ایک دفعہ یہ کہا طلاق دیدوں گا، پھر دوبارہ کہا طلاق دیدی، پھر دومنٹ کے بعد کہا طلاق، بیوی کہتی ہے کہ فارغ خطی دی، آزاد کیا کہا ہے، شوہر ان الفاظ کا منکر ہے اور مذکورہ بالا الفاظ کا اقرار کرتا ہے، تو شرعاً کونسی طلاق ہوئی؟ اب دوبارہ ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: محمد ندیم مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ شوہر نے دو طلاق کا اقرار کیا ہے؛ لہذا اس سے دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں اور بیوی کا یہ کہنا کہ فارغ خطی دی یا آزاد کیا کہا ہے، یہ الفاظ بھی ہمارے عرف میں بیوی کے حق میں طلاق ہی کے لئے استعمال ہوتے ہیں؛ اس لئے اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔

حاصل یہ نکلا کہ دونوں میاں بیوی دو طلاق پر متفق ہیں؛ البتہ دونوں کے الفاظ اور تعبیر میں فرق ہے، اور آئندہ کبھی بھی ایک طلاق دیگا، تو بیوی بالکل حرام ہو جائے گی۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۱۵۵/۵)

ویقع طلاق کل زوج عاقل بالغ. (تنویر الأبصار، کتاب الطلاق، کراچی

۲۳۵/۳، زکریا ۴۳۸/۴)

ولو أقر بالطلاق كاذباً أو هازلاً أو قضاءً لا ديانةً. (شامی،

زکریا ۴۴۰/۴، کراچی ۲۳۶/۳)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين، فله أن يراجعها

في عدتها. (هداية، اشرفي ديوبند ۳۹۴/۲، ہندیہ، زکریا ۴۷۰/۱، کتاب الطلاق

الباب السادس في الرجعة الخ جديد زكريا ديوبند ۱/ ۳۳۳ (فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۰/۳/۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ ربیع الاول ۱۴۳۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۵۲۳۸/۹۷)

دومرتبہ طلاق دی، پھر باہر آ کر کہا میں نے اس کو طلاق دیدی

سوال [۶۳۴۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے جھگڑے میں کمرہ کے اندر اپنی بیوی کو دومرتبہ یہ الفاظ کہے کہ ”میں نے تجھے طلاق دی، اس کے بعد وہ شخص کمرہ سے باہر آ گیا، اس نے پھر یہ کہا ”میں نے اس کو طلاق دیدی، پھر وہ شخص دروازے پر آ گیا، کسی دوسرے شخص نے معلوم کیا کیا ہو گیا، تب اس شخص نے کہا کہ ”میں اس کو طلاق دے آیا“ اس صورت میں عورت پر کتنی طلاق واقع ہوئیں؟ اب نکاح کی کیا صورت ہوگی، اس واقعہ کو چار مہینے گزر چکے ہیں، دونوں میاں بیوی نہیں ملے۔

المسئفتی: احمد نبی، موضع ہری نور پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: کمرے کے اندر رہ کر دومرتبہ ”میں نے تجھے طلاق دی“ کے الفاظ سے دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں، عدت کے اندر اندر رجعت کی گنجائش تھی، اور عدت پوری ہو جانے کے بعد بغیر حلالہ نکاح جدید کر کے رکھنے کی گنجائش ہے اور پھر کمرہ سے باہر آ کر اس کا یہ کہنا کہ میں نے اس کو طلاق دیدی، یہ غور طلب الفاظ ہیں، اگر یہ الفاظ کسی دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے اس کو سنانے کے لئے کہا ہے، تو یہ کمرہ کے اندر دی ہوئی طلاق کی خبر ہے، اس کی وجہ سے الگ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر اس نے کمرہ سے باہر آ کر یہ الفاظ کسی کے سامنے نہیں کہے ہیں، تو وہ خبر نہیں ہے؛ بلکہ اس سے

بھی الگ سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں دو طلاق کمرے میں ایک طلاق باہر کل تین طلاقیں شمار کی جائیں گی، طلاق مغلطہ ہونے کی وجہ سے بیوی بالکل حرام ہو جائے گی اور بغیر حلالہ کے نکاح بھی جائز نہیں ہے، اب وہاں پر کون سی شکل پیش آئی تھی، اس کے بارے میں شوہر اور گھر کے لوگ خود ہی فیصلہ کریں کہ کمرے سے باہر آ کر کسی کے سامنے کہا تھا، یا کسی کے بغیر اپنے طور پر کہا ہے، اور پھر دروازہ سے باہر آ کر دوسرے شخص کے معلوم کرنے پر یہ جو کہا ہے کہ میں اس کو طلاق دے آیا یہ ہر حال میں خبر ہے، اس کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض، كذا في الهداية. (عالمگیری، کتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، زکریا ۱/۴۷۰ جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۳)

وقعتا رجعتين لو مدخولا بها، كقوله: أنت طالق أنت طالق.

(الدر المختار مع الشامی، کراچی ۳/۲۵۲، زکریا ۴/۶۳)

ولو قال لامرأته: أنت طالق، فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: طلقها، أو قال: قلت هي طالق، فهي واحدة في القضاء؛ لأن كلامه انصرف إلى الإخبار بقريئة الاستخبار. (بدائع الصنائع، زکریا ۳/۱۶۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲ھ/۶/۱۰

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۸۰۸۳۳)

”تجھے طلاق دینی ہے کے بعد ”سمجھ لو طلاق ہوئی“ کہنے سے طلاق

سوال [۶۱۳۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص اپنی بیوی سے ایک ہی مجلس میں یہ کہتا ہے کہ تجھے طلاق دینی ہے دے کے

رہوں گا، سمجھ لو طلاق ہوئی ہے؛ جبکہ اس سے پہلے متعدد موقعوں پر میں پچیس بلکہ اس سے بھی زائد مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ تجھے طلاق دیدوں گا، صورت مسئولہ میں ہماری شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل جواب دے کر ممنون فرمائیں۔

المستفتی: کلیم اللہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذاکرہ طلاق یعنی طلاق دینے کے لئے گفتگو کے درمیان شوہر کا یہ کہہ دینا ”طلاق ہوئی ہے، تو وہ طلاق کا اقرار ہے، اس سے دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے رکھنے کی گنجائش ہے، اس کے بعد آئندہ جب بھی ایک طلاق دیگا، تو مغلط ہو کر شوہر پر بالکل حرام ہو جائے گی؛ اس لئے اس کا خیال رکھا جائے اور اس موقع سے پہلے اس نے جو بیس پچیس مرتبہ ”تجھے طلاق دیدوں گا“ تجھے طلاق دیدوں گا“ کہا ہے وہ طلاق دینے کی دھمکی اور طلاق کا وعدہ ہے، ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔

ولو أقر بالطلاق كاذباً أو هازلاً وقع قضاءً لا ديانةً . (شامی، زکریا
۴/۴۴۰، کراچی ۳/۲۳۶)

لو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء . (البحر الرائق، کوئٹہ
۲/۴۶۶، زکریا ۳/۴۲۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۶/۳/۱۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف-۳۷۶۳۷۸)

بیوی کو طلاق دے کر والد کو خبر دینا

سوال [۶۳۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ شرافت حسین ولد شوکت حسین نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ طلاق دی، اور اپنے والد صاحب سے جا کر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے، اس کو اس کے میکہ پہونچا دو؛ لہذا احکام شرعیہ سے مطلع فرمائیں۔

المستفتی: شرافت حسین ولد شوکت حسین، بیگم والی مسجد، صالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شرافت حسین کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور بعد میں والد سے جا کر کہ یہ جو کہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے، اس کو اس کے میکہ پہونچا دو، وہ دی ہوئی طلاق کی خبر ہے، اس کی وجہ سے پھر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی؛ لہذا عدت کے اندر اندر رجعت کر کے زن و شوہر کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۱۵۱/۱)

إذا طلق الرجل امرأته تطلقاً رجعيةً..... فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض. (عالمگیری، کتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، زکریا ۱/۴۷۰، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۳)

فإذا طلق الزوج زوجته رجعيةً حل له العود إليها في العدة بالرجعة دون عقد جديد. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۹/۲۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۹/۳/۱۴۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف-۳۶/۷۸۸)

دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد مختلف مقامات پر اس کی خبر دینا

سوال [۶۳۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے شوہر نے مجھے دو بار طلاق دی، اس کے بعد میرے شوہر گھر کے باہر چلے

گئے، اور کچھ دیر بعد پھر جب گھر کے اندر آئے، تو آکر کہا کہ میں نے اسے طلاق دیدی ہے، تو اس کو اس کے گھر بھیج دو۔

گواہ: محمد تسلیم نے بیان دیا کہ میں سوکراٹھا، میں نے دونوں میں لڑائی دیکھی، انہوں نے میرے سامنے دو دفعہ طلاق کہا، پھر میں نے ان کو دھکے دے کر باہر نکال دیا، پھر بعد میں انہوں نے کتنی بار طلاق دی، مجھے معلوم نہیں۔

گواہ: محمد وہاب نے بیان دیا کہ میں سوکراٹھا، تو میں نے ان دونوں میں لڑائی ہوتی دیکھی، لڑکے نے اپنی زبان سے کہا ”میں نے تجھے دو دفعہ طلاق دی، میرے گھر سے نکل جا۔“

میں نے اپنی بیوی کو غصہ میں دو مرتبہ طلاق دیدی۔ اور گھر سے باہر جا کر لوگوں سے کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے، پھر میں گھر واپس آیا اور بیوی کی طرف اشارہ کر کے گھر والوں سے کہا ”میں نے اس کو طلاق دیدی ہے“ اس کو اس کے گھر پہنچا دو، یہ واقعہ پیش آیا۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ طلاق چار بار ہوئی، دو مرتبہ تو طلاق دیدی تھی اور پھر باہر اور گھر میں جا کر اس کو دو مرتبہ بیان کیا، اب ایسی صورت میں کیا میرے لئے کوئی گنجائش ہے، اب میں اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہوں، میں نے ایک مولانا سے مسئلہ معلوم کیا تھا، انہوں نے بتلایا کہ طلاق دو ہی ہوئی ہیں، باہر اور اندر جا کر تو تم نے ان کو بیان کیا ہے، حکایت واقعہ ہے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ دو بار طلاق دے کر میں نے باہر لوگوں سے بیان کیا، پھر گھر میں گھر والوں سے کہا، تو تین چار بار ہو گئی؛ اس لئے جب لوگوں نے پنچایت میں معلوم کیا، تو میں نے تین چار مرتبہ بتلائی، اپنی سمجھ کے مطابق، اب شریعت کے فیصلہ سے آگاہ فرمائیں، اگر کوئی گنجائش ہو، تو میں بیوی کے ساتھ رہوں، ورنہ پھر جو بھی فیصلہ ہو بیان فرما کر مسئلہ واضح فرمائیں۔

المستفتی: محمد جاوید قاسمی چاند پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں ذکر کردہ واقعہ اگر ایسا ہی ہے، جیسا کہ تحریر میں موجود ہے، تو پہلی مرتبہ اس نے جو دو طلاق دی ہے، اس سے دو طلاق رجعی واقع

ہو گئیں اور گھر سے باہر جا کر لوگوں سے جو یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے، اس سے اس کے دل میں پہلے واقعہ کی خبر دینا مقصد ہے، تو یہ خبر ہے اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، اسی طرح گھر پر آ کر کے بیوی کی طرف اشارہ کر کے گھر والوں سے جو یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو طلاق دیدی ہے، اس کو اس کے گھر پہنچا دو، اس میں بھی اگر اس کی نیت یہی رہی ہے کہ پہلے جو دو مرتبہ طلاق دی ہے، اس کی خبر دینا ہے، تو اس سے بھی کوئی طلاق نہیں ہوگی؛ کیونکہ یہ بھی خبر ہے، اسی طرح پنچائیت میں لوگوں کے معلوم کرنے پر اس نے جو تین چار مرتبہ بتلائی ہے، اس میں بھی پہلے واقعہ کی خبر مقصود ہے، تو پنچائیت کے سامنے تین چار مرتبہ اقرار کرنے اور بتلانے کی وجہ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی؛ کیونکہ یہ بھی پہلے واقعہ کی خبر ہے، تو ایسے حالات میں بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہوگئی ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے پہلے کی طرح رہنے کی گنجائش ہے اور آئندہ کبھی بھی ایک طلاق دے گا، تو بیوی کلی طور پر حرام ہو جائے گی۔ (امداد المقتبین ۵۹۶)

ولو قال لامرأته: أنت طالق، فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: طلقتهما،
أو قال: قلت هي طالق، فهي واحدة في القضاء. (ہندیۃ کتاب الطلاق، الباب الثانی
فی إیقاع الطلاق، الفصل الاول فی الطلاق الصریح، زکریا ۳۵۵/۱، جدید زکریا
دیوبند ۱/۴۲۳، شامی، زکریا ۳/۶۳)

لأن كلامه انصرف إلى الإخبار. (بدائع الصنائع، زکریا ۳/۶۳)

ولو قال لها: أنت طالق، طالق، أو أنت طالق، أنت طالق، أو قال قد
طلقتك قد طلقتك، أو قال: أنت طالق، وقد طلقتك تقع ثنتان. (شامی، کراچی
۲۹۳/۳، زکریا ۴/۵۲۱، ہندیۃ، زکریا ۱/۳۵۵، جدید زکریا دیوبند ۱/۴۲۳)

ولو قال: أنت طالق الطلاق، وقال عنيت بقولي طالق واحدة،
وبقولي الطلاق أخرى يصدق فتقع رجعتان. (ہندیۃ، زکریا ۱/۳۵۵،

جدید زکریا دیوبند ۱/۴۲۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ رزی قعدہ ۱۳۳۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۳۸/۹۸۱۲)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۹/۱۳۳۰ھ

”میں نے تجھے طلاق دیدی“ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۳۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی میکہ میں تھی میں لینے کے لئے گیا، میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، اس نے انکار کر دیا، دو تین بار یہی صورت پیش آئی، مجھے اس پر غصہ آ گیا اور میں نے اس سے کہا ”میں نے تجھے طلاق دی، دی“ کیا اس جملہ سے طلاق ہوگی یا نہیں؟ اور کون سی طلاق ہوئی؟ اب میں بیوی کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، دو بچے ہیں شریعت کا کیا حکم ہے؟

المسئتی: محمد ثیر خاں، قاسم پور، بجنور (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: آپ کی بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں، عدت کے اندر اندر آپ کو رجعت کا اختیار ہے اور رجعت کا مطلب یہ ہے کہ شوہر یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا یا میاں بیوی آپس میں زوحیت کا تعلق قائم کر لیں، تو اس سے رجعت ہو جائے گی، اور رجعت کرنے کے بعد میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنا جائز اور درست ہو جائے گا، آئندہ اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی طلاق کے الفاظ زبان سے نکالے تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين، فله أن يراجعها في

عدتها. (هدایة، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳۲ صفر المظفر ۱۳۲۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف: ۳۸/۹۱۸۲)

ایک ایک کر کے دو طلاق موصولاً دینا

سوال [۶۳۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے غصہ کی حالت میں خالہ کو ایک ایک کر کے دو طلاق موصولاً دیدی، لفظ صریح کے ساتھ تو شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: محمد سلیم ایوب نگر کراولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر صرف دو ہی طلاق دی ہیں، تو دو طلاق رجعی واقع ہوگئی ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے رکھنے کی گنجائش ہے، اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی ایک طلاق دیدے گا، تو بیوی بالکل نکاح سے خارج ہو کر شوہر پر حرام ہو جائے گی؛ اس لئے اس بات کا دھیان ضرور رکھا کریں۔

ولو قال لها أنت طالق، طالق، أو أنت طالق، أنت طالق، أو قال: قد طلقتک (إلى قوله) تقع ثنتان. (عالمگیری، کتاب الطلاق، الفصل الاول فی الطلاق الصریح، زکریا قدیم ۱/۳۵۵، جدید زکریا دیوبند ۱/۲۳۴، در مختار مع الشامی، کراچی ۳/۲۵۲، زکریا ۴/۶۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۰ ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۲۴۴)

ساس سے لڑائی کے دوران دو بار طلاق دینا

سوال [۶۳۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں شاہد میاں رام پور کارہنے والا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو اپنی ساس سے لڑائی

ہونے پر میں نے غصہ میں ۲ بار طلاق کا لفظ کہہ دیا ہے۔

المستفتی: شاہد میاں، راپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر صرف دو ہی بار کہا ہے، تو اس سے دو طلاقیں واقع ہو گئیں، عدت کے اندر رجعت کر کے رکھنے کی گنجائش ہے۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا، كقوله: أنت طالق، أنت طالق.

(در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳، ۴)

کراچی ۲۰۲/۳ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۷/۱۱/۲۰۲۰ھ

۱۴۲۰/۷/۱۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۶۲۶۶/۳۳۲)

نند بھاج میں لڑائی دیکھ کر دو طلاق دینا

سوال [۶۳۵۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ گھر میں داخل ہوا، تو نند بھاج میں لڑائی ہو رہی تھی، میں نے غصہ میں دو مرتبہ بیوی سے ”طلاق، طلاق“ کہہ دیا، بیوی حاملہ ہے، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ کتنی طلاق ہوئیں، بیوی کو ساتھ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: محفوظ الرحمن، مقبرہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سائل اپنے بیان میں سچا ہے، تو سوال نامہ میں بیان کردہ صورت میں بیوی پر طلاق رجعی واقع ہو گئی، عدت کے اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کی اجازت ہے۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا، کقولہ: أنت طالق، أنت طالق .
(در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/ ۴۶۳،
کراچی ۲۰۲/۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۱۲/۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ ذی الحجہ ۱۴۲۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف: ۳۶/ ۸۶۳۶)

”میں نے تجھے طلاق دی“ دو مرتبہ کہنے سے طلاق

سوال [۶۳۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی عشرت جہاں نے رات کے وقت مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا، تو میں نے اسے یہ الفاظ دو بار کہے کہ ”میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی“ اس کے بعد ہم دونوں شوہر بیوی کی طرح رہتے رہے اور وہ تمام تعلقات جو زوجین کے مابین ہوتے ہیں ہوئے، یعنی صحبت وغیرہ، اس کے بعد میری بیوی اپنے میکہ چلی گئی اور اب وہیں پر ہے، یہ الفاظ مذکورہ کہے ہوئے تقریباً ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہے، اس صورت مسئلہ میں میرے لئے شریعت کا حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کرم ہوگا۔

المستفتی: رئیس احمد، ساکن نیا گاؤں، کانٹھ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر طلاق کے الفاظ صرف دو ہی مرتبہ استعمال کیے ہیں، تو اس سے دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں، عدت کے اندر رجعت کی گنجائش تھی؛ لیکن دونوں اس کے بعد شوہر بیوی کی طرح تعلقات قائم کر چکے ہیں؛ اس لئے اس سے رجعت بھی ثابت ہو گئی ہے؛ لہذا اب دونوں ہمیشہ میاں بیوی کی طرح ساتھ میں رہ سکتے ہیں؛ لیکن جب بھی کبھی ایک مرتبہ زبان سے طلاق نکالے گا، تو بیوی بالکل حرام ہو جائے گی؛ اس لئے آئندہ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔

و قعتار جمعیتین لو مدخولاً بہا، کقولہ: أنت طالق، أنت طالق .
 (در مختار، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/ ۶۶۳، کراچی ۳/ ۲۵۲)
 فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۷/ محرم الحرام ۱۴۱۹ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۳۴/۵۹۳۸)

”طلاق دی، طلاق دی“ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۳۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں مراد نبی ولد چھوٹے میاں ساکن محلہ نئی بستی مراد آباد کا ہوں، میری شادی مسلم قانون شریعت کے مطابق افروز بانو بنت شبیر علی ساکن چندوسی سے ہوئی تھی، میری بیوی عید الفطر سے اپنے والد کے گھر چندوسی گئی ہوئی تھی؛ لیکن ۲۵/ اپریل تک بھی میرے گھر واپس نہیں آئی، اسی سلسلہ میں مراد آباد میں محلہ میں ایک پنچایت ہو رہی تھی، جس میں میں نے غصہ میں دو مرتبہ ”طلاق دی، طلاق دی“ کہا، پھر میرے منہ پر میرے دوست نے ہاتھ رکھ دیا اور اس کے بعد کوئی ادائیگی نہیں ہوئی، اس سلسلہ میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس واقعہ کے بعد دو سرے دن دوپہر کو مجھے معلوم ہوا کہ میرے سر نے میرے اور میرے گھر والوں کے خلاف قانونی کارروائی کر دی ہے، تو میں نے وکیل کے مشورے پر ایک نوٹس اس بابت ارسال کر دیا کہ چونکہ آپ نے مجھ سے اپنی لڑکی کی آزادی چاہی تھی؛ اس لئے میں نے آپ کی لڑکی کو طلاق دے کر آزاد کر دیا تھا، یہ بات میں نے اپنا قانونی بچاؤ کرنے کے لئے کہی تھی۔

المستفتی: مراد نبی، نئی بستی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ صورت میں طلاق مغلظہ واقع نہیں ہوئی؛ بلکہ دو

طلاق رجعی واقع ہوئی ہیں اور ایسی صورت میں شرعی طور پر بیوی کو عدت کے اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کی گنجائش باقی رہتی ہے، اور دوبارہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور رجعت کی صورت یہ ہے کہ شوہریوں کہدے کہ میں نے بیوی کو نکاح میں لوٹا لیا ہے، یا کچھ نہ کہہ کر بیوی کے ساتھ ہمبستر ہو جائے۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا، کقولہ: أنت طالق، أنت طالق.

(در مختار، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۳/۲۰۲)

والرجعة أن يقول: راجعتک، أو راجعت امرأتی (وقولہ) أویطأها،

أویقبلها، أویلمسها بشهوة. (هدایة اشرفی ۲/۳۹۰)

اور نوٹس کے الفاظ پہلی طلاق کی خبر ہیں، طلاق کے لئے نیا جملہ نہیں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۳۳/۵۹۷)

بیوی کو مخاطب بنا کر دو مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۳۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے مار پیٹ کے دوران جہاں پر اس کی ماں اور بہن بھی موجود تھی، طیش میں اپنی ماں سے شکایت کے لہجے میں کہا کہ آج یہ طلاق لے گی، اور بیوی کی طرف مڑ کر طلاق دو بار کہہ دیا، اس کے بعد چند لمحہ رک کر افسوس اور پچھتاوے کے لہجے میں کانپتے ہوئے پھر اپنی ماں سے کہا ماں آج اس نے طلاق لے لی، اس کی یہی مرضی تھی، اس نے طلاق لے لی، یہ یہی چاہتی تھی، کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا، اوپر لکھی ہوئی صورت میں بیوی پر کتنی طلاق پڑیں اور اس سلسلہ میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد خلاق انصاری، لکھنؤ پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ صورت میں بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہوگئی ہیں، عدت کے اندر رجعت کر کے رکھنے کی گنجائش ہے۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا، کقولہ: أنت طالق، أنت طالق.

(درمختار، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۲۰۲/۳)

اور بعد میں جو اس نے اپنی ماں سے کہا ہے کہ ماں یہ طلاق ہی چاہتی تھی، اس کی یہی مرضی تھی، اس نے طلاق لے ہی لی، یہ سب جملہ خبر کے ہیں، ان سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴/۲/۱۳۹۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۴/۲/۱۳۹۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۵۶۳۶۳۳)

”طلاق دلواؤ، طلاق دیدوں گا اور طلاق دیدی“ سے کتنی طلاق ہوئیں

سوال [۶۳۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دورانِ خاصمہ میں نے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے باپ سے کہنا کہ طلاق دلواؤ، کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا کہ ابھی طلاق دیدوں گا، پھر کافی دنوں کے بعد میری ان سے تو تو میں میں ہوئی، اسی دوران میری ممانی سے فون پر باتیں ہو رہی تھیں، میں نے کہا کہ انہیں یہاں سے لیجاؤ میں نے اسے طلاق دیدی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں نوازش ہوگی۔

المستفتی: شاہنواز عالم، مغلپورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: یہ کہنا کہ ”اپنے باپ سے کہنا کہ طلاق دلواؤ“ اس لفظ

سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، اس کے بعد ”ابھی طلاق دیدوں گا“ کے جو الفاظ استعمال کئے ہیں ان سے بھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اور ممائی سے گفتگو کے دوران یہ جو کہا ہے کہ ”انہیں یہاں سے لیجاؤ میں نے اسے طلاق دیدی“ اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے میاں بیوی کی طرح رہنے کی گنجائش ہے۔

فالصریح قوله: أنت طالق، و مطلقه، و طلقته، فهذا يقع به الطلاق

الرجعي. (هدایة، کتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۹)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض. (هدایة، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴، ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳ھ/۱۰/۱۰

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۷/شوال المکرم ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۱۱۳۵۲)

دو طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق دینے سے قبل منہ بند کر دینا

سوال [۶۳۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ امیر احمد نے آپسی تکرار میں اپنی بیوی کو دو مرتبہ طلاق دیدی، تیسری مرتبہ کہنے سے پہلے ہی امیر احمد کی ماں نے اس کے منہ کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے طلاق نہ دے سکا۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ کتنی طلاق ہوئیں؟

المستفتی: اشرف خاں

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں امیر احمد کی بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں۔

وقعتا رجعتین لو مدخولاً بہا، کقولہ: أنت طالق، أنت طالق.

(در مختار، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۲۰۲/۳، زکریا ۴/۶۳)

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها

في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض. (عالمگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۰،

جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲ھ/۱۲۸

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۶/۷۸۹)

فارغ خطی کا لفظ طلاق صریح رجعی کیلئے ہے

سوال [۶۳۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ ”میں نے تجھے فارغ خطی دیدی“ تو اس سے طلاق رجعی

صریح واقع ہوگی یا طلاق کنائی بائن؟

المستفتی: محمد سالم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہمارے دیار میں چونکہ لفظ ”فارغ خطی“ طلاق ہی کے

لئے استعمال ہوتا ہے؛ اس لئے جب شوہر نے بیوی سے یوں کہا کہ ”میں نے تجھے فارغ خطی

دیدی“ تو اس سے اس کی بیوی پر بغیر نیت کے بھی ایک طلاق رجعی صریح واقع ہو جائے گی۔

(مستفاد: احسن الفتاویٰ، زکریا دیوبند ۵/۱۵۵)

وقد مر أن الصریح مالم يستعمل إلا فيه من أي لغة كانت. (شامی،

کتاب الطلاق، باب الکنایات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹)

صریحة مالم يستعمل إلا فيه، ولو بالفارسية، فمالم يستعمل فيها

إلا في الطلاق، فهو صريح يقع بلانية. (شامي، زكريا ۴/۵۷،
کراچی ۲/۳۷۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳/۳۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۱۱۳۲۸)

فارغ خطی کے لفظ سے طلاق

سوال [۶۳۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور اس کی بیوی میں جھگڑا ہوا، جھگڑے کی وجہ سے اپنی بیوی سے کہا ”میں نے تجھے فارغ خطی دی“ اور مجھے دھیان نہیں کتنی مرتبہ دی اور زید کی بیوی کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر نے یہ لفظ کہا کہ ”جانکل میں نے تجھے فارغ خطی دی“ دوسری مرتبہ ”او میں نے تجھے طلاق دی“ تیسری مرتبہ ”جا میں نے تجھے فارغ خطی دی“۔

المسفتی: ہندو، افضل گڈھ، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: فارغ خطی کا لفظ ہمارے عرف میں طلاق کے لئے بولا جاتا ہے؛ اس لئے مذکورہ لفظ سے طلاق صریح واقع ہو جائے گی اور جب تین مرتبہ کہا ہے، تو اس سے طلاق مغلطہ واقع ہو چکی ہے۔

إن الصريح ما لم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت. (شامي،
كتاب الطلاق، باب الكنايات، زكريا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹، احسن الفتاویٰ ۵/۱۵۰)
أما الصريح: فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح.
(بدائع الصنائع، زكريا ۳/۱۶۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴/۱۲/۱۴۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸/۳۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۷۳۳۱)

فارغ خطی کے لفظ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۳۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ساس یا بیوی گھر سے یہ کہہ کر گئی کہ میں تم تینوں باپ بیٹے بہو کو پکڑواؤں گی، میں اپنی بیوی سے یہ کہہ چکا تھا کہ جس دن تم تھانہ پر چلی گئیں، اسی دن میں تمہیں چھوڑ دوں گا، گھر میں ساس بہو میں لڑائی ہو رہی تھی، میری بیوی گھر سے یہ کہہ کر گئی کہ میں تھانہ پر جا رہی ہوں، میں پیچھے سے گیا، میں اپنے پڑوس میں جا کر بیٹھ گیا وہ پیچھے آگئی، میں سمجھا کہ یہ تھانہ سے واپس آئی ہے میں غصہ کی حالت میں تھا، میں نے غصہ کی حالت میں فارغ خطی کا جملہ استعمال کیا؛ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ جملہ میں نے کتنی بار استعمال کیا، میری بیوی کا کہنا ہے کہ میں نے یہ جملہ دو بار استعمال کیا، وہ قسم کھا کر کہتی ہے کہ آپ نے یہ جملہ دو بار استعمال کیا، میری بیوی اب بھی گھر میں ہے، وہ کہتی ہے میں کہاں جاؤں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فارغ خطی جب ہوتی جب میری بیوی تھانہ جاتی؛ لیکن وہ تھانہ پر نہیں گئی تھی، وہ اب بھی میرے گھر ہے، ہم دونوں اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟

المستفتی: رفیق احمد، محلہ پنڈہ سرائے، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آپ کو تعداد معلوم نہیں ہے اور آپ کو بیوی کی بات پر یقین ہے، تو آپ کی بیوی پر دو طلاق رجعی ہو چکی ہیں؛ اس لئے کہ فارغ خطی کا لفظ ہمارے علاقہ مغربی یوپی میں صرف طلاق ہی کے لئے بولتے ہیں؛ اس لئے مذکورہ لفظ کو دو مرتبہ کہنے سے دو طلاق رجعی ہو گئیں، عدت گذرنے سے پہلے پہلے رجعت کی گنجائش ہے اور رجعت کے لئے زبان سے اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۱۵۵/۵)

قوله سرحتک کنایة؛ لکنه فی عرف الفرس غلب استعماله فی الصریح، فیقع به الرجعی. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، کراچی ۳/۲۹۹، زکریا ۴/۵۳۰)

لیکن آئندہ سخت احتیاط کی ضرورت ہے، اگر اس طرح کا لفظ ایک مرتبہ بھی استعمال کیا، تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۱/۲۷ھ

کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۷ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۳۲/۶۱۴۶۲)

میں نے تجھے فارغ خطی دیدی

سوال [۶۳۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عبد الواہب کی لڑکی مبشرہ اور لڑکے کا نام مہتاب اس کا شوہر اس کو بہت پریشان رکھتا ہے، لڑکی کئی بار رک رک کے جاتی ہے، اب لڑکی اپنے میکے میں آئی ہے، تو اس کو اس کا شوہر لینے نہیں آتا، مبشرہ کے والد کا انتقال ہو گیا اور ماں بیوہ ہے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ماں اسے نہ پہنچا سکی، اس کے شوہر نے کہا، تو ابھی آ جا نہیں تو میں نے تجھے فارغ خطی طلاق دیدی، مبشرہ فون پر رونے لگی، اس نے کہا میرے پاس لڑکی ہے شوہر نے کہا مجھے لڑکی سے کوئی مطلب نہیں، شوہر نے فون پر اپنی ساس سے کہا کہ میں نے تیری بیٹی کو فارغ خطی طلاق دیدی۔ اب تو اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھ یہ بات ۲۶ تاریخ کی ہے، پھر ماں نے اپنی غریبی کی وجہ سے کسی سے کچھ نہیں کہا، اب لڑکی جانے سے منع کرتی ہے، اس کے ساس سسر سے کہا کہ تمہارے لڑکے نے اس کو فارغ خطی طلاق دیدی، لڑکے کے ماں باپ نے کہا کہ ایسے تو کہہ دیتے ہیں، تم لڑکی کو بھیج دو، ہمارا لڑکا تو بچہ ہے، ہم مہتاب کو سمجھا دیں گے، آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے؟

المستفتی: صغیر احمد، گلی نمبر ۸، کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: فارغ خطی کا لفظ ہمارے عرف میں خاص طور پر طلاق صریح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؛ لہذا جب مہتاب نے اپنی بیوی مبشرہ سے کہا کہ ”آجا نہیں تو میں نے تجھے فارغ خطی دیدی“ تو اس سے اس کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی اور طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ شوہر کو عدت کے اندر اندر اپنی بیوی سے رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کا حق حاصل رہتا ہے اور اس کے بعد بیوی کی ماں سے جو فون پر کہا ہے کہ میں نے تمہاری بیٹی کو فارغ خطی کی طلاق دیدی ہے، اس کو وہیں رکھ لو، یہ پہلی طلاق کی خبر ہے، اس سے کوئی طلاق الگ سے واقع نہ ہوگی اور لڑکے کے ماں باپ کا یہ کہہ دینا کہ لڑکے تو ایسے کہہ دیتے ہیں، انتہائی غیر ذمہ داری کی بات ہے؛ اس لئے کہ ایسا جملہ کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا ماں باپ اپنے لڑکے کو سمجھا دیں کہ اگر آئندہ ایسے الفاظ کہے گا، تو بیوی قطعی طور پر حرام ہو جائے گی۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۱۵۵/۵)

قوله: سرحك كناية؛ لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال: رها كردم أي سرحك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضاً، وما ذلك إلا لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاق وقد مر أن الصريح مالم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت. (شامي، كتاب الطلاق، باب الكنايات، كراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۴/۵۳۰)

من وقوع الرجعي بقوله ”سن بوش“ أو ”بوش أول“، في لغة الترك مع أن معناه العربي أنت خلية وهو كناية؛ لكنه غلب في لغة الترك استعماله في الطلاق. (شامي، زکریا ۴/۵۳۱، كراچی ۲۹۹/۳)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض. (هداية، باب الرجعة،

اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴، ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۰، جدید زکریا ۱/۵۳۳، قلدوری
امدادیہ دیوبند ۱۷۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳/۵/۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۶۹۸)

چھوڑ دیا کالفظ عرف میں طلاق ہی کو کہتے ہے

سوال [۶۳۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ ”میں نے تجھے چھوڑ دیا“، تو اس سے طلاق رجعی صریح پڑے گی یا طلاق کنائی بائن؟

المستفتی: محمد جاوید

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شوہر نے بیوی سے کہا کہ ”میں نے تجھے چھوڑ دیا“ تو اس سے اس کی بیوی پر ایک طلاق رجعی پڑگئی؛ اس لئے کہ چھوڑ دیا کالفظ بیوی کے حق میں عرف میں طلاق ہی کے لئے مستعمل ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۶۱۶/۳، محمودیہ ۱۳/۴۳۶، میرٹھ ۱۸/۲۸۷، فتاویٰ عثمانی ۶۵/۲، کفایت المفتی ۶/۳۸۷)

”فإن سرحتك“ كناية؛ لكنه في عرف الناس غلب استعماله في الصريح، فإذا قال: ”رهاكردم“ أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضاً. (شامي، كتاب الطلاق، باب الكنايات، كراچی ۳/۲۹۹، زکریا ۴/۵۳۰)

إذا قال الرجل لامرأته: بهشتم ترا از زني فاعلم بأن هذه اللفظة استعمالها أهل خراسان، وأهل العراق في الطلاق، وأنها صريحة عند أبي يوسف حتى لو كان الواقع بها رجعياً ويقع بدون النية. (هنديہ جدید، كتاب الطلاق، الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية اتحاد ۱/۴۴۷، زکریا ۱/۳۷۹)

إذا قال الرجل لامرأته: بهتتم ترا أزني فاعلم أن هذه اللفظة استعملها أهل خراسان وأهل العراق في الطلاق، وأنه صريحة عند أبي يوسف، كان الواقع بهار جعياً، ويقع بدون النية. وفي الخلاصة: وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وفي التفريد: وعليه الفتوى. (الفتاوى التاتارخانية ۴/ ۶۳، رقم: ۶۶۷۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ رزی الحج ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۴۰/ ۱۱۳۲)

”چھوڑ دیا،“ کے لفظ سے طلاق صریح

سوال [۶۳۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی زوجہ ہندہ اپنے میکے گئی تھی، ہندہ نے فون پر شوہر سے خیریت معلوم کی اسی میں دونوں کے مابین نوک جھونک ہو گئی ہندہ نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، شوہر نے کہا میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو کیا حکم ہے؟ اور کونسی طلاق واقع ہوگی؟

المستفتی: محمد عمران

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زید نے جو بیوی سے یہ کہا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، اس سے اس کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی؛ اس لئے کہ یہاں کے عرف میں چھوڑ دیا کا لفظ طلاق کے لئے مستعمل ہے۔ (مستفاد: محمودیہ ڈائجیل ۱۲/ ۳۴۱، احسن الفتاویٰ ۱۶۵/ ۲، امداد الفتاویٰ ۲/ ۴۵۵)

”فإن سرحتك“ كناية؛ لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح، فإذا قال: ”رهاكردم“ أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية. (شامي، كتاب الطلاق، باب الكنايات، كراچی ۳/ ۲۹۹، زکریا ۴/ ۵۳۰)

بخلاف فارسیة قوله: سرحک وهو ”رها کردم“ لأنه صار صریحاً
 في العرف على ما صرح به نجم الزاهدي الخوارزمي في شرح
 القدوري- فإذا قال: سرحک يقع به الرجعي. (شامی، کراچی ۲۹۹/۳،
 زکریا ۵۳۰/۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۸ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۲۰/۱۱۳۸۵)

چھوڑ رہا ہوں کے لفظ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۳۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
 میں: کہ میں نے کسی ناراضگی کی بنا پر اپنی بیوی کو ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے یہ عبارت لکھ
 کر اس کے باپ کے پاس بھیجی۔

(۱) واضح رہے کہ میں آپ کو اور آپ کی بیٹی فلاں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ”میرا آپ
 کی بیٹی سے جو رشتہ ہے اب میں ایک فی فصد رکھنا چاہتا ہوں اور ۹۹٪ رکھنا نہیں چاہتا
 ہوں“ اس سلسلہ میں آپ مجھ سے بہت جلد ملنے کی کوشش کریں۔

اس مذکورہ عبارت کو پڑھ کر لڑکی کے والد میرے پاس آئے پھر میں نے ان کو وہ بات یاد دلائی
 کہ فلاں وقت تم نے اپنی بیٹی کو چڑھانے کی غرض سے یہ کہا تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں
 تجھے کیا غم ہے؟ میں دیکھ لوں گا جو کچھ ہوگا۔

میں نے ایک دم غصہ میں یہ کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو ”چھوڑ رہا ہوں“ کر تم کیا کرو گے، دیکھو تو
 تم مجھے کیا دیکھو گے، یہ سب کچھ ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے تھا، اس سے کوئی کسی قسم کی نیت
 نہیں تھی، اور نہ طلاق کا ذکر تھا، کیا یہ سب باتیں خلاف شرع تو نہیں ہیں؟ اس سے کسی قسم
 کا میرے اوپر گناہ تو نہیں ہوگا؟ کسی طلاق وغیرہ کا حکم تو نافذ نہیں ہوگا؟ شریعت مطہرہ کی روشنی
 میں جواب تحریر فرمائیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: محض ڈرانے کے لئے ”ایک فیصد رشتہ رکھنا چاہتا ہوں اور ۹۹ فیصد رکھنا نہیں چاہتا ہوں“ یہ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اور چھوڑ رہا ہوں کے لفظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوگی کیوں کہ چھوڑ دیا کا لفظ عرف میں طلاق صریح کے لئے ہی مستعمل ہے عدت کے اندر اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے، رجعت کا مطلب یہ ہے کہ تین حیض گزرنے سے پہلے پہلے بیوی سے ہمبستری کرے یا بوس و کنار ہو جائے، یا یوں کہہ دے کہ میں اپنی بیوی سے رجعت کرتا ہوں۔

سرحتک وهو ”رہا کردم“ لأنه صار صریحاً في العرف (وقوله)
 ”رہا کردم“ أي سرحتک يقع به الرجعي. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات،
 زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية..... فله أن يراجعها في عدتها.
 (ہندیہ، زکریا ۱/۷۰ الباب السادس فی الرجعة وفيما تحل به المطلقة وما يتصل به،
 زکریا جدید ۱/۵۳۳، قدوری امدادیہ دیوبند ۱۷۷)

والرجعة أن يقول راجعتک، أو راجعت امرأتی..... أو بطأها،
 أو قبلها، أو يلمسها بشهوة. (هدایہ، اشرفی ۲/۳۹۵) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۹ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۲۴/۱۲۲)

لفظ چھوڑ چکا ہوں سے طلاق

سوال [۶۳۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے شوہر نے یہ کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا کہ میں تجھے اپنے گھر میں نہیں

رکھوں گا اور میں اسی دن سے اپنے ماں باپ کے گھر اسی محلہ میں رہ رہی ہوں اور مجھے اپنے ماں باپ کے پاس رہتے ہوئے چار سال ہو گئے ہیں، ان چار سالوں میں میرا اپنے شوہر سے کسی بھی طرح کا کوئی ناٹہ نہیں رہا ہے، اور میں اپنا خرچ بھی خود ہی کر رہی ہوں اور ان چار سالوں میں جب بھی کوئی ان کے پاس جا کر اس بارے میں بات کرتا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں اسے چھوڑ چکا ہوں۔ اب کوئی میرا اس سے واسطہ نہیں ہے، ایسے حالات میں آپ بتائیں کہ کیا مجھ پر طلاق واقع ہو گئی ہے؟

المستفتی: حافظ حامد علی، محلہ حکیم پورہ سپور، بجنور (پونپ)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر واقعہ ایسا ہی ہے، جیسا کہ سوال نامہ میں ہے ”تو چھوڑ چکا ہوں“ کے لفظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی ہے اور جس وقت یہ لفظ کہا ہے، اس کے بعد تین مرتبہ ماہواری پوری ہونے کے بعد سے عدت بھی پوری ہو جائے گی اور عدت کے بعد مکمل آزادی حاصل ہو جائے گی، جہاں چاہے سالہ اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔

سرحتک وهو ”رہا کردم“ لأنه صار صریحاً في العرف. (شامی،

کتاب الطلاق، باب الکنایات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۲۹۹/۳)

إذا قال الرجل لامرأته: ”بهشتم ترا از زنی“ فاعلم بأن هذه اللفظة استعملها أهل خراسان وأهل العراق في الطلاق، وأنها صريحة عند أبي يوسف حتى كان الواقع بها رجعياً ويقع بلون النية. (هندیہ، کتاب الطلاق، الفصل السابع فی الطلاق بالفاظ الفارسیہ، زکریا قدیم ۱/۳۷۹، زکریا جدید دیوبند ۱/۴۴۷، الفتاویٰ التاتاریخانیہ، زکریا ۴/۴۶۳، رقم: ۶۶۷۸) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۵/۲۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ صفر المظفر ۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۷۸۲۸)

جامیں نے تجھے چھوڑا

سوال [۶۳۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیٹی فرح ناز نے بتایا تھا کہ اس کی ساس اور نند سے جھگڑا ہو گیا تھا، جب اس کے شوہر گھر آئے اور ان کو پتہ چلا تو انہوں نے میری لڑکی کی ساس اور نند کے سامنے کہا ”جا میں نے تجھے چھوڑا، جا میں نے تجھے چھوڑا، جا میں نے تجھے چھوڑا“ اس پر اس کی ساس کے الفاظ یہ تھے کہ آج میرے بیٹے نے طلاق دیدی ہے، اور آج سے وہ آزاد ہو گیا، اور شوہر اس واقعہ کا اقرار کرتا ہے اور اس واقعہ کے بعد اب تقریباً دو سال سے لڑکی ہمارے گھر مراد آباد میں رہ رہی ہے۔

المستفتی: اختر حسین، جامع مسجد مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: چھوڑ دیا کا لفظ عرف میں بیوی کے حق میں طلاق ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے؛ لہذا جب شوہر نے تین مرتبہ ”جا میں نے تجھے چھوڑ دیا“ کے الفاظ استعمال کر دیئے ہیں، تو اس سے بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اب شوہر کے لئے قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲۴۵/۲، امداد المفتیین ۶۱۶، امداد الاحکام ۴۳۳/۲، فتاویٰ عثمانی ۳۴۲/۲)

بخلاف فارسیہ قولہ: سرحتک وهو ”رہا کر دم“ لأنه صار صریحاً فی العرف علی ما صرح به نجم الزاہدی الخوار زمی فی شرح القدوری، ”فإن سرحتک“ کنایة؛ لکنه فی عرف الناس غلب استعماله فی الصریح، فإذا قال: ”رہا کر دم“ أي سرحتک يقع به الرجعی مع أن أصله کنایة أيضاً، وما ذلک إلا لأنه غلب فی عرف الناس استعماله فی الطلاق. (شامی،

کتاب الطلاق، باب الکنایات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۲۹۹/۳ (فظ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴/ربیع الاول ۱۴۳۵ھ

۱۴۳۵/۳/۳۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۴۵۸)

لفظ چھوڑ دی سے طلاق دینا

سوال [۶۳۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ کو جھگڑے کے دوران ایک بیوہ عورت کے سامنے یہ الفاظ کہہ دیئے کہ ”چھوڑ دی، طلاق دیدی، چھوڑی، چھوڑی“ اس کے بعد میاں بیوی چار دن تک ایک مکان میں ایک جگہ رہے، ایسی صورت میں ہندہ پر طلاق ہوگئی یا نہیں؟؛ جبکہ ہندہ تین ماہ کی حاملہ تھی، پھر اس طلاق کے بعد ہندہ نے اپنی ماں کے مشورہ سے حمل بھی ضائع کرادیا، زید نے اور ہندہ نے طلاق واقع ہونے کا ذکر بھی نہیں کیا ہے۔ اس صورت میں ہندہ پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ دوبارہ نکاح کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ مذکورہ صورت میں ہندہ کو کونسی عدت کرنی پڑے گی؟

المستفتی: محمد اسماعیل، سعید نگر، غازی آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور لفظ چھوڑ دی، بیوی کے حق میں طلاق کے لئے استعمال ہوتا ہے؛ اس لئے مذکورہ صورت میں بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب بلا حلالہ دوبارہ نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

(۱) طلاق مغلظہ واقع ہو چکی۔

(۲) حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح صحیح ہو سکتا ہے۔

(۳) طلاق کی عدت گزارنا لازم ہے جو کہ تین ماہواری سے پوری ہوتی ہے۔

وان كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها.
(ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۳ جدید زکریا ۱/۵۳۵)

بخلاف فارسیہ قولہ: سرحتک وهو ”زہاکردم“ لآنہ صار صریحاً فی العرف علی ما صرح بہ نجم الزاہدی الخوارزمی فی شرح القدوری، ”فإن سرحتک“ کنایۃ؛ لکنہ فی عرف الفرس غلب استعمالہ فی الصریح، فإذا قال: ”زہاکردم“ أي سرحتک یقع بہ الرجعی مع أن أصلہ کنایۃً أيضاً، وماذلک إلا لآنہ غلب فی عرف الناس استعمالہ فی الطلاق. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، کراچی ۳/۲۹۹، زکریا ۴/۵۳۰)

وطلاق الحامل یجوز. (ہدایۃ اشرفی دیوبند ۶/۳۵۶ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ جمادی الثانیہ ۱۴۱۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲۳۷۷۷)

لفظ ”چھوڑ دیا،، سے طلاق ہوئی یا نہیں؟

سوال [۶۳۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حضرت ایک مسئلہ درپیش ہے، جس کی وجہ سے الجھن میں ہوں، وہ یہ کہ میرے پاس گاؤں کے سات آٹھ آدمی ایک سوال لائے، جو سوال گاؤں کے کھیاؤں نے اکٹھا ہو کر بنایا تھا، اور ان آدمیوں کو اپنی طرف سے بھیجا تھا، جس سوال میں بیوی کا یہ بیان تھا کہ میرے شوہر نسیم احمد نے مجھے چھوڑ دی، چلی جا کئی مرتبہ کہا اور یہ بھی کہا کہ تو میری بہن ہے، میں تیرا بھائی ہوں اور شوہر کا بھی بیان لکھا ہوا تھا کہ شوہر نے چھوڑ دی، چلی جا کئی بار کہا (شوہر ان پڑھ ہے) سلیم نامی ایک آدمی اس پر گواہ ہے، کہ نسیم احمد نے اس طرح کئی بار کہا، میرے

پاس آنے والے سات آٹھ آدمیوں میں شوہر نسیم احمد بھی شامل تھا، میں نے اسے الگ بلا کر وعیدیں سنائیں، پھر حقیقت معلوم کی تو اس نے میرے سامنے یہ اقرار کیا کہ ”میں نے چلی جا“ صرف ایک دفعہ کہا اور اس سے طلاق کی نیت نہیں تھی، شوہر کا یہ بیان سننے کے بعد میں نے اسی بیان کو بنیاد بنا کر جواب لکھ دیا کہ بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی؛ کیونکہ چلی جا کئی الفاظ میں سے ہے اور نیت نہ رہنے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ جواب صحیح لکھا گیا یا غلط؟

نیز شوہر نسیم احمد کو الگ بلا کر بیان لینا صحیح ہے یا نہیں؛ جبکہ شوہر کا بیان موجود تھا، سوال کا جلد جواب دیں تا کہ مسئلہ اگر غلط ہو تو رجوع کیا جاسکے؟

المستفتی: مفتی مسیح اللہ، مدرسہ مرادیہ، مظفر نگر (پوٹی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر شوہر سے پنچایت والوں نے بیان لیا اور پنچایت میں شوہر نے لفظ چھوڑ دیا تین مرتبہ سے زائد کہا ہے، تو طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے اور اگر چھوڑ دیا کا لفظ صرف ایک مرتبہ کہا ہے، تو صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

”زهاكردم“ لأنه صار صريحاً في العرف على ما صرح به نجم

الزاهدي الخوارزمي في شرح القدوري. (شامي، كتاب الطلاق، باب الكنايات،

زكريا ۴/۵۳۰، كراچي ۳/۲۹۹)

اور اگر لفظ چلی جا شوہر نے طلاق کی نیت سے کہا، تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔

ولو قال: اذهي أي طريق شئت لا يقع بلون النية. (عالمگیری،

زكريا ۱۱/۳۷۶، حدیث زکریا ۱/۴۴۳)

اخر جي، اذهي، تلزم النية. (شامي، كراچي ۳/۳۰۲، زكريا ۴/۵۳)

اور اگر اس نے چلی جا اور چھوڑ دیا دونوں الفاظ کہے تھے، تو دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔

الطلاق الصریح يلحق الطلاق الصریح ويلحق البائن، والطلاق البائن يلحق الطلاق الصریح، فإن قال: لها أنت طالق، ثم قال لها أنت بائن تقع طلاقه أخرى ولا يلحق البائن. (عالمگیری زکریا قدیم ۱/۳۷۷، زکریا جدید دیوبند ۱/۴۴۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۷/رجب المرجب ۱۴۱۲ھ

۷/۱۴۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۳۵۲)

چھوڑ دی سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟

سوال [۲۳۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عبدالرؤف ولد محمد نور ساکن دوپور ٹانڈہ کو اپنی بیوی اسلامی بیگم کے ساتھ خاص محبت و الفت تھی اور عمدہ سلوک تھا، اتفاقاً ایک روز اسلامی بیگم کی اپنی ساس سے کسی بات پر گفت و شنید ہوگئی، عبدالرؤف گھر پر موجود نہیں تھا، جب وہ گھر پر آیا اور اس کو معلوم ہوا کہ ساس بہو میں جھگڑا ہوا ہے اور اس طرح جھگڑا اور آپس میں تکرار ہوتا رہتا ہے، تو اس کو بہت غصہ آیا اور غصہ کی حالت میں یہ کہا کہ تو اس گھر میں نہیں رہے گی اور میں بھی نہیں رہوں گا، یہ الفاظ کئی بار کہے، اور پھر یہ کہا کہ میں نے تجھے چھوڑ دی، اس کے بعد جب لوگوں نے معلوم کیا تو عبدالرؤف نے پوچھنے والوں سے یہی کہا کہ میری طرف سے آزاد ہوگئی، جس نے بھی معلوم کیا، اس سے یہی کہا میں نے معاملہ صاف کر دیا، اور عبدالرؤف کا مقصد یہ تھا کہ میں تو طلاق دے چکا ہوں، تجدید طلاق مقصود نہ تھا، پھر جب پنچایت ہوئی اور معلوم کیا گیا، تب بھی یہ بتلایا کہ میں نے معاملہ صاف کر دیا، یہ عبدالرؤف کا بیان ہے۔

دو عورتوں نے پس دیوار یہ واقعہ سنا ہے، جن کا بیان حسب ذیل ہے۔

بیان ریحانہ بیگم: میں نے دیوار کے پیچھے سے عبدالرؤف کے یہ الفاظ سنے ہیں ”میں چھوڑ

دو گاہ، گھر سے نکال دوں گا، صاف کر دوں گا، گھر میں آگ لگا دوں“ اب تو نہ رہے گی اور میں بھی نہ رہوں گا۔

بیان اسلامی بیگم زوجہ عبدالرؤف: میرے شوہر نے میرے سامنے غصہ کی حالت میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ ”میں نے چھوڑ دی، چھوڑ دوں گا، طلاق دی“ اب تو گھر میں نہیں رہے گی اور میں بھی نہیں رہوں گا۔

المستفتی: محمد علی ٹانڈہ، رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: عبدالرؤف نے جو جھگڑے کے دوران ”تجھے چھوڑ دی“ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے اور عبدالرؤف کی زوجہ کے بیان کے مطابق لفظ چھوڑ دی سے ایک طلاق اور طلاق دی سے ایک طلاق کل دو طلاق رجعی واقع ہوگئی ہیں اور چھوڑ دوں گا کے لفظ سے نیز گواہوں کے بیان کردہ الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور عبدالرؤف نے واقعہ کے بعد جن الفاظ کے ذریعہ سے لوگوں کو خبر دی ہے، ان الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اس لئے کہ وہ سب خبریں ہیں، انشاء طلاق نہیں ہیں اور لفظ چھوڑ دی سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے؛ اس لئے کہ یہ ہمارے عرف میں بیوی کے حق میں طلاق کے لئے بولا جاتا ہے۔

سرحتک وهو ”رہا کردم“ لآنه صار صریحاً فی العرف. (شامی،

کتاب الطلاق، باب الکنایة، ذکر یا ۴/ ۵۳۰، کراچی ۳/ ۲۹۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ شعبان المعظم ۱۴۱۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/ ۲۱۸۳)

”چھوڑ دیا“ اور ”تیری ماں کا کام تمام کر دیا کا حکم“

سوال [۲۳۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ زین العابدین اپنے گھریلو معاملہ میں اپنی بیوی سے کچھ جھگڑا کرتے ہیں اور جھگڑے کے دوران اپنی بیوی کو مار پیٹ کرتے ہیں اور غصہ کی حالت میں یہ کہتے ہیں کہ ”تجھ کو چھوڑ دیا، میں نے تجھ کو چھوڑ دیا“ دو مرتبہ ۲۵/۲۰ منٹ کے بعد ان کے بڑے لڑکے محمد ابو بکر آتے ہیں اور اپنے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو باپ اس وقت کہتے ہیں کہ غصہ ہو کر کیا کرو گے، تیری ماں کا کام ختم کر دیا ”کہاں جانا ہے لے جا“۔ اب جو لوگ وہاں موجود ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ایک مرتبہ سنا کہ میں نے تجھ کو چھوڑ دیا؛ حالانکہ یہ اول ہی سے وہاں موجود تھے، مذکورہ بالا عبارت زین العابدین نے حاضرین مجلس کے سامنے قلم بند کی ہے، اب مذکورہ بالا عبارت سے اس کی بیوی کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر ہوئی ہے تو کونسی طلاق مع دلائل جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔

نوٹ: جھگڑے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف دو طلاق ہی دی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔

المستفتی: مولانا محمد ابو بکر صدیق (آسام)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اس میں تین الفاظ ہیں۔

(۱) چھوڑ دیا کا لفظ دو مرتبہ۔

(۲) اور تیسرا لفظ تیری ماں کا کام ختم کر دیا۔

اول دونوں لفظ ہمارے عرف میں بمنزلہ طلاق صریح کے ہیں، اگر آپ کے یہاں کا عرف بھی یہی ہے کہ جیسا کہ شوہر کے اقرار سے ظاہر ہے، تو ان سے دو طلاق صریح رجعی واقع ہوئی ہیں شامی میں ہے۔

سرحک وهو ”رہا کردم“ لانه صار صریحاً فی العرف. (شامی،

کتاب الطلاق، باب الکنایۃ، کراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۴/۵۳۰)

تیسرا لفظ بالاتفاق کناہیہ ہے، اس سے اگر صرف دونوں کی خبر دینا مقصود ہے، طلاق دینے کی

نیت نہیں رہی ہے، تو اب عدت کے اندر اندر رجعت کرنے کی گنجائش ہے، اور اگر تیسرے لفظ سے انشاء مقصود ہے، تو یہ پہلے دونوں سے مل کر تین طلاقیں واقع ہو کر عورت مغلظہ ہو گئی ہے۔ اب بلا حلالہ نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ کناہ یہ صریح کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے۔

كما في الدر المختار: الصريح يلحق الصريح ويلحق البائن بشرط العدة.

(در مختار مع الشامی، کراچی ۳/۳۰۶، زکریا ۴/۵۴۰)

والطلاق البائن يلحق الطلاق الصريح بأن قال لها أنت طالق،

ثم قال لها: أنت بائن تقع طلقة أخرى. (هندية، الفصل الخامس في الكنايات

زکریا قدیم ۱/۳۷۷، جدید زکریا دیوبند ۱/۴۴۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ شوال المکرم ۱۴۰۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۳۸۲۳)

”تجھے چھوڑ دوں گا“ ”تیرا فیصلہ کر دوں گا“ کا حکم

سوال [۶۳۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری میاں بیوی کی آپس میں ناراضگی اور تو تو میں میں ہوئی، میں نے اس روز اپنی بیوی ہندہ سے یہ کہا کہ ”میں تجھے چھوڑ دوں گا، تیرا فیصلہ کر دوں گا“ اور یہ الفاظ میں نے تین مرتبہ کہے اور یہ یہاں میرا حلفیہ بیان ہے، الفاظ یہی تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھے، اس ناراضگی میں میں کئی روز باہر رہا۔ اب معلوم طلب امر یہ ہے کہ ایسی حالت میں تین طلاق ہوئیں یا نہیں؟ اور ہندہ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا؛ لیکن میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے چھوڑ دوں گا کہا ہے۔

المستفتی: سراج الدین، ہلدوانی، نئی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر عورت کے پاس دو عادل مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں

شہادت کے لئے نہیں ہیں، تو شوہر کا حلفیہ قول معتبر ہوگا، شوہر کے قول کے مطابق حکم یہ ہے، چھوڑنے کا لفظ طلاق کے لئے صریح ہے۔

(قولہ) سرحتک ”زہا کردم“ لآنه صار صریحاً فی العرف. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، کراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۵۳۰/۴، کوئٹہ ۵۰۳/۲) اور شوہر کا لفظ استقبال ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی؛ بلکہ وہ ایک وعدہ ہے، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

وقال أطلقک لم يقع. (سکب الأنهر فی شرح ملتقى الأبحر قدیم ۳۸۷/۱، جدید دارالکتب العلمیة بیروت ۱/۴۲)

أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنه وعد. (در مختار، کراچی ۳۱۹/۳، زکریا ۵۰۹/۴) لیکن اگر عورت کو اپنے قول پر یقین ہے، تو شوہر سے خلع وغیرہ کر کے علیحدہ ہو جانا چاہئے۔

المرأة كالتقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه (إلى قوله) بل تفدي نفسها بمال، أو تهرب. (شامی، کوئٹہ ۶۸۸/۲، کراچی ۲۵۲۱/۳، زکریا ۴۶۳/۴، البحر الرائق، کوئٹہ ۲۵۷/۳، زکریا ۴۳۹/۳، ہندیہ، زکریا ۳۵۴/۱ جدید زکریا ۴۲۲/۱ کتاب الطلاق، الباب الثانی فی إيقاع الطلاق-الفصل الاول فی الطلاق الصریح) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵/زی قعدہ ۱۴۰۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۳۳۰۳۵)

دوران جھگڑا بیوی کو دو مرتبہ چھوڑ دیا کہنا

سوال [۶۳۷۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دوران جھگڑا شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ ”میں نے تجھے چھوڑ دیا، جا چھوڑ دیا، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں“ اور عورت کے چہرہ پر بار بار تھوکتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں؛ چنانچہ

گھر سے چلا بھی گیا، تو کیا ایسی صورت میں نکاح باقی رہا یا نہیں؟ اس واقعہ کو کئی ماہ ہو گئے۔ تو اب پھر نکاح ثانی کی ضرورت ہے یا نہیں؟

المستفتیہ: ثریا، گلشہد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: لفظ چھوڑ دیا دو مرتبہ استعمال کیا ہے، اس سے دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے رکھنا جائز ہے، اور ان کے علاوہ جو الفاظ استعمال کئے ہیں، ان میں شوہر کی نیت کا اعتبار ہے، اس سے معلوم کیا جائے کہ ان میں طلاق نیت تھی یا نہیں؟ اس کے بعد اس پر حکم لکھا جاسکتا ہے اور لفظ چھوڑ دیا، ہمارے عرف میں طلاق کے لئے مستعمل ہے۔

سرحتک ”رہا کردم“ لأنه صار صریحاً في العرف. (شلمی، کتاب الطلاق،

باب الکنايات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقةً رجعيةً أو تطليقتين، فله أن يراجعها

في عدتها. (هدایة، لشرفی دیوبند ۲/۳۹۴، ہندیہ، کتاب الطلاق، الباب السادس فی

الرجعة و فیما تحل به المطلقة و ما یصل به زکریا قدیم ۱/۴۷۰، زکریا جدید دیوبند ۱/۵۳۳،

قدوری امدادیہ دیوبند ۱۷۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۴ محرم الحرام ۱۴۱۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۶۱۳۲/۲۲۷)

”میں نے تجھ کو چھوڑ دیا“ دو مرتبہ کہنے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۳۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو دو مرتبہ یہ کہا ”میں نے تجھ کو چھوڑ دیا، میں نے تجھ کو چھوڑ دیا“ اس کے

بعد روبرو پوچھنا کہ جب ان الفاظ کو دہرایا گیا، تو زید نے حلفیہ پوچھنا کہ سامنے یہ بیان دیا

کہ میں نے دو مرتبہ اپنی بیوی کو یہ کہا ہے کہ ”میں نے تجھے چھوڑ دیا“ اور اس سے قبل یعنی ایک ڈیڑھ ماہ پہلے اس قسم کے الفاظ نہیں بولے ہیں۔

لیکن زید کی بیوی بموجودگی پنچایت یہ حلفیہ بیان دیتی ہے کہ ”میرے شوہر زید نے جو الفاظ آج کہے ہیں وہی الفاظ آج سے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے بھی ایک مرتبہ کہے ہیں“ صورت مسئلہ میں گواہ دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہیں، پنچایت نہایت پریشان ہے، تو دونوں کی باتوں میں سے کس پر اعتبار کیا جائے؟ اگر طلاق واقع ہوئی تو کونسی ہوئی؟

المستفتی: ابرار حسین، ماہی کیر، سرجن نگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: میاں بیوی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت جو واقعہ پیش آیا ہے، اس میں شوہر نے ”میں نے تجھ کو چھوڑ دیا“ کے الفاظ دو مرتبہ استعمال کئے ہیں، ان الفاظ سے دو طلاق صریح رجعی واقع ہو گئیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنے کی اس صورت میں گنجائش ہے۔

”رہا کردم“ أي سرحتک یقع بہ الرجعی مع أن أصله کنایة ،
وقلمر أن الصریح مالم یستعمل إلا فی الطلاق من أي لغة كانت . (شامی،
کتاب الطلاق، باب الکنایات، زکریا ۴/ ۵۳۰، کراچی ۳/ ۲۹۹)

لیکن بیوی نے جو دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ شوہر نے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے یہی الفاظ ایک بار استعمال کئے ہیں اور بیوی کے پاس اس دعویٰ پر کوئی گواہ نہیں ہے اور شوہر صاف طور پر اس کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن بھی شوہر کی تائید میں ہیں؛ اس لئے کہ بیوی نے ڈیڑھ مہینہ گزر جانے تک اس بات کا دعویٰ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس جھگڑے کے موقع پر یہ دعویٰ پیش کرنا باعث تشویش ہے۔

نیز شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب شوہر انکار کرے اور بیوی کے پاس گواہ موجود نہ ہوں، تو شوہر

کی بات معتبر ہوتی ہے اور بیوی کا دعویٰ شرعاً ثابت نہیں ہے؛ اس لئے ڈیڑھ ماہ پہلے بیوی نے طلاق کا جو دعویٰ کیا ہے، وہ شرعاً معتبر نہ ہوگا۔

قال الله تعالى: 'وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. [سورة البقره: ۲۸۲]

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل، وامرأتين سواء كان الحق مالا، أو غير مالٍ مثل النكاح، والطلاق، والوكالة، والوصية، ونحو ذلك. (هداية، اشرفي ديوبند ۱۵۴/۳، ہندیہ، زکریا ۴۵۱/۳، جدید زکریا ۳۸۸/۳)

اس جواب سے شوہر کو موقع ضرور مل گیا ہے؛ لیکن اس کو بھی یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ خوب دھیان سے غور کرے کہ ڈیڑھ ماہ پہلے اس نے چھوڑ دیا کا لفظ استعمال کیا تھا یا نہیں، اگر استعمال نہ کرنے کا یقین ہے، تو بیوی اس کے لئے حلال ہے بلا تردید بیوی کو رکھے اور اگر پہلے اس نے اس طرح کہہ دیا ہے اور اب جھوٹا بیان دے رہا ہے، تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہ سکے گا، اس کا فیصلہ وہ خود کرے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۶ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۷۸۳۶/۷۶)

دومرتبہ ”میں تجھے چھوڑ چکا ہوں“ کہنے کا حکم

سوال [۶۳۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی کی شادی دوسرے شہر میں ہوئی اور تقریباً تین ماہ تک اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار کی ساتھ زندگی گذارتی رہی، اس کے بعد اس کا شوہر اپنی چھٹی پوری کر کے روزی کمانے کی غرض سے سعودی عرب چلا گیا، وہاں سے ٹیلیفون پر اور خطوط کے ذریعہ بھی معمولاً

خوشگوار پیغامات آتے رہے، لڑکی اس دوران اپنی سسرال میں ساس کے پاس رہی، گا ہے گا ہے اپنے میکہ بھی آتی رہی، میکہ میں اس کی موجودگی اور عدم موجودگی دونوں حالتوں میں اس کا شوہر ٹیلیفون پر اچھی طرح بات کرتا رہا؛ لیکن عید کے موقع پر جب عید کے تیسرے روز لڑکی سسرال سے اپنے میکہ آئی اور ساس کی اجازت سے آئی، تو تین چار دن گزرنے کے بعد شوہر نے ٹیلیفون پر اس کو بہت کچھ سخت سست کہا اور نا معقول الفاظ استعمال کئے اور کہا کہ ”میں تجھے طلاق دے رہا ہوں“ اس پر لڑکی نے رو کر کہا کہ یہ تو بتا دیجئے قصور کیا ہے، میں تو اجازت سے آئی ہوں، مگر اس پر یہی کہا کہ اب تو میرے گھر نہیں جائے گی، اگر جائے گی، تو ٹانگیں کاٹ دوں گا، اپنا سامان مٹا لے اور اپنے باپ کو ٹیلیفون پر بلا لڑکی نے باپ سے کہا وہ بہت غصہ میں ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں؛ چنانچہ جب باپ نے فون پر بات کی تو باپ سے بھی نہایت تلخ اور بدتمیزی کے لہجے میں کہا (لڑکی کا نام لے کر) کہ ”میں اس کو چھوڑ چکا ہوں، وہ میرے نکاح میں نہیں ہے، اپنا سامان لے آؤ“ اس کے بعد نہ وہ میرے گھر جائے گی اور نہ تم جاؤ گے، باپ نے وجہ سمجھنے کی کوشش کی، تو پھر وہی نام لے کر کہا کہ وہ میرے نکاح میں نہیں ہے، اپنا سامان اٹھا لو، باپ نے پھر کہا کہ سوچ سمجھ کر بات کرو، تمہیں ہو کیا گیا ہے، اسی پر کہا کہ میں ہوش میں ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح ہے، اپنا سامان وہاں سے اٹھا لو آئندہ نہ تمہاری بیٹی وہاں جائے گی اور نہ آپ جاؤ گے، میں طلاق نامہ بھیج رہا ہوں۔

باپ نے اس رشتہ کے درمیانی ذمہ داروں کے علم میں لانے کے لئے ٹیلیفون کی کل گفتگو قلم بند کر کے اپنی بیوی اور بڑی بیٹی کو بھیجی، یہ خبر پہونچتے ہی ہر مرد اور عورت اور خود اس کی ماں، بھائی، بہن سب ہی اس شخص پر لعن و طعن کرنے لگے اور بے انتہا شرمندگی اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ لوگ ابھی صبر کریں اس کی تحریر آ جانے دیں، اس واقعہ کے دو دن گزرے تھے کہ پھر ٹیلیفون آیا، اس وقت لڑکی کی ماں سے نہایت بیہودگی کی بات کی اور پھر لڑکی کا نام لے کر کہا کہ میں اس کو چھوڑ چکا ہوں، وہ میرے نکاح میں نہیں ہے، اب وہ وہاں نہیں جائیگی اپنا سامان مٹا لو۔

اب سوال یہ ہے کہ شوہر کے ان الفاظ پر طلاق کس طرح کی ہوئی؟ اس سلسلہ میں وضاحت فرمادیں تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، لڑکی کے سسرال والے کچھ لاپرواہ مزاج کے ہیں، جو طلاق جیسے نازک مسئلہ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے؛ لیکن لڑکی اور اس کے خاندان کے سب ہی لوگ پابند شرع ہیں۔

دوسری گزارش یہ ہے کہ مذکورہ شخص سعودی عرب میں معمولی ملازم ہے اور دو سال سے پہلے اپنی ملازمت چھوڑ کر نہیں آسکتا، اس کے آنے میں ایک سال چند ماہ باقی ہیں۔ اب موجود حالات میں سامان لانے یا کسی مالی ضرورت سے لڑکی اپنے باپ کے ساتھ اپنی سسرال جاسکتی ہے یا نہیں؟ اس طرح کہ باپ کے ساتھ ہی واپس ہو جائے؟

المستفتی: سید طیب حسن زیدی، کانٹھ دروازہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: چھوڑ چکا ہوں کا لفظ ہمارے عرف میں طلاق کے لئے متعارف ہے، اس سے طلاق صریح رجعی واقع ہوتی ہے اور مذکورہ صورت حال میں دو مرتبہ اس نے یہ الفاظ بیوی سے کہے ہیں؛ لہذا اس سے دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کی گنجائش ہے اور اس کے علاوہ لڑکی کے باپ وغیرہ سے جو کہا ہے، وہ سب پہلے کی خبریں ہیں؛ اس لئے ان سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی؛ لہذا مذکورہ تمام واقعہ میں صرف دو طلاق رجعی واقع ہوئی ہیں۔

”رہا کردم“ أي سرحتک یقع بہ الرجعی . (شامی، کتاب الطلاق،

باب الكنایات، کراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۵۳۰/۴)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في

عدتها . (هداية، اشرفي ديوبند ۳۹۴/۲، ہندیہ، زکریا ۱/۷۰، جدید زکریا ۱/۱۱۳۳،

قدوري امدادية ديوبند ۱۷۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۲۰/۱۴۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹/ ذی قعدہ ۱۴۱۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۱/۲۲۱۴)

”میں نے تم کو چھوڑا، چھوڑا، چھوڑا“ کہنے کا حکم

سوال [۶۳۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے شوہر نے پہلی جون کو مجھ سے کہا کہ ”میں نے تم کو چھوڑا، چھوڑا، چھوڑا“ پھر کہا کہ تم جاؤ تم کو چھوڑا اب دوسری شادی کر کے لاؤں گا، پھر جب بعد میں ان سے کہا گیا کہ آپ نے ایسا ایسا کہا ہے، تو وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کہا ہے، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، میں بہت پریشان ہوں کہ اس مسئلہ کا حل کیا ہوگا، میرے شوہر کی عمر ۸۰ سال اور میری عمر ۵۰ سال ہے، میں ان کی دوسری بیوی ہوں اور ان کو سات سال سے فالج کا اثر ہے، داہنا ہاتھ اور پیر بیکار ہے، بستر پر ہی پیشاب وغیرہ کرتے ہیں اور ان کا سب کام میں کرتی ہوں۔ اب میں کیا کروں آپ اس کا مسئلہ بتا دیجئے؛ کیونکہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں کہ آخرت میں پکڑ نہ ہو، طلاق میں کنائی الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اور اس وقت طلاق کا ذکر نہیں ہو رہا تھا، پھر اس کے بعد شوہر طلاق کا منکر ہو گیا، سوائے بیوی کے کوئی گواہ نہیں ہے؛ لیکن بیوی دیندار ہے۔

المستفتیة: خادمة جامعة الصالحات، رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ہمارے عرف میں چھوڑا کا لفظ بیوی کے حق میں طلاق کے لئے مستعمل ہے؛ اس لئے اس سے طلاق صریح واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں جبکہ آپ نے اپنے کان سے تین مرتبہ شوہر کی زبان سے چھوڑا کا لفظ سن لیا ہے، تو اس سے آپ پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، اب آپ کا اس شوہر کے پاس رہنا جائز نہیں ہے؛ البتہ اگر آپ نے نہیں سنا اور شوہر انکار کر رہا ہے، اور گواہ بھی موجود نہیں ہیں، تو شوہر کا قول معتبر ہوگا اور آپ کو جانا چاہئے۔

سرحک وهو ”زهاکردم“ لأنه صار صريحاً في العرف. (شامي، كتاب الطلاق، باب الكنايات، كراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۵۳۰/۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۷ اصفہر المظفر ۱۴۱۶ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۴۳۳۵/۳۲)

لفظ چھوڑ دی تین مرتبہ کہنے کا حکم

سوال [۶۳۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا اپنے بچوں کو لے کر بیوی سے بھگڑا ہوا، میرا خالہ زاد بھائی میری بیوی کو لے کر جانے لگا، ”میں نے کہا واپس چلی آ“ وہ واپس آنے لگی، مگر خالہ زاد بھائی نے کہا کہ تو چل میں دیکھ لوں گا وہ چلی گئی، میں نے ڈرانے اور دھمکانے کے لئے یہ کہہ دیا کہ ”چھوڑ دی، چھوڑ دی، چھوڑ دی“ تین بار اب وہاں موجود لوگوں نے ہنگامہ کر دیا کہ طلاق ہوگئی اور بیوی کو عدت میں بٹھا دیا، میں نے زبانی طور پر معلومات کی تو معلوم ہوا کہ اس میں گنجائش ہے، آپ سے درخواست ہے اس مسئلہ میں شریعت کے فیصلہ سے آگاہ فرمادیں۔

المسئلی: مہر الدین، چاند پوری، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: موقع اختلاف اور گرامری کی حالت میں بیوی کے لئے ”چھوڑ دی“ کا لفظ استعمال کرنا ہمارے عرف میں طلاق کے لئے ہوتا ہے؛ لہذا جب چھوڑ دی کا لفظ بیوی کے لئے تین مرتبہ استعمال کیا ہے، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہوگئی ہے اب بدون حلالہ شرعیہ دوبارہ نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

فإذا قال: ”زهاکردم“ أي سرحک يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضاً، وما ذلك إلا لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاق.

(شامی، کتاب الطلاق، باب الكنايات، كراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۵۳۰/۴)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۳، جدید زکریا ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵/شعبان المعظم ۱۴۳۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۴۷)

لفظ ”چھوڑ دیا“ وقفہ وقفہ سے تین مرتبہ کہنا

سوال [۶۳۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی دس بارہ سال پہلے ہوئی تھی، اسی دن سے میرا نباہ بیوی سے نہیں ہو پارہا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً پانچ چھ سال پہلے ایک طلاق دے چکا ہوں جو کہ مجھ کو بتلایا گیا کہ رجعی ہے اور ہم لوگ باہم آپس میں رہتے رہے، اب دوبارہ پہلے تقریباً آپسی اختلاف کی بنا پر پھر طلاق دی تو ہم لوگوں کو بتلایا گیا کہ رجوع کر لو، اور ہم لوگ پھر باہم رہتے رہے۔ اب ۲۰ ستمبر ۲۰۰۵ء کو آپس میں اختلاف ہوا اور کشیدگی بہت بڑھ گئی، جس کی بنا پر ہم دونوں لڑکی کی سگی پھوپھی کے یہاں گئے؛ لیکن وہاں بھی حالات نہیں سدھر سکے، جس کی وجہ سے میں نے سب کے سامنے یہ کہا کہ ہمارے ان کے رشتہ میں گنجائش نہیں رہی۔ اب آپ اس رشتہ کو ختم سمجھیں میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، یہ باتیں سگی پھوپھی کے سامنے کہیں اور بیوی کو چھوڑ کر دوکان پر آ گیا، پھر میں نے پھوپھی صاحبہ کو فون کیا اور یہ فون پر کہا کہ آپ رشتہ کو ختم سمجھیں، میرے یہاں نہ بھیجیں اور والدہ کو فون کر کے بتادیں؛ لیکن وہ میرے گھر آ گئی مہربانی کر کے شریعت کی رو سے بتادیں کہ کیا کروں؟

المستفتی: سعود اشرف، رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہمارے عرف میں شوہر کا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ میں نے

تجھ کو چھوڑ دیا، طلاق صریح کے حکم میں ہے؛ لہذا سوال نامہ میں جب شوہر وقفہ وقفہ سے دو مرتبہ طلاق صریح دے چکا ہے اور اب چھوڑ دیا سے تیسری طلاق صریح ہوئی؛ لہذا تین طلاق شمار کر کے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہوگئی اور وہ شوہر پر بالکلیہ حرام ہوگئی، آئندہ بغیر حلالہ کے آپس میں نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

”رهاکردم“ أي سرحتک يقع به الرجعي مع أن أصله كناية (قولہ) وقد مر أن الصريح مالم يستعمل إلا في الطلاق، من أي لغة كانت. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹ جدید زکریا ۱/۵۳۵)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (عالمگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، زکریا جدید ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ شعبان المعظم ۱۴۲۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸۸۳۲۸)

”چھوڑ رہا ہوں“ کے لفظ سے طلاق

سوال [۶۳۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں مولوی رشید احمد صاحب کی دختر آمنہ خاتون کو چھوڑ رہا ہوں، اور یہ کام بہت ہوش میں کر رہا ہوں اور میں اس کی مہر کے ۷۸۶ روپیہ بھی ادا کر نیکا وعدہ کرتا ہوں اور جو چیز دیا گیا تھا، وہ بھی اسٹ کے حساب سے دینے کو تیار ہوں اور جو سامان ختم ہو گیا، اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، باقی میں بہت گنہگار ہوں اور میں نے آمنہ پر بہت ظلم کیا ہے یہ سب گناہ میرے سر پر ہیں اس لئے بس اب ظلم کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اب رہا عائشہ کا مسئلہ تو عائشہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتی ہے، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں،

میں اس کو ابھی لیجانا چاہتا ہوں، شوہر کی اس تحریر سے شرعی حکم کیا لاگو ہوگا؟

المستفتی: محمد ابراہیم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: چھوڑ رہا ہوں کے لفظ سے صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوئی ہے؛ اس لئے کہ لفظ چھوڑ دیا، ہمارے عرف میں طلاق کے لئے بولا جاتا ہے۔

نیز صیغہ حال سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا عدت کے اندر اندر رجعت کر کے اور عدت کے بعد بلا حلالہ نکاح کر کے بیوی بنا کر رکھنا جائز ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۳۲۴ء، ڈبھیل ۱۲/۳۴۰)

عن ابن عباس، وعن مرة عن عبد الله، وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التفسير إلى قوله: الطلاق مرتان: قال هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة فإذا طلق واحدة أو اثنتين فيما أن يمسك ويراجع بمعروف الخ. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الرجعة، دارالفكر بيروت ۱۱/۲۸۱، رقم: ۱۵۵۳۹)

”رہا کر دم“ أي سرحتک يقع به الرجعي. (شامی، کتاب الطلاق، باب

الکنايات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ ربیع الثانی ۱۴۱۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۳۹۷)

”آزاد کر دیا“ کا لفظ عرف میں بیوی کے حق میں طلاق رجعی ہے

سوال [۶۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ ”میں نے تجھے آزاد کر دیا“ تو اس سے طلاق رجعی صریح واقع ہوگی یا طلاق کنائی بائن؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: جب شوہرنے بیوی سے کہا کہ ”میں نے تجھے آزاد کر دیا“ تو اس سے بیوی پر ایک طلاق رجعی صریح واقع ہوگئی؛ اس لئے کہ آزاد کر دیا کا لفظ بیوی کے حق میں عرف میں طلاق ہی کے لئے مستعمل ہے۔ (مستفاد: محمودیہ میرٹھ ۲۸۲/۱۸، ڈابھیل ۱۲/۳۳۳)

ولو قال الرجل لامرأته: ”تراجنک بازداستتم“ ”أوبهستم، أو” یله کردم ترا“ فهذا كله تفسير قوله: طلقتك عرفاً حتى يكون رجعياً ويقع بدون النية، كذا في الخلاصة. (هندية، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل السابع في الطلاق بالالفاظ للفارسية، مكتبة زكريا قديم ۱/۳۷۹، جدید دیوبند ۱/۴۴۷)

فإذا قال: ”رها کردم“ أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضاً؛ لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاق. (شامي، زكريا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹)

صريحه مالم يستعمل إلا فيه، ولو بالفارسية، فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صريح يقع بلا نية. (شامي، کراچی ۳/۲۴۷، زكريا ۴/۴۵۷) فقط والله سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ رزی الحج ۱۴۳۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۰/۱۱۳۲۶)

”دل سے تو میری بیوی آزاد ہے“ کہنا

سوال [۶۳۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ لڑکی کے چچا، چچی کی موجودگی میں لڑکی کے بارے میں زید کا اپنی بیوی سے کچھ

جھگڑا ہوا، جس کی بناء پر زید کی بیوی اپنی میکہ چلی گئی، چوتھے دن جب زید اپنی پھوپھی کے گھر سسرال پہنچا، تو ان کے گھر لڑکی کے چچا، چچی دونوں موجود تھے، ان سے کچھ زید کی بول چال ہوگئی، جس میں زید نے اپنی بیوی کو ان کے سامنے یہ کہہ دیا کہ دل سے تو میری بیوی آزاد ہے، اور جب لڑکی کے باپ چاہیں تو زبان سے بھی کہلو لیں، اس کے بعد لڑکی کی دوسری چچی آگئی اور ان کو زید سے بات کرنے سے قہل ہی اس بات کا پتہ چل گیا۔ اب ان کی خود زید سے بات ہوئی، تو پھر زید نے کہا کہ ہاں میں نے دل سے اسے آزاد کر دیا اور میں چاند رات کو پرچہ لکھ کر بھیج دوں گا، اتنے میں اس بات کا شور ہوا، تو پڑوس میں سے کسی عورت نے دیوار پر کھڑے ہو کر معلوم کیا کہ کیا ہوا؟ تو زید نے کہا کہ ”میں نے دل سے اسے آزاد کر دیا“ اس کے باپ جہاں چاہیں شادی کر دیں۔ اب اس صورت مسئلہ میں شرعی حکم بتائیں۔

المسئتی: محمد قاسم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: چچا، چچی کے سامنے یہ جو کہا کہ دل سے تو میری بیوی آزاد ہے، اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے، اس کے بعد الگ الگ مواقع میں دو مرتبہ لوگوں سے جو کہا ہے، وہ پہلی مرتبہ کی خبر ہے اور خبر سے کوئی طلاق نہیں پڑتی؛ لہذا مذکورہ بالا پوری صورت حال میں صرف ایک طلاق واقع ہوئی، عدت کے اندر رجعت کر کے رکھ سکتا ہے اور آزاد کے لفظ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۴۲۵)

”رہا کردم“ أي سرحتک یقع بہ الرجعی. (شامی، کتاب الطلاق،

باب الکنایات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹)

إذا قال الرجل لامرأته: ”بهشتم ترا از زنی“ فاعلم بأن هذه اللفظة استعملها أهل خراسان وأهل العراق في الطلاق، وأنها صريحة عند أبي يوسف حتى كان الواقع بها رجعياً ويقع بدون النية. (هندية، کتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل السابع في الطلاق)

بالألفاظ الفارسیة، قدیم ۱/۳۷۹ جدید ۱/۴۴۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵ اشوال المکرم ۱۴۱۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲/۴۹۹)

آزاد کرتا ہوں سے طلاق

سوال [۶۳۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نام شبانہ پروین ہے، میری شادی ۱۸ مئی ۲۰۰۴ء کو شعیب علی کے ساتھ ہوئی تھی، دو مہینے میں اپنے شوہر کے پاس رہی، اس کے بعد اب تک اپنے والد کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ ۲۷ اکتوبر ۲۰۰۹ء کو رات دس بجے کے وقت میرے شوہر نے فون کر کے مجھ سے کہا کہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، پھر دوبارہ فون کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک طلاق دیدی ہے، اپنے گھر میں مشورہ کر لو باقی دو طلاقیں میں تمہیں بعد میں دے دوں گا، تو تم میرے نکاح سے باہر ہو جاؤ گی۔ اب آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ طلاق ہوئی یا نہیں؟

المسفتیة: شبانہ پروین، جامع مسجد، واریٹی ٹرگ، گلی-۱، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آزاد کرتا ہوں کا لفظ طلاق دیتا ہوں کے معنی میں ہے، اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اس کے بعد فون پر جو یہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک طلاق دیدی ہے، اس سے اگر شوہر نے یہ مراد لیا ہے کہ پہلے جو طلاق دی ہے اس کی خبر دے رہا ہوں، جیسا کہ آگے کے الفاظ ”میں تم کو دو طلاق بعد میں دیدوں گا“ سے یہی معلوم ہو رہا ہے، تو اس سے پہلی طلاق کی خبر دینا مقصود ہے؛ لہذا پہلے والے الفاظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے؛ البتہ عدت کے اندر اندر رجعت کر کے دونوں کے ایک

ساتھ رہنے کی گنجائش ہے۔ (مستفاد: احسن الفتاویٰ ۵/۱۵۵، امداد الفتاویٰ ۲/۳۲۵)

وہو کانت طالق، ومطلقة، وطلقتک، وتقع واحدة رجعية. (ہندیہ، کتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، زکریا ۱/۳۵۴، جدید ۱/۴۲۲)

”فإن سرحتك“ كناية؛ لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح، فإذا قال: ”رهاكردم“ أي سرحتك يقع به الرجعي. (شامی، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹، فتاویٰ محمودیہ جدید ۱۲/۳۵۲، ۳۵۹)

ولو قال لامرأته: أنت طالق، فقال له رجل ما قلت؟ فقال: طلقته، أو قال اقلت: هي طالق، فهي واحدة في القضاء. (ہندیہ، زکریا ۱/۳۵۵، جدید ۱/۴۲۳، شامی، زکریا ۴/۵۲۱، کراچی ۳/۲۹۳)

لأن كلامه انصرف إلى الإخبار. (بدائع الصنائع، زکریا ۳/۱۶۳)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۶/۱۱/۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۹/۱۱/۱۴۳۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۸۱۷)

تجھے آزاد کر دیا

سوال [۶۲۸۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے لڑکے انور حسین نے سخت غصہ میں اور دماغی الجھن کی حالت میں اپنی بیوی عرش ناز سے یہ جملہ دو مرتبہ کہہ دیا کہ ”تجھے آزاد کر دیا“ اس جملہ کو کہنے کے بعد میرے لڑکے کو اپنے کئے پر افسوس بھی ہے اور اب دونوں میاں بیوی الگ الگ کمرہ میں رہ رہے ہیں، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ مذکورہ جملہ کہنے سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر طلاق ہوگئی تو بیوی کو دوبارہ رکھنے کی کیا صورت ہوگی؟

المسئلتیة: فریدہ بیگم، پکڑکی ملک، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ”آزاد کر دیا“ کا لفظ ہمارے عرف میں جب بیوی کے لئے بولا جاتا ہے، تو طلاق ہی کے لئے متعین ہو جاتا ہے؛ لہذا تجھے آزاد کر دیا کے لفظ سے طلاق صریح واقع ہو گئی ہے، اور یہ ایسا ہے جیسا کہ تجھے طلاق دیدی کہہ دیا ہو، جب دو مرتبہ یہ لفظ کہہ دیا ہے، تو اس سے دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے میاں بیوی جیسے رہنے کی گنجائش ہے، مگر یاد رہے کہ آئندہ جب بھی ایک مرتبہ ایسا کوئی لفظ زبان سے استعمال کرے گا، جس سے طلاق مان لی جاتی ہے، تو بیوی بالکل حرام ہو جائے گی۔

فیذا قال: ”رہا کردم“ أي سرحتک یقع بہ الرجعی مع أن أصله کنایةً أيضاً، وما ذلک إلا لأنه غلب فی عرف الناس استعماله فی الطلاق، وقد مر أن الصریح مالم یستعمل إلا فی الطلاق من أي لغة كانت. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، کراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۵۳۰/۴)

وقعتا رجعیتین لو مدخولاً بہا، کقولہ: أنت طالق، أنت طالق زیلعی. (شامی، کراچی ۲۵۲/۳، زکریا ۴۶۳/۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۹/۳/۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸ ربیع الاول ۱۴۲۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۹۵۱۹/۳۸)

میں نے آپ کو آزاد کر دیا

سوال [۶۳۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی سا رہ بانو سے کہا ”سا رہ میں نے آپ کو طلاق دیدی، میں نے آپ کو آزاد کر دیا“ دریافت یہ کرنا ہے کہ اس سے کتنی طلاق ہوئیں؟

المستفتی: انصار عرف، شبو، جامع مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ صورت میں بیوی سائرہ پر دو طلاقیں واقع ہو گئیں، ہمارے عرف میں لفظ ”آزاد کر دیا، طلاق کے لئے بیوی کے حق میں استعمال ہوتا ہے؛ اس لئے دو طلاقیں واقع ہو گئیں، عدت گزرنے کے بعد بیوی شوہر کے نکاح سے مکمل آزاد ہو جائیگی اور اس کو حق ہوگا کہ دوسری جگہ نکاح کر لے۔

عن عبد اللہ وعن أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان: قال: هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو اثنتين فيما أن يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها. (سنن کبریٰ للیہقی، کتاب الرجعة، دار الفکر بیروت ۱۱/۲۸۱-۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

قوله: سرحتك ”رها كردم“ لأنه صار صريحاً في العرف (وقوله) والصريح مالم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنايات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۴ شوال المکرم ۱۴۳۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۹۷۹۰۳۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴/۱۰/۱۴۳۰ھ

میں نے تجھے اپنے نکاح سے آزاد کیا

سوال [۶۳۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ سے اس کی رضامندی سے بغیر کسی زور و جبر کے تین مرتبہ یہ جملہ کہا کہ ”میں نے تجھے اپنے نکاح سے آزاد کر دیا، میں نے تجھے اپنے نکاح سے آزاد کر دیا، میں نے تجھے اپنے نکاح سے آزاد کر دیا“ اس کے علاوہ زید نے تحریراً بھی لکھ دیا،

جو استفتاء کے ساتھ ملحق ہے، پھر اس کے بعد ہندہ نے بھی تین دفعہ کہا کہ میں نے بھی اپنا مہر معاف کر دیا، تو اس طرح ہندہ پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو عدت کتنے دن گزارنے کے بعد ہندہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ اور یہ واقعات چند گواہوں کی موجودگی میں ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد شفیق، اسمعیل روڈ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہمارے عرف میں لفظ آزاد کر دیا بیوی کے حق میں طلاق کے لئے بولا جاتا ہے؛ اس لئے مذکورہ الفاظ سے ہندہ پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہیں، اب ہندہ تین حیض کی عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور چونکہ ہندہ نے اپنا مہر گواہوں کے سامنے ہی معاف کر دیا ہے؛ اس لئے وہ اب زید سے مہر طلب نہیں کر سکتی ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۴۲۵، محمودیہ قدیم ۱۰۳۸، جدیدہ ابھیل ۱۲/۳۵۸)

قولہ: سرحتک وهو ”رہا کر دم“ لأنه صار صریحاً في العرف علی ما صرح به نجم الزاهدي الخوارزمي في شرح القدوري، (انتہی) فإذا قال: ”رہا کر دم“ أي سرحتک يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضاً، وما ذلک إلا لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاق. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۷ جمادی الثانیہ ۱۴۱۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۷۰۷)

جاؤ تم کا آزاد کر دیہن

سوال [۶۳۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ زید نے اہلیہ سے بحالت غصہ تین سے زائد مرتبہ کہا کہ ”جاؤ تم کا آزاد کر دیں“ تم کا جہاں جائیک ہو جاؤ، تم ہماری بیون نہ آؤ، (یہ بات تخلیہ میں کی گئی کوئی تیسرا نہیں تھا) اس واقعہ کے بعد یہ بات آئی گئی، ہوگئی اور تقریباً پندرہ یوم تک زوجین کے مابین ہی محدود رہی، ایک معاملہ پیش آنے پر زید کی اہلیہ نے دیگر باتوں کے ساتھ اس بات کا بھی ذکر ضمنی طور پر میکہ والوں سے کیا، لڑکی کے میکہ والے اہل علم تھے، اس جملے پر چونک گئے، لڑکی سے پوچھا کہ اب تک اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ لڑکی نے (حیرت و استعجاب سے) جواب دیا کہ کیوں؟ اس سے کیا ہوا؟

لڑکی کی ہمیشہ کلاں نے برائے تحقیق فون پر لڑکی سے کہا کہ پوچھو، یہ جملے کیوں کہے تھے؟ لہذا اہلیہ کے معلوم کرنے پر زید نے کہا کہ کیوں؟ بس ایسے ہی کہا تھا، میں غصے میں تھا، بعد لڑکی والوں نے زید اور زید کے گھر والوں کو بلایا اور دونوں طرف کے چند اشخاص کی موجودگی میں اس واقعہ کی تحقیق چاہی، تو زید نے آزاد کر دی ہیں اور دیا کے لفظ میں پس و پیش اور تردد ظاہر کرتے ہوئے اقرار کر لیا اور قسم کھالی کہ ہمارے علم میں نہیں تھا کہ ان الفاظ سے کیا ہو سکتا ہے؟ اور نہ ہی میرا طلاق کا ارادہ تھا؛ بلکہ بیوی کے میکہ جانے کے جملے پر جھلا کر یہ جملے کہے تھے، اور یہ بات اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہتا ہوں۔

نوٹ: (۱) واقعہ ہے کہ زید اور اس کی اہلیہ اس طرح کے مسائل سے ناواقف ہیں۔

(۲) زید کی اہلیہ تقریباً تین ماہ کے حمل سے ہے۔

(۳) مذکورہ جملے ایک ہی نشست میں ادا کئے گئے۔

(۴) واقعہ کسی سے ذکر نہ کرنے کی وجہ زید نے بھی اپنی لاعلمی بتائی۔

(۵) اب وہ شرمندہ ہیں ایک دوسرے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں۔

برائے کرم التماس ہے کہ اس مسئلہ میں شرعی فیصلہ سے آگاہ فرمائیں تاکہ شریعت مطہرہ سے انحراف نہ ہو۔ عند اللہ ماجور ہوں گے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ”آزاد کر دیا“ ”آزاد کر دیہن“ کے الفاظ بیوی کے واسطے طلاق ہی کے لئے متعارف ہیں؛ اس لئے اس سے طلاق صریح واقع ہوگئی ہے اور چوں کہ تین مرتبہ سے زائد کہا ہے؛ اس لئے طلاق مغلظہ واقع ہوگئی ہے اور حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور مسئلہ معلوم نہ ہونا وقوع طلاق کے لئے رکاوٹ نہیں ہے؛ اس لئے بیوی زید کے اوپر قطعی طور پر حرام ہوگئی ہے؛ لہذا بغیر حلالہ شرعی کے آپس میں نکاح بھی درست نہیں ہوگا؛ اس لئے اگر ساتھ میں رہنا چاہیں تو شرعی حلالہ کا جو طریقہ ہے، اس کے ساتھ نکاح کر کے رہ سکتے ہیں۔

”فإن سرحتك“ کنایہ؛ لکنہ فی عرف الفرس غلب استعمالہ فی الصریح، فإذا قال: ”رہا کر دم“ أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله کنایة أيضاً، وما ذلك إلا لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاق، وقد مر أن الصریح مالم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، کراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۵۳۰/۴)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (ہندیہ، الباب السادس فی الرجعة و فیما تحل بہ المطلقة وما یصل بہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، زکریا جدید دیوبند ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳ھ/۱۰۱۸

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۸/شوال المکرم ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۱۱۲۶۳)

”نکاح سے آزادی دیتا ہوں“ کے الفاظ سے طلاق

سوال [۶۲۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ مہربان خاں نے اپنی بیوی رابعہ پروین کو اس کے دماغی خلل کی وجہ سے طلاق دیدی، اور الفاظ یہ استعمال کئے کہ میں مہربان خاں اپنی بیوی رابعہ پروین کو اس کے دماغی خلل کی وجہ سے اپنے نکاح سے آزادی دیتا ہوں اور اس کا اب میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور میں ان کا دین مہر ادا کروں گا، وہ جب چاہے مجھ سے لے سکتی ہے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ مذکورہ صورت میں کونسی طلاق واقع ہوئی؟ شرعی حکم تحریر فرمائیں۔

المستفتی: محمد فرحان

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: نکاح سے آزادی دیتا ہوں کے الفاظ ہمارے عرف میں طلاق ہی کے لئے بیوی کے حق میں بولے جاتے ہیں؛ اس لئے اس سے طلاق صریح رجعی واقع ہوگئی ہے۔

”رہا کردم“ أي سرحتك يقع به الرجعي. (شامی، کتاب الطلاق،

باب الکنایات، کراچی ۲۹۹/۳، زکریا دیوبند ۵۳۰/۴)

اس کے بعد دوسرا جملہ کہ اس کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا؛ چونکہ اس سے قبل ذکر طلاق آچکا ہے؛ اس لئے اس جملہ سے بلائیت ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ اب دونوں مل کر دو طلاق بائن واقع ہوگئی ہیں، عدت کے اندر یا عدت کے بعد جب بھی چاہے بلا حلالہ دوبارہ نکاح کر کے رکھنے کی گنجائش ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۴۳۹/۲، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۴۴۲/۹)

الصريح يلحق الصريح، ويلحق البائن بشرط العدة. (در مختار مع

الشامی، کراچی ۳۰۶/۳، زکریا ۵۴۰/۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۸/۱۲/۲۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳ رزی الحجۃ ۱۴۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۵۵۵/۱۳۳)

تین مرتبہ شوہر کا ”آزاد کر دیا“ کہنا

سوال [۶۳۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید باہر سے آیا تو زید کی والدہ اور زوجہ میں تنازعہ ہو رہا تھا، زید نے بیوی کو خاموش ہونے کے لئے کہا اور کہا کہ جھگڑا ختم ہو جائے گا اپنے گھر چلی جا؛ لیکن وہ نہیں گئی، تو زید نے غصہ میں کہا کہ ”آزاد کرا، آزاد کرا، آزاد کرا“ تو زید کی بیوی کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: زاہد حسین، شاہ آباد، رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آزاد کر دیا کا لفظ ہمارے عرف میں بیوی کے حق میں طلاق کے لئے بولا جاتا ہے؛ اس لئے اس سے طلاق صریح رجعی واقع ہو جاتی ہے اور تین مرتبہ کہنے سے طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔

إن الصریح مالم یستعمل إلا فی الطلاق من أي لغة كانت الخ
سرحتک وهو ”زہا کردم“ لأنه صار صریحاً فی العرف. (شامی، کتاب الطلاق،

باب الکنایات، زکریا ۴/ ۵۳۰، کراچی ۳/ ۲۹۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۴ھ

۱۴۱۴/۱۲/۲۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۱۸۳۸۳)

لفظ ”آزاد کرتا ہوں“ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۳۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں اظہر محمود خان نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی مرضی سے اپنی بیوی اسماء

خانم بنت محمد متیق خاں کو گواہوں کے روبرو آزاد کرتا ہوں کہا تو اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ میری بیوی کو کونسی طلاق ہوئی؟ جواب باصواب سے نوازیں۔

المستفتی: اظہر محمود خاں، عاصم بہاری اسکول، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بیوی کے لئے آزادی کا لفظ عرف میں طلاق ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے، لہذا مسئلہ صورت میں آپ کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی، عدت کے اندر آپ رجعت کر سکتے ہیں۔

فیذا قال: ”رہا کردم“ يقع به الرجعی. (شامی، کتاب الطلاق، باب

الکنايات، کراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۵۳۰/۴)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في علتها.

(عالمگیری، الباب السادس فی الرجعة و فیما تحل به المطلقة و ما یصل به زکریا قدیم

۱/۴۷۰، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳ رجب الاول ۱۴۲۲ھ

۱۳/۳/۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۰۹۳۵)

”تم میری طرف سے آزاد ہو،، سے طلاق“

سوال [۶۳۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے یوں کہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور شوہریوں کہے کہ تم جاسکتی ہو، میری طرف سے تم آزاد ہو، اس صورت میں طلاق ہوگئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد ندیم، کھوکھران، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آجکل کے عرف میں آزادی کا لفظ طلاق ہی کے لئے

استعمال ہوتا ہے؛ لہذا میری طرف سے آزادی کے لفظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی۔
(مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۰/۴۰۷، جدید ڈائجسٹ ۱۲/۵۱۵)

”فإن سرحتك“ کنایہ؛ لکنہ فی عرف الفرس غلب استعمالہ فی الصریح، فإذا قال: ”رها کردم“ أي سرحتك يقع به الرجعي. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، کراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۵۳۰/۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ رزی الحجۃ ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۶۹۶۸)

”اپنی زوجیت سے آزاد کرتا ہوں،، سے طلاق

سوال [۶۳۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مجھ محمد حسن خاں کے تعلقات اپنی بیوی مسماة سیمہا خاں سے بہت خراب ہو چکے ہیں؛ اس لئے آج ۲۳/اپریل ۱۹۹۱ء کو میں محمد حسن خاں اپنی پہلی بیوی سیمہا خاں کو طلاق قطعی دیتا ہوں اور اپنی زوجیت سے آزاد کرتا ہوں، یہ تحریری طلاق نامہ بطور یادداشت مسماة سیمہا کو دے رہا ہوں۔

المستفتی: محمد حسن

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ صورت میں مسماة سیمہا خاں پر شرعی طور پر طلاق واقع ہو چکی ہے اور جب ۲۳/اپریل ۱۹۹۱ء میں طلاق دی ہے، تو سیمہا خاں کی عدت بھی پوری ہو چکی ہے؛ اس لئے اب سیمہا خاں اپنی مرضی سے کسی سے دوسرا نکاح کر کے باعصمت زندگی گزار سکتی ہے۔

عن عبد اللہ وعن أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان: قال هو الميقات الذي يكون عليها

فیه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو اثنتين فإما أن يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها. (سنن کبری للبيهقي، کتاب الرجعة، دارالفکر بیروت ۱۱/۲۸۱-۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

ویجوز لها أن تزوج بأخر إن كان قد طلقها الخ. (عالمگیری، الباب الثالث عشر فی العدة زکریا ۱/۵۲۸ جدید زکریا ۱/۵۸۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹ شعبان المعظم ۱۴۱۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۳۵۵۳)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۲/۸/۹ھ

”میں نے آزاد کر دیا“ کے لفظ سے طلاق

سوال [۶۳۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک آدمی نے ایک بیوہ عورت سے عدت پوری کرنے کے بعد شرعی طور سے نکاح کیا، دوسری عورت جس کی شادی ہو گئی تھی؛ لیکن اس کو طلاق نہیں ہوئی تھی، اس نے اسی آدمی کے ساتھ کورٹ کے ذریعہ سے شادی کی، جب اہل بستی کو معلوم ہوا تو لوگوں نے اس پر زور دیا کہ آپ دونوں کو آزاد کر دیں ورنہ فساد ہوگا؛ لہذا اس آدمی نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ میں نے آزاد کر دیا، صرف ایک مرتبہ کہا؛ لہذا واضح طور پر لکھیں کہ طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: مطلوب حسین، معصوم پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: پہلی عورت کا نکاح صحیح اور درست ہے اور آزاد کر دیا کے لفظ سے اس پر ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے، اور دوسری عورت سے نکاح ہی نہیں ہوا ہے، وہ اس کے حق میں اجنبی عورت ہے، اس کے ساتھ رہنا زنا کاری ہے۔

”رہا کر دم“ أي سرحتك يقع به الرجعي. (شامی، کتاب الطلاق،

وأما نكاح منكوحة لغير ومعتدته، فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلم ينعقد أصلاً. (شامی، کراچی ۱۳۲/۳، زکریا ۴/۲۷۴، خانیا علی ہامش الہندیہ، باب فی المحرمات زکریا قدیم ۲۲۱/۱، زکریا جدید ۳۶۶/۱، ہندیہ، القسم السادس: المحرمات التي يتعلق بها حق الغير ۲۸۰/۱، جدید زکریا ۳۴۲/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۵/رجب المرجب ۱۴۱۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۱۳۲/۳۵)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۵/۷/۱۴۱۶ھ

لفظ آزاد اور لفظ طلاق کے ذریعہ طلاق دینے کا مسئلہ

سوال [۶۳۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور اس کی بیوی میں کسی بات پر ناراضگی ہوئی، زید نے اپنی بیوی سے کہا کہ ”تو آزاد ہے، ہم سے، میں نے تجھے طلاق دی“ یہ لفظ دو مرتبہ کہا وہاں پر زید کے لڑکے اور پوتے بھی موجود تھے، زید کی بیوی کا بھائی بھی موجود تھا، یہ الفاظ ان لوگوں نے بھی سنا زید کی عمر اس وقت تقریباً ستر سال ہے اور بیوی کی فریب ۶۵ سال ہے، اس واقعہ کو فریب ایک ماہ گزر چکا ہے۔ جواب سے مطلع فرمائیں شرعی حکم کے مطابق زید کو کیا کرنا چاہئے؟

المستفتی: شرافت حسین، مین پوری، ناوہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آزاد کا لفظ ہمارے عرف میں بیوی کے حق میں طلاق صریح کے لئے بولا جاتا ہے؛ لہذا اس سے ایک طلاق ہوگی اور اس کے بعد لفظ طلاق دو مرتبہ بولا گیا؛ لہذا اس سے دو طلاق ہو گئیں۔ اب کل ملا کر تین طلاق، طلاق مغلظہ واقع ہو چکیں؛ لہذا ابلا حلالہ دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتا۔

عن عبد الله وعن أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان: قال هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو اثنتين فيما أن يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها. (السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الرجعة، دارالفريروت ۱۱/۲۸۱-۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

”رهاکردم“ لأنه صار صريحاً في العرف. (شامي، كتاب الطلاق، باب الكنايات، زكريا/۴، ۵۳۰/، كراچی ۲۹۹/۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۸ محرم الحرام ۱۴۱۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲/۳۵۹۳)

”میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں نے آزاد کر دیا،، سے طلاق

سوال [۶۳۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کے نکاح کو تقریباً دو سال سے زائد گزر چکے ہیں، کسی آپسی اختلاف کی بنیاد پر زید اپنی منکوحہ سے ایک برس سے علیحدہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ میرا اس سے نکاح ہوا، اور یہی بیان وہ عدالت میں تحریری طور پر بھی دے چکا ہے۔

نیز رسیدات (ثبوت نکاح) وغیرہ لڑکے نے چالاکی سے تلف کر دی ہیں، یاد رہے کہ اس نکاح میں لڑکی کے والد مرحوم وکیل اور لڑکی کے دو بھائی گواہ ہیں، پیار کی بنیاد پر یہ شادی ہوئی تھی۔ نیز لڑکی کہتی ہے کہ تقریباً چھ ماہ قبل زید نے میرے لئے لفظ طلاق بھی استعمال کیا تھا؛ لیکن اس کے پاس کوئی گواہ شرعی موجود نہیں ہے، نہ یہ وضاحت کہ کون سے الفاظ سے طلاق دی تھی، نیز لڑکا یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تجھ کو شرعی طور پر آزاد کیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں لڑکی کے لئے مشعل راہ کے طور پر جواب عنایت فرمادیں جس سے یہ معلوم

ہو کہ آیا لڑکی کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ یا لڑکے کے ان الفاظ سے کیا شکل پیش آئی ہے؟ آیا ان الفاظ کی بنیاد پر لڑکی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: محفوظ الرحمن، سہسپور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر شرعی گواہوں کے ذریعہ زید کا نکاح ثابت ہو جائے، تو اس کے انکار نکاح سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

وإن قال: لم أتزوجك ونوى الطلاق لا يقع الطلاق بالإجماع.

(عالمگیری، زکریا ۱/۳۷۵، زکریا جدید ۱/۴۴۲)

البتہ زید کا یہ کہنا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تجھ کو شرعی طور پر آزاد کیا، تو ان سے دو طلاق رجعی واقع ہوں گی؛ اس لئے کہ یہ دونوں الفاظ عرف میں طلاق کے لئے مستعمل ہیں اور لڑکی عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔

لفظ ”آزاد کردن“ من الصریح عندی فی عرف أهل الهند، لا یطلقونه

علی النساء إلا فی معنی الطلاق. (امداد الأحکام ۴/۱۶)

وفي البدائع: كوني حرة واعتقي مثل أنت حرة، ككوني طالقاً مثل

أنت طالق. (البحر الرائق، زکریا ۳/۵۲۴، کوئٹہ ۳/۱۰۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲ صفر المظفر ۱۴۲۱ھ

۱۴۲۱/۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۶۴۸۰۳۳)

”تو میری طرف سے آزاد ہے،، ایک مرتبہ کہنے سے طلاق

سوال [۶۳۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ زید کی بیوی اس کی مرضی کے خلاف گھر سے نکل کر آزادی سے گھومتی

پھرتی ہے، اس بات پر دونوں میں تنازع بھی ہوتا رہتا ہے کہ ایک دن دونوں میاں بیوی

میں کسی بات پر تنازع ہوا، زید نے بلا طلاق کی نیت کے محض ڈرانے اور تنبیہ کرنے کے لئے اس کو یہ الفاظ کہہ دیئے کہ تو میری طرف سے آزاد ہے چلی جا اپنے باپ کے گھر، صرف ایک بار کہا تھا، بیوی نے یہ سمجھ لیا کہ زید نے اسے طلاق دیدی، اس نے اپنے اعزہ اقرباء میں اس بات کی خبر اور شہرت کر دی کہ مجھے طلاق ہوگئی ہے، اب میں آزاد ہوں اور وہ اب شوہر کے ساتھ رہنے کے لئے بالکل تیار نہیں ہے، زید اس کو سمجھا رہا ہے کہ میں نے تجھے طلاق نہیں دی ہے اور یہ الفاظ صرف ڈانٹنے کے لئے کہے تھے، زید نے کچھ عالموں سے بھی یہ مسئلہ معلوم کیا، تو عالموں نے اس کو یہی بات بتائی یہ الفاظ کنایہ کے ہیں، اگر ان الفاظ کے کہنے میں طلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوئی، زید کے اعزہ اقرباء نے یہ طے کیا ہے کہ فتویٰ منگالیا جائے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے؛ اس لئے محترم سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ کے جواب سے مشرف فرمائیں۔

المستفتی: عبدالقیوم، ہلدوانی، لائن نمبر ۷، نئی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ”تو میری طرف سے آزاد ہے، کا جملہ ہمارے عرف میں بیوی کے حق میں الفاظ صریح میں سے ہے، اس سے طلاق صریح رجعی واقع ہو جاتی ہے، بلا نیت استعمال کرنے سے بھی ایک طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے، عدت کے اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کی گنجائش ہے اور رجعت کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی سے یا دوسرے لوگوں سے کہہ دے کہ میں نے بیوی کو دوبارہ زوجیت میں واپس لے لیا ہے میں نے رجعت کر لی یا بیوی کے ساتھ ہمبستری ہو جائے۔“

سرحک وهو ”رہا کر دم“ لأنه صار صریحاً في العرف وقوله - فإذا قال: ”رہا کر دم“ أي سرحک يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضا.
(شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹)

والرجعة أن يقول: راجعتك أوراجت امرأتي وهذا صريح في الرجعة..... أويطأها، أويقبلها، أويلمسها بشهوة. (هداية اشرفي ديوبند ۲/۳۹۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۸ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۴۲/۵۹۳۹)

”تو آزاد ہے نکل،، کے الفاظ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۳۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں دوکان سے گھر گیا، گھر جانے کے بعد میں نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد میں نے بیوی سے کسی کام کو کہا وہ نہیں مانی، تو غصے میں منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، جب تو نہیں مانتی” تو تو آزاد ہے نکل،، اب دونوں اس بات پر بہت شرمندہ ہیں، یہ ہم نے کیا کیا بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ فتویٰ نکال لیں کہ ہم ایک جگہ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ دونوں میاں بیوی راضی ہیں، آگے ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔

المستفتی: محمد صغیر، محلہ اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: لفظ آزاد کر دیا اور تو آزاد ہے کہنے سے ایک طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے؛ اس لئے مذکورہ صورت میں ”تو آزاد ہے،، کے لفظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے اور نکل کے لفظ سے اگر شوہر نے طلاق کی نیت کی، تو اس سے بھی ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور کل دو طلاق بائن ہو جائیں گی اور اگر نکل کے لفظ سے طلاق کی نیت نہیں کی ہے، تو اس سے کوئی طلاق نہ ہوگی اور صرف تو آزاد ہے کے لفظ سے ایک طلاق رجعی معتبر ہوگی اور عدت کے اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کا حق ہوگا۔

”رہا کردم“ أي سرحتك يقع به الرجعي . (شامی، کتاب الطلاق،

باب الکنایات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۲۹۹/۳)

عن عبد الله وعن أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان قال: هو الميقات الذي يكون عليها فيه
الرجعة، فإذا طلق واحدة أو اثنتين فإما أن يمسك ويراجع بمعروف، وإما
يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها. (السنن الكبرى للبيهقي،
كتاب الرجعة، دار الفكر بيروت ۱۱/۲۸۱-۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴/۱۴/۱۴

۱۴/۱۴/۱۴

(فتویٰ نمبر: الف: ۶۰۲۸)

”آزاد کر دیا“ سے طلاق

سوال [۶۳۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی کے باپ اور پڑوسی مظفر حسین میرے رشتہ دار اور گھر والوں پر پولیس کا دباؤ ڈال کر مجھ سے آزادی لینے آئے، میری بیوی موجود نہیں تھی، تو میں نے اپنی بیوی کے باپ سے کہا میں اپنی بیوی کو آزاد نہیں کر رہا، اگر آپ زبردستی آزادی چاہتے ہیں تو اس کے عذاب و ثواب کے ذمہ دار آپ ہوں گے، تو لڑکی کے باپ نے کہا میں اپنے اوپر کوئی گناہ نہیں لینا چاہتا، میں لڑکی کو بلا کر لاتا ہوں، وہ طلاق لے یا نہ لے، میں کوئی گناہ نہیں لے رہا، پھر میرے رشتہ دار اور مظفر حسین نے کہا لڑکی کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر کافی بحث ہوتی رہی، تو میرے رشتہ دار اور مظفر حسین نے کہا بات جلدی ختم کرو، ان کو چھوڑو، ہم سے کہو، تو پھر میں نے نہ ہی لڑکی کا نام لیا اور پھر میں نے مظفر حسین سے کہا ”تمہارے کہنے سے میں نے تمہاری لڑکی کو آزاد کیا، تمہاری لڑکی کو آزاد کیا“ پھر سرس کے

پڑوسی مظفر حسین اور میرے رشتہ دار نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ کہو، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو میں نے کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ایک بار کہا مظفر حسین کی لڑکی میری بیوی نہیں ہے میرے سر بھی موجود تھے میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق کہا، تمہاری لڑکی کو آزاد دوبار کہا، میری بیوی بھی موجود نہیں تھی، اور میرے سر نے بھی عذابِ ثواب کی ذمہ داری نہیں لی، اس طرح میرے رشتہ دار اور سر کے پڑوسی کے زبردستی کہنے پر کہا تو کیا میری بیوی پر طلاق واقع ہو سکتی ہے؟ جبکہ میں نے مظفر حسین سے طلاق ایک بار کہا، اس طرح زبردستی ایک بار کہنے سے میری بیوی کی غیر موجودگی میں میری بیوی پر طلاق ہو سکتی ہے؛ جبکہ لڑکی بھی موجود نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کو بلوا بھی نہیں رہے، اور لڑکی کا باپ بھی عذابِ ثواب کی ذمہ داری نہیں لے رہا، یہ میرے رشتہ دار اور مظفر حسین کے زبردستی کرنے سے اس طرح سے میری بیوی پر طلاق ہو گئی یا کوئی گنجائش ہے؟

المستفتی: محمد طیب

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سائل اور شوہر کے متعلقین اور شوہر سے زبانی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ لڑکی کا باپ مظفر حسین کو اپنی طرف سے مکمل وکالت کے لئے لایا تھا، اور پوری مجلس میں مظفر حسین سے جتنی گفتگو کی گئی ہے، وہ سب اسی لڑکی کی طرف سے کی گئی ہے، جو سائل یعنی شوہر کی بیوی ہے اور دورانِ گفتگو جب مظفر حسین نے اس لڑکی کے لئے طلاق مانگی، تو شوہر نے کہا کہ تمہاری لڑکی کو آزاد کیا اور یہ جملہ دوبار کہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس لڑکی کے لئے جو لوگ طلاق لینے آئے ہیں اور مطالبہ طلاق کے دوران ان لوگوں کو مخاطب کر کے جب تمہاری لڑکی کہا جائے گا، تو اس سے وہی لڑکی مراد ہو سکتی ہے، جس کے لئے طلاق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؛ اس لئے مظفر حسین کو مخاطب کر کے جو تمہاری لڑکی کہا ہے اس سے مظفر حسین کی حقیقی لڑکی مراد نہ ہوگی؛ بلکہ وہی لڑکی مراد ہوگی جس کی طرف سے وہ وکالت کر رہا تھا؛ لہذا آزاد کیا، دوبار کہنے کی وجہ سے دو طلاق صریح واقع ہو چکی ہیں اور ایک

بارمیری بیوی کو طلاق دی کہنے سے ایک اور طلاق واقع ہوگئی، تو کل تین طلاق واقع ہو چکی ہیں۔ اب بلا حلالہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔

”رہا کردم“ لآنه صار صریحاً فی العرف . (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (هندیہ، الباب السادس فی الرجعة، وفیما تحل به المطلقة وما يتصل به، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، زکریا جدید دیوبند ۱/۵۳۵)

اور حیات العلوم اور اکرم العلوم کا جواب بھی دیکھ لیا گیا ہے، ان کے سوال میں بجائے تمہاری لڑکی کو آزاد کیا کے مظفر حسین کی لڑکی کو آزاد لکھا ہوا ہے؛ اس لئے ان کا جواب مظفر حسین کی لڑکی کو آزاد کیا کے الفاظ کے لغو ہونے پر ہے، اور یہی لفظ ہمارے سوال میں بھی تھا، مگر سائل اور سائل کے متعلقین سے معلوم ہوا کہ سائل نے دوران جھگڑا مظفر حسین کی لڑکی کو آزاد نہیں کہا ہے؛ بلکہ تمہاری لڑکی کو آزاد کہا ہے؛ اس لئے ہمارے جواب اور ان کے جواب میں فرق ہوا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۱۷/۱۱/۱۲

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳/ذی قعدہ ۱۴۱۷ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۲۳۲۰۵۰)

آزاد کرنے اور چھوڑنے کے لفظ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۳۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد احمد نے اپنی بیوی کو دوبار کہا کہ میں نے چھوڑ دی، طارق کہتا ہے کہ تیسری بار کہتے ہوئے میں نے محمد احمد کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس کے بعد پھر محمد احمد نے کہا کہ طارق تم

گنہگار ہو گے، میں نے ختم ہی کر دی، پھر محمد احمد نے یہ بھی اقرار کیا کہ میں نے یہ کہا کہ طارق تم زیادہ رپٹ مت کرو، میں نے اس کو آزاد ہی کر دی، صغریٰ کا بیان ہے کہ محمد احمد نے یہ کہا کہ میں نے دل سے ہی کہہ دیا۔ اب اس کو ہو ہی جانے دو، ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ جب میں محمد احمد سے ملا تو محمد احمد نے کہا کہ میں نے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا اگر اور کہو تو اور چھوڑ دوں اور محمد احمد کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے ان تمام باتوں میں سے کچھ نہیں سنا ہے اور محمد احمد بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ ساری باتیں اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں کہی ہیں۔

المستفتی: محمد احمد، ڈوکلپوری، ٹانڈہ، رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب محمد احمد نے دوبار بیوی کے متعلق کہا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا، تو اس سے اس کی بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں؛ اس لئے کہ ”چھوڑ دی،“ کے لفظ سے طلاق صریح واقع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا یہ کہنا کہ طارق تم زیادہ رپٹ مت کرو، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے، اس سے تیسری طلاق واقع ہو گئی۔ اب آگے اس کے بعد اس نے جو چھوڑ دی کے الفاظ استعمال کئے ہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے؛ کیونکہ محمد احمد کی بیوی تین طلاق مغلظہ واقع ہونے کی وجہ سے محمد احمد پر بالکل حرام ہو چکی ہے۔ اب بغیر حلالہ کے آئندہ اس سے نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔

قولہ: سرحتک وهو ”رہا کردم“ لآنه صار صریحاً فی العرف علی ما صرح به نجم الزاہدی الخوارزمی فی شرح القدوری. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، کراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۵۳۰/۴)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها.

(عالمگیری، الباب السادس فی الرجعة و فیما تحل بہ المطلقة و ما یصل بہ زکریا ۱/۴۷۳، زکریا جدید د یوبند ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲ھ/۱۱/۳۰

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲/۲۲۴ تعدہ ۱۴۲۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۷/۸۱۷)

شوہر کا قول ”میں نے تجھے طلاق دی، آزاد کیا“ سے طلاق

سوال [۶۴۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آج سے تقریباً پانچ سال قبل میں نے اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑے کے دوران تیل چھڑک کر آگ لگالی تھی، جس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دیدی تھی، اور کہا ”میں نے تجھے طلاق دی، آزاد کیا“ اس کے بعد میں اسپتال میں زیر علاج رہی اور پھر اپنے میکہ آگئی، میری شوہر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ مجھے طلاق ہوگئی یا نہیں اور اب دوسری شادی کر سکتی ہوں یا نہیں؟ شرعی حکم سے مطلع فرمائیں۔

المستفتیہ: رحمت جہاں، بیگم والی مسجد، صالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شوہر کے قول ”میں نے تجھے طلاق دی، آزاد کیا“ سے دو طلاق رجعی واقع ہوئی تھیں؛ لیکن اس کے بعد چونکہ شوہر کی جانب سے رجعت نہیں پائی گئی؛ اس لئے عدت گزر جانے کی بناء پر لڑکی اپنے شوہر سے بالکل آزاد ہوگئی۔ اب وہ جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها

رضیت بذلک أو لم ترض. (ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۰، جدید زکریا ۱/۵۳۳)

فلا رجعة لمضي المدة. (شامی، کراچی ۳/۴۰۷، زکریا ۵/۳۶)

عن عبد الله وعن أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان، قال: هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو اثنتين فيما أن يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها. (سنن كبرى للبيهقي، كتاب الرجعة، دار الفكر بيروت ۱۱/ ۲۸۱-۲۸۲، رقم: ۱۰۵۳۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲ شعبان المعظم ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۶/۷۳۵۴)

”تم اپنے میکہ چلی جاؤ اور آزاد ہو“ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۴۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کو شادی کئے ہوئے چار سال ہوئے اور چھوٹے بچے بھی ہیں، اس درمیان آپس میں تنازع بھی ہوا، اور سسرال والے بھی ہمیشہ لڑکی کی حمایت کرتے رہے، اور میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنی میکہ چلی جاؤ؛ لیکن اس نے نہیں مانا، پھر بھی اس نے بدتمیزی کی۔ اور بولی میں ایسے نہیں جاؤں گی، تم مجھے طلاق دے دو، زید نے کہا اپنی بیوی سے کہ ہمارے خاندان میں طلاق نہیں دی جاتی اور ضد کرنے لگی، تو زید نے کہا کہ جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو، جو دل چاہے کرو، اور زید نے یہ بھی کہا کہ اب تم خوش ہو، لڑکی اس وقت اپنے میکہ میں ہے اور اس وقت زید اور اس کی والدہ تھیں اور بیوی تھی، والدہ کی موجودگی میں یہ ساری باتیں ہوئیں۔ اب تحریر فرمائیں کیا بیوی کو لا سکتے ہیں یا نہیں؟

المسفتی: محمد اسلم، محلہ طویلہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تم اپنی میکہ چلی جاؤ، الفاظ سے طلاق واقع ہونے کے لئے نیت شرط ہے، اور بعد میں جو عبارت ہے، ہمارے خاندان میں طلاق نہیں دی جاتی، اس

سے واضح ہوتا ہے کہ طلاق کی نیت ہی نہیں؛ لہذا اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، اور زید کا قول جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو، جو دل چاہے کرو، تو لفظ جاؤ سے اگر مستقل طلاق کی نیت نہیں کی ہے، تو اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوئی اور لفظ آزاد ہو سے ایک طلاق رجعی ہو چکی ہے، عدت کے اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھی جاسکتی ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۴۲۵، احسن الفتاویٰ ۱۶۶/۵)

”رہا کردم“ أي سرحتك يقع به الرجعي إلى (قوله) إن الصريح مالم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنايات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقةً رجعيةً..... فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض. (هندیہ، زکریا ۱/۴۷۰، جدید زکریا ۱/۵۳۳، ہدایہ، لشرفی دیوبند ۲/۳۹۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹ ربیع الثانی ۱۴۱۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۶/۲۱۸۷)

”میں نے تجھے آزاد کیا“ دو مرتبہ کہنے سے طلاق

سوال [۶۴۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مستقیم نے اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں دو مرتبہ یہ کہہ دیا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، اور بیوی گھر سے نکل کر باہر نہیں گئی اور یہ کہہ دیا کہ آپ چاہیں مجھے قتل کر دیں میں اس گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔

المستفتی: مصطفیٰ پور، شیخوپورہ، تھانہ جھیٹ، ٹھاکر دوارہ، مراد آباد (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: آزاد کر دیا کا لفظ عرف میں طلاق صریح کے لئے مستعمل

ہے، جب دو دفعہ کہہ دیا ہے تو اس سے بیوی پر دو طلاق صریح رجعی پڑ گئی ہیں، عدت گزرنے سے پہلے پہلے رجعت کر کے بلا نکاح بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے، رجعت کی صورت یہ ہے کہ شوہر زبان سے یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی ہے یا بیوی کے ساتھ ہمبستر ہو جائے۔

”رہا کر دم“ أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضاً (إلى قوله) أن الصريح مالم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنايات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹)

وقعتار جعیتین لو مدخولاً بها، کقولہ: أنت طالق، أنت طالق. (الدر المختار، کراچی ۳/۲۵۲، زکریا ۴/۴۶۳)

والرجعة أن يقول: راجعتک، أورا جعت امرأتی (وقولہ) أویطأها، أویقبلها، أویلمسها بشهوة. (هدایة، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ رزی الحجہ ۱۴۰۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۵/۱۵۸۶)

تین مرتبہ کہنا کہ ”تو میری طرف سے آزاد ہے،“

سوال [۶۴۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری لڑکی عاصفہ بی کا نکاح محمد اشتیاق ولد عبدالوہاب مسجد کہنہ ٹانڈہ کے ساتھ تقریباً دو سال قبل ہوا، شادی کے بعد ہی سے عاصفہ بی کی سسرال والوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا، اس دوران عاصفہ کے شوہر محمد اشتیاق نے کہا میری طرف سے فائل ہے، دو بول ہیں فون پر سن لیں یا لکھ کر لے لیں محلہ کی ایک بزرگ خاتون سے اور میری بیوی سے کہا میری طرف سے فائل ہے۔

ایک بار اپنی بیوی عاصفہ سے کہا کہ میری طرف سے تو آزاد ہے جاسکتی ہے۔ ایک بار کہا کل کو تجھے طلاق دوں گا۔ ایک بار عاصفہ سے کہا تو غیر میں غیر، تیرا میرا کوئی مطلب واسطہ نہیں نہ تیرے ہاتھ سے کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، میں تجھے اب رکھوں گا نہیں، تیرا فیصلہ ہی دوں گا، میری طرف سے تو آزاد ہے، یہ بات بہت بار کہی گئی ہے۔ کیا اس صورت حال میں میری لڑکی عاصفہ کو طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟ اور اگر طلاق واقع ہوئی تو کونسی طلاق واقع ہوئی؟ برائے کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ تفصیلی جواب سے نوازیں۔

المستفتی: محمد شمیم، محلہ قاضی پورہ، نگر پالیکا کے پیچھے، ٹانڈہ بادلی، رام پور (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: محمد اشتیاق کا اپنی بیوی عاصفہ سے تین مرتبہ سے زائد یہ کہنا کہ ”میری طرف سے تو آزاد ہے“ ہمارے عرف میں یہ صریح طلاق ہے؛ اس لئے اس سے طلاق صریح واقع ہوگئی اور طلاق صریح جب تین مرتبہ یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے طلاق مغلطہ واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا عاصفہ پر طلاق مغلطہ واقع ہوگئی ہے۔ اب بغیر حلالہ کے آپس میں نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: امداد الاحکام ۱۶/۴)

”فإن سرحتك“ کنایة؛ لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح، فإذا قال: ”رهاكردم“ أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله کنایة أيضاً، وما ذلك إلا لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاق، وقد مر أن الصريح مالم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت. (شامي، كتاب الطلاق، باب الكنايات، كراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۵۳۰/۴)

الصريح يلحق الصريح. (شلي، زکریا ۵۴۰/۴، کرلجی ۳۰۶/۳) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۷۶۳۹۳۶)

مختلف مواقع پر چھ سات مرتبہ آزاد کر دیا کہنا

سوال [۶۴۰۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی کو پانچ سال ہو گئے، شادی کے بعد ہی سے میرے شوہر نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور چار پانچ مہینے سے کتنی بار جھگڑے کے دوران کہہ دیتے ہیں 'جا میں نے تیرا فیصلہ کر دیا، اپنا سامان اٹھا اور اپنے گھر جا'، کبھی کہتے ہیں 'چل اٹھ نکل اس گھر سے میں نے تمہیں آزاد کیا'، آج تیرا فیصلہ کر دیا، ایک مہینہ پہلے مجھے گھر سے نکال رہے تھے، اس پر میں نے کہا ایسے میں جاؤں گی، سب خاندان والوں کو اکٹھا کرو اور بات ہوگی جو فیصلہ ہوگا میں وہی مانوں گی، تو اس پر کہنے لگے 'میں نے تیرا فیصلہ کیا جا پناچہ لے اور سامان اٹھا کر نکل جا'، لڑائی کی وجہ چاہے کتنی چھوٹی ہو، بس ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اپنا سامان اٹھا اور نکل جا اور کئی بار گھر سے نکال چکے ہیں؛ لیکن گھر والے خاندان والے ایک یا دو مہینہ میں واپس چھوڑ جاتے ہیں، اس مسئلہ پر میں نے ۵ دن پہلے سنا کہ ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے، طلاق کے قریب ہے، جب میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا میں غصہ میں کہہ دیتا ہوں اور غصہ کی بات کچھ نہیں ہوتی؛ لیکن آزاد کر دیا اور فیصلہ کر دیا، یہ الفاظ ۵ سال میں ۶ بار یا اس سے بھی زیادہ کہہ چکے ہیں اور وہ رشتے میں میرے ماموں زاد بھائی ہیں۔ شریعت کا کیا حکم ہے؟

المستفتیہ: شیما کوثر، کشن گنج، دہلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: "آزاد کر دیا"، کا لفظ ہمارے عرف میں بیوی کے حق میں طلاق کے لئے مستعمل ہوتا ہے؛ اس لئے اس لفظ کے ذریعہ سے طلاق صریح واقع ہوتی ہے، جب مختلف مواقع میں تین مرتبہ یا اس سے زائد یہ لفظ شوہر نے بیوی کے حق میں استعمال کر لیا ہے، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے اور اس لفظ سے طلاق

واقع ہونے کے لئے نیت کی ضرورت نہیں ہے اور غصہ کی حالت میں اور مذاق میں ہر صورت میں اس کے ذریعہ طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا سوال نامہ کے مطابق بیوی شوہر پر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے، ان دونوں کے درمیان کسی طرح از دو اجبی تعلق جائز نہیں ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۴۲۵، فتاویٰ محمودیہ ۱۲/۵۰۴، ڈائجیل)

ولو قال: ”رہا کر دم“ مضافاً إلى المرأة فهو صريح يوجب الرجعة فلا يصدق أنه لم ينوبه الطلاق خصوصاً عند مذاكرة الطلاق. (تاتارخانیہ، ۴/۶۵، رقم: ۶۶۸۱)

بخلاف فارسیہ قولہ: سرحتک وهو ”رہا کر دم“ لأنه صار صریحاً فی العرف علی ما صرح به نجم الزاہدی..... فإن سرحتک“ کنایۃ؛ لکنہ فی عرف الفرس غلب استعمالہ فی الصریح، فإذا قال: ”رہا کر دم“ أي سرحتک یقع بہ الرجعی مع أن أصله کنایۃً أيضاً، وما ذلک إلا لأنه غلب فی عرف الناس استعمالہ فی الطلاق، وقد مر أن الصریح ما لم يستعمل إلا فی الطلاق من أي لغة كانت. (شامی، کتاب الطلاق، باب کنایات، کراچی ۳/۲۹۹، زکریا ۴/۵۳۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۹/۵/۱۴۳۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸/ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف-)

متعدد بار آزاد کرنا

سوال [۶۴۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑے کے دوران متعدد مرتبہ یہ لفظ کہہ دیا کہ ”میں نے تجھ کو آزاد کیا“ بیوی کی فرمائش پر، مگر اب دونوں نادیم ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دونوں ساتھ رہیں، بیوی دو مہینے کے حمل سے ہے۔

المستفتی: حافظ محمد ظہور، شریف نگری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ”آزاد کیا، کا لفظ ہمارے عرف میں بیوی کے حق میں طلاق کے لئے بولا جاتا ہے؛ لہذا اگر یہ لفظ بیوی کے لئے تین مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ استعمال کیا ہے، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلطہ واقع ہو چکی ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۲/۴۲۵)

”رہا کر دم“ أي سرحتک یقع بہ الرجعی (إلی قوله) إن الصریح ما لم یستعمل إلا فی الطلاق من أي لغة كانت . (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۲۹۹/۳) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱/رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ

۱۴/۹/۱۴۱۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۳۵۷)

بارہا ”آزادی دی“ کہنا

سوال [۶۴۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تو نے اپنے لڑکے کے یہاں کھانا کھایا، تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے، اس بات کو تین آدمیوں نے سنا، دو آدمی یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کہا تھا کہ اگر تو نے کھانا کھالیا، تو تجھے طلاق ہے؛ لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے کھانے کی بات نہیں؛ بلکہ طلاق کی بات سنی، اس وقت لفظ طلاق بیوی نے بھی ایک بار سنا، تین آدمی جو گواہ ہیں، دو ان صاحب کے بیٹے ہیں اور تیسرا آدمی بستی کا ہے، جو وہاں موجود تھا، لفظ طلاق ان صاحب نے تین چار مرتبہ دہرائے، بیوی نے کھانا نہیں کھایا، شوہر کا بیان یہ ہے کہ میں نے بیوی کے سامنے طلاق کا لفظ دو مرتبہ استعمال کیا اور ”آزادی دی“، کا لفظ بارہا استعمال کیا۔

المستفتی: سلطان پور پٹی، نئی تال (پوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہمارے عرف میں آزادی دی کا لفظ بیوی کے حق میں طلاق کے لئے مستعمل ہے، لہذا اس سے طلاق صریح واقع ہو جائے گی اور لفظ طلاق دو مرتبہ کہنے کی وجہ سے دو طلاق صریح واقع ہو جائیں گی اور ”آزادی دی“ کے لفظ سے ایک طلاق مزید ہوگی؛ لہذا کل تین طلاق واقع ہو کر بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے۔ اب بلا حلالہ دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔

”رہا کردم“ ای سرحتک يقع به الرجعی مع أن أصله كناية؛ وقوله: ”رہا کردم“ لأنه صار صریحاً في العرف—وقوله— وقد مر أن الصريح ما لم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت. (شامی، کتاب الطلاق، باب الكنايات، کراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۵۳۰/۴)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگیری، زکریا ۱/۴۷۳-جدید زکریا ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۳۸۲۳)



(۱۳) باب الکنایة

کنائی الفاظ سے بلا نیت طلاق کا حکم

سوال [۶۴۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو فلاں مکان میں آ کر مجھ سے ملاقات نہیں کرے گی تو تجھے ایک طلاق، اس جملہ کو سننے کے بعد بیوی نے اس مکان میں آ کر اپنے شوہر سے ملاقات کر لی، پھر اس واقعہ کے کچھ دنوں بعد آپس میں گھر یلو کسی کام کے بارے میں اس کی بیوی نے شوہر سے کہا کہ مجھے اس گھر کے چال و چلن اچھے نہیں لگتے، تو شوہر نے فوراً ڈانٹے کی غرض سے بیوی سے غصہ میں کہا جب تمہاری سمجھ میں اس گھر کے چال و چلن نہیں آتے، تو تم اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ، ایک مرتبہ اس شخص کی بیوی نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ میرے ماں باپ نے اس گھر میں شادی کر کے میرا نصیب بھوڑ دیا، تو شوہر نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جہاں تمہارا نصیب اچھا ہو وہاں چلی جاؤ، اس واقعہ کے کچھ دنوں کے بعد پھر بیوی نے شوہر کی کوئی نافرمانی کی اور شوہر نے اس کو غصہ میں برا بھلا کہا اور اس کو مذکورہ بالا پہلا واقعہ یاد دلایا اور کہا کہ دیکھو تم اکثر میرا کہنا نہیں مانتی ہو، جس بات سے میں منع کرتا ہوں، اسی کو تم کرتی ہو، دیکھو میں تم کو ایک طلاق دے چکا ہوں، تم ہوشیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس جملہ کے فوراً بعد یہ کہا کہ جب تم میرا کہنا نہیں مانتی ہو، تو مجھ سے کیا واسطہ یہاں نیت طلاق کی نہیں تھی؛ بلکہ یوں ہی ڈانٹنے کے لئے اس طرح کے الفاظ کہے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بیوی اس کے پاس آئی تو شوہر نے پھر اس کو ڈانٹنے کے لئے کہا کہ تم مجھے ہاتھ مت لگانا، اگر ہاتھ لگاؤ گی تو گناہ گار ہو گی اب چار مہینے تک عدت گزارو،

اس کے بعد میرا اور تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا، شوہر نے چار مہینے سے قبل ہی ڈھائی مہینے کے بعد بیوی سے صحبت کر لی اور باقاعدہ آپس میں رہنے لگے اور عہد کر لیا کہ اب ایسی باتیں نہیں کریں گے۔

اب شوہر کے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ کہیں ہماری یہ زندگی خلاف شرع تو نہیں گذر رہی ہے؛ اس لئے اس مسئلہ کے بارے میں علماء دین سے رجوع کیا گیا ہے، علماء اس کا جواب شریعت مطہرہ کی روشنی میں اطمینان بخش عطاء فرمائیں کہ مذکورہ باتوں کے کہنے سے کوئی طلاق تو واقع نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو بائن ہوئی ہے یا رجعی یا مغلظہ؟ اگر طلاق بائن ہوئی ہے، تو عدت کے اندر یہ دونوں اپنا دوسرا نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ طلاق بائن پڑنے کے بعد عدت کے اندر اندر متعدد بار الفاظ کتایہ کہے اور نیت طلاق کی ہی تھی، تو ایک ہی طلاق رہے گی یا طلاق مغلظہ کی کوئی صورت بن جائے گی؟ بہت غور کے ساتھ اور بالتفصیل جواب دیں۔

المستفتی: محمد عتیق الرحمن، لاپوری، گھاس والی مسجد، رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ عبارات میں سے ۲/۱۴ الفاظ کنایات میں سے ہیں، اگر ان سے شوہر کی نیت طلاق کی نہیں ہے، تو ان سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔

والکنایات لا تطلق بها قضاءً إلا بنیة، أو دلالة الحال (إلی قوله) نحو

اخر جی، واذہبی. (الدر المختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب النکایات،

کراچی ۲۹۶/۳-۲۹۸، زکریا ۴/۵۲۸-۵۲۹)

أن من الکنایات ثلاث عشرة لا یعتبر فیها دلالة الحال ولا تقع إلا

بالنیة: حبلک علی غاربک- اخر جی، اذہبی. (البحر الرائق ۳/۳۰۲-۳۰۳،

زکریا ۳/۵۲۶، کوئٹہ ۲/۵۰۲)

۳ سے ایک طلاق صریح رجعی واقع ہوگی۔

الصریح لا یحتاج إلى النیة. (الأشباہ والنظائر قدیم ۶/۶)

لہذا اگر اس کے بعد ہمبستری ہوگئی ہے، تو رجعت بھی ثابت ہوگئی اور عبادت نمبر ۱۵/۱ یلاء کے لئے الفاظ کنایات میں سے ہے، اگر اس سے یلاء کی نیت کی ہے تو یلاء ثابت ہوگیا۔

وأما تفویض الطلاق، والخلع والإیلاء (إلی قوله) وما كان کنایة اشترطت له. وفي الحموی: وفي الإیلاء لا أبيت معك علی فراش.
(الأشباه والنظائر قدیم مطبع دیوبند ۴۸)

لیکن جب چار مہینے سے قبل ہمبستری کر لی، تو ایلاء ختم ہو کر کفارہ واجب ہو چکا ہے۔
فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة؛ لأن الكفارة موجب الحنث، وسقط الإیلاء. (هدایة، کتاب الطلاق، باب الإیلاء، اشرفی دیوبند ۲/۴۰۱ باب الإیلاء)

لہذا اب شوہر پر ایک کفارہ قسم ادا کرنا واجب ہوگا یعنی دس مسکینوں کو دو وقت تک کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا پہنانا اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے، تو مسلسل تین روز روزہ رکھنا ہے۔

قال الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْفَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. [سورة المائدة: ۸۹]

و کفارتہ تحریر رقبہ، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتہم بما الخ.
(تنویر الأبصار مع الدر المختار، کتاب الأیمان، مطلب کفارة اليمين، زکریا ۵/۳۰۵، کراچی ۳/۷۲۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱/۱۴۷۷ قعدہ ۱۴۰۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۳۳/۳۴۴)

الفاظ کنائی سے طلاق

سوال [۶۴۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ ہم دونوں میاں بیوی میں کچھ کہاسنی ہوگئی، تو غصہ کی حالت میں یہ الفاظ زبان سے دوبار نکل گئے کہ ”میں نے تجھے طلاق دی، تو بیوی کی ماں نے مجھے پکڑا اور ڈانٹ کر بٹھادیا، پھر دوبارہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ چل اپنے گھر جا، تیرا یہاں کوئی کام نہیں، ارے کیوں جاتی کیوں نہیں؟ ان الفاظ سے کوئی طلاق شرعاً واقع ہوئی؟ اور دوبارہ ساتھ رہنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟

المستفتی: نوشاد احمد، محلہ برولان، مراد آباد (پوئی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: میں نے تجھے طلاق دیدی کا لفظ دو مرتبہ استعمال کیا گیا، اس سے دو طلاق رجعی واقع ہوگئی ہیں۔

وقعتا رجعیین لو مدخولاً بہا، كقوله: أنت طالق، أنت طالق.

(در مختار مع الشامی، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۳/۲۰۲)

اور چل اپنے گھر جا اور ارے جاتی کیوں نہیں کے الفاظ سے اگر طلاق کی الگ سے نیت نہیں ہے، بلکہ ڈانٹنا مقصد ہے، تو ان الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی؛ لہذا عدت کے اندر رجعت کر کے رکھنے کی گنجائش ہے۔

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين، فله أن يراجعها في

عدتها (هدایة، کتاب الطلاق، باب الرجعة اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴، ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۰ جدید زکریا ۱/۵۳۳، قدوری امدادیہ دیوبند ۱۷۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳/رجب المرجب ۱۴۲۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۴/۶۲۳۰)

الفاظ کنائی سے طلاق دینا

سوال [۶۴۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: صبح کے وقت زید کا سالانہ اور بھائی دونوں آئے اور مجھ سے کہا کہ ”بھائی قیوم“ نے میری بہن کو چھوڑ دیا، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے چار بچوں کو خبر دی اور چاروں ایک ساتھ قیوم صاحب کے مکان پر گئے اور قیوم سے معلوم کیا کہ تمہارا سالانہ شکیلیں کہہ رہا ہے کہ ”میری بہن کو طلاق دیدی ہے“ کیا یہ صحیح ہے، تو قیوم نے کہا ہاں میں نے طلاق دی ہے، کیسے دی ہے، تو میرے نکاح سے باہر اور تجھے میں نے فارغ خطی دی، میرا مکان خالی کر، یہ سب اس نے اپنے سالے سے کہا اور اب ہم چار بچے کے سامنے بھی کہا اور کہا کہ میرا کوئی دھرم نہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں اور میں عیسائی بننے جا رہا ہوں اور رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گالی بکی، جو بیان کرنے کی میری ہمت نہیں، اسی دوران پنچایت ہوگئی، جس میں فیصلہ ہوا کہ لڑکی عدت کرے اور اس کے بعد حلالہ ہو اور عدت ہو، پھر سے نکاح ہوگا۔ اس دوران قیوم نے فتویٰ منگوایا جس میں اپنی مرضی کا بیان لکھا، جو ہم بچوں کی نظر میں صحیح نہیں ہے اور جس حافظ صاحب نے نکاح پڑھایا ہے، سارے حالات ان کو معلوم ہیں اور پنچایت میں بھی شامل تھے؛ لہذا حافظ صاحب اور گواہوں و وکیل اور نکاح میں شامل حضرات کے لئے خود قیوم کے لئے شریعت کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: عبدالسمیع، گورکھنہ، رام نگر نیننی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: قیوم نے بچوں اور اپنے سالے کے سامنے طلاق دینے کا جو اقرار کیا ہے، اس میں پہلا لفظ یہ ہے کہ ”ہاں میں نے طلاق دی“ یہ پچھلے واقعہ کی خبر ہے، پھر وہ واقعہ اس طرح نقل کر رہا ہے کہ تو میرے نکاح سے باہر، تو میرے نکاح سے باہر ”تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگئی ہے؛ اس لئے کہ الفاظ کنایہ کے تکرار سے تعدد نہیں ہوتا اور فارغ خطی دی کے لفظ سے ایک طلاق رجعی پڑی ہے؛ لیکن یہ بھی بائن کے ساتھ مل کر بائن ہی ہوگئی، تو ان الفاظ کے ذریعہ سے دو طلاق بائن واقع ہو گئیں، اس کے بعد اس نے اپنے دھرم اور مذہب اسلام کا مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گالی کے

الفاظ استعمال کئے جس کے نتیجے میں اس کا ایمان خطرہ میں پڑا اور اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے اور گالی بکنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو گیا؛ اس لئے اس کے اوپر تجدید ایمان اور سچی توبہ لازم ہے، پھر تجدید ایمان اور سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد اس کو اپنی بیوی سے از سر نو نکاح کرنے کی گنجائش ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں؛ اس لئے کہ اس کی بیوی پر تین طلاق واقع نہیں ہوئیں؛ بلکہ دو ہی طلاق واقع ہوئیں اور چونکہ دو طلاق بائن ہوئی ہیں؛ اس لئے اگر تجدید ایمان اور توبہ کے بعد نکاح پڑھا گیا ہے، تو نکاح درست ہے، اس حافظ صاحب اور گواہوں پر کوئی الزام نہیں ہے اور اگر تجدید ایمان سے پہلے نکاح پڑھا گیا ہے، تو اب از سر نو نکاح کرنا ضروری ہے۔

أو قال: لم يبق بيني وبينك نكاح يقع الطلاق إذا نوى. (هندية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق الفصل الخامس في الكنايات، زكريا ۳۷۵/۱ جدید زکریا ۱/۴۴۳)

الصريح يلحق الصريح ويلحق البائن بشرط العدة، والبائن يلحق الصريح لا يلحق البائن البائن. (شامی، زکریا ۴/۵۴۰-۵۴۲، کراچی ۳/۳۰۶-۳۰۸)

إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به، أو سخر باسم من أسماء الله تعالى..... يكفر. (تاتارخانیہ، ۷/۲۸۵، رقم: ۱۰۴۹۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۹ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۹/۱۰۳۸۳)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۹/۴/۱۴۳۲ھ

کیا الفاظ کنائی سے طلاق ہو جاتی ہے؟

سوال [۶۴۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے سب گھر والوں کی موجودگی میں یہ کہا کہ ”چلی جا یہاں سے، نکل جا میں تجھ کو نہیں رکھنے کا، بھاگ جا یہاں سے“ اس قسم کے الفاظ

کہنے سے کیا حکم لاگو ہوتا ہے؟

المستفتی: فصاحت حسین، مدرسہ بدر العلوم، گنگوار، مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: لفظ ”چلی جا، یہاں سے نکل جا، میں تجھے نہیں رکھنے کا، بھاگ جا“ ان تمام الفاظ میں سے کسی سے بھی اگر شوہر کی نیت طلاق کی تھی، تو طلاق بائن واقع ہوگئی، بغیر دوبارہ نکاح کئے ہوئے بیوی حلال نہیں ہو سکتی اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی، تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۲۸۳/۳۸۳)

الکنايات لا تطلق بها قضاء إلا بنية، أو دلالة الحال..... فنحو
اخر جي، واذهي، وقومي. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الطلاق، باب النكيات،
زكريا ۴/۵۲۸، كراچي ۳/۲۹۶)

كل لفظ يستعمل في الطلاق، ويستعمل في غيره نحو قوله أنت
بائن..... قومي، اخرجي، اغربي، انطقي، انقلي..... وإذا احتملت هذه الألفاظ
الطلاق، وغير الطلاق فقد استتر المراد منها عند السامع، فافتقرت إلى النية
لتعيين المراد. (بدائع الصنائع، زكريا ۳/۱۶۷، ۱۶۹) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۳/۵/۱۴۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۳/جمادی الاول ۱۴۱۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۱/۲۰۱۵)

ایک طلاق بائن کی صورت میں دوبارہ نکاح کرنا جائز ہے

سوال [۶۴۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں:
کہ اختر خاں ولد بابو خاں کا نکاح بلیقیس بانو سے ۱۹۸۵ء کو ہوا تھا، بعض وجوہات کی بنا پر
اختر خاں نے ۱۹۹۴ء میں بلیقیس بانو کو ایک طلاق بائن دیدی، اس طلاق نامہ کا عکس اس سوا
نامہ کے ساتھ منسلک ہے۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ اب اختر خاں بلقیس بانو کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کا کیا طریقہ اور حکم ہے، اس طلاق کے بعد بلقیس بانو نے کسی شخص سے نکاح نہیں کیا۔

المسفتی: اختر خاں ولد بابو خاں

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ کے مطابق جب اختر خاں نے اپنی بیوی کو صرف ایک ہی طلاق بائن دی تھی، تو اب طرفین کی رضامندی سے باقاعدہ نکاح کر کے دوبارہ میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنا جائز ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈی ۱۲/۱۲۷۷۳)

عن سماک قال: سمعت عکرمۃ ینقول: الطلاق مرتان: فإمساک بمعروف أو تسریح یا حسان، قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نکحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نکحها، فإذا طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره. (المصنف لابن أبي شیبة، ما قالوا فی الطلاق مرتان مؤسسہ علوم القرآن بیروت ۱۰/۱۹۷، رقم: ۱۹۵۶۴)

وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة، وبعد انقضائها؛ لأن حل المحلّية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله. (هدایة، باب الرجعة ۲/۳۹۹، عالمگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۶، جدیدزکریا ۱/۵۳۵، الحوہرۃ النیرة، امدادیہ ملتان ۲/۲۸، دارالکتب دیوبند ۲/۱۲۲، الفتاویٰ الثاتارخانیہ، زکریا ۵/۴۸، رقم: ۷۵۰۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۱/۲/۱۴۳۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸/صفر المظفر ۱۴۳۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۸/۹۸۹۸)

طلاق بائن کے بعد ساتھ رہنے کی صورت

سوال [۶۴۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے تقریباً دو سال قبل اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی تھی، اس کے بعد اپنی بیوی سے رجعت کر لی تھی، اب ۲۶ اگست ۱۹۹۳ء کو اسٹامپ پیپر پر ٹائپ کرا کر اور دستخط کر کے اپنی بیوی کو طلاق بائن تحریری طور پر دی، زید کی بیوی پر کونسی طلاق واقع ہوئی؟ زید اگر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے، تو کیا صورت ہوگی؟ اور کتنی مدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے؟ کیا زید تجدید نکاح کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیا مہر کی رقم دوبارہ مقرر کرنی ہوگی؟ مندرجہ بالا طلاق کی صورت میں کیا زید کی بیوی پر عدت لازم ہے؟ اور عدت کی مدت کیا ہوگی؟

المسفتی: آفتاب علی، جامع مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق نامہ دیکھ لیا گیا ہے کہ اس میں ایک طلاق بائن کا ثبوت ہے، اور اس سے قبل ایک طلاق رجعی دے چکا تھا؛ اس لئے بیوی پر اب کل دو طلاق بائن واقع ہو چکی ہیں۔ اب اگر دونوں ساتھ رہنا چاہیں، تو باقاعدہ نکاح کر کے رہ سکتے ہیں، حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔

وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة، وبعد

انقضائها. (ہدایۃ باب لرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، ہندیۃ، زکریا قدیم

۴۷۶/۱ حدید زکریا ۱/۵۳۵، تاتاریخانیۃ، زکریا ۵/۴۸، ۱، رقم: ۷۵۰) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ ربیع الاول ۱۴۱۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۹/۳۳۶۶)

دو طلاق سے عدت گزرنے کے بعد تجدید نکاح کا حکم

سوال [۶۴۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو دو طلاق دیں تاکہ وہ بری عادتوں سے باز آجائے اور اپنے نکاح سے نکالنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا، تو اب ان دو طلاق سے عدت گزرنے کے بعد طلاق بائن ہوگئی یا مغلظہ؟ اگر بائن ہوئی، تو تجدید نکاح ضروری ہے یا نہیں؟ تجدید نکاح میں پہلے والے مہر کافی ہوں گے یا دوبارہ مہر متعین ہوں گے؟

المسفتی: عبدالمنان، پورنوی، محکم مدرسہ شامی مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر صرف دو طلاق دے کر بیوی سے الگ رہا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان پھر کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور اس درمیان میں تین ماہواری گزر گئی ہیں، تو عدت پوری ہونے سے پہلے دو طلاق رجعی تھیں اور عدت گزرنے کے بعد وہی دو طلاق بائن ہو گئیں۔ اب اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر بغیر حلالہ کے تجدید نکاح لازم ہے۔

عن سماک قال: سمعت عکرمہ يقول: الطلاق مرتان: فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (المصنف لابن أبي شيبة، ما قالوا في الطلاق مرتان مؤسسة علوم القرآن بيروت ۱۰/۱۹۷، رقم: ۱۹۵۶)

وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة، وبعد انقضائها. (هداية، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، اشرفي ديوبند ۲/۳۹۹، ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۷۶-۴ جدید زکریا ۱/۵۳۵، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۱۴۸، رقم: ۷۵۰)

تجدید نکاح میں مہر لازم ہے، مہر کی جس مقدار پر میاں بیوی راضی ہو جائیں وہی کافی ہے۔
(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم، ۲۶۶/۸، ۲۸۲/۸)

أو تزوج ثانياً في العدة. وفي الشامية: فيما لو طلقها بائناً بعد الدخول،
ثم تزوجها في العدة وجب كمال المهر الثاني بدون الخلوة والدخول.
(در مختار مع الشامی، باب المهر، کراچی ۱۰۲/۳، زکریا ۲۳۳/۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۴ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۷/۵۵۵۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۸/۵/۱۴۲۴ھ

طلاق رجعی بعد عدت بائن بن جاتی ہے

سوال [۶۴۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور اس کی بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا، بیوی شوہر سے یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں تمہارے پاس نہیں رہوں گی، اس واقعہ کے بعد ایک شخص نے زید سے اس کی بیوی کے بارے میں کہا کہ تمہاری بیوی تمہارے گھر سے چلی گئی اور ایسے ویسے کہہ رہی ہے، تو زید نے اس آدمی سے کہا کہ ”میں نے اسے طلاق دے کر نکال دیا ہے“ پھر اس واقعہ کے بعد زید نے کئی آدمیوں سے یہ بات کہی کہ میں نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے، ایسی صورت میں زید کی بیوی پر طلاق واقع ہوگئی یا نہیں اور اگر ہوئی، تو کون سی ہوئی؟ اس واقعہ کو تقریباً آٹھ ماہ کا عرصہ ہو گیا۔

المستفتی: عبداللہ مغل پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: پہلی مرتبہ جو کہا ہے کہ میں نے اسے طلاق دے کر نکال دیا ہے، اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے، عدت کے اندر اندر رجعت کی

گنجائش تھی، اب چونکہ اس وقت سے آٹھ ماہ گذر گئے ہیں، تو اس درمیان عدت بھی پوری ہوگئی ہوگی؛ لہذا اب ایک طلاق بائن کے ساتھ نکاح سے باہر ہوگئی، آئندہ جب چاہے بغیر حلالہ نکاح کر کے رکھنے کی گنجائش ہے اور پہلی مرتبہ کے بعد جتنی بار اسے طلاق دے کر نکالنے کی بات کہی گئی ان الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی؛ اس لئے کہ وہ سب پہلی والی کی خیر ہیں۔

ولو قال لامرأته: أنت طالق، فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: طلقتهما أو قال هي طالق، فهي واحدة في القضاء. (هنديّة، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الاول في الطلاق الصريح، زكريا قديم ۳۵۵/۱ زكريا جديد ۱/۴۲۳)

ولو قال: لامرأته: أنت طالق، فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: طلقتهما، أو قال: قلت: هي طالق، فهي واحدة في القضاء؛ لأن كلامه انصرف إلى الإخبار بقريئة الاستخبار. (بدائع الصنائع، زكريا ۱۶۳/۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۷/۱ ذی قعدہ ۱۴۲۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۶/۷۸۵۴)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۸/۱۱/۱۴۲۳ھ

اشارہ کنایہ وغیرہ کے ذریعہ سے بھی بیوی کی طرف طلاق کی نسبت نہ ہو تو؟

سوال [۶۴۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیچی کا عقیقہ کیا، اس تقریب سے فراغت کے بعد لڑکے کی ماں نے اپنے بیٹے سے خرچ کے بارے میں تنازع کیا اور لڑکا غصہ میں گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، لڑکے کے احباب نے اس کو روک لیا، اس پر لڑکے نے طلاق طلاق بول دیا، اس وقت بیوی موجود نہیں تھی اور لڑکے کا بیوی سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اور لڑکا کہتا ہے کہ بیوی کا اس

وقت میرے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا تھا، اس صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

المستفتی: محمداخلاق

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مذکورہ میں جب شوہر نے بیوی کا نہ نام لیا، نہ ہی اس کا خیال ذہن میں تھا، نہ تو بیوی کی کوئی صفت بیان کی، نہ ہی اس کی جانب اشارہ کیا، تو لڑکے کا قول قسم کے ساتھ قبول کیا جائے گا اور بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی۔ (مستفاد: محمودیہ ڈائجسٹ ۱۲/۲۷، میرٹھ ۱۸/۹۰)

رجل قال: امرأة طالق، أو قال: طلقت امرأة ثلاثاً، وقال: لم أعن به امرأتي يصدق. (بخانية على الهندية، زكريا قديم ۱/۶۵-۴ جدید زکریا ۱/۲۸۲، بخانية اتحاد ۱/۲۸۲)

طلقت امرأة أو قال: امرأة طالق، ثم قال: لم أعن امرأتي يصدق في قوله. (تاتارخانية، ۱۲/۴۲۱، رقم: ۶۵۷۹، شامی، زکریا ۴/۴۵۸، کراچی ۳/۲۴۸) والقول له بيمينه في عدم النية. (شامی، زکریا ۴/۵۳۳، کراچی ۳/۳۰۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ رزی الحج ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۱۳۲۹)

لفظ ٹھیک نہ صریح ہے، نہ کنایہ

سوال [۶۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بھانجی شبنم کا نکاح مسملی تاج الدین ساکن موانہ سے ماہ اگست ۱۹۸۶ء میں ہوا، رخصت کے بعد شبنم تاج الدین کے گھر تین رات ٹھہری، اس دوران میں کوئی ہمبستری نہیں ہوئی، جیسا کہ لڑکی نے اپنی ماں سے بتایا اور لڑکے والوں میں اس پر نزاع ہوا، لڑکا کہتا ہے

کہ لڑکی نے اپنی طبیعت خراب بنا کر اسے موقع ہی نہیں دیا، بعد میں لڑکی والوں اور لڑکے والوں میں باہمی فیصلہ کی بات ہوئی، اس موقع پر لڑکے والے لڑکی کو طلاق دینے اور اپنا سامان واپسی کے لئے تیار ہو گئے، مگر لڑکے نے کہا کہ میں اس صورت میں لڑکی کو طلاق دینے کے لئے تیار ہوں، جبکہ لڑکی طلاق مانگتی ہو، اس پر لڑکا ہمراہ معزز گواہ کے لڑکی کے پاس گیا، تو لڑکی نے لڑکے سے کہا کہ مجھے طلاق چاہئے، اس پر لڑکے کا جواب تھا کہ ٹھیک ہے، اور اس نے واضح الفاظ میں طلاق نہیں دی، ان حالات میں طلاق فریقین میں ہوئی یا نہیں؟ کیا ایسی صورت میں شوہر کو مہلت دی جائے گی یا نہیں؟

المستفتی: محمد شتیق

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مذکورہ میں طلاق واقع نہیں ہوئی، دونوں کا نکاح قائم ہے؛ اس لئے کہ ”ٹھیک ہے“ کا لفظ نہ طلاق کے لئے صریح لفظ ہے اور نہ ہی الفاظ کنایات میں سے ہے، اور جب شوہر نے یہ کہہ دیا کہ اس کو موقع ہی نہیں دیا ہے، تو شرعاً لازم ہے کہ لڑکی کو لڑکے کے حوالہ کر دیا جائے، پھر اگر مرد کا نامرد ہونا ثابت ہو جائے تو قاضی حاکم مسلم اس کو مزید ایک سال کا موقع دے، جس میں لڑکی شوہر کے پاس رہے گی، ایک سال کا موقع دئے بغیر اگر تفریق کر دیں گے، تو شرعاً فیصلہ صحیح نہیں ہوگا۔

إذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضي وادعت أنه عين فطلبت الفرقة، فإن القاضي يستلهم هل وصل إليها أو لم يصل فإن أقر أنه لم يصل أجله سنة سواء كانت المرأة بكراً، أو ثيباً. (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الطلاق، الباب الثاني عشر في العين، زکریا قدیم ۱/۵۲۲ جدید زکریا ۱/۵۷۶، فتاویٰ قاضی خان علی الہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۱۰، جدید مکتبہ زکریا ۱/۲۴۵-۲۴۶، مجمع الأنہر شرح ملتقی الأبحر قدیم ۱/۶۹، جدید دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۱۳۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۷ رزی الحجہ ۱۴۰۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۲۱۴)

”تو مجھ پر حرام ہے“ کے لفظ سے طلاق صریح بائن

سوال [۶۴۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ سے کہا ”اگر تو عمر کے سامنے آئی تو تو میرے لئے حرام ہے، اس کے بعد وہ عمر کے سامنے آگئی، تو ایسی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد روشن

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب ہندہ عمر کے سامنے آگئی، تو شرط کے پائے جانے کی وجہ سے ایک طلاق بائن واقع ہوگئی اور ہندہ زید پر حرام ہوگئی اور لفظ حرام سے طلاق صریح بائن واقع ہو جاتی ہے اس میں طلاق کی نیت کی بھی ضرورت نہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۵۲۷/۱۲، میرٹھ ۳۲/۱۹)

أنت علي حرام، والفتوى أنه يقع به البائن، وإن لم ينو لغلبة الاستعمال. (تاتارخانية، ۴/۴۸، رقم: ۶۶۳۷)

لو قال لها: أنت علي حرام، والحرام عنده طلاق وقع وإن لم ينو. (البحر الرائق، زكريا ۳/۵۲۳، كوئثه ۳/۳۰۰)

أفتى المتأخرون في ”أنت علي حرام“ بأنه طلاق بائن للعرف بلا نية. (شامي، كراچی ۳/۲۵۳، زكريا ۴/۶۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۹ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۰/۱۱۳۸)

شوہر نے کہا کہ، میں تیرا شوہر نہیں ہوں، تو طلاق ہوگی یا نہیں؟

سوال [۶۴۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ زید نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اگر تو اپنے والدین سے ملتی ہے، تو میں تیرا شوہر نہیں ہوں، سوال یہ ہے کہ ”یہ کہنے سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو صریح یا کنائی؟

المستفتی: محمد شہزاد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر زید نے اپنے قول ”میں تیرا شوہر نہیں“ سے طلاق کی نیت کی ہے، تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی، تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔

قال لها: ما أنا بزوجك، فإن قال أردت به الكذب يصدق في الرضاء والغضب جميعاً ولا يقع الطلاق، وإن قال: نويت الطلاق يقع في قول أبي حنيفة. (هنديّة، زكريا ۱/۳۷۵ جديّد ۱/۴۴۳، المحيط البرهاني، كوئٹہ ۳/۳۸۲، بيروت ۴/۴۳۴، رقم: ۴۷۷۱)

ولو قالت لزوجها: لست لي بزوج، فقال: صدقت، قال الشيخ أبو نصر أخاف أن يقع عند أبي حنيفة كما في قوله: ما أنا بزوجك ونوى به. (التاتارخانية، ۴/۶۶۸، رقم: ۶۶۸۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۸ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۱۳۸۶)

”نہیں رکھوں گا“ اور نکل جا“ کہنے کا حکم

سوال [۶۴۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید باہر سے گھر میں آیا بیوی سے کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، زید نے اپنی بیوی کو مارا اس پر بیوی نے زید کو ناشائستہ الفاظ کہے، جس کے جواب میں زید نے بیوی کو کہا کہ جب تو نے یہ حرکت کی ہے، تو میں تجھ کو رکھوں گا نہیں، بیوی نے کہا کہ نہیں رکھو گے، تو زید نے کہا

کہ نہیں رکھوں گا، تیری بدتمیزی مجھے برداشت نہیں، نہیں رکھوں گا نکل جا، پھر اس نے امام مسجد کے سامنے توبہ کی کہ اب ایسے الفاظ نہیں کہوں گا، معاف کر دو میں نے کہا کہ میں فتویٰ لے کر جواب دوں گا، اور میری نیت ان الفاظ سے صرف ڈرانے اور دھمکانے کی تھی، اب میرے لئے شرعاً کیا حکم ہے تحریر فرمائیں۔ بینواتو جروا۔

المستفتی: شوقین شاہ، کبیر پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ”نہیں رکھوں گا“ صیغہ استقبال ہے اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ”نکل جا“ الفاظ کنایات میں سے ہے، جس میں طلاق واقع ہونے کے لئے نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور سوال نامہ میں شوہر کی طرف سے صراحت موجود ہے کہ اس نے طلاق کی نیت نہیں کی ہے؛ اس لئے مذکورہ صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔

الکنايات لا تطلق بها إلا بنية، أو دلالة الحال، فنحو اخروجي،

واذھبي، وقومي. (تسوير الأبصار مع الدر المختار والشامي، كراچي ۲/۳، ۲۹۷، زکریا

۵۲۸/۴، وكذا في البدائع، زکریا ۳/۱۶۷-۱۶۹، وكذا في البحر الرائق، زکریا ۳/۲۶، ۵،

کوئٹہ ۳/۲۰۳-۳۰۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۵/زی قعدہ ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۳/۹۶۸)

”اگر میں نے تم کو روکا، تو بہن بنا کر رکھوں“ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۴۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ ایک لڑکے نے غصہ میں آکر ایک دو بار اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ اگر میں آپ کو رکھوں تو بہن بنا کر رکھوں، اس پر یہ لڑکا بہت پریشان ہے اور کہہ کر اپنی غلطی کو حد سے زیادہ محسوس کر

”اگر میں تیرے پاس جاؤں تو یہ ایسا ہے جیسا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس آیا“

سوال [۶۳۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میاں اور بیوی کے مابین سخت نزاع اور جھگڑا ہونے کی وجہ سے شوہر یہ قسم کھالے کہ اگر میں تیرے پاس جاؤں (ہمسٹری کے لئے) تو ایسا ہے، جیسا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس آیا، تو ایسی صورت میں کیا شوہر کے لئے بیوی حرام ہو جائے گی اگر اس سے ہمستری کر لے؟

المستفتی: محمد مشیر، محلہ اسعد پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ صورت میں اگر شوہر نے طلاق کی نیت کی ہے، تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی، عدت کے اندر یا عدت کے بعد نکاح کر کے بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے اور اگر ظہار کی نیت کی ہے، تو ظہار ہو گیا ہے، جب تک کفارہ ادا نہ کرے گا، بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا، کفارہ پے در پے ساٹھ روزہ رکھنا ہے، اگر اس کی طاقت نہ ہو، تو ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔

وإن نوى بأنت علي مثل أمي، أو كأمي برأ، أو ظهاراً، أو طلاقاً، صحت نيته ووقع مانواه لأنه كناية. (الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الظهار، كراچی ۳/۴۷۰، زکریا ۵/۱۳۱، کوئٹہ ۲/۶۲۶)

وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة، وبعد انقضائها. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۶-جدید زکریا ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَمُ تَوْعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَطَاعَامُ

سِتِّينَ مِسْكِينًا. [سورة المجادلة: ۳-۴] فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ شوال المکرم ۱۴۰۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۳/۹۳۵)

تجھے طلاق دی اور دوسری مرتبہ کہا، تو میرے نکاح سے باہر ہوگئی کا حکم

سوال [۶۴۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اپنی بیوی ستارہ خاتون کو اس کے لڑکی ہونے کے تیس دن کے بعد آپسی کچھ فساد کی وجہ سے یعقوب حسین نے اپنی بیوی کو دو بار اس طرح طلاق دی کہ پہلی بار کہا ”میں نے تجھے طلاق دی اور دوسری بار کہا کہ تو میرے نکاح سے باہر ہوگئی، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ وہ اپنے کئے پر بڑا پشیمان ہے؛ لہذا شریعت کیا حکم دیتی ہے۔

المستفتی: محمد دانش

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: صورت مسئلہ میں بیوی پر دو طلاق بائن واقع ہوں گی اس لئے کہ اس میں ایک طلاق صریح ہے اور دوسری طلاق بائن ہے، اور جب صریح بائن سے مل جاتی ہے، تو دو طلاق بائن ہو جاتی ہیں۔

إذا لحق الصریح البائن کان بائناً. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنايات،

زکریا ۴/۵۴۰، کراچی ۳/۳۰۶، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۷۳۰)

اور بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لئے دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں اور آئندہ نہایت احتیاط کریں؛ اس لئے کہ اگر کبھی بھی ایک طلاق دیں گے، تو طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۵ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۶۵۴۰)

”آپ کی لڑکی مجھے نہیں بھری جانے کی“ سے طلاق

سوال [۶۴۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی جس کا نام چاندنی بانو ہے، اس کا نکاح چندا کے ساتھ ہوا، اب لڑکی اپنی ماں کے مرنے سے آٹھ روز پہلے آئی، جس کو آج تقریباً ایک سال دو دن ہو چکے ہیں، اس کا شوہر بھی اپنی ساس کے مرنے میں آیا تھا، پھر تقریباً ایک ۲ روز کے بعد وہ اپنی بیوی کو لینے آیا تھا، تو گھر پر کچھ مہمان تھے، جس کی وجہ سے اس سے یہ کہا گیا کہ تو پھر لے جانا یا ہم پہونچا دیں گے، اس کے بعد وہ لینے کے لئے نہیں آیا، تو اس کو لڑکی کے باپ نے پہونچا دیا؛ لیکن جیسے ہی لڑکی لڑکے کے گھر پہونچی بڑکے کے خسر نے کہا کہ ہم آپ کے بچوں کو لے آئے، آپ تو لینے کے لئے نہیں گئے، تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ آپ کی لڑکی مجھے نہیں بھری جانے کی، یہ الفاظ تین مرتبہ کہے جب اس نے یہ الفاظ تین مرتبہ کہے تھے، تو اس ٹائم دو آدمی ایک عورت موجود تھے، اس کے بعد وہ لڑکاملتا اس سے اس کے خسر نے کہا کہ آپ اس لڑکی کو آزاد کر دو، جب نہیں لے جانا چاہتے، تو اس نے کہا کہ ”میں اپنے منہ سے تو آزاد نہیں کروں گا“، اگر آپ کو ضرورت ہے، تو عدالت سے کر لیجئے، تو عدالت کے اندر کارروائی کر دی، اس کے بعد دو شخص اس کے پاس پہونچائے، تو اس نے ان کو بھی نہیں لیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں کرایا سرکاری طرف سے بھی، ان الفاظ کو سن کر لڑکی اب جانے کے لئے منع کر رہی ہے۔

دیگر بات یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہو گئی تھیں یعنی اس لڑکے نے بالکل ہی منع کر دیا تھا، اس کے بعد جو عرصہ گذرا ایک سال دو روز کا اس کے اندر بھی اس لڑکے نے کوئی خبر نہیں لی، اب لڑکی کے بیانات یہ ہیں کہ اب اگر وہ لینے کے لئے آئے، تو میں کسی بھی طریقہ سے جانے کے لئے تیار نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ماحول بہت زیادہ گندہ ہے، اور پھر لڑکے نے

ہی بالکل انکار کر دیا ہے کہ مجھے آپ کی لڑکی نہیں بھری جانے کی یہ الفاظ تین مرتبہ کہے، دیگر بات یہ ہے کہ ”اب ہمیں صرف آزادی چاہئے، نہ تو مہر چاہئے، نہ ہی کوئی سامان صرف ہماری لڑکی کو آزاد کر دے“

المسفتی: محمد صادق، اسلام نگر، کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مجھے نہیں بھری جانے کی صیغہ مستقبل الفاظ کنایہ میں سے ہے، نیز یہ کہنا کہ میں آزادیوں کروں گا، عدم نیت طلاق کی دلیل ہے؛ اس لئے طلاق واقع نہیں ہوئی، اگر لڑکی آزادی چاہتی ہے، تو اپنا معاملہ شرعی پنچایت میں پیش کرے، شرعی پنچایت الحلیۃ النازحہ میں درج شدہ احکام کے مطابق فیصلہ کر دیگی۔

بخلاف کنم لأنه استقبال فلم یکن تحقیقاً بالتشکیک..... ولو قال

بالعریۃ أطلق لا یکون طلاقاً. (ہندیۃ، زکریا قدیم ۱/۳۸۴، زکریا جدید ۱/۴۵۲)

فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۶۴۴)

آپس میں کوئی رشتہ نہیں کہنے کا حکم

سوال [۶۴۲۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دوران جھگڑا عبد اللہ نے کہا کہ ”آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، جو منہ میں آئے بولے جارہی ہے“ یہ خط کشیدہ الفاظ ڈالنے سے ہوئے عبد اللہ نے کہا مطلب یہ تھا کہ ہمارے تمہارے درمیان میں ایک رشتہ ہے اس کا خیال کیوں نہیں کر رہی ہے جو زبان پہ آ رہا ہے بولے جارہی ہے، حضرت مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ خط کشیدہ

الفاظ سے طلاق پڑگئی یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں مہربانی ہوگی۔

المستفتی: محمد انس، پاکپڑہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ہمارا تمہارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں، جو منہ میں آئے بولے جارہی ہے، ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوئی؛ کیونکہ یہ الفاظ کنائی ہیں، اور الفاظ کنائی سے وقوع طلاق کے لئے نیت کرنا شرط ہے اور یہاں واضح کیا گیا ہے کہ شوہر نے ان الفاظ کے ذریعہ طلاق کی کوئی نیت نہیں کی ہے؛ بلکہ بیوی کو تنبیہ کی گئی ہے، جو رشتہ میرے اور تمہارے درمیان قائم ہے، تو نے اس رشتہ کا بھی لحاظ نہیں کیا اور جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی؛ لہذا میاں بیوی کے درمیان نکاح بدستور باقی ہے۔

لو قال لها: لا نکاح بینی و بینک، أو قال: لم یبق بینی و بینک نکاح یقع الطلاق إذا نوى. (ہندیہ، کتاب الطلاق، الفصل الخامس فی الکنایات، زکریا قدیم ۱/۳۷۵ جلدیلز کریا ۱/۴۳، قاضی خاں علی الہندیہ، زکریا قدیم ۱/۶۸، قدیم، جدید مکتبہ زکریا ۱/۲۸۴، بزازہ علی الہندیہ، زکریا ۴/۱۹۴، جدید مکتبہ زکریا ۲/۱۲۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ شوال المکرم ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۴۱/۱۱۶۶۸)

لفظ البتہ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۴۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا صحیح مسلم ۴/۴۷۷ پر حضرت رکانہ نے بیک وقت تین طلاقیں دی تھی، اور اللہ کے رسول نے اسے رجعی قرار دیا تھا، اگر ۴/۴۷۷ پر موجود ہے، تو برائے کرم مفصل جواب تحریر فرمائیں کرم ہوگا۔

المستفتی: مولوی عصمت، جنرل مرچنٹ، نئی بازار محمود آباد سیتاپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود نہیں ہے؛ بلکہ حضرت رکانہ کا خود بیان ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی تھی اور البتہ کا لفظ ایک طلاق اور تین طلاق دونوں کے لئے مستعمل ہے اور طلاق البتہ میں نیت کا اعتبار ہے، اگر ایک کی نیت کی جائے، تو ایک طلاق واقع ہوتی ہے، اور اگر تین کی نیت کی ہے، تو تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں؛ چنانچہ جب حضرت رکانہؓ نے حضور ﷺ کے سامنے بیان دیا تو حضور ﷺ نے معلوم فرمایا کہ تم نے البتہ سے کتنی طلاق کی نیت کی ہے، تو حلیہ بیان دیا کہ صرف ایک طلاق کی نیت کی تھی، تو حضور ﷺ نے رجعی قرار دے کر رجعت کا حق دیا تھا، جو لوگ تین طلاق بتلاتے ہیں وہ حضرت رکانہ پر الزام لگاتے ہیں۔

إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (أبو داود شريف، كتاب الطلاق، باب في لبتة، النسخة الهندية، ۱/ ۳۰، دار السلام رقم: ۲۲۰۶، ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب الطلاق البتة، النسخة الهندية ۱۴۸، ۱، دار السلام رقم: ۲۰۵۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳۰ ربیع الاول ۱۴ھ

(فتاویٰ نمبر: الف ۲۵/۱۷۷)

اپنے گھر چلی جاؤ سے طلاق

سوال [۶۴۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو گھریلو اخراجات کے سلسلہ میں بار بار کہنے پر کہ

میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، آپ سے میرا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، مجبور کرنے پر شوہر نے کہا کہ ”چلی جاؤ، اپنے گھر چلی جاؤ، میں نے طلاق دی“ صرف ایک بار کہہ دیا، یہ بات کبھی نہ اس سے پہلے کہی تھی اور نہ ہی ارادہ تھا؛ کیونکہ میرے تین لڑکے اسکول میں پڑھتے ہیں، جن کا کل اخراجات اچھے طریقے سے ادا کرتا چلا آ رہا ہوں، کچھ ہوا دینے والوں نے لڑکی کی طرف جا کر بات کو پڑھا وادے دیا۔ اب پتہ چلا کہ تین مہینہ دس دن آج پورے ہونے جارہے ہیں، وہاں عدت ہو رہی ہے، دوڑ بھاگ کرنے پر اور سسرال والوں سے بات چیت کرنے پر معلوم ہوا کہ صحیح حالات لکھ کر فتویٰ لے لوں، لڑکی اور لڑکے والے دونوں بخوشی آنے پر رضامند ہیں؛ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ قانون محمدی کے مطابق اس مسئلہ میں غور و خوض کر کے صحیح جواب ملنا چاہئے۔

مندرجہ بالا سوال کے تحت طلاق ہوئی یا نہیں؟ میں خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر صحیح بیان دے رہا ہوں، اس کا سارا بار بوجھ مجھ پر ہی رہے گا۔ فقط والسلام۔

المستفتی: شہزاد خاں، چماروں کی پلہیہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شوہر نے دو الفاظ استعمال کئے۔

(۱) جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ۔

(۲) میں نے طلاق دی، لفظ اول سے طلاق کی نیت کی تو اس سے طلاق بائن واقع ہوگئی۔

مثل اذہبی فیحتاج الی النیة (الی قولہ) وإن نوى فہی واحدة بائنة.

(شامی، کتاب الطلاق، باب نفیض الطلاق، کراچی ۳/۳۱۴، زکریا ۴/۵۰۱)

لفظ ثانی سے دوسری طلاق واقع ہوگئی، دو طلاق بائن واقع ہو گئیں؛ لہذا اس صورت میں بلا حلالہ کے دوبارہ نکاح درست ہے۔

والبائن یلحق الصریح. (الدر المختار، باب الکنایات، کراچی ۳/۳۰۶،

زکریا ۴/۵۴۰، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۳۰۷، زکریا ۳/۵۳۳)

وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة، وبعد انقضائها. (ہندیہ، زکریا ۱/۷۲۴ جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

اور اگر لفظ اول سے طلاق کی نیت نہیں کی تھی، تو لفظ ثانی سے صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے، عدت کے اندر اندر رجعت کر سکتا ہے۔

کطلقتک وأنت طالق، ومطلقة يقع بها واحدة رجعية. (تتویر الأبصار مع الدر المختار، باب الصریح، زکریا ۴/۴۵۷، کراچی ۳/۲۴۷-۲۴۹) إذا طلق الرجل امرأته تطليقةً رجعيةً، أو تطليقتين، فله أن يراجعها في العدة. (ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴)

حیض آنے والی عورت کے لئے عدت پورے تین حیض گزرنے تک ہے۔

قال الله تعالى: وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. [البقرہ: ۲۲۸] وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً، أو رجعياً، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقرءاء. (ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۴۲۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
المحرر المحرم ۱۴۰۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۳/۴۲۳)

”تو اپنے باپ کے گھر چلی جا“ سے طلاق

سوال [۶۴۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میاں بیوی میں کسی وجہ سے لڑائی ہوگئی، تو میاں نے غصہ میں آکر اپنی بیوی کو یہ لفظ کہا کہ تو اپنے باپ کے گھر چلی جا اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے، تو اس سے کیا طلاق مراد لی جائے گی یا نہیں، اگر لی جائے گی تو کونسی طلاق؟

المستفتی: محمد بلال احمد، معلم جامع الہدیٰ گلشہید، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جھگڑے کے وقت شوہر کا بیوی سے کہنا کہ ”تو اپنے باپ کے گھر چلی جا“ یہ جملہ کنایات طلاق میں سے ہے، ان میں نیت سے طلاق ہوتی ہے؛ لہذا جب یہ جملہ کہتے وقت شوہر کی نیت طلاق کی نہیں تھی، تو اس کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳۰۴/۹)

فالکنايات لا تطلق بها إلا بنية، أو دلالة الحال..... فنحو اخرجي، واذهبي، وقومي. (در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الکنايات، کراچی ۲۹۶/۳، زکریا ۵۲۸/۴، ۵۲۹/۴، البحر الرائق، زکریا ۵۲۶/۳، کوئٹہ ۳۰۲/۳، ہدایہ اشرفی دیوبند ۳۷۴/۲، ہندیہ، زکریا ۴۴۲/۱، زکریا جدید دیوبند ۳۷۴/۱، حانیہ علی ہندیہ، زکریا ۴۶۸/۱ جدید زکریا دیوبند ۲۸۴/۱ سیٹ ۷) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۵/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۶۷۹۶)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۶/۲۷ھ

جواب دیا کا لفظ کنائی ہے یا صریح

سوال [۶۴۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد اسلم نے اب سے دس سال پہلے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ ”میں نے تجھے ایک جواب دیا“ اس کے بعد اس نے دس سال کے بعد برسر محفل بیوی کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ ”میں نے تجھے ایک جواب دیا دو جواب دیئے اور ایک جواب ابھی تیرا باقی ہے“ مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ مذکورہ صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ واضح فرما کر عند اللہ ممنون و مشکور ہوں۔

المستفتی: قاری شبیر احمد صاحب، ساکن پھلکا، کٹیہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جواب دیا کا لفظ طلاق کے لئے وضع نہیں کیا گیا ہے؛ بلکہ اس کو کسی بھی سوالیہ گفتگو کے مقابلہ میں بولنے کے لئے وضع کیا گیا ہے؛ اس لئے یہ لفظ اپنی حقیقت اور محاورہ کے اعتبار سے طلاق کے لئے نہیں بولا جاتا؛ لہذا یہ لفظ جب طلاق کے لئے بولا جائے، تو اس سے طلاق صریح رجعی واقع نہیں ہوگی؛ بلکہ ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور الفاظ کنائی متعدد بار بولے جائیں، تو ان سے متعدد طلاق واقع نہیں ہوتیں؛ بلکہ ایک ہی طلاق بائن واقع ہوتی ہے؛ اس لئے لفظ ”جواب دیا“ سے ایک ہی طلاق بائن واقع ہوگی؛ البتہ حالت غضب اور مذاکرہ طلاق میں اس لفظ سے طلاق واقع ہونے کے لئے نیت لازم نہیں ہے، یہی حکم حضرت تھانویؒ نے امداد الفتاویٰ ۲/۴۴۴ میں تحریر فرمایا ہے اور مولانا ظفر احمد تھانویؒ نے امداد الاحکام ۴/۱۹۴ میں، حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہیؒ نے فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۱۱/۵۷۹ میں اور فتاویٰ دارالعلوم ۹/۴۲۶ میں وہی سوال و جواب ہے، جو امداد الفتاویٰ اور فتاویٰ محمودیہ میں ہے کہ لفظ ”جواب دیا“ عرف میں صرف طلاق کے لئے مستعمل نہیں ہے؛ اس لئے اس سے طلاق بائن صریح واقع نہیں ہوگی؛ بلکہ طلاق بائن ہی واقع ہوگی، یہی اصل حکم ہے؛ کیونکہ ہمارے عرف میں لفظ ”جواب دیدیا“ صرف طلاق کے لئے مستعمل نہیں ہے، مگر فتاویٰ دارالعلوم ۹/۲۱۶ میں صوبہ سندھ سے آیا ہوا، ایک سوال ہے، جس میں مستفتی نے سندھ کے محاورہ میں لفظ ”جواب دیدیا“ سے طلاق صریح رجعی واقع ہونے کو لکھا ہے، مگر غیر مدخولہ ہونے کے وجہ سے اس سے ایک طلاق بائن ہونے کو بھی لکھا ہے اور مفتی رشید احمد صاحبؒ نے احسن الفتاویٰ ۵/۱۹۲ میں جواب دیدیا کے لفظ کو عرف میں طلاق کے لئے مستعمل قرار دے کر طلاق رجعی واقع ہونے کو لکھا ہے اور یہ جواب مفتی رشید احمد صاحب نے صوبہ سندھ کی دارالحکومت کراچی میں رہ کر تحریر فرمایا ہے، ممکن ہے کہ صوبہ سندھ میں یہ لفظ صرف طلاق ہی کے لئے مستعمل ہوتا ہو، اگر ایسا ہے تو صوبہ سندھ میں اس لفظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی اور مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے قاموس

الفقہ ۳۴۲/۴، میں لفظ ”جواب دیدیا“ کو لفظ ”فارغ خطی“ کی طرح محاورہ میں طلاق ہی کے لئے مستعمل ہونے کو لکھا ہے کہ لفظ جواب دیدیا بھی طلاق کے لئے مستعمل ہے؛ اس لئے اس سے بھی طلاق رجعی واقع ہوگی اور صوبہ بہار کے دوسرے بعض لوگوں نے بھی بتلایا کہ بہار میں لفظ ”جواب دیا“ صرف طلاق ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے، مگر دارالافتاء امام شریعہ پھلواری شریف پٹنہ بہار سے ۲۴/جمادی الثانیہ ۱۴۰۶ھ کو ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے، اس میں چار مرتبہ ”لو جواب“ کے سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے کہ شخص مذکور کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہوں تو دوبارہ نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، خواہ عدت کے اندر ہو یا بعد عدت کے فتاویٰ محمودیہ ڈیڑھ اگست ۱۳/۷/۵۷ میں یہ فتویٰ پورے سوال کے ساتھ موجود ہے؛ اس لئے صوبہ بہار کے بارے میں بھی تردد ہو گیا؛ لہذا اگر واقعی بہار کے محاورہ میں صرف طلاق ہی کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں وہاں پر اس لفظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی اور مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی چونکہ بہار ہی کے رہنے والے ہیں اور وہ بہار کے محاورہ کو زیادہ بہتر جانتے ہیں؛ اس لئے صوبہ بہار میں اس لفظ سے طلاق رجعی واقع ہونا ممکن ہے؛ لیکن ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں ”جواب دیدیا“ کا لفظ ”فارغ خطی“ کے لفظ کی طرح طلاق کے لئے مستعمل نہیں ہے؛ بلکہ دیگر معنوں کے لئے بھی مستعمل ہے؛ کیونکہ بیوی سے کسی بھی دوسرے معاملات کے لین دین اور مطالبہ میں جواباً بیوی کو کہا جاسکتا ہے کہ میں نے تجھے اس بات کا جواب دے دیا ہے، اور بیوی کے اصرار پر شوہر کہتا ہے کہ میں تجھے بار بار جواب دے چکا ہوں، تو اس سے ہرگز طلاق واقع نہیں ہوتی؛ لہذا ہندوستان کے دیگر صوبوں میں یہ لفظ صرف طلاق کے لئے مستعمل نہیں ہے؛ بلکہ دوسرے مفہوم کے لئے بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے؛ اس لئے حضرت تھانویؒ، حضرت مولانا ظفر احمد تھانویؒ، مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی اور حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب ان سب حضرات نے اس کو الفاظ کنائی میں شامل فرمایا ہے۔ اب اس گفتگو کے بعد زیر نظر سوال پر غور کرنا ہے۔

یہ سوال بہار سے آیا ہوا ہے، ہم اس لفظ کو الفاظ کنائی میں سے جانتے ہیں، مگر صوبہ بہار میں اس لفظ کو طلاق صریح کنائی میں شامل کرنے میں تردد ہو گیا ہے؛ اس لئے ”جواب دیدیا“ کہنے کے بعد دس سال تک جو دونوں ساتھ رہے ہیں، اس کو حرام کاری پر حتمی طور پر محمول نہیں کیا جاسکتا؛ بلکہ اس سلسلہ میں تردد پیدا ہو چکا ہے، اگر وہاں کے محاورہ میں صرف طلاق کے لئے مستعمل ہے، تو اس سے طلاق صریح رجعی واقع ہوگئی ہے اور بیوی کو ساتھ رکھنے کی گنجائش ہے؛ لہذا اس دوران میاں بیوی کا ساتھ رہنا حلال ہو گیا ہے اور اولاد ثابت النسب ہے اور اس کا دس سال کے بعد یہ کہنا کہ ایک جواب پہلے دیا اور دوسرا جواب اب دے رہا ہوں اور ایک جواب آئندہ کے لئے باقی ہے، تو ایسی صورت میں دس سال کے بعد دوسری طلاق واقع ہوگئی ہے اور وہ بھی طلاق رجعی ہوگی اور اب بھی رجعت کر کے رکھنے کی گنجائش ہے۔

وقد مر أن الصريح ما لم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت.

(شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، زکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۳۹۹)

الأصل في هذا النوع من الألفاظ كل لفظ من الفارسية يستعمل في الطلاق، ولا يستعمل في غيره فهو كصريح الطلاق بالعربية، وإن كانت اللفظة مستعملة في الطلاق وغيره، فهو بمنزلة کنایات بالعربية (وقوله) وأنه صريح عند أبي يوسف كان الواقع به رجعياً، ويقع بدون النية. وفي الخلاصة: وبه أخذ الفقيه أبو الليث. وفي التفريد: وعليه الفتوى.

(الفتاویٰ التاتارخانیہ، ۴/۶۶۳، رقم: ۶۶۷۷، ۶۶۸۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳ محرم الحرام ۱۴۳۶ھ

۱۴۳۶/۱/۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۱۱۸۳۱)

”جواب دیا، جدا کر دیا، میرے گھر سے چلی جا“ کہنا

سوال [۶۴۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، میاں نے اپنی بیوی کو یہ الفاظ دوران جھگڑا کہے کہ ”میں نے تجھ کو جواب دیدیا، تجھ کو جواب دیا، جدا کر دیا، میرے گھر سے چلی جا، نکل جا، ہٹ جا، دور ہو جا، اپنے ماں باپ کے سر جا کے بیٹھ، اپنے گھر جا میرے تیرے درمیان نباہ نہ ہوگا“ اور یہ الفاظ طلاق کی نیت سے کہے تھے، اور پندرہ بیس دن کے بعد میاں بیوی کے درمیان رضامندی ہو گئی اور بغیر نکاح کے آپس میں رہنے لگے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہوئی تھی یا نہیں اور ساتھ ساتھ رہنے کے لئے نکاح کرنا ضروری ہے یا حلالہ بھی کرنا پڑے گا؟

المستفتی: عبد الجلیل، مدرسہ امدادیہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: لفظ ”جواب دیدیا“ دو مرتبہ کہا ہے اور جدا کر دیا اور گھر سے چلی جا، نکل جا، یہ سارے الفاظ طلاق کے لئے کنائی ہیں، اگر نیت کی گئی ہے تو سب سے صرف ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔

ولا يلحق البائن البائن بأن قال لها: أنت بائن، ثم قال لها: أنت بائن لا يقع إلا طلقة واحدة بائنة لأنه لا يمكن جعله خبراً عن الأول وهو صادق، فلا حاجة إلى جعله إن شاء. (هندية، زكريا ۱/۳۷۷، زكريا جديد ديوبند ۱/۴۴۵)

اور لفظ جواب دیدیا کے بارے میں احسن الفتاویٰ ۱۹۲/۵ میں لکھا ہے کہ اس سے طلاق صریح واقع ہوتی ہے اور اس پر کوئی حوالہ پیش نہیں فرمایا، مگر حضرت تھانویؒ نے امداد الفتاویٰ ۴۴۲/۲، امداد الاحکام ۳۳/۳، عزیز الفتاویٰ ۴۹۶، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۱۹/۱۱، جدید ڈابھیل ۱۲/۹۷۵ میں تفصیل کے ساتھ جواب دیدیا کو طلاق کنائی میں شمار فرمایا ہے؛ اس لئے اس لفظ سے طلاق کنائی ہی واقع ہوا کرے گی۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۴ھ

۳/۵/۱۴۱۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۹/۳۳۵)

لفظ جواب سے ایک طلاق بائن

سوال [۶۴۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ کو طلاق کی جگہ لفظ جواب بذریعہ ڈاک لکھ کر روانہ کر دیا اور اس میں لفظ جواب تین جگہ لکھا، جواب سے مراد طلاق کو لیا ہے، ایسی صورت میں ہندہ پر کونسی طلاق ہوئی؟

المسفتی: محمد صلاح الدین، نور پٹہ، سہرہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: لفظ جواب طلاق کے لئے کنایہ ہے، لہذا اس سے طلاق بائن ہی واقع ہو سکتی ہے اور وہ بھی صرف ایک ہی طلاق واقع ہو سکتی ہے؛ لہذا اگر شوہر نے لفظ جواب طلاق کے ارادہ سے تین مرتبہ زبان سے کہا ہے یا تحریر میں لکھا ہے، تو دونوں صورتوں میں ایک طلاق بائن واقع ہوگی؛ کیونکہ طلاق کنائی کے الفاظ مکرر در مکرر بولنے سے متعدد طلاقیں واقع نہیں ہوتیں؛ بلکہ ایک ہی طلاق واقع ہوا کرتی ہے۔ (امداد الفتاویٰ ۴۴۲/۲) میں مفصل جواب موجود ہے۔ (مستفاد: امداد الاحکام ۳۴۳/۳)

ولا يلحق البائن البائن، بأن قال لها: أنت بائن، ثم قال لها: أنت بائن لا يقع إلا طلاق واحدة بائنة؛ لأنه يمكن جعله خبراً عن الأول وهو صادق، فلا حاجة إلى جعله إنشاء (هنديّة، كتاب الطلاق، الفصل الخامس في الكنايات، زكريا ۱/۳۷۷، زكريا جديد ديوبند ۱/۴۴۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۹/۵/۲۰ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۳/۵۷۵۸)

لفظ جواب دیدیا سے ایک طلاق بائن

سوال [۶۴۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میاں بیوی کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، اسی دوران شوہر نے بیوی سے کہا ”میں نے تم کو جواب دیا“ جس علاقہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، وہاں یہ طلاق کے معنی میں بولا جاتا ہے، یہ طلاق صریح ہے یا کنائی یا اس سے کوئی بھی طلاق واقع نہ ہوگی یا طلاق کا مدار شوہر کی نیت پر ہے؟ جو بھی حکم ہو دلائل کی روشنی میں واضح فرمائیں۔

المسفتی: محمد عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جواب دیا کا لفظ عرف میں کننا یہ ہے اور یہ کننا یہ کے اقسام میں سے وہ قسم ہے، جس میں رد اور سب کا احتمال نہیں، اگر شوہر نے یہ لفظ حالت رضا میں کہا ہے، تو طلاق کا مدار شوہر کی نیت پر ہے، بلا نیت کے طلاق واقع نہ ہوگی، دلالت حال یعنی غضب اور مذاکرہ طلاق میں کہنے کی صورت میں ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں۔ (مستفاد: امداد الفتاویٰ ۴۴۲/۲)

لا تطلق بها قضاء إلا بنية، أو دلالة الحال، وهي حالة مذاكرة الطلاق، أو الغضب. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، زکریا ۴/۵۲۸، کراچی ۲۰۹۷/۳، البحر الرائق، زکریا ۳/۵۱۹، کوئٹہ ۳/۲۹۸)

الحاصل أنه لما تعورف به الطلاق صار معناه تحريم الزوجة وتحريمها لا يكون إلا بالبائن، هذا غاية مظهر لي في هذا المقام وعليه فلا حاجة إلى ما أجاب به في البرازية من أن المتعارف به إيقاع البائن، لما علمت مما يرد عليه. (شامی، زکریا ۴/۵۳۱، کراچی ۳/۳۰۰)

أنت علي حرام والفتوى أنه يقع الطلاق البائن وإن لم ينو لغلبة

الاستعمال . (تاتارخانیة، ۴/ ۴۴۸، رقم: ۶۶۳۷، الفتاویٰ الولوالجیة، مکتبہ دارالایمان ۱۵/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۸ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف: ۷۴۷/۱۱۴)

’اگر آپ کی لڑکی دوسری جگہ شادی کے لئے تیار ہے، تو میری طرف سے اجازت ہے“ سے طلاق

سوال [۶۴۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی خالدہ سے بچپن میں ہوئی تھی، اور اب دونوں سن بلوغت تک پہنچ چکے ہیں؛ لیکن ابھی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہیں اور لڑکے کے خسر صاحب نے خط لکھا ہے کہ تمہاری بیوی سن بلوغ تک بہت پہلے پہنچ چکی ہے اور اس کے نان و نفقہ سے تم لا پرواہ ہو، سو تم ہاں یا نہ کا جواب دو، ورنہ پھر میں آگے راستہ دیکھوں گا، زید نے خط کا جواب دیا کہ اگر آپ کی لڑکی دوسری جگہ شادی کرنے کے لئے تیار ہے، تو میری طرف سے اجازت ہے، تو کیا اس جملہ سے طلاق واقع ہوگی؟

المستفتی: محمد مستقیم پورنوی، معلم جامعہ الہدیٰ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زید سے دریافت کیا جائے کہ بیچیریاں کی ہے یا نہیں، اگر اس کی ہے، تو اس سے معلوم کیا جائے کہ اس نے جو دوسری جگہ شادی کی اجازت کی بات کہی ہے، اس سے اس کی مراد کیا ہے؟ طلاق ہے یا ناراضگی کا اظہار؟ اگر وہ کہے طلاق ہے، تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی ہے اور اگر غصہ اور ناراضگی کا اظہار مقصود ہے، اس سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی، اس کا نکاح بدستور باقی ہے، اس کا فیصلہ خود زید کے بیان سے ہو سکتا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲۳۶/۱۱، جدید ڈبھیل ۱۲/۵۳۷)

عن ابراهيم قال: إذا قال لامرأته: اذهبي فانكحي، ليس بشيء، إلا أن يكون نوى طلاقاً، فهي واحدة وهو أحق بها. (مصنف عبد الرزاق، كمال الطلاق، باب اذهبي فانكحي، المجلس العلمي بيروت ۳۶۶/۶، رقم: ۱۱۲۱۴)

ولو قال لها: اذهبي فتزوجي لا يقع الطلاق إلا بالنية. (تاتارخانية، زكريا/ ۴، ۶۱، رقم: ۶۶۷۲)

ولو قال لها: اذهبي فتزوجي تقع واحدة إذا نوى. (هنديہ، زكريا ۳۷۶/۱، جديد زكريا ديوبند ۱/۴۴۴، قاضي خان علي الهنديہ، زكريا ۱/۶۸، جديد زكريا ديوبند ۱/۲۸۴) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۵/۶/۲ھ

کتاب: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲ جمادی الثانیہ ۱۴۱۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۴۰۴)

جا طلاق ہوگئی، اب تو آزاد ہوگئی، جاؤ گھومو، سے طلاق

سوال [۶۴۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے غصہ کی حالت میں یہ الفاظ کہے ”ریشمہ ہم نے تم کو طلاق دی، طلاق دی، جا طلاق ہوگئی“ اب تو آزاد ہوگئی، جاؤ گھومو“ مذکورہ الفاظ سے کونسی طلاق واقع ہوئی؟ بینوا تو جروا۔

المستفتی: محمد توحید، پرتا بگڈھی، مدرسہ شاہی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: طلاق دی طلاق دی کے دونوں لفظ سے دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں، اس کے بعد آگے کے تین الفاظ ہیں، جن کے بارے میں شوہر سے تحقیق کی ضرورت ہے۔

(۱) جا طلاق ہوگئی۔

(۲) اب تو آزاد ہوگئی۔

(۳) جاؤ گھومو۔

اگر ان الفاظ سے اس کا مقصد پہلے دونوں لفظوں کی خبر دینا ہے کہ چونکہ تمہیں دو طلاقیں ہوگئی ہیں، اب یہاں سے جاسکتی ہو، آزاد ہوگئی ہو، گھوم سکتی ہو، تو ایسی صورت میں بعد کے تینوں لفظوں سے کوئی طلاق نہیں ہوئی، صرف دو طلاق رجعی مانی جائیں گی اور اگر بعد کے الفاظ سے خبر دیتے ہوئے یہی مقصد تھا کہ دو طلاقیں تمہیں دی گئی ہیں۔ اب تم نکاح سے آزاد ہوگئی ہو، میرے سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے، آزاد گھوم سکتی ہو اور پہلی دونوں طلاق رجعی کو بائنا بنانا مقصود ہے، تو دو طلاق بائن واقع ہوگئی ہیں، پس پہلی صورت میں طلاق رجعی ہونے کی وجہ سے عدت میں رجعت کر کے رکھ سکتے ہیں اور دوسری صورت میں بائن ہونے کی وجہ سے اگر رکھنا چاہیں تو بغیر حلالہ کے نکاح کر کے رکھ سکتے ہیں، طلاق مغلظہ واقع نہیں ہوئی؛ اس لئے حلالہ کی ضرورت نہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ جدید ڈائجیل ۱۲/۳۳۳)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين، فله أن يراجعها في

عدتها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة، اشرفي ديوبند ۲/۳۹۴، ہندیہ، زکریا

۱/۴۷۰، زکریا جدید دیوبند ۱/۵۳۵، قدوری، امدادیہ دیوبند ص: ۱۷۷)

عن الحسن فلا تعضلوہن قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه

قال: زوجت أختا لي من رجل، فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها،

فقلت له: زوجتك وفرشتك، وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها

لا والله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع

إليه، فأنزل الله هذه الآية. فلا تعضلوهن، فقلت لأن أفعل يا رسول الله قال:

فزوجها إياها. (بخاري، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي، النسخة الهندية

۲/۷۷۰، رقم: ۹۳۷، ف: ۱۳۰، سنن الترمذي، التفسير، سورة البقرة، النسخة الهندية

۲/۱۲۷، دار السلام رقم: ۳۶۱۵)

وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة، وبعد انقضائها. (ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۶، زکریا جدید دیوبند ۱/۵۳۵، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۱۴۸، رقم: ۷۵۰۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۸ رجب المرجب ۱۴۲۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف: ۳۸/۶۵۴۶)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۸/۳/۱۴۲۹ھ

”اب وہ میرے لئے حرام ہے“ کہنے کا حکم

سوال [۶۳۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عبد اللہ کی شادی ہوئی ازدواجی زندگی گذر رہی تھی، ملازمت کی وجہ سے عبد اللہ گھر سے کچھ دوری پر رہتا تھا اور بیوی کو اپنے سے کچھ دور ایک رشتہ دار کے پاس رکھا تھا، نیز عبد اللہ کا اپنے والد سے تکرار ہو گیا اور بہت دیر تک ہوا، چنانچہ عبد اللہ کو غصہ آیا اور فون پر اپنی والدہ سے والد کو برا بھلا کہا اور یہ کہہ دیا بیوی کے تعلق سے کہ ”اب وہ میرے لئے حرام ہے، اور میں بقرعید میں اس کو گھر لے کر آ رہا ہوں، ٹرین میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اجنبی ہے، اجنبی کی طرح لے کر آؤں گا“ پھر دوبارہ کہا کہ ”میں بقرعید میں اسے گھر لے کر آ رہا ہوں ٹرین میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اجنبی کی طرح لے کر آ رہا ہوں“ چونکہ عبد اللہ کی سسرال راستے میں ہی پڑتی تھی، اس لئے دوسری بار میں یہ بھی کہا کہ ”میں اس کو اس کے گھر چھوڑ دوں گا“۔

عبد اللہ نے چونکہ مذکورہ جملے فون پر جھگڑے کے درمیان میں کہے؛ اس لئے اس کو اس وقت بالکل احساس نہیں ہوا کہ میں نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ جس سے طلاق پڑ سکتی ہے نیز تھوڑی دیر میں جھگڑا بھی ختم ہو گیا؛ اس لئے عبد اللہ گھر بھی نہیں گیا اور ایک ہفتہ بعد دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہنے لگے نتیجتاً عبد اللہ کی بیوی حاملہ ہو گئی اور اب حمل سات مہینے کا ہو گیا، اچانک پھر

عبداللہ کا اپنے والدین سے بیوی کے تعلق سے ایک بات پر تکرار ہو گیا؛ لہذا عبداللہ تکرار کی وجہ سے فکر مند رہنے لگا، اچانک ذہن پر زور دے کر الفاظ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا؛ چنانچہ اوپر لکھے ہوئے جملے ہی یاد آئے۔ نیز مذکورہ جملوں کا دوبار کہنا یقین کے ساتھ یاد آ رہا ہے؛ لیکن ساتھ ساتھ تیسری بار کہنے کا ایک وہم ہو رہا ہے؛ کیونکہ اس کے ذہن میں تین بار کہنے کا یا تین طلاق کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، نیز اس نے اپنی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک دوبار کہا ہوگا، اب ایسی صورت میں عبداللہ کیا کرے؟ خوف خدا کی وجہ سے عبداللہ بہت پریشان ہے، مہربانی فرما کر درج ذیل مسائل کی وضاحت فرمائیں۔

(۱) طلاق کونسی واقع ہوگی؟

(۲) بچہ جائز یا ناجائز نطفے کا ہوگا؟ کیونکہ وہ اپنی بیوی کو حلال سمجھ کر ایک ساتھ رہ رہا تھا، اس کے ذہن میں طلاق کا کوئی شائبہ بھی نہ تھا۔

(۳) دوبارہ ازدواجی زندگی کی کیا صورت ہوگی؟

المستفتی: محمد انس، پاک باڑہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: (۱) جب شوہر عبداللہ نے بیوی کے بارے میں کہا کہ اب وہ میرے لئے حرام ہے، تو اس کی وجہ سے بلا نیت ہی اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگئی، اس کے بعد جو جملے عبداللہ نے کہے ہیں وہ سب پہلے جملہ کی وضاحت کے قبیل سے ہیں، ان کی وجہ سے بیوی پر مزید کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور اس کے بعد میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا اور آپس میں زن و شوہر کا تعلق کرنا جائز نہیں تھا؛ لہذا دونوں ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، جس کے لئے استغفار و توبہ کرنا ضروری ہے۔

والحاصل أن المتأخرين خالفوا المتقدمين في وقوع البائن بالحرام
بلائية حتي لا يصدق إذا قال: لم أنو لأجل العرف الحادث في زمان
المتأخرين، فيتوقف الآن وقوع البائن به على وجود العرف كما في

زمانہم۔ (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنايات، کراچی ۲۹۹/۳، زکریا ۴/۵۳۰)
(۲) پیدا ہونے والے بچہ کا نسب شوہر عبد اللہ ہی سے ثابت ہوگا۔

والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين؛ لأنه
يحتمل أن يكون الولد قائماً وقت الطلاق، فلا يتيقن بزوال الفراش قبل
العلوق فيثبت النسب احتياطاً. (هداية، اشرفي ۲/۴۳۰، شامی، زکریا
۳۳۱/۵، کراچی ۳/۵۴۱)

(۳) دوبارہ ایک ساتھ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے تجدید نکاح کریں، اس کے بغیر
ایک ساتھ رہنا جائز نہیں ہے اور تجدید نکاح اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ دو مردوں کے سامنے
یا ایک مرد اور دو عورتوں کے سامنے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایجاب و قبول
کر لیں، شوہر کہہ دے کہ میں تمہیں اپنی زوجیت میں لیتا ہوں اور بیوی کہہ دے کہ میں نے
قبول کیا، اتنا کہنا بھی کافی ہے، اس کے لئے الگ سے مہر بھی متعین کرنا ضروری ہے۔

عن سماك قال: سمعت عكرمة يقول: الطلاق مرتان: فإمساك
بمعروف، أو تسريح بإحسان، قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء
نكحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره. (المصنف لابن أبي شيبة، ما قالوا في الطلاق مرتان، مؤسسة علوم
القرآن بيروت ۱۰/۱۹۷، رقم: ۱۹۵۶)

وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة وبعد
انقضائها. (هداية، اشرفي ديوبند ۲/۳۹۹، ہندیہ، زکریا ۱/۴۷۶، جدید زکریا
دیوبند ۱/۵۳۵، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۱۴۸، رقم: ۷۵۰۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۸/۲/۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۳ صفر المظفر ۱۴۲۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۱۵۹)

تمہارا فیصلہ کر دیا کہنے کا حکم

سوال [۶۴۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری ہمشیرہ رئیس فاطمہ عرف شمشیر فاطمہ بنت علی محمد محلہ مہمند جنگلہ گلویا والی مسجد شاہجہا پنپور کا نکاح لگ بھگ تیس سال پہلے محمد سلیم ولد سمیع اللہ محلہ علی زئی کیساتھ ہوا تھا دونوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، شادی کے کچھ دنوں بعد سے ہی دونوں کے تعلقات کشیدہ رہے مگر دنیا کی نظر میں رشتہ بنا رہا، وضاحت کر دوں کہ محمد سلیم ہمارے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اب سے لگ بھگ ڈھائی سال پہلے محمد سلیم نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ (تمہارا فیصلہ کر دیا، اپنا ٹنڈیلہ بڑھاؤ) اور رات میں لگ بھگ ساڑھے نو بجے کا واقعہ ہے تب سے رئیس فاطمہ میکہ میں رہ رہی ہے اب ان کی کفالت مجھ پر ہے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، محمد سلیم سے اس بارے میں کئی بار صلح کے لئے بات کی گئی مزید دیگر رشتہ داروں کو بھی بتانے کے لئے بھیجا گیا مگر وہ کسی طرح راضی نہیں ہوا، کچھ دن پہلے شمشیر فاطمہ سے مزید معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ مندرجہ بالا الفاظ جو بریکٹ میں ہیں، اس سے قبل بھی کئی بار الگ الگ وقت میں کہے گئے، محمد سلیم نے بھی مندرجہ بالا الفاظ کی کئی آدمیوں کے سامنے تصدیق کی ہے کیا اوپر بریکٹ میں دئے ہوئے الفاظ کو بیوی سے کہنے پر طلاق ہوگی؟

المستفتی: محمد ابراہیم انصاری، شاہجہا پنپور، یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: لفظ فیصلہ کر دیا سے جو بھی نیت کی جائیگی اسی کا حکم شرعی ثابت ہوگا، اگر شوہر نے بیوی سے ”تمہارا فیصلہ کر دیا“ کہہ دیا ہے، تو اس سے اگر بیوی کو دھونس دینا ڈانٹ ڈپٹ کر نامراد لیا ہے، تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، اور اگر مطلقاً طلاق کی نیت سے کہا ہے، تو ایک طلاق بائن واقع ہوگئی، اور اگر طلاق کی تعداد کی نیت کی ہے، تو اس کی صراحت سامنے آنے کے بعد حکم شرعی بتایا جائے گا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ جدید ڈیڑھ ایل ۱۲۷۷-۱۵)

کنایتہ مالم یوضع له أي الطلاق واحتمله وغیرہ، فالکنايات لاتطلق
بهاقضاء إلا بنية أو دلالة الحال. (الدرالمختار مع ردالمختار، کراچی ۲۹۶/۳،
زکریا ۴/۵۲۶ تا ۵۲۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۹/۶/۱۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ جمادی الثانی۱۴۲۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۸۶۲۶۹)

طلاق دے کر اپنی زوجیت سے علیحدہ کر دیا

سوال [۶۴۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ بعض حالات کی بنا پر میرے شوہر نے مجھے اس طرح تحریری طور پر طلاق
دیدي تھی، تحریری الفاظ یہ تھے ”فریق دوم نے فریق اول کو روبرو گواہان طلاق دیکر اپنی
زوجیت سے علیحدہ کر دیا“ اس تحریر سے کون سی طلاق واقع ہوئی اور اب دوبارہ اسی شوہر
سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتیہ: خدیجہ فاطمہ، کالایادہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق دے کر زوجیت سے علیحدہ کر دیا کے لفظ سے ایک
طلاق بائن واقع ہوئی اس لئے کہ لفظ طلاق اگرچہ صریح رجعی کے لئے ہے لیکن ساتھ میں
زوجیت سے علیحدہ کر دیا کے لفظ نے تاکید پیدا کر کے رجعی کے بجائے بانئہ کر دیا؛ اس لئے
مذکورہ صورت میں ایک طلاق بائن واقع ہو گئی ہے، مگر اس سے طلاق مغلظہ واقع نہیں ہوئی
اس لئے زوجین آپس میں دوبارہ ساتھ رہ کر زندگی گزارنا چاہیں تو بغیر حلالہ کے دوبارہ شریعت
کے مطابق دوگواہوں کے سامنے باضابطہ نکاح کر کے زندگی گزارنا جائز ہوگا اس کے لئے
حلالہ کی ضرورت نہیں۔

إذ وصف الطلاق بصفة تدل على البينة كان بائناً. (شامي، زكريا

۵۰۱/۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ رجب ۱۴۲۶ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۸۸۹۶)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴/۷/۱۶ھ

تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے

سوال [۶۴۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے دوبار کہا طلاق دی، تیسری بار کہا میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، کیا اس صورت میں حرمت مغلظہ ہوگئی، خالد کا کہنا ہے کہ حرمت مغلظہ ہوگئی کیوں کہ تیسرا جملہ طلاق کنائی ہے اور غضب و مذاکرہ کی حالت میں کنائی سے بلا نیت طلاق واقع ہو جاتی ہے، جواب سے نوازیں۔

المستفتی: مجیب الرحمن

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق دی، طلاق دی، دومرتبہ کہنے پر دو طلاق صریح واقع ہو گئیں، اور تیسرا میرا کوئی رشتہ نہیں، یہ الفاظ عام طور پر دھمکی اور دھونس کے لئے بولے جاتے ہیں، اس لئے اگر اس لفظ سے طلاق کی نیت نہیں کی ہے، بلکہ صرف دھمکی مقصود ہے تو مذاکرہ طلاق کے باوجود بھی اس لفظ سے بلا نیت طلاق واقع نہیں ہوگی، لہذا شوہر سے معلوم کیا جائے کہ اس لفظ سے طلاق کی نیت کی تھی یا نہیں، اور اس کو طلاق کنائی اس وقت شمار کیا جاسکتا ہے، جبکہ ان الفاظ کو مذاکرہ طلاق کے وقت کہا ہو اور اس سے طلاق کی نیت کی ہو۔

(مستفاد محمود بیڈا بھیل ۱۲/۵۵۰، فتاویٰ دارالعلوم ۹/۳۹۹، امداد الفتاویٰ ۲/۴۳۳)

لوقال لها: لانکاح بینی و بینک أوقال: لم یبق بینی و بینک نکاح

يقع الطلاق إذا نوى (هنديّة، زكريا جديد ديوبند ۱/۴۳/۴ كتاب الطلاق، الفصل الخامس في الكليات كوئٹہ ۱/۳۷۵، كذا في البزازیة على هامش الهنديّة نوع آخر في إنكار النكاح ۴/۹۶، زكريا جديد ديوبند ۱/۱۲۸) فقط واللّه سبحانه وتعالى أعلم

کتابتہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۷ رجب ۱۴۳۳ھ

۱۴۳۳/۷/۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۰۵۴)

میں نے شادی ختم کر دی ختم کر دی ختم کر دی کہنا

سوال [۶۳۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دلشاد حسین نے اپنی بیوی سے یہ الفاظ کہے کہ ”میں نے شادی ختم کر دی“ ختم کر دی، ختم کر دی، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ اس صورت میں طلاق پڑے گی یا نہیں اگر طلاق پڑے گی تو کتنی طلاق پڑیں گی؟

المستفتی: محمد نوشاد حسین مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شادی ختم کر دی، کے الفاظ از قبیل کنایہ ہیں، ان الفاظ سے اگر طلاق کی نیت کی گئی ہے تو پہلے والے لفظ سے ایک طلاق بائن واقع ہوگئی ہے، اس کے بعد لفظ ختم کر دی، ختم کر دی، جو دو مرتبہ کہا ہے، وہ پہلے کے لئے خبر اور تاکید کے درجہ میں ہے ان سے الگ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اس لئے کہ طلاق کنایہ میں متعدد الفاظ جو کہے جاتے ہیں، تو ان میں بعد کے الفاظ سے کوئی نئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اس لئے ایک طلاق بائن واقع ہوگئی ہے، ہاں البتہ اگر شوہر نے شادی ختم کر دی کے الفاظ سے تین طلاق مراد لی ہے تو پھر تین طلاق واقع ہو جائیں گی:

ولو قال: فسخت النكاح ونوى الطلاق يقع، وعن أبي حنيفة إن

نوی ثلاثاً فثلاث، کذا فی معراج الدراية. (هندية، زکریا قدیم ۱/۳۷۵،
جدید زکریا دیوبند ۱/۴۴۲)

ولو قال: فسخت النکاح بيني وبينك ونوی الطلاق يقع الطلاق؛
لأن فسخ النکاح نقضه فكان فی معنى الإبانة. (بدائع الصنائع، زکریا
جدید دیوبند ۳/۱۷۲)

ولا يلحق البائن البائن بأن قال لها أنت بائن ثم قال لها أنت بائن
لا يقع الإطالة واحدة بائنة لأنه يمكن جعله خبراً عن الأول وهو صادق فيه
فلا حاجة إلى جعله إنشاءً (هندية، زکریا قدیم ۱/۳۷۷، زکریا جدید
دیوبند ۱/۴۴۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۳/۱۲/۱۴۲۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۶۱۳۸/۹۵)

رات کے اندھیرے میں بھی اپنی ماں کے گھر گئی تو میرے نکاح میں نہیں

رہنے کی

سوال [۶۴۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ زید نے دو عورتوں کی موجودگی میں اپنی بیوی سے کہا اگر تو دس سال تک
رات کے اندھیرے میں بھی اپنی ماں کے گھر گئی تو تو میرے نکاح میں نہیں رہنے کی، یا کہا
نکاح سے باہر ہو جائے گی، اس کے بعد اگلے روز ہی بیوی اپنی ماں کے گھر چلی گئی یہ واقعہ
سوا دوہینہ قبل کا ہے، اور اس دوران شوہر بیوی کی کوئی ملاقات نہیں ہے، اور ابھی ایک ہفتہ
پہلے اس عورت کو بچگی پیدا ہوئی ہے؟

المستفتی: صوفی محمد نعیم امروہو بے بی نگر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں زید نے اپنی بیوی سے یہ جملہ کہا کہ ’’مگر تو دس سال تک رات کے اندھیرے میں بھی اپنی ماں کے گھر گئی، تو تو میرے نکاح میں نہیں رہنے کی‘‘ یا یہ جملہ کہا کہ ’’نکاح سے باہر ہو جائیگی، تو یہ کنائی جملہ ہے اس سے اگر طلاق کی نیت کی گئی ہے تو ایک طلاق بائن ماں کے گھر جانے کی وجہ سے ہو جائیگی اور بغیر حلالہ کے آپس میں نکاح درست ہو جائیگا۔

وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقاً. (عالمگیری، زکریا

دیوبند ۱/۴۲۰، زکریا جدید دیوبند ۱/۴۸۸)

ولو قال لها: لانكاح بيني وبينك أو قال: لم يبق بيني وبينك

نكاح يقع الطلاق إذا نوى. (عالمگیری، زکریا دیوبند ۱/۳۷۵، زکریا جدید

دیوبند ۱/۴۴۳، مثله فی البزازیہ علی هامش الہندیۃ ۴/۱۹۶، جدید

زکریا ۱/۲۸، ہکذا فی قاضی خان علی هامش الہندیۃ ۱/۴۶۸، زکریا

جدید ۱/۲۸۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۱/۸/۱۴۲۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۱ شعبان ۱۴۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۰۲/۳۸-۹۷)

طلاق دیدی کے بعد چلی جا کہنے سے طلاق

سوال [۶۴۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ زید کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا دوران جھگڑا زید کے بھائی وغیرہ جمع ہو گئے زید نے

کہا، میں نے اس کو طلاق دیدی، جا چلی جا، پھر کچھ دیر بعد کہا کہ گئی کیوں نہیں اس سے

کہہ دو کہ چلی جائے آیا اب زید کی بیوی کو طلاق ہوئی، یا نہیں اگر طلاق واقع ہوئی تو کونسی ہوئی

ذرا وضاحت سے مدلل و مفصل تحریر فرمانے کی زحمت فرمائیں۔

المستفتی: عبدالغفار بیٹ پور جو یا مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسؤلہ میں زید کے اس جملہ سے کہ میں نے اس کو ’’طلاق دیدی‘‘ ایک طلاق رجعی ہو چکی اب اس کے بعد زید نے جو چلی جا کہا اگر اس سے اس کی مراد یہ ہو کہ چونکہ میں نے تجھے طلاق دی اس لئے اپنے میکہ چلی جا تو ایسی صورت میں اس دوسرے جملہ سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی، اور اگر اس سے اس نے دوسری طلاق کا ارادہ کیا ہو تو ایک طلاق مزید ہو کر دونوں طلاق بائنہ ہو جائیں گی اب شوہر خود دیکھ لے اسکی نیت کیا تھی۔

الطلاق الصریح وهو كانت طالق ومطلقة وطلقتك وتقع واحدة رجعية وإن نوى الأکثروا إلا بانه أولم ينو شيئاً. (عالمگیری، زکریا قدیم ۳۵۴/۱، زکریا جدید دیوبند ۴۲۲/۱)

الصریح يلحق الصریح ويلحق البائن، والبائن يلحق الصریح (درمختار) وفي الشامية: وإذا لحق الصریح البائن كان بائناً؛ لأن البينة السابقة عليه تمنع الرجعة. (شامی، کراچی ۳۰۶/۳، زکریا ۵۴۰/۴) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱/ شعبان ۱۴۳۱ھ
فتویٰ نمبر: الف/۳۵۶۶۶۸ (۶۸۲۶۶۳۵)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱/۸/۱

تم اپنے گھر چلی جاؤ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۴۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے بیوی سے غصہ میں کہہ دیا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ اور انھوں نے اپنے گھر

جا کر کہا کہ انہوں نے مجھے طلاق دیدی ہے، تو کیا یہ کہنے سے طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد معروف بروالان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شوہر نے غصہ کی حالت میں جو یہ کہا کہ میرے گھر سے چلی جاؤ اس سے اگر اس نے طلاق کی نیت نہیں کی ہے تو بیوی کو کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، اور بیوی کا یہ کہنا کہ مجھے اس نے طلاق دیدی ہے محض اس کے اس دعویٰ کی وجہ سے طلاق واقع نہ ہوئی اس پر لازم ہے کہ ایسے دو شرعی گواہ سے اپنا دعویٰ ثابت کرے جنہوں نے خود طلاق سنی ہو اس کے بغیر بیوی کا دعویٰ معتبر نہیں ہے؛

قال اللہ تعالیٰ: **وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ.** (سورة البقرہ: ۲۸۲)

قال وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين الخ.

(ہدایہ، اشرفی بک ڈپو دیوبند ۳/۱۵۵، ہندیہ، زکریا ۳/۴۵۱، زکریا جدید دیوبند ۳/۳۸۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۷/۱۸/۱۷ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۶ شعبان ۱۴۲۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۹۰۹)

جاؤ اب چلی جاؤ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۴۴۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی سے ایک بار کہا تھا کہ جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی، جاؤ اب چلی جاؤ، جاؤ اب چلی جاؤ، تو اس سے کون سی طلاق واقع ہوئی اب دوبارہ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں، جاؤ اب چلی جاؤ وغیرہ کے الفاظ سے طلاق دینے کی نیت نہیں تھی؟

المستفتی: کوثر علی حملہ بھٹی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جاؤ اب چلی جاؤ وغیرہ کے الفاظ سے جب طلاق کی نیت نہیں کی ہے بلکہ صرف تمہیں طلاق دی کہنے کا نتیجہ مقصد ہے، تو اس سے کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے، اور لفظ میں نے تمہیں طلاق دی سے ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے، عدت کے اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کی گنجائش ہے،

عن سماک قال: سمعت عکرمۃ ۞ يقول: الطلاق مرتان فإمساک بمعروف، أو تسریح یا حسان قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نکحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نکحها، فإذا طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنکح زوجاً غیره. (المصنف لابن ابی شیبہ، باب ما قالوا فی الطلاق مرتان ۱۰/۱۹۷، رقم: ۱۹۵۶۴)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (هدایہ، اشرفی بکڈپو دیوبند ۲/۳۹۴، و کذا فی الہندیۃ، زکریا قدیم ۱/۴۷۰، زکریا جدید دیوبند ۱/۵۳۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۹۱ محرم ۱۴۲۰ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۳۳۲/۵۹۸۵)

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۹/۱۱/۱۴۲۰ھ

مجھے ریحانہ کی ضرورت نہیں سے طلاق کا حکم

سوال [۶۴۴۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنے والد کے نام بزبان کنڑی خط لکھا جس کا ترجمہ کنڑ زبان کے پانچ چھ ماہرین سے کروانے کے بعد روانہ کر رہا ہوں، نیز زید نے اپنے والد کو یہ خط بطور دھمکی (زید کے قول کے مطابق) روانہ کیا ہے، حضرت والا سے درخواست ہے کہ حضرت والا سے جتنا

جلد ہو سکے اس کا جواب مرحمت فرمائیں، پیارے ماں باپ تمہارے برخوردار کی طرف سے سلام، وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے خوشحال رہیں گے میں بھی یہاں خیریت سے ہوں میری شادی ریحانہ سے کر کے تم نے اپنی آرزو پوری کر لی لیکن میری زندگی برباد ہو گئی اس پر بھی میں خاموش رہا اور ریحانہ کو ڈیوٹی (نو کری، ملازمت) پر نہ بھیجو کہنے کے باوجود بھی آپ نے اسکی مرضی سے ڈیوٹی (نو کری) پر روانہ کیا، مجھے پہلے ہی سے ہیڈ ماسٹر پر گمان تھا، کئی ایک مرتبہ اس بارے میں بولتا رہا اور یہ چیز مجھے ناپسند تھی وہاں کیا کیا ہوا نہ معلوم، مجھے تین دن کی رخصت ملی تھی دوسرے سب رشتہ داران کے گھر گئے ہیں، میں نہیں گیا میں یہیں رک گیا تھا، اب مجھے ریحانہ کی ضرورت نہیں ہے میں اسے طلاق دینے والا ہوں میری بات کو ٹھکراتے ہوئے پھر سے وہ ڈیوٹی پر گئی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص وہاں اس کے ساتھ ہے اس واسطے مجھے اسکی ضرورت نہیں ہے، میں طلاق دینے والا ہوں، اگر اس کے درمیان آپ آئے تو یوں سمجھو کہ میں آپ کے حق میں مر گیا، آپ نے میری زندگی برباد کی، اس لئے آپ کے گھر کو آنا بھی نہیں چاہتا یہ سب ہونے کا سبب ہی ابا جان ہیں، آپ نے خود میری زندگی برباد کی تمہاری ہی بات چلی مگر میری بات نہیں، اسلئے آپ ریحانہ کو ڈیوٹی پر بھیجیں اگر طلاق ہو گئی تو اس کا سبب آپ ہیں خود، یوں سمجھ لو کہ آپ کا بیٹا آپ کے حق میں مر گیا۔

فقط آپ کا بیٹا یعقوب شریف

نیز ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت فرمادیں کہ کتنی طلاق واقع ہوئیں؟ اسلئے کہ یہاں ایک مولانا نے یوں فرمایا کہ تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، اور اب کوئی صورت نہیں رہی؟

المستفتی: محمد عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال مذکورہ میں شوہر نے جو یہ الفاظ کہے کہ میں اسے طلاق دینے والا ہوں اس سے طلاق واقع نہ ہوئی کیونکہ یہ استقبال کا صیغہ ہے،
وفی المحيط: لوقال بالعربیة: أطلق لایكون طلاقاً إلا إذا غلب

استعمالہ للحال، فيكون طلاقاً وقوله كنم لأنه استقبال فلم يكن تحقيقاً بالتشكيك. (هنديّة، زكريا ۱/۳۸۴، زكريا جديد ديوبند ۱/۴۵۲)

اور شوہر کے یہ الفاظ کہ مجھے ریحانہ کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ دو مرتبہ کہے ہیں یہ الفاظ کنائی میں سے ہیں لہذا اس سے اگر شوہر نے نیت طلاق کی کی ہو تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی، اور اگر نیت طلاق کی نہیں کی ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی لہذا اس صورت میں شوہر سے اس کی تحقیق کی جائے کہ شوہر نے یہ الفاظ کس نیت سے کہے ہیں۔

لا يقع الطلاق بشي من الكنايات إلا بالنية كذا لوقال لا حاجة لي فيك (خانية على هامش الهنديّة زكريا ۱/۶۶۸) جديد ۱/۲۸۴

قوله لا يلحق البائن البائن. (هنديّة، كتاب الطلاق، الفصل الخامس، في الكنايات، قديم ۱/۳۷۷، زكريا جديد ديوبند ۱/۴۴۵، هكذا في التبيين، زكريا ۳/۸۴) فقط واللّه سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۳ محرم ۱۴۲۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۵۹۹۲۳۳)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۰/۱/۲۳

ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد کہنا کہ تمہارا معاملہ صاف

سوال [۶۴۴۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں ایک بار کہا ”طلاق“ پھر دوسری بار کہا کہ تمہارا معاملہ صاف اس واقعہ کو تقریباً پانچ ماہ ہو چکے ہیں، بیوی اس وقت سے لے کر اب تک میکہ میں ہے، زید اسے اپنے گھر لانا چاہتا ہے، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ وہ عورت زید کی بیوی رہی یا نہ رہی اور زید اسے اپنے گھر لاسکتا ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب زید نے ایک طلاق صاف الفاظ کے ساتھ دیدی ہے، اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی، پھر اس نے تمہارا معاملہ صاف جو کہا ہے تو وہ حالت مذکورہ طلاق میں کہا ہے، اس میں طلاق کی نیت موجود ہوتی ہے، اس لئے ایک طلاق بائن واقع ہوگئی، لہذا بیوی پر دو طلاق بائن واقع ہوگئی تھیں، اور یہ واقعہ پانچ مہینہ پہلے پیش آیا تھا۔ اب بیوی شوہر کے نکاح میں کسی طرح باقی نہیں رہی ہے، اسکو اختیار ہے، چاہے دوسرے مرد سے نکاح کرے چاہے پہلے شوہر سے نکاح کرے اور چونکہ تین طلاق نہیں ہوئی تھیں اسلئے پہلے شوہر سے نکاح کے لئے حلالہ کی ضرورت نہیں۔

الصريح يلحق بالباطن بشرط العدة والباطن يلحق الصريح (إلى قوله) لا يلحق البائن البائن. (درمختار، زکریا، ۵۴۰/۴، کراچی ۳/۳۰۸، ہکذا فی الہندیۃ، زکریا ۱/۳۷۷، جدید زکریا دیوبند ۱/۴۴۵) و إذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها. (ہدایۃ، أشرفی بکڈپو دیوبند ۲/۳۹۹، ہکذا فی التاتارخانیۃ،

جدید زکریا ۵/۴۸۱، رقم: ۷۵۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کاتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ شعبان ۱۴۲۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۷۸۰۶۳۶)

دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد ”جایا ر میں نے تیرا فیصلہ کر دیا“ کہنا

سوال [۶۴۴۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے غصہ کی حالت میں اپنی بیوی کو دو مرتبہ یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دیدی میں نے تجھے طلاق دیدی پھر تیسری مرتبہ بھی یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجلہ کی عورت نے زید کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا نہ کہنے دیا مگر زید نے یہ لفظ ضرور کہہ دیا کہ جایا ر میں نے اب تیرا فیصلہ کر دیا؟

المستفتی: محمد یوسف سلمانی شریف نگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زید کے اپنی بیوی کو دومرتبہ میں نے تجھے طلاق دی کہنے کی وجہ سے دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں، اس کے بعد زید کا پھر یہ کہنا کہ جایار میں نے اب تیرا فیصلہ کر دیا، اگر اس سے مزید طلاق کی نیت کی ہے تو زید کی بیوی پر تیسری طلاق مغلظہ ہو جائے گی اور اگر طلاق کی نیت نہ کی ہو تو طلاق واقع نہ ہوگی لہذا زید عدت کے اندر رجعت کر سکتا ہے۔

وقعتار جمعیتین، لو مدخولا بہا، كقوله : أنت طالق، أنت طالق.

(شامی، زکریا ۴/۳۶۴)

وإذا طلق الرجل امرأته تطلقاً رجعيةً، أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها، رضيت بذلك أولم ترض. كذا في الهداية. (عالمگیری، جدید زکریا دیوبند ۱/۵۳۳ - ۱/۴۷۰، ہکذا في الهداية، أشرفي بکڈپو دیوبند ۲/۳۹۴)

فالکنايات لا تطلق بها قضاءً إلا بالنية أو دلالة الحال. (شامی، زکریا

۴/۵۲۸، کراچی ۳/۲۹۶) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲ھ/۵۸۲

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۶۸۰۲)

آج سے ہمارا تمہارا رشتہ ختم

سوال [۶۴۴۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد فہیم نے اپنی بیوی کو اس کی موجودگی میں چند لوگوں کے سامنے یہ جملہ کہا عالم کی بیٹی (لڑکی) ”جا میں نے تجھ کو طلاق دی آج سے ہمارا تمہارا رشتہ ختم“ اس جملہ سے ایک طلاق واقع ہوئی یا دو واضح ہو کہ محمد فہیم کچھ دنوں پہلے ایک طلاق دے چکا ہے، واضح ہو کہ محمد

فہم کہتا ہے کہ ہم نے ایک طلاق دی ہے بعد والے جملہ سے ہمارا مقصد طلاق نہیں تھا کیا محمد فہم عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، یا پہلے والی طلاق ملا کر تین واقع ہوئیں؟ وضاحت سے تحریر فرمائیں؟

المستفتی: محمد فہم کٹرہ، میدنی گنج، پرتاب گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ”عالم کی بیٹی جا میں نے تجھ کو طلاق دی“ اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی اور دوسرے جملے آج سے ہمارا تمہارا رشتہ ختم سے الفاظ کٹائی ہونے کی وجہ سے نیت کے بغیر اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی؛ لہذا پہلی والی طلاق ملا کر کل دو طلاق رجعی ہو گئیں، جس بنا پر فہم صاحب کو عدت کے اندر اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کا حق ہے۔

ولو قال لها: لانكاح بيني وبينك أوقال: لم يبق بيني وبينك

نكاح يقع الطلاق إذانوى. (قاضي خان علی هامش الہندیۃ، زکریا قدیم

۱/۶۶۸، زکریا جدید دیوبند ۱/۲۸۴، ہندیۃ، زکریا قدیم ۱/۳۷۵، جدید

زکریا دیوبند ۱/۴۴۳)

وفي شرح الطحاوي لانكاح بيني وبينك... وإن قال لم أرد به

الطلاق أولم تحضره النية لا يكون طلاقاً. (الفتاویٰ التاتاریخانیۃ، زکریا دیوبند

۴/۶۶۰، رقم: ۶۶۶۹)

وإذا طلق الرجل امرأته، تطليقة رجعية، أو تطليقتين، فله أن يراجعها

في عدتها، رضيت بذلك أولم ترض. (ہندیۃ، زکریا قدیم ۱/۴۷۰، جدید زکریا

دیوبند ۱/۵۳۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳/۱۰/۱۴۳۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۱ شوال المکرم ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۱۱۲۷)

لفظ ”ڈیزولو“ اور ڈیورس سے طلاق کا حکم

سوال [۶۴۴]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ یہاں برطانیہ کے کورٹ میں میرج ختم کرنے کے لئے جو فارم بھرا جاتا ہے، اس میں شوہر درخواست دیتا ہے کہ میرج کو ڈیزولو کیا جائے کورٹ جب میرج کو ختم کرتا ہے، اور سرٹیفیکٹ بھیجتا ہے، اس میں بھی یہی ڈیزولو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی میرج ڈیزولو کر دیا گیا ہے، ڈیزولو کا معنی یہ ہے: پگھلانا، منسوخ کرنا، معاہدے کو توڑ دینا،

(۱) سوال یہ ہے کہ شوہر اگر یہاں کے کورٹ میں درخواست دے اور کورٹ میرج کو ختم کرے، تو اس لفظ ڈیزولو سے طلاق رجعی واقع ہوگی یا بائن؟

(۲) یہ لفظ طلاق میں صریح ہے یا کنایہ؟

(۳) یہ لفظ اگر کنایہ ہے تو بغیر نیت کے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

(۴) ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اور اسکی دوسری بیوی ہندوستان میں ہے، جو اپنی پہلی بیوی سے کورٹ میرج کو قانونی طور پر توڑنا چاہے، اب یہ صاحب بغیر نیت طلاق کے صرف کورٹ سے علاحدگی کی غرض سے کورٹ کو درخواست دے تو اس لفظ سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

(۵) اسی طرح کا ایک اور لفظ ڈیورس ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟

المستفتی: از اسلامک دعوت اکیڈمی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: لفظ ڈیزولو کے استعمال کا مدار برطانیہ کے عرف پر ہے، اگر وہاں کے عرف میں یہ لفظ بیوی کے حق میں صرف طلاق ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اور اگر بیوی کے حق میں طلاق کے علاوہ اور

امور میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر یہ طلاق کنائی میں شمار ہوگا، اور اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی، اور یاد رکھئے کہ سوائنامہ میں اس کے تین معانی بیان کئے گئے ہیں، حکم شرعی کا مدار صرف بیوی کے حق میں استعمال ہونے پر ہے جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے، لہذا وہاں کے تجربہ کار علماء اور اہل حل و عقد اس لفظ کے بارے میں وہاں کے عرف کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ بیوی کے حق میں یہ لفظ کنایہ میں شمار ہوگا یا الفاظ صریح میں، اگر الفاظ صریح میں مستعمل ہوتا ہے، تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور کورٹ میرج ڈیزولو کرانے کی صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی بعد میں رجعت کر کے زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی۔ اور اگر وہاں کے عرف میں الفاظ کنایہ میں شمار ہے تو کورٹ میرج ڈیزولو کرانے سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی بعد میں دوبارہ رکھنا چاہے تو نکاح کرنا ضروری ہوگا، نیز اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کورٹ کے کاغذات میں علاحدگی دکھلانے کے لئے درخواست دی ہے، اور طلاق کی نیت نہیں ہے، اور نہ ہی علاحدگی کی نیت ہے بلکہ صرف سرکاری کاغذات میں دکھلانے کے لئے ہے تو الفاظ صریح ماننے کی صورت میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اور کنایہ ماننے کی صورت میں نیت کا اعتبار ہوگا۔

نیز (۵) میں لفظ ڈیورس جو لکھا ہے اس کا بھی یہی حکم ہوگا جیسا کہ شامی کی حسب ذیل عبارت سے واضح ہوتا ہے۔

”زها كردم“ أي صرحتك يقع به الرجعي مع ان أصله كناية وما ذلك إلا لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاق، وقد مر أن الصريح مالم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت. (شامی، کراچی ۲۹۹/۳، کتاب الطلاق، باب الکنیات، زکریا ۴/۵۳۰)

وقد مر أن الصريح ماغلب في العرف استعماله في الطلاق بحيث لا يستعمل عرفاً إلا فيه من أي لغة كانت. وهذا في عرف زماننا كذلك، فوجب اعتباره صريحاً. (شامی، زکریا ۴/۴۶۴، شامی، کراچی ۲۵۲/۳)

وصریح الطلاق ما استعمل اللفظ له ولا يستعمل في غيره.
(تاتارخانیہ، زکریا دیوبند ۴/۴۰۰، رقم: ۶۵۲۲)

فإن ما غلب استعماله في معنى بحيث يتبادر حقيقة أو مجازاً
صريح. (فتح القدير، بيروت ۳/۴، وهكذا في البحر الرائق، كراچی
۲۵۱/۳، زکریا ۳/۴۳۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۲۵/۶/۱۴ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۱۳ جمادی الثانیہ ۱۴۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۷۳/۸۴۰۳)

میں انگوٹھا دے آیا ہوں

سوال [۶۴۴۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اپنی سسرال گیا تھا وہ کسی بات پر سسرال سے ناراض ہو کر اپنے گھر چلا گیا اس کے والد نے اس سے معلوم کیا کہ تم اپنی بیوی کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ زید نے اپنے باپ کو جواب دیا کہ میں اپنی سسرال میں انگوٹھا دے آیا ہوں اور زید نے انگوٹھے پر روشنائی یا اور کسی چیز کا رنگ لگا دکھایا اور زید نے اپنے گاؤں والوں سے بھی وہی الفاظ کہے اور وہی انگوٹھا دکھایا اور پھر زید نے اپنی سسرال والوں کو خبر دی تین مرتبہ کہ اپنا سامان لے آئیں اور میرا مجھے دیدیں اور جب زید کے گاؤں والوں اور سسرال والوں نے اس تنازعہ کو حل کرنے کے لئے لوگوں کو زید کے گاؤں میں جمع کیا تو وہاں پر بھی زید نے اقرار کیا کہ میں نے ایسا ہی کیا ہے، اور نہ ہی زبان سے کوئی ایسی بات کہی۔
نوٹ: زید خفت الحواس ہے کبھی انکار کرنے لگتا ہے۔

المستفتی: صاحب حسین عمری کلاں، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسئلہ میں خط کشیدہ جو عبارتیں زید کی ہیں، یعنی

جواب میں یہ کہنا کہ میں اپنی سسرال میں اٹکوٹھا دے آیا ہوں اور زید اور زید کے اٹکوٹھے پر نشان بھی ہونا نیز اس کا یہ کہنا اور خبر دینا اپنی سسرال میں کہ اپنا سامان لے آئیں اور میرا مجھے دیدیں، یہ الفاظ کنائی ہیں زید سے معلوم کیا جائے کہ اسکی کیا مراد ہے، اگر وہ طلاق کہتا ہے تو طلاق بائنہ واقع ہوگی، زید کا خفت الحواس ہونا پاگل ہونے کی دلیل نہیں ہے، بہر حال حسب سوال سائل زید سے ہی اس کے الفاظ کی مراد معلوم کی جائے، اگر وہ طلاق اپنا منشاء نہ بتائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۱/۶/۱۴۱۸ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
یکم جمادی الثانیہ ۱۴۱۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۳۳۳)

تو میری زندگی میں میرے گھر نہیں آسکتی ہے، میں تمہارا کچھ نہیں ہوں

سوال [۶۴۴۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید ماہ اگست ۹۶ء سے علیل ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی طبیعت ٹھیک رہی کبھی طبیعت زیادہ علیل ہو جاتی ہے، دن و رات روتا رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرا دل و دماغ کام نہیں کرتا ہے، اور دل گھبراتا رہتا ہے، ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے، دریں اثناء زید نے اپنی بیوی ہندہ سے ۱۰ اپریل ۹۶ء بروز جمعرات کو کہا کہ میرے لئے اناج بھون کر ستوتیار کر دو تو ہندہ ہوا تیز چلنے کی وجہ سے اناج بھون کر ستوتیار نہ کر سکی اور سوچنے لگی کہ ہوا کم ہو جائے، تو اناج بھون لوگی، اسی درمیان ہندہ اپنے رشتہ دار کے یہاں چلی گئی کوئی بیمار تھا اسکی عیادت کے لئے۔ اور کچھ دیر بعد واپس لوٹی تو زید نے مندرجہ بالا دن بوقت تین بجے اپنی بیوی ہندہ سے کہا کہ تو میری زندگی میں میرے گھر نہیں آسکتی ہے، میں تمہارا کچھ نہیں ہوں، اس پر ایک آدمی نے زید سے کہا کہ ہندہ کہاں جا بیگی تو زید نے کہا کہ میں نے مہر بھی دیدیا ہے، اور ہندہ کو لٹھی سے مارنے کے لئے اٹھا یہ سب باتیں بول کر چپ ہو گیا اور بعد ازاں بعد نماز

مغرب لوگ جمع ہوئے اور زید سے پوچھا کہ تم نے مندرجہ بالا جملے بولے اس سے کیا مقصد تھا تو زید نے کہا میرا ان جملوں سے تشبیہ کرنا مقصود تھا پھر بروز سنیچر لوگوں نے جمع ہو کر زید سے پوچھا کہ مندرجہ بالا جو جملہ بولے ہو کیا دل سے بولے ہو یا نہیں تو اس پر زید نے بولا کہ مجھ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دل سے بولے ہیں یا نہیں، ہم کو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دل سے بول دیا ہو۔ مندرجہ بالا باتوں کے بارے میں صحیح مسئلہ بتائیں کہ ہندہ کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں، یا اگر کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو بتائیں تاکہ زندگی صحیح گزار سکے؟

المستفتی: محمد حذیفہ ڈھرو پور، بھاگلپوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب مذکورہ الفاظ کے استعمال میں اس نے طلاق کی نیت نہیں کی اور محض حالت غصہ میں یوں ہی کہہ دیا ہے تو محض دھونس ہے، اس سے کوئی طلاق نہیں ہوئی نکاح بدستور باقی ہے۔

اخرجی اذہبی خلیۃ بریۃ فی حالۃ الغضب ملزم النیۃ. (شامی، کتاب

الطلاق، باب کنایات، زکریا ۴/۵۳۴، کراچی ۳/۳۰۲)

وإذا حتمت هذه الألفاظ الطلاق وغير الطلاق فقد استتر المراد منها

عند السامع فافتقرت إلى النية لتعيين المراد. (بدائع، زکریا ۳/۱۶۹)

أن من کنایات ثلاث عشرة لا یعتبر فیها دلالة الحال ولا تقع إلا

بالنیۃ. (البحر الرائق کوئٹہ ۳/۳۰۲، زکریا ۳/۵۲۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۸/۱/۱۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

محرم الحرام ۱۴۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۳/۵۱۰۱)

دو مرتبہ طلاق دے کر جاؤ بھاگو کہنا

سوال [۶۴۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ میں محمد صدیق ولد محمد ولی نے اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں کہا ہم نے تم کو طلاق ہم نے تم کو طلاق دی جاؤ بھاگو یہاں سے اب ایسی حالت میں کوئی طلاق واقع ہوئی؟

المستفتی: محمد عمیر پوڑو گڑھ مکتبہ شوریہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تم کو طلاق دی کے الفاظ دوم مرتبہ کہنے پر دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں اور جاؤ بھاگو کے الفاظ کنایہ میں سے ہیں اگر اس سے الگ سے طلاق کی نیت کی جائے تو طلاق ہوتی ہے، اور اگر الگ سے طلاق کی نیت نہ کی جائے تو طلاق نہیں ہوتی ہے، لہذا اگر اس ارادہ سے جاؤ بھاگو کے الفاظ استعمال کئے ہیں کہ اس سے پہلے دو مرتبہ طلاق کے الفاظ کہہ دیے ہیں لہذا جاسکتی ہو جاؤ بھاگو کا یعنی ڈاٹنا اور دھتکارنا مقصد ہے تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ایسی صورت میں رجعت کر کے رکھنے کی گنجائش ہے، اب شوہر خود فیصلہ کرے کہ جاؤ بھاگو کے الفاظ کس نیت سے کہا ہے۔

عن عبد اللہ وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله الطلاق مرتان قال: هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة، أو اثنتين، فإما أن يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها، الحديث (سنن كبرى كتاب الرجعة دار الفكر بيروت ۱/۲۸۱، ۲۸۲ رقم ۱۵۵۳۹)

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها، رضيت بذلك أو لم ترض. كذا في الهداية. (عالمگیری، زکریا کتاب الطلاق الباب السادس فی الرجعة الخ جدید ۱/۵۳۲/۱، ۴۷۰، مختصر القدوری، امدادیہ دیوبند ۱۷۷، ہدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴)

اذہبی الی جہنم یقع إن نوى خلاصة، وكذا اذہبی عنی وافلحی.

(شامی، زکریا ۴/۵۵۱، کراچی ۳/۳۱۴)

وقعتا رجعتین لو مدخولا بہا، کقولہ: أنت طالق، طالق۔
 (الدرالمختار مع شامی، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۲۰۲/۳) **نفظ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم**
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۷ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۸۲۸۳/۳۷)
 الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۲۵/۳/۷ھ

اگر گھر سے باہر گئی، تو نکاح سے باہر

سوال [۶۴۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ سے کہا کہ اگر تو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر گئی تو نکاح سے باہر، یا اگر تو گھر سے باہر گئی، تو نکاح سے باہر، صورت حال یہ ہے کہ زید خود اس گھر کا مالک بھی نہیں ہے زید کا کہنا ہے کہ میرا ارادہ اسے جدا کرنا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی میری نیت ہے الگ کرنے کی، زید کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ بعد عورت گھر سے باہر نکل گئی تو کیا ہندہ کو طلاق ہو جائے گی جبکہ زید کی طلاق کی نیت بھی نہیں ہے؟

(۲) اس کے کچھ دن بعد پڑوس میں ایک تقریب تھی ہندہ کا کہنا ہے کہ زید نے شرکت کے لئے کہا اس پر ہندہ نے کہا کہ آپ نے تو پابندی لگا رکھی ہے، اس پر زید نے کہا کہ اب تو تو جائیگی، تو باہر نہ جائیگی لیکن زید اس قول سے انکار کرتا ہے، ہندہ کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کیا بلا ثبوت و بلا گواہ کے ہندہ کے کہنے سے ہندہ نکاح سے باہر ہو جائیگی؟

المسئفنی: محمد ذاکر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر گئی تو نکاح سے باہر یہ یہ جو کہا ہے کہ اگر تو گھر سے باہر گئی تو نکاح سے باہر یہ دونوں جملے الفاظ کنائی میں سے ہیں ان سے طلاق واقع ہونے کے لئے نیت شرط ہے سوال نامہ میں شوہر خود کہتا ہے کہ

طلاق کی نیت نہیں تھیں لہذا ایسی صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اس طرح کچھ دن بعد پڑوس میں تقریب کے موقع پر جو بات پیش آئی ہے اس سے بھی کوئی طلاق نہیں ہوگی اس لئے کہ اس میں بھی شوہر کی طرف سے طلاق کی نیت نہیں پائی گئی۔

ولو قال لها لانكاح بيني وبينك او قال لم يبق بيني وبينك نكاح يقع الطلاق إذا نوى (ہندیہ، کتاب الطلاق الفصل الخامس فی الکنايات،

۳۷۵/۱، زکریا جدید دیوبند ۱/۴۴۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲/۳/۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
یکم ربیع الاول ۱۴۲۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۵/۷۰۸)

بیوی سے کہا میں نے تجھے خلع دیا

سوال [۶۴۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو لڑائی جھگڑے میں یہ کہہ دیا کہ میں نے تجھے خلع دیا، شوہر حلفیہ یہ بیان دیتا ہے، کہ میری اس وقت طلاق کی نیت نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے خلع کے بارے میں معلوم ہے کہ خلع کیا چیز ہے، میں نے ٹی وی میں سیریل کو دیکھ کر یہ کہہ دیا، مگر اس کی حقیقت سے ناواقف ہوں کہ خلع کیا چیز ہے، طلاق کے بارے میں شوہر بالکل منکر ہے، مگر بیوی حلفیہ یہ بیان دیتی ہے کہ مجھے میرے شوہر نے یہ کہا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دیدی، جا میں تجھے تیرے گھر والوں کے اوپر طلاق دیدوں گا میں نے تجھے خلع دیا، جھگڑے کے وقت دو عورتیں موجود تھیں، ان میں سے ایک عورت حلفیہ یہ بیان دیتی ہے کہ شوہر نے اس طرح سے کہا ہے کہ میں تجھے طلاق دیدوں گا، آج میں تجھے طلاق دیدوں گا میں تجھے رکھوں گا نہیں میں نے تجھے خلع دیا، دوسری عورت بھی حلفیہ یہی بیان دیتی ہے کہ میں تجھے طلاق دیدوں گا میں تجھے رکھوں گا نہیں، یہ واردات گذر جانے کے بعد ٹھکیدار عبدالعزیز

صاحب نے جا کر لڑکی سے معلوم کیا کہ یہ معاملہ کس طرح ہو گیا تو لڑکی نے یہ بیان دیا، مجھے میرے شوہر نے یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی جا، دوسری مرتبہ یہ کہا کہ میں تجھے طلاق دیدوں گا، اور تیسری مرتبہ کہا خلع دیا، یہ واقعہ ۲۳/۱۸/۲۰۰۱ء بروز جمعرات کا ہے، اور میاں بیوی نے علیحدہ گی اختیار نہیں کی ہے، دونوں پہلے ہی کی طرح مل جل رہے ہیں؟ مسئلہ کی وضاحت فرمائیں کہ عورت کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو کونسی ہوئی کیا عورت سے رجعت کرنے کا حق حاصل ہے یا نکاح ثانی کی ضرورت ہے، لڑکے کی زبان پر طلاق کا لفظ نہیں آیا ہے، یہ حلفیہ لڑکا بیان دیتا ہے؟

نوٹ: تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ بیان میں نے گواہوں سے اور میاں بیوی سے حلفیہ لئے ہیں۔

المستفتی: ابراہیم احمد قاسمی خادمہ مدرسہ مصباح العلوم نورپور بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: مذکورہ تحریر سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ تین باتیں ہیں (۱) شوہر کا قول میں نے تجھے خلع دیا اس میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ جملہ شوہر کی زبان سے نکلا ہے، جو کہ لفظ کنائی ہے، اور الفاظ کنائی میں شوہر کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، کہ اس سے اگر طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق بائن واقع ہوگی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔

وخالعتک لایقع الطلاق إلا بالنیة. (فتاویٰ عالمگیری زکریا کتاب

الطلاق الفصل الخامس فی الکنایات جدید ۱/۴۲/۱۴۳۷۵)

الکنایات لایقع بها الطلاق إلا بالنیة. (ہندیہ زکریا ۱/۳۷۴ کتاب

الطلاق الفصل الخامس فی الکنایات جدید ۱/۴۲/۱۴۳۷۵)

(۲) شوہر کا قول تجھے طلاق دیدوں گا، یہ جملہ وعدہ طلاق ہے اور وعدہ طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

لوقال أطلقك لم يقع الخ. (سکب الأ نهر، قدیم ۳۷۸/۱،

جدید دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴/۲)

بخلاف کنم لأنه إستقبال فلم یکن تحقیقا با لتشکیک لوقال
بالعربیة: أطلق لا یكون طلاقا. (هندیة، کتاب الطلاق، الفصل السابع فی الألفاظ
الفارسیة، زکریا قدیم ۴۵۱/۳، زکریا جدید دیوبند ۴۵۲/۱)

أنا أطلق نفسی لم یقع؛ لأنه وعد. (درمختار، کراچی ۳۱۹/۳،
زکریا ۵۵۹/۴)

(۳) شوہر کا قول میں نے تجھے طلاق دی یہ جملہ طلاق کے لئے صریح ہے لیکن شوہر اس جملہ
کا منکر ہے اور عورت اس کی مدعی ہے ساتھ ہی عورت کے پاس کوئی شرعی گواہ بھی نہیں ہے،
اور شوہر قسم کے ساتھ اس جملہ کا منکر ہے اسلئے شوہر کے قول کا اعتبار ہوگا، اور اس لفظ سے بیوی
پر طلاق واقع ہونے کا ثبوت نہ ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۹۳/۹)

قال الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. [البقرة: ۲۸۲]

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شها دة رجلين أو رجل
وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال مثل النكاح والطلاق
(هدايه، أشرفی دیوبند ۱۵۴/۳، درمختار، زکریا ۱۷۸/۸، کراچی
۴۶۵/۵، فتاویٰ عالمگیری، کتاب الشہادات، قبیل البب الثانی الخ
زکریا قدیم ۴۵۱/۳، زکریا جدید ۳۸۸/۳، البحر الرائق، زکریا
۱۰۴/۷ کوئٹہ ۶۲/۷) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲/۶/۱۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۹ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۲۶۹۷)

”تو میرے لئے مرگئی میں تیرے لئے مرگیا“ سے طلاق

سوال [۶۴۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو دس بارہ لوگوں کے سامنے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی ایک بار تو اس کے بہنوئی نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ سردار اب کچھ نہیں کہنا اس کے بعد یہ شخص کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ تو میرے لئے مرگئی میں تیرے لئے مرگیا، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہزار بار اس بات کو دہرا چکا ہے، ایسی حالت میں طلاق ہوئی یا نہیں شرع کی رو سے جواب دیا جائے

المستفتی: سید خالد رضا ولد مولانا مفتی سید واحد رضا صاحب، محلہ قاضی ٹولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: اگر طلاق کا لفظ صرف ایک مرتبہ کہا ہے تو اس سے صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوئی ہے عدت کے اندر رجعت کر کے رکھ سکتا ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ ”میرے لئے تو مرگئی میں تیرے لئے مرگیا، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے“ ان الفاظ سے طلاق واقع ہونے کے لئے نیت شرط ہے لہذا اس بارے میں شوہر سے معلوم کیا جائے کہ اس نے کیا ارادہ کیا تھا اگر صرف ڈرانے اور دھمکانے کے لئے کہا ہے تو ان الفاظ سے کوئی حکم لاگو نہ ہوگا۔

عن عبد الله وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله الطلاق مرتان قال: هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو ثنتين فيما أن يمسك ويراجع بمعروف وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها. الحديث . (سنن كبرى للبهقي، كتاب الرجعة، دارالفكر بيروت ۱۱/۲۸۱، رقم ۱۵۵۳۹)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها

فی عدلتها. (ہدایۃ، باب الرجعة، أشرفی دیوبند ۲/۳۹۴، ہندیۃ، زکریا

۱/۴۷۰، کتاب الطلاق الباب السادس فی الرجعة الخ جدید ۱/۵۳۳)

لوقال لها: لانکاح بینی و بینک أوقال: لم یبق بینی و بینک نکاح

یقع الطلاق إذا نوى. (ہندیۃ زکریا ۱/۳۷۵، کتاب الطلاق الفصل الخامس فی

الکنايات جدید ۱/۴۴۳، حانیۃ علی ہندیۃ، کتاب الطلاق، فصل فی الکنايات الخ

جدید ۱/۲۸۴، زکریا ۱/۴۶۸، بزازیۃ علی ہامش ہندیۃ، زکریا ۴/۹۶، کتاب الطلاق

نوع آخر فی انکار النکاح جدید ۱/۱۲۸)

الکنايات لا یقع بها الطلاق إلا بالنية. (ہندیۃ کتاب الطلاق، الفصل

الخامس فی الکنايات، زکریا ۱/۳۷۴، زکریا جدید ۱/۴۴۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۸ رمضان المبارک ۱۴۱۲ھ

۱۴۱۲/۹/۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۸/۲۸۱۸)

تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں کے لفظ سے طلاق

سوال [۲۴۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں: کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو اس کے میکے میں صرف بیوی کے سامنے یہ کہہ کر چلا جائے

کہ یہیں پڑی سڑتی رہ میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں اور میں اب تجھے بلانے نہیں آؤں گا آیا اس

کے لئے کیا حکم صادر ہوتا ہے طلاق کے لئے؟

المسفتی: سعید احمد ہستی منیہار والی گلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں کا لفظ الفاظ کنایہ میں سے ہے

اس کے کہتے وقت شوہر نے ڈرانے دھمکانے کا ارادہ کیا تھا طلاق کا ارادہ نہیں کیا تھا تو طلاق

نہ ہوگی یہ بات شوہر سے معلوم کر لی جائے کہ اس نے طلاق کی نیت کر لی تھی یا نہیں اور بلانے

نہیں آؤں گا کے لفظ سے کوئی حکم ثابت نہ ہوگا۔

وفي الفتاوى: لم يبق بينى وبينك عمل ونوى يقع، كذا فى العتابة.
 (هندية، كتاب الطلاق، الفصل الخامس فى الكنايات زكريا ۱/ ۳۷۶، جديد ۱/ ۴۴۳)
 الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال لأنها غير
 موضوعة للطلاق بل يحتمله وغيره فلا بد من التعيين أو دلالاته. (هداية أشرفي
 ديوبند ۲/ ۳۷۳ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۱۲/۸/۱۹

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
 ۱۹ شعبان ۱۴۱۲ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۲۸/۷۹۷)

طلاق دی دی کہنے کے بعد چلی جا کہنے سے کتنی طلاق واقع ہوں گی؟

سوال [۲۳۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
 میں: کہ شوہر نے غصہ میں آکر اپنی بیوی سے کہا ”طلاق دی دی“ تو بیوی نے شوہر سے معلوم کیا کہ
 پھر میں چلی جاؤں؟ تو شوہر نے غصہ میں کہہ دیا کہ چلی جا: لہذا کتنی طلاق واقع ہوئیں؟
 المستفتی: عبدالرحمان ٹاٹھہ، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق دی دی، سے دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں،
 وقعتار جمعیتین لو مدخولا بها كقوله أنت طالق أنت طالق الخ
 (الدر المنختار کتاب الطلاق، باب الصریح کراچی ۳/ ۲۵۲، زکریا ۴/ ۶۳، امداد الفتاویٰ
 ۲/ ۴۳۰، فتاویٰ دارالعلوم ۹/ ۳۱۵)

میں چلی جاؤں کے جواب میں جو چلی جا کہا ہے یہ کنایات میں ایسا لفظ ہے کہ اس سے طلاق
 واقع ہونے کے لئے بحالت رضا و غضب و مذاکرہ طلاق ہر حال میں مستقل طلاق کی نیت
 شرط ہے اگر شوہر نے اس لفظ سے طلاق دینے کی نیت کی ہے تو اس سے ایک طلاق واقع

ہو جائیگی، اور کل تین طلاق ہو کر بیوی بالکل حرام ہو جائیگی، اور اگر اس سے طلاق کی نیت نہیں کی ہے تو اس سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی؛ لہذا صرف دو طلاق رجعی ثابت ہوں گی۔

اخر جمی، اذہبی فی رضا غضب مذاکرۃ تلزم النیۃ الخ. (شامی تحت

النقشۃ کراچی ۳/۲۰۳، زکریا ۴/۵۳۴)

کل لفظ یستعمل فی الطلاق ویستعمل فی غیرہ نحو قوله أنت بائن قومی اخرجی..... وإذا احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغیره فقد استتر المراد منها عند السامع فافتقرت إلى النیۃ لتعین المراد. (بدائع الصنائع، زکریا ۳/۱۶۷-۱۶۹، البحر الرائق، زکریا ۳/۵۲۶، کوئٹہ ۳/۳۰۲-۳۰۳ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۰/۲/۹ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۹ صفر مظفر ۱۴۱۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۵/۱۶۳۰)

اگر میں تیرے پاس جاؤں تو صاف طلاق

سوال [۶۴۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اپنی بیوی سے بارہا بلاناغہ ہمبستری کا خواہش مندر ہتا ہے، مگر اس کی بیوی اس کی رائے کے خلاف ہے، ایک روز زید نے اسی غرض سے بلایا تو بیوی چڑچڑا اٹھی اور کہنے لگی کہ روزانہ کیا یہی کام رہ جاتا ہے، کثرت کی عادت ٹھیک نہیں، الغرض دونوں میں بحث ہوگئی اور نوبت یہ آئی کہ زید نے کہا اگر میں تیرے پاس جاؤں ”تو صاف طلاق“ اس کے بعد زید نے اپنی بیوی سے ہمبستری کی، اب علماء سے پوچھا گیا تو بعض نے کہا طلاق رجعی واقع ہوئی، اور بعض نے کہا ایک طلاق بائنہ ہوئی، لہذا انہوں نے بلا حلالہ تجدید نکاح کر کے زید اور اس کی بیوی کو ملا دیا؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مشروط کے پائے جانے کے بعد ”تو صاف طلاق“ سے کیا ایک ہی طلاق

واقع ہوتی ہے؟ اگر ایک ہوتی ہے تو کونسی ”رجعی یا سنیہ“ بالانفصیل تحریر فرمائیں؟

المستفتی: مولانا محمد عبدالخالق بدرپوری، کریم گنج، آسام

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں چونکہ زید نے صریح طلاق کو معلق کیا تھا، اسلئے مشروط کے وجود کے بعد مذکورہ جملہ سے زید کی بیوی پر صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوئی عدت کے اندر اندر بلا تجدید نکاح کے رجعت کر لینے کی گنجائش ہے، اس سلسلہ میں طلاق رجعی کا بتایا گیا مسئلہ درست ہے، بائن کا نہیں، کیوں کہ بانیہ کنایات کے ذریعہ معلق کرنے کی صورت میں ہوا کرتی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم، ۹۱/۱)

وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لإمرأته إن دخلت الدار فأنت طالق: (هداية، باب الايمان في الطلاق، أشرفي ديوبند ۳۸۵/۲، ہندیہ، کتاب الطلاق، الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق زکریا قدیم ۴۲۰/۱، زکریا جدید دیوبند ۴۸۸/۱)

فالصريح قوله أنت طالق - فهذا يقع به الطلاق الرجعي.... وإذا وصف بضرب من الزيادة والشدة كان بائناً (هداية، باب إيقاع الطلاق، أشرفي ديوبند ۳۵۹/۲-۳۶۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۱۲/۲۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۷۰۳۶/۳۵)

”چل نکل جا میرے گھر سے“ کے لفظ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۴۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے حفیظ خان جھگڑے کے دوران اپنی بیوی کو ان الفاظ میں طلاق دی ”طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، چل نکل جا میرے گھر سے“ اس کے بعد پھر میں نے اپنے ماموں

سے فون کر کے یوں کہا کہ اسے لے جائیے میں اسے طلاق دے رہا ہوں، تو مسئلہ صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوئیں اور اب ساتھ رہنے کی کیا صورت ہوگی؟

المستفتی: حفیظ خاں کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مسئلہ صورت میں شوہر کے اس جملہ کہ ”آج میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں“ سے اس کی بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں، اس کے بعد دوسرا جملہ کہ چل نکل جا میرے گھر سے، اگر اس جملہ سے مزید ایک طلاق کی نیت کی ہے تو تین طلاق واقع ہو جائیں گی اور بدون حلالہ شرعیہ میاں بیوی کی طرح رہنا جائز نہ ہوگا، اور اگر اس لفظ سے مزید ایک طلاق کی نیت نہیں کی تو اس لفظ سے بیوی پر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی، البتہ پہلے جملے سے دو طلاقیں رجعی واقع ہو چکی ہیں، ایسی صورت میں عدت کے اندر رجعت کر کے میاں بیوی کی طرح رہنے کی گنجائش ہے، اس بات کی تحقیق شوہر کے بیان پر متوقف ہے، اس سے اسکی نیت دریافت کر لی جائے۔

والبائن یلحق الصریح. (شامی زکریا ۴/۵۴۰، کراچی ۳/۳۰۶)

طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في علتها رضيت بذلك أو لم ترض. (هداية، أشرفي ۲/۳۹۴، ہندیہ، کتاب الطلاق، الباب السادس فی الرجعة، زکریا قدیم ۱/۴۷۰، زکریا جدید دیوبند ۱/۵۳۲، مختصر القدوری، امدادیہ دیوبند ۱۷۷)

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه. (دارقطني، ۴/۲۱، دارالإيمان، كذا في مجمع الزوائد، دارالكتاب العلمي بيروت ۴/۳۴۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۱۱/۲۸

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۲۸ ذی الحجہ ۱۴۳۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۲۱)

میں نے تجھے طلاق دی، تیرا میرا حساب صاف ہوا

سوال [۶۴۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی کی عادت چوری کی تھی میں نے اسے بار بار سمجھایا مگر وہ باز نہ آئی میں نے اس کے میسے میں ساس کے سامنے اسکی شکایت کی، مگر ان لوگوں نے بھی مجھے ہی برا بھلا کہا جس کی وجہ سے بہت غصہ مجھے آیا، اور میں نے اپنی بیوی کو دو بار اس انداز میں یہ لفظ کہا میں نے تجھے طلاق دی، پھر تھوڑی دیر بعد تیرا میرا حساب صاف ہوا جبکہ میری بیوی حمل سے ہے، اور آٹھ ماہ کا حمل ہے، اب ہم دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، شریعت کی رو سے ہم دونوں پر کیا حکم ہے ارشاد فرمائیں عین نوازش ہوگی؟

المسفتی: شیم احمد عمری کلاں، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ صورت میں شوہر نے تین جملے استعمال کئے ہیں، دو جملے ”میں نے تجھے طلاق دی“ کے ہیں اور ایک جملہ تیرا میرا حساب صاف ہے، پہلے دونوں جملوں سے دو طلاق صریح واقع ہو چکی ہیں، اب غور طلب تیسرا جملہ ہے کہ اگر اس جملہ سے شوہر نے طلاق کا ارادہ کیا تھا تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، بغیر حلالہ دوبارہ نکاح بھی جائز نہ ہوگا، اور اگر اس جملہ سے طلاق کا ارادہ نہیں کیا ہے، بلکہ پہلی دونوں طلاقوں کی خبر دینا مقصود ہے، تو اس جملے سے کوئی طلاق نہ ہوں گی صرف دو طلاق شمار ہوں گی، عدت کے اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے۔ اب شوہر خود فیصلہ کرے کہ اس کی حیت کیا تھی؟

وقعتا رجعتین لومد خولا بہا، کقولہ: أنت طالق، أنت طالق الخ.

(درمختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۳/۲۵۲)

لم یبق بینی و بینک عمل و نوى یقع. (ہندیہ، کتاب الطلاق، الفصل الخامس فی الکنايات، زکریا قدیم ۱/۴۷۶، زکریا جدید دیوبند ۱/۴۴۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۸/۳/۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۳ ذی قعدہ ۱۴۱۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۳۳۵۵۲۸)

تم چلی جاؤ، مجھے تم سے کوئی ضرورت نہیں کہنا

سوال [۶۴۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم چلی جاؤ مجھے تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرے سامنے مت آنا نہ تم سے میں کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا نہ تمہارے ساتھ بیٹھوں گا تم چاہے اپنے گھر چلی جاؤ، تو ان تمام باتوں پر غور کرتے ہوئے فرمائیں کہ اس عورت کو طلاق پڑے گی یا نہیں، خوب وضاحت کے ساتھ جواب تحریر فرمائیں طلاق ہوگی یا نہ ہوگی؟

المستفتی: محمد حبیب الرحمن محلہ اصالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر زید نے مذکورہ الفاظ سے طلاق دینے کی نیت کی ہے تو ایک طلاق بائن واقع ہو چکی ہے، اور اگر طلاق کی نیت نہیں کی ہے تو اس سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ صرف ایک قسم کی دھونس ہے نیت کے بارے میں زید خود فیصلہ کرے۔

ولو قال لها اذهبي اى طريق شئت لا يقع بدون اليانة وإن كان فى حال مذاكرة الطلاق الخ. (ہندیہ، کتاب الطلاق، الفصل الخامس فی الکنايات زکریا قدیم ۱/۳۷۶، زکریا جدید ۱/۴۴۳)

اخرجى، اذهبي تلزم النية. (شامی کراچی ۳/۳۰۲، زکریا ۴/۵۳۴)

إن من الكناية ثلاث عشرة لا يعتبر فيها دلالة الحال ولا يقع

إلبالنية، اخرجي، اذهيي. (البحر الرائق، زكريا ۳/۵۲۶، كوئثه
۳/۲۰۳-۳۰۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۳/۶/۵ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۵ جمادی الثانیہ ۱۴۱۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۹/۳۲۲۸)

”اب وہیں رہے“ کہنے کا حکم

سوال [۶۴۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی اور زید کی ماں کے درمیان تو تو میں میں اور جھگڑا ہوا پھر زید کی بیوی بلا اجازت اپنے میکے چلی گئی، اور اپنے گھر صحیح اور غلط شکایتیں کیں اور اس کی ماں نے آکر زید کے گھر گالیاں دینی شروع کر دیں، پھر زید نے غصہ میں آکر بہ نیت طلاق دو مرتبہ یہ الفاظ کہے ”اب وہیں رہے اب وہیں رہے“ دریافت طلب امر یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو کون سی اور کتنی طلاقیں ہوئیں؟

المستفتی: مولوی عبدالعزیز، موضوع برینا ضلع بہتلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مذکورہ میں بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگئی ہے۔

والمدلولات (إلی قوله) والحقی بأهلک (إلی قوله) إن نوى بهاء الطلاق وقع بائناً الخ. (الجوهرة النيرة، کتاب الطلاق، امداد یہ ملتانی ۲/۱۰۵، دارالکتاب دیوبند ۲/۱۰۰)

وقوله الحقی.. بأهلک یحتمل الطلاق - ویحتمل الطرد والإبعاد عن نفسه مع بقاء النکاح. وإذا احتملت هذه الألفاظ الطلاق

وغير الطلاق فقد استر المراد منها عند السامع فافتقرت إلى النية
لتعيين المراد. (بدائع الصنائع زكريا ۳/۱۶۹)

ولا يلحق البائن الخ (الدرالمختار، كراچی ۳/۳۰۸، زكريا ۴/۵۴۰، البحر
الرائق، كوثه ۳/۳۰۷، زكريا ۳/۵۳۴، هندية، كتاب الطلاق، الفصل الخامس
في الكنايات، زكريا قديم ۴/۳۷۷، جديد ۱/۴۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۵ محرم الحرام ۱۴۰۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۳۸۲۳)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۰۸/۱/۵ھ

لفظ ”تجھے خلع دیا تین مرتبہ کہنے سے طلاق“

سوال [۶۴۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ ایک شخص کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا اسی درمیان اس نے کہا کہ تو چپ ہو جا ورنہ تجھے
خلع دیدوں گا کچھ دیر بعد اسے اور غصہ آ گیا اور اس نے کہا تجھے خلع دیا، تجھے خلع دیا، تجھے خلع
دیا اور بظاہر اس کی نیت طلاق ہی کی تھی تو اس سے کتنی طلاق واقع ہوئیں؟

المستفتی: محمد عبدالرحمن، بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق کی نیت سے ”تجھے خلع دیا“ کہنے سے ایک طلاق
بائن واقع ہوگئی ہے، اس لئے کہ خلع طلاق کے کنائی الفاظ میں سے ہے، اور الفاظ کنائی سے
طلاق بائن واقع ہوتی ہے، اور مزید جو اس نے دو مرتبہ یہی الفاظ
دہرائے ہیں، ان سے کوئی اور طلاق واقع نہ ہوگی، کیونکہ طلاق بائن کے ساتھ مزید بائن
معتبر نہیں ہوتی۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۹۱/۱۹۲)

ولو قال لها قد خلعتک ونوی الطلاق فہي واحدة. (ہندیہ،

کتاب الطلاق، الباب الثامن، قبیل الفصل الثانی فیما جاز الخ زکریا قدیم ۵۲۶/۳،
زکریا جدید دیوبند ۱/۵۵۲، کوئٹہ ۳/۳۰۲-۳۰۳

لا یلحق البائن البائن. (شامی، کراچی ۳/۳۰۸، زکریا ۴/۵۴۰، البحر الرائق
کوئٹہ ۳/۳۰۷، زکریا ۳/۵۳۴، ہندیہ، کتاب الطلاق، الفصل الخامس فی الکنايات
زکریا قدیم ۱/۳۷۷، زکریا جدید دیوبند ۱/۴۴۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۶/۱۱/۱۴۳۳ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ
۲۶/۱۱/۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۰/۱۱۳۱۸)

تو میری بہن ہے لا بہن پانی لا سے طلاق

سوال [۶۲۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے
میں: کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ سے کچھ ایام پہلے کہا تھا کہ اگر تو اپنے والدین کے گھر گئی تو تجھے
طلاق، ہندہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی تھی اس کے بعد مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ طلاق
واقع ہوگئی عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے؛ لہذا دوبارہ نکاح کر دیا گیا پھر کچھ ایام کے بعد
زید نے اپنی بیوی ہندہ سے کہا کہ ”تو آج سے میری بہن ہے لا بہن تو مجھے پانی پلا“ تو کچھ علماء
نے کہا کہ طلاق واقع ہوگئی اور عدت گزارنی پڑے گی اور دونوں طلاقیں واقع ہو گئیں اگر عدت
گزارنے کے بعد نکاح کر لیا جاتا ہے، تو زید اس صورت میں ایک طلاق کا مالک ہوگا تو اب
سوال یہ ہے کہ مفتیان شرع اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں؟

المستفتی: عبداللہ ناٹھ، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شوہر نے بیوی ہندہ سے کہا کہ اگر تو اپنے والدین
کے گھر گئی تو تجھے طلاق اور پھر ہندہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی تو اس کی وجہ سے بیوی پر ایک

طلاق رجعی واقع ہوگئی تھی، پھر شوہر نے کہا ”تو میری بہن ہے لا بہن پانی پلا“ اس جملہ سے شوہر نے کیا نیت کی ہے اس کی وضاحت نہیں ہے، اگر اس جملہ سے طلاق وغیرہ کسی چیز کی نیت نہیں تھی اور یوں ہی اس سے یہ جملہ کہا ہے تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، اسی طرح اگر اس کی نیت صرف اتنی ہے کہ اس کی بہن جس طرح قابل احترام ہے اسی طرح اس کی بیوی بھی قابل احترام ہے تو ایسی صورت میں بھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، اور اگر اس سے اس نے طلاق کا ارادہ کیا تھا تو اس سے ایک طلاق بائن ہوگئی ہے، اب شوہر سے معلوم کر لیا جائے کہ اس کی نیت کیا تھی، اگر طلاق کی نیت تھی تو ایسی صورت میں پہلے ایک طلاق رجعی ہوگئی تھی، اب یہ ایک طلاق بائن ہوگئی، ساتھ رہنا چاہیں تو بغیر حلالہ کے نکاح کر کے رہ سکتے ہیں، اب آئندہ ایک بھی طلاق دے گا تو طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی۔

وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول

لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق . (عالمگیری، کتاب الطلاق، الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق زکریا جدید دیوبند ۱/۴۸۸، ہدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۸۵)

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في

عدتها الخ. (ہدایۃ، ۲/۳۹۴، ہندیۃ، کتاب الطلاق الباب السادس فی الرجعة الخ

زکریا ۱/۴۷۰، جدید ۱/۵۳۳)

ولو قال لها: أنت علي مثل أمي أو كأمي ينوي فإن نوى الطلاق وقع باتناً،

وإن نوى الكرامة أو الظهار فكما نوى هكذا في فتح القدير وإن لم تكن له نية

فعلى قول أبي حنيفة لا يلزمه شيء حملاً للفظ على معنى الكرامة كذا في

الجامع الصغير والصحيح قوله هكذا في غاية البيان. (عالمگیری، کتاب الطلاق،

الباب التاسع فی الظهار، زکریا قدیم ۱/۵۰۷، زکریا جدید ۱/۵۶۴)

وإن نوى بأنت علي مثل أمي أو كأمي برأ، أو ظهاراً، أو طلاقاً،

صحت نیتہ ووقع ما نواه؛ لأنه كناية والاینو شيئاً، أو حذف الكاف لغا
وتعين الأدنى أي البر يعني الكرامة ويكره قوله أنت أمي ويا ابنتي ويا أختي
ونحوه الخ. (شامي، باب الظهار كراچی ۳/۴۷۰، زكريا ۵/۱۳۱ وينكح
مبائنه بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع، كتاب الطلاق باب الرجعة،
مطب في العقد على المبانة شامي، كراچی ۳/۴۰۹)

الطلاق مرتان فإمساک بمعروف..... فإن طلقها فلا تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره. [البقرة: ۲۳۰] فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴/۷/۱۴۳۲ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

۱۲/رجب ۱۴۳۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۴۰/۱۱۹۵)

